العلم علمان علم الابدان و علم الادیان

این کتاب لاجواب کہ مملو از مقاصد خیر دنیا و دین است المسمی

سعادت دارین

۹۵۱

حسب الارشاد جناب حاجی حکیم محمد فرید الدین صاحب مصنف کتاب [illegible] طبع شد

مطبع محمدی کوتلہ [illegible] دہلی طبع

فہرست مضامین سعادت دارین

صفحہ	سطر	ابواب و فصول مع خلاصہ مضامین ۔
۲	۲	دیباچہ کتاب
۴	۱۵	باب اول مشتمل بر ہفت فصل ۔
〃	۱۶	فصل اول از باب اول سفرنامہ مصنف طریق روانگی سفر حج و زیارت و معانی حج و عمرہ و قران و تمتع وغیرہ و فرق بینہما و وجہ تسمیہ بعض مقامات و بیان وقت و مکان احرام
〃	۱۹	سبب تحریر سفرنامہ ۔ باب و فصل اول ۔
۵	۵	سفرنامہ مصنف ۔ باب و فصل اول ۔
۵	۱۲	طریق روانگی از وطن و سفر حج ۔ باب و فصل اول ۔
۹	۹	بقیہ سفرنامہ ۔ باب و فصل اول ۔
۱۱	۱۳	طریق سفر بحر ۔ باب و فصل اول ۔
۱۲	۶	حال جہاز کشتہ ۔ باب و فصل اول ۔
۱۴	۹	تفصیل میقات ہا و وجہ تسمیہ ہر یک ۔ باب و فصل اول ۔
۱۵	۱۶	طریق احرام ۔ باب و فصل اول ۔
۱۷	۵	وقت مکروہ نفلون کی لیئے ۔ باب و فصل اول ۔
۲۰	۴	معانی و وجہ تسمیہ و فرق بینہما حج و عمرہ و افراد و قران و تمتع و افاقی و مکی و قرص و گربہ و ریال و شغدف و شبری ۔ بدو ۔ باب و فصل اول ۔
۲۵	۳	کیفیت مکہ معظمہ ۔ باب و فصل اول ۔
۲۷	۱	طریق داخلہ زمین حرم و مکہ معظمہ ۔ باب و فصل اول ۔
۲۹	۱۷	طریق ادای عمرہ ۔ باب و فصل اول ۔

صفحہ	سطر	ابواب و فصول مع خلاصۂ مضامین
۴۳	۶	طریق کشادن احرام — ایضاً۔
۴۴	۸	کیفیت و وجہ تسمیہ حجر اسود و مقام ابراہیم و حطیم و میزاب رحمت و صفا و مروہ و مسجد خیف و جبال عرفات و جبل رحمت و مسجد نمرہ و اسنزی و حدودات و خیف و مسجد ابراہیم و مزدلفہ و وادی محسر و مسلخ و جمرۃ الاولیٰ و وسطیٰ و جمرہ عقبہ اول و ثانی و محصب۔ باب و فصل اول۔
۵۳	۷	طریق ادای حج بقاعدہ کلیہ۔ باب و فصل اول۔
۶۸	۱۹	طریق واپسی۔ باب و فصل اول۔
۷۰-۹۰	۱۷-۱۴	حال منازل مدینہ منورہ۔ باب و فصل اول۔
۷۴	۱	حال مسجد و مزار پاک و طریق مقررہ سفر مدینہ منورہ و زیارت مزار حضرت۔ باب و فصل اول۔
۸۶	۱	زیارت بقیع و شہدای احد و دیگر حضرات و تفصیل مساجد بالائی مدینہ منورہ۔ باب و فصل اول
۹۶	۱۶	طریق قطع وطن۔ باب و فصل اول۔
۹۷	۵	حال خرچ کرایہ حج۔ باب و فصل اول۔
۹۸	۹	فصل دوم از باب اول فہرست مقامات اجابت دعا مکہ معظمہ و نواح متبرکہ آن۔
۹۹	۴	فصل سیوم از باب اول فہرست زیارات مقامات متبرکہ مکہ معظمہ و قرب و جوار آن مع کیفیت بعض مقامات۔
۱۰۵	۱	فصل چہارم باب اول فہرست تبرکات و اشیا عمدہ مکہ معظمہ مع کیفیت بعض۔
۱۰۷	۹	فصل پنجم از باب اول فہرست مقامات اجابت دعا مدینہ منورہ۔
"	۱۳	فصل ششم از باب اول فہرست کیفیت مقامات زیارات و مساجد مدینہ منورہ
۱۱۹	۱۶	فصل ہفتم از باب اول فہرست و کیفیت تبرکات و غیرہ مدینہ منورہ۔

صفحه	سطر	ابواب و فصول مع خلاصه مضامین
۱۲۳	۱	باب دوم در نصایح سفر بری و آسایش سفر بابت صحت جسمی - مشتمل بر هشت فصل
〃	۳	فصل اول از باب دوم در ذکر باعث آسایش مسافران هند -
۱۲۵	۳	فصل دوم از باب دوم - حال اشیائیکه از هند برند و بعرب نفع یابند -
۱۲۷	۵	فصل سیوم از باب دوم - مایحتاج عرب شریف -
۱۳۰	۸	فصل چهارم از باب دوم - تذکره حفظ صحت مسافر موسم گرما -
۱۳۱	۱۸	فصل پنجم از باب دوم تذکره حفظ صحت مسافر موسم سرما -
۱۳۲	۵	فصل ششم از باب دوم تدبیر حفاظت رنگ چهره مسافر
〃	۱۳	فصل هفتم از باب دوم تدبیر دفع مضرت آبهای مختلفه
۱۳۴	۳	فصل هشتم از باب دوم اشیای ضروری همراهی مسافر -
۱۳۵	۱	باب سیوم در نصایح سفر بحری و آسایش سفر و حفظ صحت وغیره - مشتمل بر دو فصل
〃	۳	فصل اول - از باب سیوم - در آسایش تن مسافر بحر -
۱۳۷	۶	فصل دوم از باب سیوم ذکر حفظ صحت مسافران بحر -
〃	۱۴	باب چهارم در حفظ صحت مسافران بر و بحر بطور قاعده کلیه - علاج بعض آفت مثلاً از [illegible] -
۱۳۹	۲	باب پنجم در حال و علاج امراض بری - مشتمل بر سه فصل -
〃	۹	فصل اول از باب پنجم در علاج امراض مسافر موسم گرما -
۱۴۰	۳	فصل دوم از باب پنجم - در علاج امراض مسافر موسم سرما -
۱۴۱	۱	فصل سیوم از باب پنجم - در علاج زهر [illegible]
۱۴۲	۱	باب ششم در حال و علاج امراض بحری - مشتمل بر دو فصل -

صفحہ	سطر	ابواب و فصول مع خلاصہ مضامین۔
۱۴۷	۳	فصل اول از باب ششم۔ معالجہ عوارضات بحری مثل غثیان و دوران سر وغیرہ۔
۱۴۹	۱	فصل دوم از باب ششم۔ معالجہ زہر حیوانات بحری مثل ماہی سمرہ وغیرہ۔
۱۴۹	۱۴	باب ہفتم۔ علاج جملہ امراض بطور سہل و مسافرانہ۔ مشتمل ۲۲ فصل۔
"	۶	فصل اول از باب ہفتم۔ ضمن اول معالجہ امراض سر۔
۱۶۳	۱۰	ضمن دوم از فصل اول از باب ہفتم۔ معالجہ سادہ از امراض سر۔
۱۷۰	۱۱	فصل دوم از باب ہفتم۔ معالجہ امراض چشم۔
۱۸۴	۱۷	فصل سوم از باب ہفتم۔ علاج امراض گوش۔
۱۸۹	۶	فصل چہارم از باب ہفتم۔ علاج امراض بینی۔
۱۹۱	۵	فصل پنجم از باب ہفتم۔ علاج امراض دہن و لب و زبان۔
۱۹۷	۱۱	فصل ششم از باب ہفتم۔ علاج امراض دندان و لثہ۔
۲۰۵	۱	فصل ہفتم از باب ہفتم۔ علاج امراض حلق و لہات و مری۔
۲۱۱	۲	فصل ہشتم از باب ہفتم۔ علاج امراض صدر و آلات تنفس۔
۲۱۷	۱	فصل نہم از باب ہفتم۔ علاج امراض قلب۔
۲۲۹	۱۹	فصل دہم از باب ہفتم۔ علاج امراض پستان۔
۲۲۲	۸	فصل یازدہم از باب ہفتم۔ علاج امراض معدہ۔
۲۴۱	۷	فصل دوازدہم از باب ہفتم۔ علاج امراض جگر۔
۲۴۸	۹	فصل سیزدہم از باب ہفتم۔ علاج امراض عارضہ طحال۔
۲۵۱	۶	فصل چہاردہم از باب ہفتم۔ علاج امراض امعاء۔

ابواب و فصول مع خلاصہ مضامین	سطر	صفحہ
فصل پانزدہم از باب ہفتم - علاج امراض مقعد -	۱۵	۲۶۲
فصل شانزدہم از باب ہفتم - علاج امراض گردہ و مثانہ -	۵	۲۷۰
فصل ہفدہم از باب ہفتم - علاج امراض اعضای تناسل -	۱۵	۲۸۹
فصل ہجدہم از باب ہفتم - علاج امراض زنان -	۲	۳۰۵
فصل نوزدہم از باب ہفتم - علاج امراض صفاق و شرب و مراق -	۱۴	۳۱۹
فصل بستم از باب ہفتم - علاج امراض پشت و اعضای متصلہ پشت -	۱۰	۳۲۰
فصل بست و یکم از باب ہفتم - علاج داء الفیل و دردپا و مفاصل و نقرس و عرق النسا -	۲	۳۲۳
فصل بست و دوم از باب ہفتم - علاج امراض غیر مختصہ اعضا - مشتمل بر نہ ضمن -	۴	۳۲۶
ضمن اول از فصل ۲۲ باب ہفتم - علاج حمیات -	۵	"
علامت انتقال حمی یوم بہ حمی دیگر - ضمن اول از فصل ۲۲ باب ہفتم -	۱	۳۴۱
علامت تعفن مادہ - بشرح ایضا -	۷	"
ذکر بحران - بشرح ایضا -	۱۳	۳۴۲
علاج مسافرانہ حمیات - بشرح ایضا -	۷	۳۴۸
ضمن دوم - از فصل ۲۲ باب ہفتم علاج اورام یعنی فلغمونی و آتشک و قوبا وغیرہ -	۴	۳۵۰
علاج مسافرانہ اورام -	۲	۳۶۲
ضمن سیوم از فصل ۲۲ باب ہفتم - علاج امراض جلد - یعنی جذام و برص وغیرہ -	۱۵	۳۶۳
علاج مسافرانہ امراض جلد -	۱۹	۳۶۷
ضمن چہارم از فصل ۲۲ باب ہفتم - علاج امراض مو - یعنی جزاندہ الثعلب وغیرہ -	۲۰	۳۶۸

صفحہ	سطر	ابواب و فصول مع خلاصہ مضامین
۳۷۱	۳	علاج مسافرانہ امراض شعر۔
؍؍	۱۲	ضمن پنجم از فصل ۲۲ باب ہفتم۔ علاج قمل۔
۳۷۲	۳	ضمن ششم از فصل ۲۲ باب ہفتم۔ علاج بیماریہائے ناخن۔
۳۷۳	۶	ضمن ہفتم از فصل ۲۲ باب ہفتم۔ علاج رایحہ بغل وغیرہ۔
۳۷۴	۱۱	علاج مسافرانہ رایحہ بغل وغیرہ۔
؍؍	۱۸	ضمن ہشتم از فصل ۲۲ باب ہفتم۔ علاج جراحات۔
۳۷۵	۲	علاج مسافرانہ جراحات۔
؍؍	۹	ضمن نہم از فصل ۲۲ باب ہفتم۔ علاج سقطہ و ضربہ و صدمہ چابک وغیرہ
۳۷۹	۵	علاج مسافرانہ سقطہ و ضربہ۔
؍؍	۱۴	باب ہشتم۔ علاج سموم مشروبہ و طرد ہوام۔ مشتمل بر سہ فصل۔
؍؍	۱۵	فصل اول از باب ہشتم علاج سموم مشروبہ بطور قاعدہ کلیہ۔
۳۸۰	۱۳	فصل دوم از باب ہشتم علاج سموم مشروبہ معروفہ مشتمل بر سہ قاعدہ۔
؍؍	۱۴	قاعدہ اول از فصل دوم باب ہشتم علاج خوردن سموم معدنیات یعنی سنکھیا و مردار سنگ و ابرک و سیماب و سم الفار وغیرہ۔
۳۸۳	۵	قاعدہ دوم از فصل دوم باب ہشتم۔ علاج خوردن سموم نباتیات یعنی بیش و افیون وغیرہ
۳۸۷	۵	قاعدہ سیوم از فصل ۲ باب ۸۔ علاج سموم حیوانی یعنی گوشت و بیضہ خراب شدہ و زہر بوزنہ و زہر افعی وغیرہ۔
۳۸۹	۲	فصل سیوم از باب ہشتم۔ طرد حشرات۔ مشتمل بر دو فایدہ۔
؍؍	۳	فایدہ اول از فصل سیوم باب ہشتم۔ تدبیر دفع حشرات بالعموم۔

صفحہ	سطر	ابواب و فصول مع خلاصہ مضامین
۳۸۹	۱۲	فائدہ دوم از فصل سیوم باب ہشتم - تدبیر بالخصوص دفع حشرات یعنی مار و عقرب و کیک و پشہ وغیرہ -
۳۹۱	۷	باب نہم بین تدبیر حوامل و وضع حمل و مولود و رضاع و مرضعہ مشتمل بر چہار فصل
؍؍	۸	فصل اول از باب نہم علامات حمل و تدابیر و علاج حوامل مشتمل بر سہ قسم -
۳۹۱	۹	قسم اول از فصل اول باب نہم - علامات حمل و نر و مادہ -
۳۹۲	۱۵	قسم دوم از فصل اول باب نہم - تدابیر علاج عوارض حوامل -
۳۹۵	۱۱	قسم سیوم از فصل اول باب نہم - علاج عسر ولادت -
۳۹۷	۹	فصل دوم از باب نہم - تدبیر وضع حمل -
۳۹۹	۲	فصل سیوم از باب نہم - تدبیر مولود یعنی بچہ -
۴۰۱	۷	فصل چہارم از باب نہم - تدبیر رضاع و مرضعہ -
۴۰۴	۷	باب دہم - علاج صبیان -
؍؍	۸	علاج سبع الصبیان اطفال - از باب دہم -
۴۰۷	۳-۱۹	علاج عطسہ متواتر - عطاش اطفال - از باب دہم -
۴۰۹	۴	علاج اجتماع الماء فی الرأس اطفال - از باب دہم -
۴۱۰	۳	علاج تشنج اطفال - از باب دہم -
۴۱۱	۵	علاج کزاز اطفال - از باب دہم -
۴۱۲	۱۰-۱۷	علاج کثرت البکاء و سہر - فزع در نوم - اطفال - از باب دہم -
۴۱۳	۴-۱۴-۱۹	علاج قرع و تعقلہ - زکام و نزلہ - وجع الاذن - اطفال - از باب دہم -

صفحہ	سطر	ابواب و فصول مع مضامین۔
۴۱۵	۴-۱۱-۱۵	علاج حکہ اذن ۔ ورم بن گوش ۔ سیلان رطوبت از گوش ۔ اطفال ۔ از باب دہم
۴۱۶	۱۰	علاج رمد ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۱۷	۱۳-۱۸	علاج التصاق الجفن ۔ تناثر الشفار ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۱۸	۸	علاج غموض ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۱۹	۱-۲-۱۷-۱۸	علاج انتفاخ العین ۔ سلاق ۔ قذی ۔ شعیرہ ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۲۰	۳-۷-۱۲	علاج حول ۔ زرقہ ۔ شرناق ۔ اطفال از باب دہم ۔
۴۲۱	۴-۸-۱۱	علاج احتباس الشیء فی مجری الانف ۔ سدہ انف ۔ قلاع ۔ اکلہ ۔ اطفال ۔ از باب دہم
۴۲۲	۱۲	علاج لذع لثہ ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۲۳	۱-۳-۹	علاج ورم لثہ ۔ سترخای لہات ۔ سرفہ ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۲۴	۱۳	علاج ذات الریہ ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۲۵	۱۱-۲۰	علاج سوء تنفس ۔ خرخرہ در خواب ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۲۶	۷-۱۵	علاج انطباق مری ۔ فواق ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۲۷	۴-۱۶	علاج قی بہرج ۔ ضعف معدہ ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۲۸	۸	علاج تجبن لبن در معدہ ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۲۹	۳-۵-۱۷	علاج خون در معدہ بستہ شود ۔ ورم معدہ ۔ دبیلۃ المعدہ ۔ اطفال ۔ از باب دہم
۴۳۰	۱۰	علاج ورم کبد ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۳۱	۱۶	علاج دبیلۃ الکبد ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔
۴۳۲	۱۰	علاج ورم طحال ۔ اطفال ۔ از باب دہم ۔

صفحہ	سطر	ابواب و فصول مع خلاصہ مضامین
۴۳۳	۴	علاج اسہال - اطفال - از باب دہم -
۴۳۴	۱۱-۲۰	علاج اعتقال بطن - مغص - اطفال - از باب دہم -
۴۳۶	۹	علاج نتو سرہ - اطفال - از باب دہم -
۴۳۷	۵-۶-۱۲	علاج ورم سرہ - تقیح سرہ - زحیر - اطفال - از باب دہم -
۴۳۸	۴-۱۴	علاج خروج المقعد - بول فی الفراش - اطفال - از باب دہم -
۴۳۹	۴	علاج چیچک و سیتلا - حال و تدبیر ٹیکا - اطفال - از باب دہم -
۴۴۰	۴-۱۹	علاج حمیات چہرہ - اطفال - از باب دہم -
۴۴۲	۶	علاج سعفہ - اطفال - از باب دہم -
〃	۱۵	باب یازدہم - ادویات ضم و مشتہی و مسہلہ و فہرست کتب مندرجہ کتاب ہذا - مشتمل بر سہ فصل
〃	۱۹	فصل اول از باب یازدہم - ادویات ضم و مشتہی -
۴۴۷	۱۳	فصل دوم - از باب یازدہم - ادویات مسہلہ -
۴۴۸	۸	فصل سوم - از باب یازدہم - فہرست کتب وغیرہ مندرجہ کتاب ہذا بترتیب حروف تہجی
۴۵۶	۲	خاتمہ مشتمل بر ہفت بیان -
〃	۳	بیان اول - از خاتمہ - حال فضیلت و فرضیت حج -
۴۶۳	۱۶	بیان دوم - از خاتمہ - فضائل زیارت مزار رسول اللہ صلوات اللہ علیہ و مدینہ منورہ -
۴۶۵	۳	بیان سوم - از خاتمہ - مسائل متعلقہ حج - مثلاً ادائی حج کردن - شناختہ افعال مخصوصہ عورت - فرائض و واجبات و سنن و مستحبات حج وغیرہ - مفسدات حج و عمرہ - از احرام حج کردن - وغیرہم

صفحہ	سطر	ابواب و فصول مع خلاصۂ مضامین
۴۸۵	۸	بیان چہارم – از خاتمہ – اشعار فارسی حمدیہ و مناجاتیہ و نعتیہ –
۴۹۶	۱۸	بیان پنجم – از خاتمہ – اشعار اردو حمدیہ و نعتیہ و مناجاتیہ –
۵۲۴	۸	بیان ششم – از خاتمہ – مناجات بزبان بھاشہ –
۵۲۵	۱	بیان ہفتم – از خاتمہ – قطعات تاریخ انتقال و بعض افعال جناب مستطاب حکیم غلام قادر صاحب مرحوم –
۵۲۶	۱۷	قطعات تاریخ تصنیف سعادت دارین –
۵۲۹	۴	قطعہ تاریخ انطباع سعادت دارین –
۵۳۰	۱	صحت نامہ سعادت دارین –

نسب نامہ بندہ حاجی حکیم محمد فریدالدین عفی اللہ عنہ مصنف سعادت دارین

جناب سیدنا و مولانا امیر المومنین حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول

جناب سیدنا حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ –

حضرت ابواسحاق رضی اللہ عنہ

حضرت ابومحمد رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابواحمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابویوسف ناصرالدین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ محمود مکی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ آل محمد رحمۃ اللہ علیہ

جناب حکیم حافظ علاءالدین علیہ الرحمہ

جناب حکیم خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حکیم خواجہ ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حکیم خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حکیم شیخ حیات بخش علیہ الرحمہ

حضرت حکیم خیراتی علیہ الرحمہ

جناب حکیم حافظ گوجر رحمۃ اللہ علیہ

جناب حکیم خواجہ غازی الدین رحمۃ اللہ علیہ

حکیم محمد مسیح اللہ خاں صاحب علیہ الرحمہ

حکیم محمد تقی خان علیہ الرحمہ

حکیم خان جہان خاں علیہ الرحمہ

حکیم عبدالغنی صاحب علیہ الرحمہ

جناب حکیم بقاء اللہ علیہ الرحمہ	جناب حکیم ثناء اللہ علیہ الرحمہ	جناب حکیم عطاء اللہ علیہ الرحمہ	

جناب حکیم غلام قادر صاحب مرحوم	جناب حکیم غلام نبی صاحب مرحوم	

بندہ حاجی حکیم محمد فریدالدین عفی اللہ عنہ نقشبندی

برخوردار محمد حمید حسن سلمہ نقشبندی

[illegible]

جناب نے اپنی اولاد کے نام میں لفظ خان شامل نہیں فرمایا

العلم علمان علم الابدان و علم الادیان

این کتاب لاجواب که مملو از مقاصد خیر دنیا و دین است المسمی به

سعادت دارین

١٢٩٥

حسب الارشاد جناب حاجی حکیم محمد فرید الدین صاحب سلمه که مصنف کتاب و مالک مطبع هستند

در مطبع محمدی کوٹله مالیر طبع شد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قلم و زبان کو کہان تاب و توان ہے جو حمد خالق انس و جان ایک شمہ بیان کر سکے - صفحہ قرطاس مین کہان وسعت جو ذرہ بہر شرح رفعت و جلال ایزد بیہمال وسمین سما سکے یہ وہ دریای بے پایان ہے کہ جسکے شان مین ما عرفناک حق معرفتک خاتم النبیین کا بیان ہے -

سبحان اللہ کیا ذات مجمع صفات مفخر موجودات زبدۂ کائنات ہے کہ جسکے انتہای نعت خارج از ممکنات ہی - کسی فرد بشر کو کیا یارا جو سر مو نعت حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ادا کری - بجز عجز و نیاز ہمین طوالت و نہین کسیکو ہمین مجال ہوا نہین - فصیحان متقدمین و متاخرین نادم ہین خجل ہین جو ذی شعور ہین معترف بقصور ہین - واہ کیا نفوس قدسی صحابہ کرام بالتخصیص اصحاب کبار و ائمہ اطہار رضی اللہ عنہم کی ہین کہ جنکے صفت و ثنا بی تہاہے اور حیطہ تحریر و تقریر سی براہی - مجہہ بیان

مجھ بے مایہ کے طرف سی بجز تحفہ درود اور کیا زیبا ہے + صلی اللہ علی خیر خلقہٖ محمدٍ وآلہٖ واصحابہٖ واتباعہٖ واتقیائہٖ اجمعین +

مخفی نرہے جو کمترین محمد فرید الدین بن زبدۃ الاطبا و قدوۃ الحکما لقمان زمان فلاطون آوان وحید الدہر سعید العصر جناب مستطاب حکیم غلام قادر صاحب مرحوم غفر اللہ لہما ساکن جال پٹیالہ جو بکمال اشتیاق اپنے گھر سے ... روانہ ہوکر بافضال الٰہی حج بیت اللہ و زیارت مزار رسول اللہ علیہ التحیۃ والثنا سے مشرف ہوا + راہ مین جو انواع انواع تکالیف سفر بری و بحری کا مشاہدہ کرنے میں خیال ... گذرا کہ اکثر صعوبات حجاج کو ناواقفیت سے لاحق ہوتے ہین اگر ... تو موجب سعادت دارین اور باعث آسایش حجاج ہو ... +

الحمد للہ والمنہ کہ عرصہ قلیل مین یہہ مدعا حاصل ہوا یعنی یہہ رسالہ ... محرم الحرام بارہ سو اٹھاسی ہجری مین نجستہ اختتام کو پہونچا + اور گیارہ باب اور ایک خاتمہ پر تقسیم کرکے نام اسکا **سعادت دارین** رکھا + خداوند جل و علیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل اسکو مقبول طبائع خاص و عام کرے + مجھکو اور میرے دوستون اور جملہ حجاج و مسافرین بر و بحر کو اسکی فواید سے کامیاب فرماوے آمین ثم آمین یا رب العالمین +

باب اوّل مین مندرج ہے حال اپنے سفر وغیرہ کا مع طریق سفر و حج و زیارت وغیرہم +

باب دوم مین مندرج ہین نصایح سفر بری بابت صحت جسمی وغیرہ +

باب سیوم مین مندرج ہے نصایح سفر بحری بابت صحت جسمی وغیرہ +

باب چہارم مین گفتگو ہے بابت حفظ صحت مسافر بر و بحر بطور قاعدہ کلیہ +

باب پنجم مین مندرج ہے حال امراض بری اور داوا اوسکا +

باب ششم مین مندرج ہے حال امراض بحری اور دوا اوسکا +

باب ہفتم مین مندرج ہے علاج امراض بطور مجمل و مسافرانہ +

باب ہشتم مین مندرج ہے علاج ... و ... ہوام کا +

باب نہم مین مندرج ہے تدبیر حوائل و وضع حمل و مولود و رضاع و مرضعہ کے +

باب دہم مین مندرج ہے علاج صبیان کا +

باب یازدہم مین مندرج ہین ادویات ہضم و مسہلہ - اور فہرست مرکبات

خاتمہ مین مندرج ہے حال فرضیت و فضائل حج و زیارت مزار رسول اللہ علیہ السلام اور مسائل متعلقہ حج اور اشعار حمد و نعت و مناجات وغیرہ +

ناظرین کتاب کے خدمتمین التماس ہے کہ خاکسار کو دعای خیر سے یاد فرماوین + اور جس جگہہ سقم پاوین اصلاح فرماوین + بقول شاعری + اگر صلاح نمی شنوند نمی شنوند

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَاۗءِ وَالْوَبَاۗءِ مَعَ اَهْلِيْ وَمُلَازِمِيْ اٰمِنًا اَبَدًا اَبَدًا حَفِيْظُ +

باب اول مشتمل ہے اوپر سات فصل کے

فصل اول مین حال اپنے سفر کا مع طریق روانگی از وطن و سفر حج و طریق زیارت و معانی حج و عمرہ و قران و تمتع وغیرہ و فرق بینہما و طریق ادای انعام و تسمیہ بعض مقامات و بیان احرام و وقت و نشان احرام +

التماس اپنے حال سفر کے نگارش سے مقصود یہہ نہین ہے جو مجکو ناظرین متبرک اور بزرگ سمجھین بلکہ یہہ غرض ہے کہ اس سے حجاج کو حالات

حالات منازل و مصائب سفر بر و بحر و تعداد خرچ و طریقہ حج وغیرہ سے آگاہی حاصل ہو جاوے – اور باوجود اوٹھانے صعوبات سفر کے جو حجاج بسبب سہری و کم فرصتی مطوفین اور مزورین اور اپنی ناواقفیت کے اکثر زیارات سے محروم رہ جاتے ہین محفوظ رہین ✦

واضح ہو کہ بتاریخ چہاردہم شہر شوال المکرم ۱۲۸۴ھ روز یکشنبہ خاکسار نابہہ سے روانہ ہو کر پٹیالہ مین پہونچا –

نابہہ - ایک شہر ہے ملک پنجاب ہے –

پٹیالہ کو نابہہ سے بارہ کوس کی مسافت ہے – بتاریخ پانزدہم ماہ مذکور روز دوشنبہ باران بجی دن کے بعد ادای طریق روانگی پٹیالہ سے بندہ مع قبائل روانہ ہو کر آٹھہ بجی رات کے وارد انبالہ ہوا –

انبالہ کو پٹیالہ سے ٹھارہ کوس کا بعد ہے –

طریق روانگی از وطن و سفر حج –

۱ بہ نیت خالص اور خدا کے واسطی ارادہ حج کا کرے یعنی ریا و افتخار و سیر گلگشت و تجارت مدنظر نرکھی البتہ اگر مقصود اصلی حج اور تجارت عارضی ہو تو مضایقہ نہین حقتعالی فرماتا ہی لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّکُمْ ترجمہ نہین ہے تمپر گناہ کہ چاہو تم زیادتی پروردگار اپنی سے شان نزول اس آیت کی یہہ ہے کہ پہلے اسلام کی ایام حج مین بازار عکاظ و مجنہ و ذوالمجاز مین لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھی اور یہی اونکی معاش تھے جب اسلام نے رونق پکڑے مسلمانون نے تجارت مین تامل کیا تب یہہ آیت نازل ہوے یعنی حج کے ساتہہ اگر نفع بھی تجارت مین تلاش کرو تو کچہہ گناہ نہین –

۲۔ سب گناہوں سے توبہ نصوح کرے۔

۳۔ اگر قرض کسیکا دینا ہو ادا کرے۔

۴۔ اگر امانت کسیکی اسکے پاس ہو تو وارثہ کی پاس پہونچا دے۔

۵۔ عفو کرانا حق العباد کا جہانتک ہوسکے۔

۶۔ راضی کرنا دشمنونکا کہ قبول ہونا توبہ کا اسپر منحصر ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہین لا یقبل اللہ توبۃ عبد حتی یرضی الخصماء واذا ارضی خصماءہ رضی یقبل اللہ توبتہ وصومہ وصلاتہ ودرہم واحد یردہ فی الخصماء خیر لہ من عبادۃ الف سنۃ ترجمہ نہین قبول کرتا ہی اللہ توبہ بندہ کی یہانتک کہ راضی کرے اپنی دشمنون کو پس جب راضی ہوے دشمن راضی ہوتا ہی اللہ اور قبول کرتا ہی توبہ اوسکی اور روزہ اوسکا اور نماز اوسکی اور ایک درم جو حق دشمنونمین دیا جاوے بہتر ہی ادا کرنے والے کے لئے عبادت ہزار برس سے۔

۷۔ واجب ہے مہیا کردینا نفقہ عیال و اولاد کا۔ اور جسکا نفقہ اسپر واجب ہی اپنی بہرنے تک۔ ان لوگونسے ہرگز بیخبر نکرے۔ ارشاد سرور کائنات کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء اثما ان یضیع اہلہ ترجمہ کافی ہے آدمی کو گنہگار ہونی مین ضایع کرنا اپنی اہل کا۔

۸۔ راضی کرنا چاہیے والدین کو اور جسکے اطاعت اور نفقہ اسپر واجب ہے اگر والدین اسکی خدمت کی محتاج ہون تو اس حالت مین اونکو چھوڑ جانا مکروہ ہی۔ اگر والدین حج فرض کے اوا کرنیسے منع کرین تو اونکا کہنا نہ ماننا چاہیئے اوا کرنے حج نفلے سی خدمت و اطاعت والدین کے بہتر ہے۔ اگر والدین مشغول

نہون تو دادا و دادی کو مثل اونکی سمجھی —

۹ کسی امین کے نام وصیت کا لکہنا چاہیئے تا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جو اوسکے ذمہ پر ہون بعد اسکی ادا کرے — فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی لا یحل لاحد یؤمن باللہ والیوم الاخر ان یبیت لیلتین الا و وصیۃ مکتوبۃ تحت راسہ ترجمہ نہین حلال ہے کسیکو جو ایمان لائے اللہ اور پچہلی دن پر کہ سوئی دو رات مگر اس حالین کہ وصیت اوسکے لکہی ہوئی ہی سرکے یعنی لکہکر سرہانے رکہہ چہوڑے —

۱۰ نماز و دعای استخارہ جیسے حصن حصین وغیرہ مین مرقوم ہے تین یا سات مرتبہ واسطی مقرر کرنے وقت و راہ کے پڑہے نہ کہ واسطے اصل سفر کے جو محتاج استخارہ کا نہین —

۱۱ مسواک و سرمہ سلائی و آئینہ و کنگہی و سوئی تاگا اور مقراض و چہرے و استرا و عصا اور برتن وضو کا ہمراہ لیجاوی مستحب ہے —

۱۲ جمعرات یا پیر کے دن سفر کرے یعنی اپنی گہر سی روانہ ہو —

۱۳ پہلی سفر کرنیسی بخوبی احکام حج وغیرہ سے آگاہی حاصل کرے —

۱۴ وطن سی ایسا رخصت ہو جیسا دنیا سے آخرت کو جاتا ہے —

۱۵ پہلے گہر سی باہر آنی کے سات محتاجکو کچہہ دے —

۱۶ دو رکعت نماز نفل کرے پہلی رکعت مین قل یا و دوسرے مین قل ہو اللہ شریف

۱۷ بعد سلام یہہ دعا پڑہے اللھم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاھل والمال والولد والاصحاب والاخوان احفظنا و ایاھم من کل آفۃ و عاھۃ ترجمہ ای اللہ تو ساتہہ ہے سفر مین اور خبر

یعنی والا ہے گہروالون کی اور مال اور اولاد اور یارون اور بہائیون کا بچا ہمکو اور
اونکو ہر آفت و مصیبت سے -

۱۸ جب دہلیز آوی سورہ انا انزلناہ اور یہہ دعا پڑہے بِسْمِ اللّٰہِ تَوَکَّلْتُ
عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَ
دِيْنِىْ اَللّٰهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَاِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَ
عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِى التَّقْوٰى وَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَكَجِّهْنِىْ
لِلْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ ترجمہ سفر کرتا ہون مین ساتہہ نام اللہ کے بہروسا کیا مینے اللہ
پر اور نہین بچنا ہی گناہ اور نہین قوت ہی عبادت پر مگر اللہ کے جہت سی ساتہہ
نام اللہ کے اعتماد کرتا ہون مین اوپر ذات اپنی اور مال اپنی اور دین اپنی کے آی اللہ ساتہہ
تیری ہی چلتا ہون مین اور طرف تیری ہے دہیان کرتا ہون مین اور ساتہہ تیری ہے
بہروسا کرتا ہون مین اور تجہی پر اعتماد کرتا ہون مین اسے اللہ توشہ دی مجہکو
تقوی کا اور بخش میرے گناہ اور متوجہ کر مجہکو نیکیون کیطرف جہان جاؤن -

۱۹ جب باہر نکلے یہہ دعا پڑہے اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَضِلَّ
اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ بِسْمِ اللّٰهِ
تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ
لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى وَاعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ترجمہ ای اللہ
پناہ مانگتا ہون تیری اسبات سے کہ مین گمراہ ہون یا گمراہ کیا جاؤن یا ظلم کرون یا ظلم
کیا جاؤن یا نادانی کرون یا نادانی کیجاوی مجہپر ساتہہ نام اللہ کے بہروسا کیا مینے
اللہ پر نہین ہے بچنا گناہ سی نہین ہی قوت عبادت پر مگر بسبب اللہ برتر بزرگ
کے ای اللہ توفیق دی مجکو اوس چیز کی جسکو تو دوست رکہتا ہے اور راضی ہے

خوش ہوتا ہے اور مجکو بچا شیطان مردود سے —

— آیت الکرسی اور سورۂ اخلاص اور معوذتین پڑہکر پہر سات مسکین کو کچھ دیوی

۲۱ [illegible] رخصت ہوکر دعا چاہے — اور کہے اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاِيْمَانَكُمْ

[illegible] اَعْمَالَكُمْ ترجمہ خدا کو سپرد کرتا ہون دین تمہارا اور ایمان تمہارا اور

[illegible] کاموں تمہارے کا —

— رخصت کرنے والی کہین — فِيْ حِفْظِ اللّٰهِ وَكَنَفِهٖ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَجَنَّبَكَ عَنِ الرَّدٰى — ترجمہ بیچ حفاظت اللہ کے رہو اور پناہ اوسکی کے توشہ دی اللہ تجکو پرہیزگار سے کا اور دور رکہی تجکو ہلاکت سے —

بتاریخ شانزدہم ایک بجی دن کے بندہ شہر انبالہ سے روانہ ہوکر چہاونی انبالہ مین پہونچکر نو بجی رات کے فی شکرم بیس روپیہ کرایہ دیکر روانہ ہوا اور بتاریخ ہجدہم دہلی پہونچا — بتاریخ بستم ساڑہی چار بجی دن کے دہلی کی سواری ریل گاڑی درجہ سیوم فی نفر چہہ روپیہ دیڑہ آنہ کرایہ دیکر بتاریخ بست و یکم گیارہ بجی دن کے اسٹیشن الہ آباد پر اوترا اسباب اوٹہانے اسباب کے پر ون اسٹیشن تک فی کلی ایک آنہ مزدوری دیا اور آٹھہ آنہ شکرم کا کرایہ دیکر سرای الہ آباد مین پہونچا اور فی مکان چار آنہ سرای مین ایک شب کے بہٹیارہ کو دئی — بتاریخ بست و دوم چہہ بجی صبح کے فی نفر تین روپیہ نو آنہ کرایہ دیکر سوار ہوکر وارد اسٹیشن جبلپور ہوا اور بارہ آنہ کو دو یکہ کرایہ کرکے سرای مین پہونچا — اسوقت یہان سوای ایک سرای کے اور جگہ فرودگاہ مسافرون کے لئے نہین ہی اور اسٹیشن سے بہت دور ہے بجز مکان اور سب طرح کی اسمین تکلیف ہے — بتاریخ بست و سیوم کرانچی بیل لے پوری پینتیس روپیہ پونے نو آنہ کو کرایہ کرکے چار بجی دن کے

ف اسوقت انبالہ سے دہلی تک ریل ہو گئی —

اسوقت جبلپور سے ناگپور تک ریل ہو گئی —

سے تو خوش ہوتا ہے اور مجکو بچا شیطان مردود سے ـ

۲۰ آیت الکرسی اور سورۂ اخلاص اور معوذتین پڑہکر پہر سات مسکین کو کچھ دیوی

۲۱ سب سے رخصت ہوکر دعا چاہے ـ اور کہے اَستَودِعُ اللّٰہَ دِینَکُم وَ اِیمَانَکُم

وَ خَوَاتِیمَ اَعمَالِکُم ترجمہ خدا کو سپرد کرتا ہون دین تمہارا اور ایمان تمہارا اور

انجام کامون تمہارے کا ـ

۲۲ رخصت کرنے والی کہین ـ فِی حِفظِ اللّٰہِ وَ کَنَفِہٖ زَوَّدَکَ اللّٰہُ التَّقوٰی

وَ جَنَّبَکَ عَنِ الرَّدٰی ـ ترجمہ بیچ حفاظت اللہ کے رہو اور پناہ اوسکی کے

توشہ دی اللہ تجکو پرہیزگاری کا اور دور رکھی تجکو ہلاکت سے ـ

بتاریخ شانزدہم ۱۶ ایک بجی دن کے بندہ شہر انبالہ سے روانہ ہوکر چہاونی انبالہ مین

پہونچکر نو بجی رات کے فی شکرم بیس روپیہ کرایہ دیکر روانہ ہوا اور بتاریخ ہجدہم ۱۸

دہلی پہونچا ـ بتاریخ بستم ساڑہی چار بجی دن کے دہلی سے بسواری ریل گاڑی

درجہ سیوم فی نفر چہہ روپیہ دیڑہ آنہ کرایہ دیکر بتاریخ بست و یکم گیارہ بجی دن کے

اسٹیشن الہ آباد پر اوترا اور بابت اوٹہانے اسباب کے ہر دون اسٹیشن تک فی کلی

ایک آنہ مزدوری دیا اور آٹہہ آنہ شکرم کا کرایہ دیکر سرای الہ آباد مین پہونچا اور

فی مکان چار آنہ سرای مین ایک شب کے بہٹیارہ کو دئی ـ بتاریخ بست و دوم

چہہ بجی صبح کے فی نفر تین روپیہ نو آنہ کرایہ دیکر سوار ہوکر وارد اسٹیشن جبلپور

ہوا اور بارہ آنہ کو دو یکہ کرایہ کرکے سرای مین پہونچا ـ اسوقت یہان

سوای ایک سرای کے اور جگہ فرودگاہ مسافرون کے لئے نہین اور اسٹیشن

سے بہت دور ہے بجز مکان اور سب طرح اسمین تکلیف ہے ـ بتاریخ بست و سوم


کرانچی بیل لے پوری پینتیس روپیہ پونے نو آنہ کو کرایہ کرکے چار بجی دن کے

ف اسوقت انبالہ سے دہلی تک ریل نہ تھی ـ

اسوقت جبلپور سے بانکی پور تک ریل نہ تھی ـ

روانہ ہوکر شبانہ روز کے چلنے مین بتاریخ بست ونہم باران بجی رات کے وارد ناگپور ہوا۔ بتاریخ بست وہشتم باران بجی دن کے بسواری ریل روانہ ہوکر وارد مدیرنہ ہوا۔ بتاریخ بست ونہم پانچ بجی دن کے ریل مین روانہ ہوکر داخل بہساول ہوا۔ مدیرنہ و بہساول دوگانون مین سرای سرکاری اسٹیشن کے قریب ہے اور اسٹیشن مین بھی بلا کرایہ شب باشی کے لیئے جگہ ملتی ہے۔ اوسی تاریخ کو آٹھہ بجی رات کے ریل مین سوار ہوکر بتاریخ سی ام روز شنبہ گیاران بجی دن کے داخل بمبئی ہوکر مسافرخانہ اسماعیل مین فروکش ہوا اس وقت بمبئی مین بجز مسافرخانہ اسماعیل سیٹھہ کے اور سرای نہ تھی۔ سیٹھہ صاحب کے ہمت قابل تحسین و آفرین ہے جو ایسی شہر عظیم الشان مین بجز انکی اور کسی طرف سی ایسا کار خیر نہین پانی شیرین بھی چار بجے تک اسٹیشن صاحب کی جانب سے مفت ملتا ہے۔ بمبئی مین معلوم ہوا کہ جملہ جہازات ہوائی و دخانی بضرورت جنگ جبش سرکار انگریزی نے کرایہ کئی ہین مگر جہاز ہوائی کشتہ نام ایک نواب حیدرآباد کا آزاد ہے اور جدہ کو جانیوالا ہے بندہ بغور دریافت اسباب کے غرہ ذی قعدہ کو بعد نماز صبح کے مختار جہاز مذکور کے پاس جاکر فی نفر بیس روپیہ دیکر ٹکٹ جدہ شریفہ تک لایا اور اوسیوقت بندر یعنے کنار سمندر پر جاکر بعد دینی چہہ آنہ کرایہ کے چھوٹی کشتی پر سوار ہوکر جہاز کو دیکھہ اور مہتمم جہاز کو ٹکٹ دکہلا کر اپنی فرودگاہ پر واپس آکر سامان خوراک بقدر ضرورت دو ماہ جمع کرکے بوقت شام سات روپیہ کرایہ کشتی دیکر جہاز پر پہونچا۔ چونکہ مہتمم جہاز اوس وقت موجود نہ تھا اور نیز بخوف غرق ہونے کشتی کے صدمہ حرکت جہاز سی رات کو کشتی قریب جہاز نہین آنی دیتے اسلیئے جہاز پر سوار ہونا تھا

نقشهٔ شهر بمبئی حسب الارشاد جناب حاجی حکیم محمد بن عبد الله صاحب سلمه الله تعالی در مطبع محمدی بمقام کوبله ماله زیور طبع پوشید سنه ۱۲۹۵



ہونا ہوا اور کنارہ سمندر پر شب بسر کی ۔ اور صبح تاریخ دوم روز پنجشنبہ کو جہاز پر سوار ہوا ۔ آٹھہ بجی ایک انگریز ملازم گورنمنٹ آیا اور جملہ مسافران سوار جہاز کا اوسنی شمار کیا اور یہہ حکم سنایا کہ جسنی جس جگہ کا کرایہ دیا ہے وہ اوس جگہ بیٹھی اور جگہ کی ہوس نکرے اور پانی و لکڑی تمہاری بذمہ اہل جہاز ہی فی نفر تین بوتل آب شیرین کے شبانہ روز مین اور لکڑی حسب ضرورت تمکو ملیگی اگر بسبب نہونے ہوا یا کسی اور بلا کے جہاز کو وقفہ ہوگا تو کسیقدر پانی و لکڑی کم ملیگی اگر اسمین اہل جہاز کوتاہی کرین تم بندر پر استغاثہ کرو حق رسی ہوگی ۔ شمار آدمیون کا اسواسطہ ہوتا ہے کہ جس طاقت کا جہاز تشخیص ہو کر اوسکے لئے بار برداری کے حد معین کی گئی ہے اہل جہاز بطمع زیادہ مسافر اور بار چڑہاتی ہین اسمین مسافرون کو تکلیف اور خوف غرقیگی جہاز ہوتا ہے اسلئے انگریز کو بعد شمار اگر مسافر زیادہ حد مقرر سے پاتا ہے تو فی نفر پچاس ۵۰ روپیہ اہل جہاز سے جرمانہ لیتا ہے اور مسافرین زاید از حد کو اوتار دیتا ہے ایسی ہی اسبابنکا بندوبست رہے ۔ **طریق سفر بحر** جس وقت کشتی اور جہاز مین سوار ہو یہہ پڑہے بِسْمِ اللّٰہِ وَمَا قَدَرُوا اللّٰہَ حَقَّ قَدْرِہٖ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِیّٰتٌ بِیَمِیْنِہٖ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ بِسْمِ اللّٰہِ مَجْرٖیہَا وَمُرْسٰہَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۔ ترجمہ پڑہتا ہون ساتہہ نام اللہ کے اور نہین قدر جانی اللہ کی اون لوگون نے جیسی کہ چاہی اور زمین تمام اوسکی مٹہی مین ہوگی روز قیامت کے اور آسمان لپٹی ہوئے ہونگی اوسکے داہنے ہاتہہ مین پاک ہی وہ اور برتر اونکی شرک کرنے سے ساتہہ نام اللہ کے ہے چلنا جہازونکا

طریق سفر بحر

اور ٹھہرنا اونکا تحقیق پروردگار میرا البتہ بخشنے والا مہربان ہے ۔
اوسی تاریخ چار بجے شام کے جہاز کا لنگر اوٹھا اور روانہ جانب جدہ شریف کے ہوا ۔
عوارضات نے جو دریائی سفر مین لاحق ہوتی ہین خاکسار کو نہایت اذیت پہونچائی
انکا علاج اور تفصیل باب ششم کتاب ہذا مین مندرج ہے علاوہ ازین اہل جہاز جو
مچھلی خشک کھانیکے لئے بہوتی ہین اور دریا کے پانی سے بھی تعفن ہوتا ہے اس
سے زیادہ تر تکلیف ہوئی ۔ **حال جہاز کشتہ نما** کہ جسمین بندہ
سوار ہوا ۔ یہہ جہاز ملک نواب حیدرآباد کا ہے حجاج کی لئے فقط مقرر ہے
لیکن اسمین یہہ قاعدہ معین ہے کہ جو لوگ حیدرآباد مین جاکر خیراتی چٹھی حاصل
کرلاتے ہین اونکو مفت مختار جہاز سوار کردیتے ہین اگر بعد سوار ہونے اون
لوگون کے جہاز مین گنجایش دیکھتی ہین تو لوگون کو کرایہ لیکر سوار کرتے ہین نواب
ممدوح کی ذات سے عرب شریف مین بھی بڑا فیض جاری ہے اور ملک ہند مین
اس سے زیادہ کوئی اب سلطنت اہل اسلام کے نہیں ہے ۔ صورت جہاز کے
بعینہ مثل کشتی کے ہوتی ہے ۔ اس جہاز مین تین درجہ زیر و بالا ہین ۱ درجہ
زیرین مین اسباب اور ذخیرہ پانی و لکڑے کا رہتا ہے ۲ درجہ اوسط مین
جسکو ٹوتک کہتے ہین چار صف مین عام لوگونکو جگہ دیجاتی ہے اور فی نفر دو فٹ
جگہ ملتی ہے ۳ درجہ بالا مین پانچ کوٹھری ہین اہل جہاز اسکو دبوسہ کہتے ہین
اسمین بود و باش جہازیون کی ہے ۔ اور چار باورچیخانہ اور دو پاخانہ زنانہ
ہمراہ اونکے اور دو پاخانہ مردانہ بیرون جہاز ۔ تین بادبان ۔ **بادبان**
وہ ہے جو چوب دراز پر ہوا سے زور لینے کے لئی پردہ باندہتی ہین اور اوسیکے
زور سے جہاز چلتا ہے ہر بادبان مین چار پردہ پارچہ دبیز کے جو مثل شطرنجی کے

سے کے ہوتا ہے درجہ بدرجہ باندہتے ہین — ہر پردہ کا نام جدا گانہ ہے ۱ پردہ زیرین کا نام بڑاس ہے ۲ پردہ دوم کا نام گاٹی بڑاس ۳ پردہ سیوم کا نام سبر ۴ پردہ چہارم کا جو سب سے اوپر ہے تبر نام ہے — اگر ضرورت ہوتی ہی پردہ پنجم باندہتے ہین نام اسکا گبر پکارتے ہین — طول جہاز کا چوالیس ۴۴ گز لمبی ہے — تفصیل مہتمان جہاز یہہ ہے — ایک کپتان امور جزوی و کلی جہاز کا مختار ہے تین سو بیس ۳۲۰ روپیہ ماہوار تنخواہ — دو معلم ماتحت کپتان یعنی احکامات کپتان معرفت انکے اجرا ہوتے ہین اور بطور پہرہ کے حالت روانگی جہاز مین ایک بعد دوسرے کی حاضر رہتا ہی سمت ہوا کے خبر رکھنی اور خلاصیون سے پردون کے کہولنی باندہنے کا کام لینا انہین کے اختیار ہے — معلم اول کے تنخواہ ایک سو بیس ۱۲۰ روپیہ ماہوار معلم دوم کی اسی ۸۰ روپیہ ماہوار — چبیس نفر خلاصی تنخواہ انکی دس ۱۰ روپیہ سی بیس ۲۰ روپیہ تک ماہیانہ — دو جمعدار خلاصیون کی ایک تیس ۳۰ روپیہ ماہیانہ دوسرا پچیس ۲۵ روپیہ ماہیانہ پاتا ہی ایک نجار پچاس ۵۰ روپیہ ماہوار — چار سکانی فی نفر تیس ۳۰ روپیہ ماہیانہ ایک بعد دوسرے کی پہرہ کی طرح پہیہ پر رہتے ہین قطب نما اور پہیہ کے ذریعہ سے جہاز کو راہ پر رکہتی ہین — واضح رہے کہ سکان کا ایک پہیہ اخیر جہاز مین درجہ بالا پر لگا ہوا ہی اور قریب تر اوسکے اسطرحپر کہ بے تکلیف سکانی کے اوسپر نظر پڑی قطب نما نصب ہوتا ہے پہرانا جہاز کا اوس پہیہ کے پہرانی پر اور چلانا رستہ پر قطب نما کے دیکہنی پر منحصر ہے یعنی جسطرف کو چاہتے ہین پہیہ کی ذریعہ سے جہاز کو گردش مین لاتے ہین — سکانیکا یہی کام ہے کہ اگر ہوا یا موج دریا کے سبب جہاز راہ چہوڑدی تو معلم قطب نما دیکہکر راہ بتاتا ہے اور سکانی پہیہ ہلاکر اوسکو راہ پر لاتا ہے — ایک جہنڈی طول مین دو گز لمبی کے گوشہ آخر جہاز پر

محاذی یا جانب یمین دلیار اور متصل وہیہ مذکورکے نصب ہوتی ہے اور اوسکے اوپر کیطرف ہین نہایت نازک اور سبک پر لٹکائی ہوئی ہوتے ہین جو تہوڑے سے ہوا اونکو متحرک کرتے ہی حصر تشخیص سمت ہوا کا جنبش پر ہائی مذکور پر ہے ۔ جس خلاصی کی کلید درجہ اسباب کے سپرد ہوتی ہے اوسکو کسب کہتے ہین ۔ خوراک جملہ ملازمین جہاز کی سوا ئے تنخواہ نقد کے ذمہ مالک جہاز کی ہے ۔ تاریخ بیست و چہارم روز جمعہ کو جہاز مین احرام باندہا کسلئے کہ حجاج کو جس جگہ احرام باندہنا ضرور ہے اوسکو میقات لکھتی ہین گو جہاز مین معاینہ میقات کا نہین ہوا مگر اہل جہاز کے بیانسے جو اس موقع کو وہ برابر میقات کے کہتی تھے احرام باندہنا ہوا ۔ اس جگہہ میقات لمبرا ار بغرض عام فہم لکہتا ہون مسائل متعلقہ اسکے تیسرے بیان خاتمہ مین ہین

۱ اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ہے اوسکو ابار علی بھی کہتے ہین ۔ یہہ جگہہ پانچ چھہ میل مدینہ شریف سے بعد رکہتی ہے یہان چند چاہ ہین قول عوام کا جو محض بے بنیاد ہے یہہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنون کو مار کر اون کنوئین ڈالا ہی ذوالحلیفہ ایک پانی ہے بنی جثیم کا اور حلیفہ تصغیر حلفہ کے اور وہ ایک گہاس ہے جو پانی مین پیدا ہوتا ہے ۔ یہہ میقات اوروں کی نسبت فاصلہ زیادہ رکہتا ہے میقات اہل مدینہ ذوالحلیفہ

۲ مصر اور شام اور مغرب والوں کا اگر مدینہ منورہ کی جانب سے گذر ہو تو وہ ہی ذوالحلیفہ میقات ہی ۔ اگر تبوک کی راہ سے آوین تو جحفہ ہے لیکن اوسمین جو آبادی بہت کم رہ گئی ہے اور وہانکو قافلہ نہین جاتا اسواسطہ رابغ مین احرام باندہتے ہین بلکہ فی زمانہ حال جمیع حجاج بوقت واپسی مدینہ منورہ کے رابغ سے احرام باندہتے ہین **تبوک** ایک منزل ہے درمیان شام اور مدینہ کے **جحفہ** ایک تہوڑی سی آبادی ہے متصل رابغ کے اور مسجد ماثورہ بھی اوس جگہہ ہے ۔ جب میقات اہل شام جحفہ

جب عمالقہ نے عاد کی بہائی بندوں کو یثرب سے نکالا تو وہ اس جگہہ مین آباد
ہوئے ناگاہ سیلاب اونکو بہالیگیا لوگوں نے کہا اجتحفہم الجحاف یعنی بہالیگئ
اوسکو بہا جب سی اوسکا جحفہ نام ہے ۳ نجد والوں کے لئی میقات قرن ہے
نجد اونچی جگہ کو کہتی ہین اور یہان مراد اوس سے وہ ستیان ہین درمیان
تہامہ اور یمن کے جو وہ بلندیکی طرف ہین ۔ درمیان شام وعراق کے جو وہ بستی
کے جانب ہین **قرن** ایک پہاڑ گول اور چکناشل ہتھیلی کے متصل طایف
شرف نہر عرفات پر ہے مکہ معظمہ سے دو منزل کی مسافت ہے
اور تہامہ اور ہندوستانیوں کا جو یمن سے گذرتے ہین یلملم میقات ہے
کو سعہ یہ بھی کہتی ہین یہ ایک پہاڑ ہے دو منزل مکہ معظمہ سے ۔ یہ
دونوں ہی میقاتوں کی فاصلہ مین کم ہے ۵ اہل عراق یعنے اہل
وخراسان وغیرہ کا ذات عرق میقات ہے لیکن بہتر عراقیوں کے لئے میقات
عقیق ہے ۔ **عراق** نہر یا دریا کے کنارہ کو کہتی ہین
بہی مکہ معظمہ سے جانب مشرق کنارہ دجلہ فرات پر واقع ہے **ذات**
ایک تیلی زمین ہے جسمین جہاؤ پیدا ہوتا ہے اور عرق وہان پہاڑ ہی
مین یہان آبادی تھی اب ویرانہ ہے مکہ معظمہ سے دو منزل کے مسافت ہے
طریق مقررہ احرام ۱ اگر بی بی یا لونڈی ہمراہ ہو اور کوئی
مانع نہو تو اوس سے جماع کرے تاکہ حج وغیرہ مین دل بیقرار نہو اور سلے
کپڑہ اور موزہ وغیرہ بدنسی نکالے ۲ سر کے بال منڈائی اگر عادت
والا نکل خیر وہ نشان وغیرہ سے دہو ڈالے ۳ مونچھین اور ناخن کترا
ہے بغل اور زیر ناف کے بال دور کرے ۴ احرام کے نیت سے بدن کو غسل

پھیل سنت وبہ کر صاف کرے اگر نہانی کی حاجت ہو تو بہہ بہی نیت کرے ۲ بعد غسل خوشبو لگائی خواہ جسکا جرم او سکا بعینہ بعد احرام کے باقی رہے مانند مشک وار کچہ یا جاتا رہے مثلاً مشک کو گلاب مین گہسکر لگاوے جسکا جرم اور اثر باقی رہے اوسکو کپڑے مین نہ لگاوی ۳ حیض والی اور زچہ عورت بہ نیت احرام غسل کرے بلکہ بچہ کو بہی نہلائے ۴ بعد اعمال مذکورہ کی مرد تہمد باندھی اور چادر اسطرح اوڑہے کہ حالت طواف مین دامن چادر کو داہنے بغل کے نیچی سے نکالکر بائین کندہی پر ڈالین باقی دو قسمونین سوای اون اعضا کی کہ جنکا احرام مین ڈہکنا ممنوع ہے اوڑہتا رہے تہمد وہ ہے کہ جس سے نیچی کا بدن چہپاوین متوسط آدمی کے لئی پانچ ہاتہہ لنبا اور ناف سے گہٹنونکی نیچی تک کا جوڑا ہوتا ہے چادر جس سے اوپر کا بدن ڈہکتی ہین چہہ ہاتہہ کے لنبی اور کندہونسی تہمد کے باندہنے تک کے جوڑے ہوتی ہے - اگر محرم بقدر ضرورت خود اندازہ تہمد وچادر کا کم زیادہ کرے یا دونو ایک ہی کپڑے کے بنالیوی تو مضایقہ نہین - ان دونون کے لیئے سفید نیا کپڑا بہتر ہے - عورت جبہ اور کرتہ اور پاجامہ اور دستانہ اور جرابین پہنی اور سر ڈہکے مگر رنگین وخوشبودار کپڑا نہو اور مونہہ کو کپڑے سے نہ چہپائے البتہ پہاچون وغیرہ سے ڈہکنا بناکر منہہ پر باندہ کر پردہ کرے ۵ مسائل متعلقہ احرام بیان سیوم خاتمہ مین بالتفصیل مندرج ہین ۶ دو رکعت نفل وقت غیر مکروہ مین بہ نیت احرام بدین طریق ادا کرے رکعت اول مین قلیا رکعت دوم مین قل ہو اللہ پڑہے اکثر علما بعد قلیا کے یہ آیت پڑہتی ہین رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ترجمہ ای رب ہمارے

نفل دو رکعت دو خواندن

ہماری نہ پہسلا اون ہمارے کو بعد اسکے کہ راہ دکہلائی تونے ہمکو اور دی ہمکو
اپنی پاس سے رحمت بیشک تو ہی دینے والا ہے — اور بعد نفل پڑھے اللہ کی یہہ
آیت پڑھے ربنا اٰتنا من لدنک رحمۃ وھیئ لنا من امرنا رشدا
ترجمہ ای رب ہمارے دے ہمکو اپنی پاس سے رحمت اور مہیا کر ہمارے لئے کام
ہمارے میں ہدایت — وقت نفل پڑھنے کی لئے مکروہ یہہ ہین ۱ سورج نکلتے ۲
سورج ڈوبتے ۳ ٹھیک دوپہر ۴ بعد نماز صبح کے طلوع تک ۵ بعد نماز عصر
غروب تک ۶ پھر قبلہ رخ بیٹھے یا کھڑا ہوکر نیت دل سے کرے اور زبان سے بہی لیکن
نیت احرام جدا گانہ ہے چنانچہ **نیت احرام حج** کے لئے زبان سے کہے اللھم (نیت احرام حج)
انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی
فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی ترجمہ ای اللہ مین ارادہ
کرتا ہون حج کا پس آسان کر اوسکو واسطے میرے اور قبول کر اوسکو مجہسے اور
اعانت کر اوسپر اور برکت دی واسطے میرے بیچ اوسکے نیت کی مینے حج کی اور
احرام باندہا مینے اوسکا خدا کے لئے **نیت احرام عمرہ** کے واسطے زبان سے (نیت احرام عمرہ)
کہے اللھم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی
علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی
ترجمہ ای اللہ مین ارادہ کرتا ہون عمرے کا پس آسان کر اوسکو مجہپر اور
قبول کر اوسکو مجہسے اور مدد کر میرے اوسپر اور برکت دے واسطے میرے
بیچ اوسکے نیت کی مینے عمرہ کی اور احرام باندہا مینے اوسکا خدا کے لئے **نیت** (نیت احرام قران)
احرام قران یہہ کہے اللھم انی ارید العمرۃ والحج فیسرھما
لی وتقبلھما منی واعنی علیھما وبارک لی فیھما نویت العمرۃ

وَالْحَجِّ وَاَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلّٰهِ تَعَالٰی ترجمہ ای اللہ مین ارادہ کرتا ہون
عمرہ اور حج کا پس آسان کراون دونون کو واسطے میرے اور قبول کراون دونون کو
مجھسے اور اعانت کر میری اوپر اون دونون کی اور برکت دے واسطے میری بیچ اون
دونون کے نیت کی مینے عمرہ اور حج کی اور احرام باندہا مینے ساتھہ اون دونون کے
واسطے اللہ تعالی کے **احرام تمتع کے لیئے** بالفعل نیت احرام عمرہ کے
کرے اور آگے چلکر عمرہ کے نیت حج کے بھی کرے ۱۲ بعد ادا کرنے نیت کے
یہ کلمات پڑہے لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ
لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ
اِلٰهَ الْخَلْقِ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوْبِ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ
كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ ترجمہ حاضر ہو نین ای اللہ تیری خدمتمین
حاضر ہون حاضر ہون نہین ہے کوئی ساجہی تیرا حاضر ہونین تیرے خدمتمین
تحقیق سب تعریف اور نعمت اور بادشاہت تجکو ہی نہین ہی کوئی شریک
تیرا حاضر ہونین تیری خدمتمین ای معبود خلق کے حاضر ہونین ای بخشنی والے
گناہون کی حاضر ہون تیری خدمتمین اور مدد کرتا ہونین تیرے کام مین اور
نیکی تمام تیرے اختیار مین ہے اور رغبت طرف تیری ہے ۱۳ پہر یہ تین درود
شریف باواز پست پڑہے ۱ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۲
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۳ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ۱۴ پھر یہہ دعا ئین پڑہے ۔ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُکَ رِضَاکَ وَالْجَنَّۃَ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ غَضَبِکَ وَمِنَ النَّارِ ترجمہ ای اللہ مانگتا ہوئین تجہسی رضامندی تیری اور بہشت کو اور پناہ مانگتا ہون غصہ تیریسی اور دوزخ سے ۔ اَللّٰھُمَّ اَحْرَمَ لَکَ شَعْرِیْ وَبَشَرِیْ وَلَحْمِیْ وَدَمِیْ مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّیْبِ وَکُلِّ شَیْءٍ حَرَّمْتَہٗ عَلَی الْمُحْرِمِ اَبْتَغِیْ بِذٰلِکَ وَجْھَکَ الْکَرِیْمَ ترجمہ ای اللہ حرام کرتا ہوئین واسطہ تیری بال اپنی اور کہال اپنی اور گوشت اپنا اور خون اپنا عورتونسی اور خوشبوسی اور ہر اوس چیزسی جسکو حرام کیا ہی تونے محرم پر چاہتا ہوئین اسکو خاص تیری ذات بزرگ کے لئی ۱۵ پھر جو چاہے اپنی زبانمین بکمال عجز و نیاز جناب رب العزت سی دعا مانگی ۱۶ احرام کہولنے کی وقت تک بعد ہر نماز کے بلکہ ہر وقت لبیک اللّٰھم لبیک الخ مندرجہ نمبر۱۱ تین تین بار باواز بلند پکارتا رہے اور مسجدمین آواز پست تہی لیکن عمرہ مین شروع طواف سی اور حج مین شروع رمی اول سے لبیک کہنا شروع کرے ۱۷ عمرہ یا حج یا دونون کے خصوصیت لبیک کی ساتہہ کرے مستحب ہی مثلاً لبیک بعمرۃ یا لبیک بحج یا لبیک بعمرۃ وحج ۱۸ بحالت احرام تسبیح تہلیل وتکبیر وتحمید اور جو ذکر عظمت الٰہی کا کیا جاوے حکم لبیک کا رکہتا ہی ۱۹ لبیک کہنی وقت یہہ شخص محرم ہوگیا جیسی تحریمہ ذ[illegible] لیجانی کے وقت ساتہہ نیت کے محرم ہوجاتا ہی زاد [illegible] وغیرہ [illegible] نہ تہی ۔ بغیر ان دونون کے محرم نہین ہوتا ۔ قربانی سے مراد گائی اور اونٹ اور [illegible] اور سبیل ہے جو اوسکے گلیمین علامت کی بنی نعل یا ٹکڑا نعل کا یا توشہ دان

یا دستہ اوسکا یا اوہاڑ ہی کسی درخت کے باندہتے ہین یا جہول پہناتی ہین یا اونٹ کی کوہان مین بائین طرف زخم کرتے ہین تاکہ اوس سے خون جاری ہو مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہی اگر خوف سرایت کرنے زخم کا ہو۔

معنی حج - حج کہتی ہین احرام باندہکر عرفات پر ٹہرنے اور طواف زیارت کرنے کو اوقات معین مین -

معنی عمرہ - عمرہ کہتی ہین احرام باندہکر طواف کعبہ کا اور سعی صفا و مروہ مین کرنے کو -

معنی افراد - افراد کہتی ہین تنہا کرنے حج کو اسطرحپر کہ عمرہ اوس سال مین نکرے - یا بعد ایام حج یا قبل شوال کے کرے - یا تنہا کرنا عمرہ کا اسطور پر کہ اوس سال مین حج نکرے - اگر حج کری تو عمرہ پہلی شوال سے یا بعد ایام حج کی ادا کرے -

معنی قران - قران کہتی ہین جمع کرنے حج اور عمرہ کو اور ادا کرنا دونون کا حج کے مہینونمین ساتہہ ایک احرام کے یا داخل کرنا احرام حج کا احرام عمرہ مین پہلے طواف عمرہ کی یا داخل کرنا احرام عمرہ کا احرام حج مین پہلی پہرنے کے عرفات سے مگر آخر صورتمین گنہگار ہوگا -

معنی تمتع - تمتع کہتی ہین احرام باندہکر ادا کرنا افعال عمرہ کا حج کی مہینونمین اور پہلے جانیسے وطن مین قبل حلال یا بعد اوسکے احرام باندہکر حج بہی کرنا لیکن قربانی اگر ساتہہ لئے ہو تو اوسکو حج سے پہلے حلال نہ کرنا چاہیئے -

فرق بینہما - عمرہ مین طواف قدوم اور طواف وداع نہین ہوتا

جدا — حج مین دونون ہوتی ہین یعنی افراد اور قران مین مگر تمتع کو حکم عمرہ
کا ہے اسباب مین — حج فرض ہے بالاتفاق — عمرہ امام ابوحنیفہ اور امام
مالک رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک سنت ہی اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک فرض
ہے — تمتع مین دو احرام دو تلبیہ ایک سفر مین لازم ہین — قران مین ایک
احرام ایک تلبیہ ایک حلق سفر واحد مین چاہیئے — قران و تمتع مین قربانی
واجب ہے خواہ میقات سے ساتھ لئی ہو یا نہین — قارن پر ایک گناہ کے
دو جزا لازم آتی ہین مفرد و متمتع پر ایک مگر جو متمتع کہ احرام عمرہ سے خارج
نہو کر احرام کے بعد گناہ کرے وہ حکم قارن کا رکھتا ہے —

وجہ تسمیہ انکا قران و افراد کے وجہ تسمیہ ظاہر ہے محتاج تشریح نہین
تمتع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ متمتع فایدہ لیسکتا ہے ممنوعات احرام سے
درمیان احرام عمرہ اور حج کی برخلاف قارن کے کہ اگر وہ بعد عمرہ کے سلا
سر منڈائی تو اوسپر قربانی لازم آئیگی — افاقیکو قران و تمتع و افراد ہر ایک
روا ہین — مکی کو قران و تمتع نہین جایز ہے اگر کریگا تو بالتحقیق اوسپر دم
لازم آئیگا — **افاقی** اوسکو کہتے ہین جو میقات سے باہر سکونت رکھتا ہو
مکی بقول امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہی جو افاقی نہو یعنی خاص مکہ
معظمہ کے رہنے والا ہو یا عین میقات پر یا میقات کے اندر جانب مکہ مقدسہ
کے رہتا ہو بقول امام مالک علیہ الرحمہ مکی سے مراد خاص مکہ معظمہ کے رہنے
والا ہے — بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مکی سے مراد باشندہ خاص
مکہ معظمہ ہے اور جو مکہ مقدسہ سے بعد سفر شرعی کا نہ رکھتا ہو بحکم مکی ہے —
غرہ شہر ذی حجہ کو دوپہر دن کے بندر جدہ شریفہ پر جہاز کو لنگر ہوا

بندر رکھتی ہین کنارہ سمندر کو جہان جہاز کو لنگر کرتے ہین یعنی ٹہراتی ہین

کیفیت شہر جدہ شریفہ و وجہ تسمیہ آن

جدہ ایک شہر کنارہ سمندر پر ملک عرب سے آباد ہی اور بندر بمبئی سی تین ہزار میل کا بعد رکھتا ہے بازار اسکا چھتا ہوا ہے عمارت پتھر کی ہے یہان کے باشندہ عربی بولتے ہین اسجگہہ تک ہر مذہب کے لوگ بوجہ تجارت آتے ہین آگے سوائے مردان اہل اسلام کے اور کسی مذہب کا آدمی جانی نہین پاتا۔ حکومت اسمین سلطان روم خلد اللہ ملکہ کی ہے۔ اونکا قاعدہ ہی کہ جب کسی ملک سے جہاز بندر پر لنگر انداز ہوتا ہے تو سو روپیہ نذر سلطان لیتی ہین۔ اور بفور لنگر ہونے کی دو سپاہی منجانب میر بحر بطور پہرہ کے آجاتی ہین اور جبتک طبیب ملازم سلطان جہاز مین آکے حال صحت حاجیان دریافت کرکے اجازت اوترنیکی نہ دیوی سپاہیان مذکور کا پہرہ رہتا ہے اور نیز بوقت متعین کرنے پہرہ کے ایک افسر ترک اسباب کے دریافت کی لئے جہاز پر آتا ہے کہ آیا یہہ جہاز مال تجارت لایا ہی یا حجاج سوار ہین یا کوئی اور بات ہے۔ سلطنت روم مین ایک حاکم اعلی جملہ بندرہا کا سوای دیگر حکام ملکی کے ہوتا ہے اوسکو میر بحر کہتی ہین منکل الوجوہ امور جزوی وکلی متعلقہ بنادر کا وہ مختار ہوتا ہی اوسکی ماتحت افسر ہر بندر پر رہتے ہین اونکو نائب میر بحر کہتی ہین۔ نام اسکا جدہ اسلئی ہے کہ بیرون شہر مزار جنابہ حوا علیہا السلام کا ہے اور وہ جدہ کل بنی آدم کے ہین۔ پس بتاریخ دوم ماہ مذکور صبح کے وقت طبیب صاحب جہاز پر تشریف لائی اور کپتان جہاز سے حال صحتوری حجاج دریافت فرماکر اجازت اوترنیکی دی گئی اور واپس جاتی ہے طبیب صاحب کے اہل عرب

عرب صدہا کشتی لیکر حاضر ہوئی اور جمیع حجاج کا اسباب اوٹھا کر اپنی
اپنی کشتی مین رکھا اور فی نفر پنج آنہ کرایہ لیکر بندر جدہ پر اوتارا اور اوترتے ہی
دلال حاضر ہوئی اور مجکو علی بیگ نے دلال اپنی ہمراہ لیگیا — دلال منجانب مطوفین
بیت اللہ کی گماشتہ ہوتے ہین اور انہین کے معرفت مطوف مقرر ہوتے
ہین — دروازہ جدہ شریفہ مین ترکی ملازم سلطانی سب اسباب ہر ایک
حجاج کا ملاحظہ کرتے ہین جو مال تجارت سے سمجھا جاتا ہی اوسکی زکوۃ لیتی ہین
گو میرے پاس مال تجارتی نہ تھا لیکن اونہون نے آرد وغیرہ کو مال تجارت
سمجھکر معرفت دلال مذکور زکوۃ لی — اور مجکو نامبردہ نے [illegible] اوسکو
رباط کہتی ہین اور قریب دروازہ شہر کے ہے فرودکش کرایا کرایہ [illegible]
فی نفر ایک قرش دیا لیا — قرش ضرب مسی سکہ سلطانی ہے [illegible] پیسے
تیرہ قرش نقد ملتی ہین — یہان پانی شیرین بقیمت ملتا ہے [illegible]
کے جو اوسکو گربہ کہتی ہین ایک قرش کو ملتی ہے لیکن پانی نہر کا جو پانی
نہر جدید تیار ہو رہی ہے بسبب مختلط ہونے چونہ وغیرہ کے خراب ہے اور
پانی بارش کا اچھا ہوتا ہے اوسکو وہ لوگ صہری کہتی ہین او [illegible] وہ بیرون
شہر ایک نشیب مین جمع کیا جاتا ہی وہانسی مشکون مین لاکر بیچتی ہین —
اور معرفت دلال مذکور کے فی شغدف چار ریال اور فی شبری ایک روپیہ
قیمت دیکر خرید کئی — ریال ضرب نقرئی ہے اور یہہ دو قسم ہوتا ہے ایک سکہ
سلطان روم جو اوسکو مجیدی کہتی ہین — دوسرے سکہ فرانس — قیمت
دونون کے مساوی ہے یعنی نے ریال سوا دو روپیہ قیمت ہے — **شغدف**
یہہ دو عدد بطور ہودج کے ہوتے ہین دونون طرف اونٹ کی باندھے

جاتی ہین اوسپر دو ہودج پر کپڑہ منڈھتی ہین دو آدمی اوسمین سوار ہوتی ہین اور بآرام ہوتے ہیٔ حرارت آفتاب سی محفوظ رہکر منزل طی کرتے ہین ۔ لیکن کرایہ اسکا بہ نسبت شبری کے اونٹ والی زیادہ لیتی ہین کس لئی کہ شغدف کے اوٹھانے کے واسطے اونٹ قوی وشایستہ درکار ہوتا ہے شبری یہہ بعورت ...پارپائی اولٹے کے ہوتی ہے ہال اور دہوپ کے اسمین نہایت تکلیف ہوتی ہے اونٹ عمدہ اسکے لئی ضرور نہین جیسا ہوتا ہی لگاتے ہین کرایہ اسکا کم ہوتا ہی ... پالان اہل اونٹ پر باندہکر اوپر اوسکے شبری عرضاً رکھتی ہین ۔ شبری یا شغدف مین سوار ہونیکی لیئے زینہ چہہ آنہ کو خرید تے ہین دو عدد صراحی گلی چوڑہ شغدف مین آگی کے طرف خواہ پچہلی طرف پانیسے بہرکر باندہتے ہین جملہ سامان اوسکی باندہنے کا مثل رسی وغیرہ یا لینا ہوتا ہے غرض کہ اونٹ والے صرف پالان اونٹ کے ساتھہ لاتے ہین اور سب چیز حاجت کی ہوتی ہے ۔ راستہ مین پانی نہین ملتا اسواسطے صراحیکا ہمراہ ہونا لابد ہے ۔ شغدف و شبری جدہ شریفہ سے خرید کرے مضبوط ہوتے ہی مدینہ منورہ کے راہ مین کام آتی ہے مکہ معظمہ کے ساخت ناپایدار ہی ۔

بتاریخ سیوم بوقت غروب آفتاب بسواری شتران فی راس شتر تین روپیہ آٹھہ آنہ اور نان دو وقتہ کرایہ دیکر روانہ جانب مکہ معظمہ ہوا ۔ بتاریخ چہارم بوقت طلوع آفتاب وارد موضع بحرہ ہوکر بعد نماز ظہر روانہ ہوکر بتاریخ پنجم صبح وقت طلوع آفتاب کے حسب دستور مقررہ داخلہ مشرف مکہ معظمہ ہوا ۔


موضع بحرہ یہہ گانوہی ما بین جدہ شریفہ و مکہ معظمہ کے اسمین فرودگاہ مسافرین کے لیئی بدؤن نے چہپر بنا رکھے ہین فی نفر دو قرص مکان کا کرایہ

کرایہ لیتی ہین اور ہانی والٹے اوسی کرایہ مین مسافر کو دیتی ہین بلد و دہقان کو کہتی ہین **مکہ معظمہ** شہر وسیع آباد ہے عمارتین سنگین مرتفع نہایت معقول بنی ہوئی ہین بازار پارچہ فروشون کا چھپتا ہوا ہے ہر بازار کا اسم جداگانہ ہی اور شہر مین مسجد الحرام عالیشان بنی ہوئی ہے اور مسجد موصوف کو جناب عبد المجید خان صاحب مرحوم سلطان روم نی از سر نو بڑی عمدگی کے ساتھہ تعمیر کرایا ہے وسط مین اسکے **بیت اللہ** زینت بخش ہے گرد بیت اللہ کے تین سو نبی علیہم السلام مدفون ہین ما بین ہر دو رکن کے ستر نبی اور حضرت اسمعیل اور حضرت ہاجرہ والدہ اونکے حطیم مین زیر میزاب اور نوح و صالح ما بین زمزم و مقام ابراہیم کے دفن ہین علیہم السلام دروازہ بیت اللہ کا سطح زمین سی بقد آدم بلند ہے ہر وقت قفل بند رہتا ہی کلید اوسکی عبد اللہ شیبی کے سپرد ہے انکی خاندان مین ہمیشہ سے اس نعمت عظمی کے تحویل چلی آتی ہے ۔ بروز دوشنبہ دروازہ بیت کشادہ ہوتا ہے دروازہ بیت اللہ کے ما بین گوشہ مین حجر اسود نقرئی طاقین منصوب ہی ۔ بیت اللہ کے ہر ایک گوشہ کا جدا جدا اسم ہے ۔ صورت بیت اللہ مربع ہی گرد بیت اللہ کے نشیب [illegible] سطح مسجد ہی اوسمین سنگ مرمر کا [illegible] اوسی نشیب مین وقت طواف پھرتے ہین یہہ نشیب مدور ہے اس [illegible] بعد زمین مسجد کی ہے اوسمین فرش سیاہ پتھر کا ہے اور بعد حد طواف کے [illegible] چوبی نصب کرکے ما بین ہر ایک دو بالون کے آہنی زنجیرین فانوس [illegible] کے لٹکی [illegible] اس حد [illegible] چار [illegible] مجتہدون [illegible] اس مسجد شاہی مین مقام ابراہیم اور چاہ زمزم جو حضرت جبرئیل [illegible]

کیفیت مکہ معظمہ

سے کے پرکے ضرب سے برآمد ہوا اور دیگر مقامات متبرک ہین جسکے حجاج کو مشاہدہ
سے کیفیت واضح ہوتی ہے - روضۃ الصفا مین مرقوم ہے کہ جب حضرت آدم
علیہ السلام بہشت سے سراندیب مین اور حضرت حوا علیہا السلام جدہ مین ڈالی گئے
تو حضرت آدم علیہ السلام نے سراندیب سے حسب الحکم جناب باریتعالی برہنمونی حضرت
جبرئیل علیہ السلام کے اِس جگہہ آکر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور حجر اسود جو حضرت آدم علیہ السلام
بوقت باہر آنے جنت کے ہمراہ لائی تھے اسمین نصب کیا اور مناسک حج ادا کرکے
عرفات پر حضرت حوا علیہا السلام سے ملاقی ہوئی - خانہ کعبہ محاذی بیت المعمور کے
ہی جو آسمان پر ہے - دستور مکہ معظمہ کا یہہ ہے کہ جب قافلہ پہونچتا ہے مطوف
جو اونکو معلم کہتی ہین صدہا بیرون شہر آتی ہین اور حاجیون کو ہمراہ لیجاتے
اور اونکی ہر ایک امور ضروری کے کفیل ہوتے ہین اور حجاج اونکو وقتاً فوقتاً
یا بعد ادای عمرہ اور حج کی جو معرفت اونکی ادا کیا جاتا ہے یا بوقت روانگی وطن
کے بطور حق الخدمت نقد دیتی ہین - اگر اُس وقت مطوف مقرر نہ کیا جاوے
تو دروازہ مسجد الحرام خصوص قریب بیت اللہ کے مطوف لوگ رہتے ہین
سعی اور طواف کراتی ہین اور حجاج بقدر امکان اونکو اوس وقت دیدیتی
ہین مگر انسی بجز طواف وسعی کے اور کچہہ آرام نہین ملتا - بندہ کو مسمی رضوان
بصراوی ہمراہ لیگیا اور اپنی مکان پر ٹھرایا اور اپنی شریک مسمی محمد پنجابی کو
میری سپرد کیا تاکہ اوسکے معرفت ارکان عمرہ اور حج وغیرہ امورات ضروری
البتہ ہو ادا ہوان کس لیئے کہ رضوان بصراوی زبان ہندی نہین جانتا اور
محمد پنجابی زبان ہند مین خوب مہارت رکہتا ہے - پس اوسی تاریخ بہمراہی
مطوف مذکور خاکسار نے ارکان عمرہ اور جمیع امور ضروری سے فراغت

نقشہ کعبہ معظمہ و حرم محترم بیت اللہ تعالیٰ زاد برکاتہ



فراغت پائی طریق داخلہ زمین حرم و مکہ معظمہ یہہ ہے

۱۔ جب حجر اسود کعبہ مین رکہا گیا اوسکی روشنی چارونطرف جہانتک پہونچی اوسکو زمین حرم کہتی ہین اوسکی حد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سی ہر طرف میل بلند علامت کی لیئے بنی ہوئی ہین — اور زمین حرم ہے کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کیطرف تنعیم تک تین میل اور یمن و عراق و طائف ہر ایک کے جانب سات میل ہی اور جعرانہ کے سمت نو میل اور جدہ کی طرف دس میل ہے —

۲۔ جب زمین حرم مین پہونچی اگر طاقت رکہتا ہو پیادہ اور ننگی پاؤن چلے جیسے قیدی گنہگار بادشاہ قہار کے سامہنی جاتا ہے اور کمال انکسار و آہستگی و توبہ و استغفار کے ساتہہ قدم اوٹہائے —

۳۔ یہہ دعا پڑہے اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَحَرَمُ رَسُوْلِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِيْ وَدَمِيْ وَعَظْمِيْ عَلَى النَّارِ — اَللّٰهُمَّ اٰمِنِّيْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ اَوْلِيَائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

ترجمہ اى اللہ تحقیق یہہ حرم تیرا ہی اور حرم رسول تیری کا ہیں حرام کر گوشت میرا اور خون میرا اور ہڈی میری دوزخ پر اے اللہ بچاؤ دی مجکو عذاب اپنی سے جسدن اوٹہائے تو بندون اپنی کو اور کر مجکو دوستون اپنی اور بندگی والی اپنی سے اور رحمت کر مجہپر تو بڑا رحم کرنیوالا مہربان ہے —

۴۔ پہر لبیک کہی اور سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ کہکر درود شریف پڑہے —

۵۔ بحق والدین اور رشتہ داران اور حبابہ دوستون و اوستاد و ...

اور جمیع مسلمانون کے دعای خیر مانگے ۔
٤ قریب مکہ معظمہ کے اگر پانی پاوی نہالیوے جیسی حجاج جو مدینہ منورہ کے جانب سے گذرتے ہین تو چاہ ذی طوی پر جو نیچی قبہ کے ہی نہاتی ہین ۔ جو عراق کے طرف سے آتے ہین چاہ میمونہ پر جو برابر جبل نور کے بطحای مکہ مین ہی غسل کرتے ہین ایسی ہے جس جگہ پانی پاوے نہاوے ۔
٥ داخل ہونا مکہ معظمہ مین مرد کو دن مین عورت کو بوقت شب بہتر ہے لیکن داخل ہونا رات کو بھی بلا اکراہ جایز ہے ۔
٨ مکہ معظمہ مین دن کو اگر داخل ہو تو پشتہ کدا کی طرف سے جو بلندی کے جانب جنتہ المعلا کے دروازہ کے پاس ہے داخل ہووی ۔ اگر مکہ معظمہ سے عمرہ لانے کے لئے تنعیم کو جاوے تو مکہ مقدسہ کے پستی کیطرف پشتہ کدا کی جانب جو دروازہ شبیکہ پر واقع ہے داخل ہو بلکہ اکثر حجاج بالفعل مکہ معظمہ مین اسیطرفسی داخل ہوتے ہین ۔
٩ جب شہر مکہ معظمہ پر نظر پڑے تو یہہ دعا پڑہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّي بِهَا قَرَارًا وَّارْزُقْنِي فِيْهَا حَلَالًا ترجمہ ای اللہ دے مجکو اسمین قرار اور روزی دے مجکو اسمین حلال ۔
١٠ جب مقام مدعی پر پہونچی تب ٹہری اور جو چاہے دعا مانگی مگر یہہ دعا بہتر ہے رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اے اللہ دے مجکو دنیا مین نیکی اور آخرت مین نیکی اور بچا ہمکو عذاب دوزخ سے اے اللہ مین مانگتا ہون تجھسے بہتر مانگا ہوا نبی تیری کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہین اور پناہ مانگتا ہون ساتھہ تیرے اوس برائی سے جس سے پناہ مانگی ہے نبی تیری نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہین مدعی یعنی دعا مانگنے کے جگہہ اور وہ ایک زمین بلند ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اوسکو بلند کیا تھا دہانسے ساڑھے نوسو برس تک کعبہ کی چہت نظر آتی رہے اور پھر بسبب تعمیر ہونے مکانات بلند کے با مین مقام مدعی و بیت اللہ کے نظر آنا چہت کا موقوف ہو گیا لیکن دعا مانگنا اس جگہہ اب بھی مستحب ہے۔

فوائد مدعی

۱۱ پھر لبیک کہتا ہوا اور دعا پڑہتا ہوا اگر ممکن ہو سیدہا مسجد الحرام مین جاوے والا اسباب اپنا محفوظ جگہ یا کسیکی پاس رکہکر بدون کپڑہ بدلنے اور مکان کرایہ لینے اور کہانے اور پینے کے مسجد الحرام کیطرف چلے۔ مطوف جو بیرون شہر مقرر کیا جاتا ہے اسموقع مین اوسکے دو نتیجہ نیک پیدا ہوتی ہین۔ ایک تو یہہ کر وہ اپنی مکانمین اسباب رکہہ لیتا ہے اور مسجد الحرام کے واپسی کے وقت کہانا تیار رکہتا ہے۔ دوسری ارکان عمرہ وغیرہ امور ضروری جو مسافر کو پہونچتی ہے معابدات خاص اہتمام اوسکا مشکل ہوتا ہے اوسکے معرفت بسہولت ادا ہوتے ہین۔

طریق ادای عمرہ ۱ داخل ہووے مسجد الحرام مین باب السلام سے بکمال عجز و نیاز۔

طریق ادای عمرہ

۲ داہنا پاؤن پہلے بڑہاوے۔

۳ لبیک کہکر یہہ پڑہے بِسْمِ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ

علیٰ رسولِ اللّٰہِ۔ اَللّٰھُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِیْ فِیْھَا۔ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ فِیْ مَقَامِیْ ھٰذَا اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاَنْ تَرْحَمَنِیْ وَتُقِیْلَ عَثْرَتِیْ وَتَغْفِرَ ذُنُوْبِیْ وَتَضَعَ عَنِّیْ وِزْرِیْ ترجمہ ساتہہ نام اللہ کی داخل ہوتا ہوں مین اور سب تعریف خدا کو ہی اور درود اوپر رسول اللہ کے ای خدا کہولدی میرے لئی دروازہ رحمت اپنی کے اور داخل کر مجکو اونمین ای اللہ مانگتا ہون مین تجہسی بیچ اسجگہ اپنی کے رحمت بہیجنی تیرے کو اوپر سردار اپنی کے کہ نام اونکا محمد ہی کہ بندی تیری ہین اور رسول تیری اور رحم تیری کو اپنی اوپر اور معاف کرنے لغزشون اپنے کو اور دور کرنے گناہ اپنے کو۔

۴ جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو ہاتہہ اوٹہا کر کہے اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ۔

۵ پہر جو چاہے دعا مانگ کر مونہہ پر ہاتہہ پہیرے یہ وقت قبولیت دعا کا ہی

۶ پہر یہ دعا پڑہتا ہوا حجر اسود کی طرف روانہ ہووی۔ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَیْكَ یَرْجِعُ السَّلَامُ حَیِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ۔ اَللّٰھُمَّ زِدْ بَیْتَكَ ھٰذَا تَعْظِیْمًا وَّتَشْرِیْفًا وَّمَھَابَةً وَّزِدْ مَنْ تَعْظِیْمِهٖ وَتَشْرِیْفِهٖ مِنْ حَجِّهٖ وَعُمْرَةٍ تَعْظِیْمًا وَّتَشْرِیْفًا وَّمَھَابَةً ترجمہ ای اللہ تو سلامت ہی اور تجہوسے ہی سلامتی اور تیری طرف پہرتی ہے سلامتی زندہ

زندہ رکھہ اے رب ہمارے ساتھہ سلامتی کے اور داخل کر ہمکو سلامتی کے
گھر میں بڑے برکت والا ہے تو اے رب ہمارے اور برتر ہے تو اے بزرگی
اور اکرام والے اے اللہ زائد کر اس گھر اپنے کی تعظیم اور بزرگی اور
ہیبت اور زائد کر تعظیم اور بزرگی اوسکی حج و عمرہ سے بڑی تعظیم
اور بزرگی اور ہیبت ۔ بروایت دیگر ۔ وزد من تعظیمہ الخ کی جگہہ یہہ عبارت
وَزِدْ مِنْ شَرَفِهٖ وَعِظَمِهٖ وَكَرَمِهٖ مِمَّنْ حَجَّهٗ اَوِ اعْتَمَرَهٗ
تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا ترجمہ اور زائد کر اوس شخص کو
سے تعظیم اور بزرگی اور تکریم کے اوسکے حج کرنے والے یا عمرہ لانیوالوں
میں سے بزرگی و تکریم و تعظیم نیکی [illegible] ۔

ف پھر اپنا کندہا اپنا مقابل بائین گوشہ حجر اسود کی رکھی اور تمام بدن
اپنا بائین طرف [illegible] کرنیت طواف کی کرے اور کہی اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ
طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ
مِنِّيْ ترجمہ اے اللہ چاہتا ہون میں طواف گھر حرمت والے تیرے کا سات
پھیرے ساتھہ پس آسان کر اوسکو میرے لئے اور قبول کر اسکو مجھہ سے ۔

ف پھر سامنے حجر اسود کے اگر کانون تک ہاتہہ اوٹھا کر [illegible] پڑھے
بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
ترجمہ ساتھہ نام اللہ کے اور اللہ بڑا ہے اور واسطے اللہ کے ہے حمد
اور درود اوپر رسول اللہ کے ہے ۔

1 [illegible] اگر [illegible] ممکن ہو تو دونو ہاتہہ حجر اسود پر رکھکر بیچ مین [illegible]
بوسہ دے اسکو استلام کہتے ہین اور مستحب ہے تین بار [illegible]

اور پیشانی کا رکہنا اور چومنا ۔

۱۰ پہلے اور پیچہے بوسہ دینی حجر اسود کی اس دعا کو پڑہے ۔ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا
بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ
ترجمہ ای اللہ ایمان لاکے ساتھہ تیری اور سچ جاننے سے تیرے کتاب کو
اور پورا کرنے سے تیرے عہد کو اور تابعداری کرنے سے تیری نبی کے سنت
کو چومتا ہوں مین اس حجر اسود کو ۔

۱۱ اگر بسبب ازدحام حجاج کی بوسہ دینا حجر اسود کو ممکن نہو تو ہاتہہ
اوسپر لگا کر چومی اگر یہہ بھی نہو سکے تو لاٹہی وغیرہ چہوا کر چومی اگر
یہہ بہی نہو سکے تو دونو ہاتہہ اوسکے طرف اوٹہا کر یہہ پڑہے اور یہہ سمجہے
کہ گویا ان دونوں ہاتہو نسے مینی حجر اسود کو چہوا ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلٰى نَبِيِّهِ الْمُصْطَفٰى
ترجمہ ای اللہ بڑا ہے نہین ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ اور شکر اللہ
کو ہے اور درود اوپر نبی برگزیدہ اوسکے کے ۔

۱۲ چادر کے دامن کو داہنے بغل کے نیچی سے نکالکر بائین کندہی پر
ڈالکر جو اسکو اضطباع کہتی ہین ۔ اور دونون کندہونکو ہلاتے
ہوئی اکڑتے اتراتی چہوٹے چہوٹے قدم رکہتی ہوئے جلد جلد چلتے
ہوئی جیسے پہلوان ونگلیین اور سپاہی معرکہ مین کرتے ہین اور اسکو
رمل کہتی ہین ۔ داہنے طرف کو چلے ۔ اگر بسبب کثرت مطوفین کے رمل
نہو سکے تو ٹہر جائی جب لوگ کم ہو جائین بجا لائے ۔

۱۳ ابتدای طواف سی لبیک کہنا موقوف کرے ۔ اور جب ملتزم

اضطباع و رمل

ملتزم کے مقابل آوے یعنی درمیان حجر اسود اور دروازہ کعبہ کے پہونچے
تو یہہ پڑہے رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً
وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَسُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ
وَاللّٰہُ اَکْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ
ترجمہ ای رب ہمارے دی ہمکو دنیا مین بہلائی اور عاقبت مین بہلائی
اور بچا ہمکو عذاب دوزخ سے اور پاکی ہے اللہ کو اور سب تعریف ہے
اللہ کو اور نہین کوئی معبود برحق مگر اللہ اور اللہ بڑا ہی اور نہین بچنا ہی
گناہ سے اور قوت عبادت پر مگر ساتہہ اللہ برتر بزرگ کے۔
۱۴ جب دروازہ بیت اللہ کی مقابل آئی یہہ کہے اَللّٰھُمَّ ھٰذَا الْبَیْتُ
بَیْتُکَ وَھٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُکَ وَھٰذَا الْاَمْنُ اَمْنُکَ وَ
ھٰذَا الْمَقَامُ مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ۔ اَللّٰھُمَّ قَنِّعْنِیْ
بِمَا رَزَقْتَنِیْ وَبَارِکْ لِیْ فِیْہِ وَاخْلُفْ عَلٰی کُلِّ غَائِبَۃٍ
بِخَیْرٍ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ
وَلَہُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ترجمہ ای اللہ
یہہ کعبہ گہر تیرا ہے اور یہہ حرم حرمت والا تیرا ہے اور یہہ بچاؤ بچاؤ تیرا ہی اور
یہہ مقام جگہ پناہ مانگنی کے ساتہہ تیرے دوزخ سے۔ ای اللہ قناعت
دی مجکو ساتہہ اوس روزی کے جو تونے مجکو دی ہے اور برکت دے
مجکو اوسمین اور خلیفہ ہو تو اوپر ہر چیز کے جو پیچہے رہے ہوئی کے مجہسی ساتہہ
خیر کے نہین کوئی لائق پوجنی کے ہی مگر اللہ اکیلا نہین کوئی ساجہی
اوسکا اوسیکو ہی پادشاہی ہے اوسیکو ہی سب تعریف اور وہ ہر چیز

پر قدرت رکھتا ہے - بالفعل بعضی مطوف بعد امنک کے یون پڑہتے ہین وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَهٰذَا الْمَقَامُ مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ بِاللّٰهِ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا مِنَ النَّارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ —

۱۵ جب رکن عراقی کے نزدیک آوی تو یہہ پڑہے - اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِی الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ترجمہ ای اللہ مین پناہ مانگتا ہون ساتھہ تیرے شک اور شرک اور نفاق اور عداوت اور بدخلقی اور بری بازگشت سے بیچ اہل و مال و فرزندکی -

۱۶ جب میزاب کے مقابل پہونچی یہہ دعا پڑہے - اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِیَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِیْ بِكَاْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا اَظْمَاُ بَعْدَهَا ترجمہ ای اللہ سایہ مین رکھہ مجکو نیچی عرش اپنی کے جس روز نہین سایہ ہے مگر سایہ تیرا اور نہین باقی رہے مگر ذات تیرے اور پلا مجکو ساتھہ پیالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا شربت کہ پیاسا ہون مین بعد اسکے

۱۷ جب شامی رکن کے پاس پہونچی یہہ کہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ يَا عَالِمَ مَا فِی الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِیْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ترجمہ ای اللہ کر تو اسکو حج مقبول

مقبول اور کوشش مشکور کی گئی اور گناہ بخشی گئے اور تجارت فایدی والے
ای زبردست ای بخشنے والے ای رب گناہ بخش اور رحم اور درگذر کر اون سے
جسکو تو جانتا ہی تحقیق تو زبردست بڑا کریم ہے ای جاننے والی سینون کے
باتون کی نکال ہمکو اندھیرون سی نور کیطرف —

۱۸ جب رکن یمانی پر پہونچی استلام کرے اور ترک بھی جایز ہے یا دونون
ہاتہہ خواہ ایک ہاتہہ سے مس کرے اگر ہجوم ہو نہ کرے — اسکا بدلہ
اشارہ وغیرہ سے بھی نہین ہے —

۱۹ جب درمیان رکن یمانی اور حجر اسود کے پہونچی یہہ پڑہے
رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ترجمہ ای رب ہمارے دے ہمکو دنیا مین نیکی اور
آخرت مین نیکی اور بچا ہمکو عذاب دوزخ سے —

۲۰ پہر حجر اسود کے پاس آکر بطور سابق استلام کرے اور یہہ دعا پڑہے
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِرَحْمَتِكَ وَاَعُوْذُ بِرَبِّ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ
وَالْفَقْرِ وَضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ — ترجمہ ای اللہ
بخش مجکو ساتہہ رحمت اپنی کے اور پناہ مانگتا ہون مین ساتہہ رب اس
پتہر کے قرض سی اور محتاجی اور تنگی سینہ اور عذاب قبر سے —

۲۱ یہہ ایک پہیرا ہوا اسیطرح سات پہیرا کرے — ان ساتون
پہیرون کو طواف کہتی ہین اسمین حطیم کو بہی شامل کرلے — تین
پہیر اول مین رمل مسنون ہے باقی مین نہین — ہر پہیر مین حجر اسود کا
استلام کرنا چاہیئے — اگر اول آخر مین استلام کرے تب بھی جایز ہے

۲۲ پہر مقام ابراہیم کے طرف یہہ آیت پڑہتا ہوا چلے وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ترجمہ پکڑو پاس مقام ابراہیم کے نماز کی جگہ۔

۲۳ پہر وہان دو رکعت نماز پڑہے پہلی رکعت مین قلیا دوسرے مین قل ہو اللہ یہہ دو رکعتین مذہب حنفی مین واجب ہین۔

۲۴ بعد نماز کے یہہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی پڑہے اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَاَعْطِنِيْ سُؤْلِيْ وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرِضًى بِمَا قَسَمْتَ لِيْ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ترجمہ ای اللہ تحقیق تو جانتا ہی چہپا اور ظاہر میرا پس قبول کر عذر میرا اور تو جانتا ہے حاجت میری پس دے مجکو جو مانگتا ہون اور تو جانتا ہی جو میرے جی مین ہے پس بخش میری گناہ ای اللہ مین مانگتا ہون تجہسے ایمان جو لگا رہے میری دلکو اور یقین سچا یہانتک کے جانون مین کہ نہین پہونچیگی مجکو کوئی چیز مگر جو لکہہ رکہی ہے تونے میرے لئی اور مانگتا ہون رضامندی ساتہہ اوس چیز کے جو میری قسمت مین رکہی ہے تونے ای سب سے زاید رحم کرنیوالی۔

۲۵ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مذکورۃ الصدر مانگے تو خداوند تبارک تعالی نی وحی بہیجی کہ قبول کی مینی دعا تیرے اور بخشدی گناہ تیری اور دور کئی رنج وغم تیری اور ایسا ہی کرونگا اوسکے ساتہہ جو تیری اولاد سے بعد تیرے یہہ دعا مانگے اور نکالونگا اوسکے محتاجی کو آنکہون کی راہ

راہ سے اور بہتر کرونگا اوسکی تجارت کو جمیع تجارت سی اور راہگی اوسکے باہر
دنیا اور پہر اوسکو مکروہ جانیگا اور پہر اوسکو بہتر دی سکیگا۔

۲۶ پہر ملتزم پر سینہ اور پیٹ اور دا ہنا رخسارہ لگا کر دونوں ہاتھ سر سے
اوپر سیدہی دیوار پر پہیلا کر یہہ دعا پڑہے اَللّٰھُمَّ یَا وَاجِدُ یَا مَاجِدُ
لَا تُزِعْ مِنِّیْ نِعْمَۃً اَنْعَمْتَھَا عَلَیَّ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ وَقَفْتُ عَلٰی
بَابِكَ الْعَالِیْ وَالْتَزَمْتُ بِاَعْتَابِكَ وَاَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰی
عَذَابَكَ۔ اَللّٰھُمَّ حَرِّمْ شَعْرِیْ وَجَسَدِیْ عَلَی النَّارِ۔
اَللّٰھُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْھِیْ عَنْ سُجُوْدِ غَیْرِكَ فَصُنْ وَجْھِیْ عَنْ
مَسْاَلَۃِ غَیْرِكَ۔ اَللّٰھُمَّ یَا رَبَّ الْبَیْتِ الْعَتِیْقِ اَعْتِقْ
رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّھَاتِنَا وَاَصْحَابِنَا وَاَحْبَابِنَا
مِنَ النَّارِ یَا كَرِیْمُ یَا غَفَّارُ یَا عَزِیْزُ یَا جَبَّارُ تَقَبَّلْ مِنَّا
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ اَللّٰھُمَّ رَبَّ الْبَیْتِ الْعَتِیْقِ قِنِیْ مِنَ النَّارِ وَ
اَعِذْنِیْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَاَقْنِعْنِیْ بِمَا رَزَقْتَنِیْ وَبَارِكْ
لِیْ فِیْمَا اٰتَیْتَنِیْ وَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ الْھَاشِمِیِّ۔ اَللّٰھُمَّ
اغْفِرْ ذُنُوْبِیْ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اِنَّكَ غَفُوْرٌ
رَحِیْمٌ ترجمہ ای اللہ ای پانے والی ای بزرگ نہ چہین مجہسے وہ
نعمت جو تو نی مجکو دی ہے آی اللہ مین کہڑا ہون تیرے دروازہ بلند پر
اور چمٹا ہون تیری چوکہٹون پر اور امید رکہتا ہون تیری رحمت کو اور
ڈرتا ہون تیرے عذاب سی آی اللہ حرام کر میرے بال و بدن کو

دوزخ ہر ایک اللہ جیسا بچایا ہے تونے موہنہ میرے کو سجدہ غیر اپنی کے سے پس بچا منہہ میرے کو سوال کرنے غیر کے سے ای اللہ ای رب گہر قدیم کے آزاد کر گردنین ہماری اور گردنین باپ دادون ہماری کے اور ماؤن ہماری کی اور دوستون ہماری کے دوزخ سے ای کریم ای بخشنے والی ای زبردست ای جبار قبول کر ہمسی تو سننے والا جاننے والا ہے اور توفیق توبہ کی دے ہمکو توبہ توفیق دینی والا توبہ کا ہے رحم کرنے والا ای اللہ ای رب گہر قدیم کے بچا مجکو دوزخ سی اور بچا مجکو ہر برائی سے اور قناعت دے مجکو ساتھہ اوس چیز کے جو دی تونے مجکو اور برکت دی مجکو اوس چیز مین جو تونی مجکو دی اور درود بہیج اوپر نبی ہاشمی کے ای اللہ بخش گناہ میرے نہین کوئی گناہ بخشتا ہی مگر تو تحقیق تو بخشنی والا رحم کرنیوالا ہے ۔

بالفعل اکثر مطوفین باب کے سامنی اور ملتزم پر چمٹنی کے وقت یہہ دعا پڑہتی ہین اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ بِبَابِكَ اَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰی عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا دَیَّانُ یَا بُرْهَانُ یَا سُلْطَانُ یَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْعَطَاءِ وَالْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۔

مسئلہ پہر کوئی زمزم پر جاکر قبلہ رخ کھڑا ہو کر تین بار دم لیکر خوب جہک کر پانی پیوی ۔ آپ ڈول نکال سکے تو نہایت بہتر ہے باقیماندہ پانی

پانی اپنی اوپر ڈالے اور ہر دم لینی کے وقت کعبہ کو دیکھے اور ہر بار یہ پڑہے
بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ترجمہ پانی پیا
ساتھہ نام اللہ کی اور شکر خدا کو ہے اور درود اوپر رسول اللہ کی -

۲۸ پچھلے دم لینے کے وقت یہہ دعا پڑہے اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ
ترجمہ اے اللہ مین چاہتا ہون تجہسی علم فایدے دینے والا اور روزی وسعت سی اور کام نیک اور اچھا ہونا ہر بیماری سے -

۲۹ پہر حجر اسود کا استلام کرے -

۳۰ باب صفا سی صفا کیطرف جسکو باب بنی مخزوم بہی کہتی ہین نکلے

۳۱ جب مسجد سی باہر چلے بانوان قدم پہلے اوٹھاوی اور پہلے پہونچنی سے پڑہے اَبْدَاُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ بِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ترجمہ شروع کرتا ہون مین ساتھہ اوس چیز کے کہ شروع کیا ہے ساتھہ اوسکے اللہ نے ساتھہ نام اللہ روزی دینی والے بخشنی والی کے تحقیق صفا اور مروہ نشان ہین اللہ کی پس جو حج کرے اس گہر کا یا عمرہ لاوے پس نہین گناہ اوسپر کہ طواف کرے اون دونون کا اور جو شوق سے کچھہ نیکی کرے پس تحقیق اللہ قدردان جاننے والا ہے -

۳۲ صفا پر چڑہکر خانہ کعبہ او باب الصفا کی راہ سے کہ سامنی پڑتا ہے دیکھی اور اوسکے طرف منہہ لیے ہوئے ہاتہہ کہ ... ہون تکملہ اوٹھاوی اسطرح

ہتھیلیاں آسمان کے طرف ہوں اور یہہ دعا پڑھے اللّٰہُ اَکْبَرُ اللّٰہُ
اَکْبَرُ اللّٰہُ اَکْبَرُ وَ لِلّٰہِ الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی مَا ھَدٰنَا اَلْحَمْدُ
لِلّٰہِ عَلٰی مَا اَوْلَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مَا اَلْھَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھَدٰنَا وَ
مَا کُنَّا لِنَھْتَدِیَ لَوْلَا اَنْ ھَدٰنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ
لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَھُوَ
حَیٌّ لَّا یَمُوْتُ بِیَدِہِ الْخَیْرُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ وَصَدَقَ وَعْدَہٗ وَنَصَرَ عَبْدَہٗ
وَاَعَزَّ جُنْدَہٗ وَھَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ
لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِیَّاہُ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنَ وَلَوْ کَرِہَ الْکٰفِرُوْنَ
اَللّٰھُمَّ اِنَّکَ قُلْتَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ
وَاِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ وَاِنِّیْ اَسْاَلُکَ کَمَا ھَدَیْتَنِیْ لِلْاِسْلَامِ
اَنْ لَا تَنْزِعَہٗ مِنِّیْ حَتّٰی تَوَفَّانِیْ وَاَنَا مُسْلِمٌ سُبْحَانَ اللّٰہِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی
سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَاَتْبَاعِہٖ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ
اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَشَائِخِیْ وَلِلْمُسْلِمِیْنَ
اَجْمَعِیْنَ وَالسَّلَامُ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
ترجمہ اللہ بزرگ ہی اللہ بزرگ ہے اللہ بزرگ ہے شکر اللہ کو ہی سب
تعریف اللہ کو ہے اوپر راہ بتانی کے ہمکو شکر اللہ کو ہی اوپر نعمت دینی کی ہمکو
شکر اللہ کو ہی اوپر فیض پہونچانیکی ہمکو شکر اللہ کو جسنی ہمکو راہ بتائی

بتائی اور نہ تہی ہم راہ پانے والے اگر وہ ہمکو راہ نہ بتاتا نہین ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ اکیلا ہے وہ نہین کوئی ساجہی اوسکا اوسیکو ہی پادشاہت اوسیکو ہی شکر زندہ کرتا ہی اور مار ڈالتا ہے اور وہ زندہ ہی نہین مرنیوالا اوسکے ہاتہہ مین ہے خیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے نہین کوئی معبود برحق مگر اللہ اکیلا اور سچا ہی وعدہ اوسکا اور مدد کی اپنی بندی کے اور غالب کیا اپنی لشکر کو اور شکست دی گروہونکو اکیلی نہین کوئی معبود برحق مگر اللہ اکیلا اور نہین پوجتی ہین ہم مگر اوسکو نرالا کرتے اوسکے لئے دین اگرچہ برا مانین کافر لوگ ای اللہ تحقیق تو نے کہا ہے اور تیرا قول سچا ہی دعا مانگو مجہسی قبول کرونگا اور بیشک تو وعدہ کے خلاف نہین کرتا اور تحقیق مانگتا ہون تجہسے جیسے راہ دکہائی ہے تو نے مجہکو اسلام کی نہ نکال لے اوسکو مجہسی یہانتک کہ پورا کرے تو زندگی میرے اوس حالمین کہ مین مسلمان ہون پاک ہے اللہ اور شکر ہے اللہ کو اور نہین کوئی معبود برحق مگر اللہ اور اللہ بڑا ہی اور نہین قوت عبادت پر مگر ساتہہ مدد اللہ برتر بزرگ کے اے اللہ درود بہیج اور سلام اوپر سردار ہمارے کی جو محمد ہین اور اونکی آل اور یارون اور تابعدارون پر قیامت تک ای اللہ بخش مجہکو اور میرے ماں باپ کو اور میرے اوستادون کو اور سب مسلمانونکو اور سلام ہے اوپر پیغمبرون کے اور شکر ہے اللہ پروردگار عالم کو۔

۳۳ بہت دیر تک وہان ٹہر کر یاد الٰہی اور دعا کرتا رہے ۔ یہہ مقام قبولیت دعا کا ہے ۔

۳۴ پہر اوتر کر مروہ کے طرف دعا مانگتا ہوا خدای جل وعلا کو یاد

کرتا ہوا آرام تمام چلی ۔

۳۵ جب پہونچی مینار سبز تک جو بائین طرف دیوار مسجد الحرام مین نصب ہے دوڑے دوسرے مینار تک کہ مقابل ہے خانہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اور یہہ دعا پڑہے رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَمْ نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَاهْدِنِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْیًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ یَا مُجِیْبَ الدَّعَوَاتِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ترجمہ اے رب میری بخش گناہ میرے اور رحم کر اور درگذر کر اوس سے جسکو تو جانتا ہی تحقیق تو جانتا ہی جو ہم نہین جانتی تحقیق تو زبردست بہت کرم والا ہے اور دکھا مجکو وہ راہ جو سیدہی ہی اے اللہ کر اوسکو حج مقبول اور سعی شکر کی گئی اور گناہ بخشا گیا اے اللہ بخش مجکو اور میری ماباپ کو اور مسلمان مردون اور عورتونکو اور ماننی والی مرد اور ماننے والی عورتونکو اے قبول کرنیوالی دعاؤن کے اے رب دے ہمکو دنیا مین بہلائی اور عاقبت مین بہلائی اور بچا ہمکو عذاب دوزخ سے ۔

۳۶ پہر بعد مینار دوم کے حسب عادت خود آہستہ آہستہ چلی ۔

۳۷ جب مروہ پر پہونچی جو کچہہ صفا پر کیا تہا بجا لاوے مگر بالفعل اس جگہہ سے کعبہ پاک نظر نہین آتا اسلئے قبلہ رخ ہونے پر اکتفا کرتے ہین ۔ یہہ ایک گشت ہوا ۔

۳۸ پھر صفا کے طرف اوسے جس طرح کیا تھا۔ یہہ دوسرا گشت ہوا۔

۳۹ اسیطرح سات بار پھرے جو شروع صفا سے اور ختم مروہ پر ہو۔

۴۰ ہر بار دونون میلا رکے درمیان دوڑے۔ یہہ دوڑنا گھوڑے کے دوڑنے سے کم اور رمل سے زیادہ ہو۔

۴۱ حنفی اسمین اضطباع نہین کرتے اور شافعی کرتے ہین۔

۴۲ اگر قارن نہو رو بقبلہ ہو کر اپنی داہنے جانب سے سر منڈائی یا سر کی بال کترائے چوتھائی یا اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے تمام سر تک مگر منڈانا بہتر ہی۔ ناخن و موچھین کتراوی بغل کے بال دور کرے۔ عورت بقدر یک انگشت سر کے بالون سے کتراوے۔

۴۳ بالون کو عورت بھی اور مرد بھی دفن کردے کیلئے کہ دونون کے واسطے ایک ہی حکم ہے۔

۴۴ بالون کے دور کرنیکے وقت خواہ مرد ہو خواہ عورت یہہ دعا پڑھے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا وَ اَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ قَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَاجْعَلْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَامْحُ عَنِّىْ بِهَا سَيِّئَةً وَارْفَعْ لِىْ دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ نَفْسِىْ وَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اٰمِيْن ترجمہ شکر خدا کو ہے راہ بتانے پر ہماری اور نعمت دینے اور ادا کرنے عبادت پر ہمری اے اللہ یہہ ہے چوٹیا میری تیرے ہاتھہ مین پس ٹھہرا میرے لیے ہر بال کے لیے نور دن قیامت کے اور دور کر مجھسے بدلہ ہر بال کے

ایک گناہ اور بلند کر میرے لئے ایک درجہ جنت عالیہ میں اے اللہ برکت دے مجکو دل مین اور قبول کر مجھسے اے اللہ بخش مجکو اور سر منڈا نیوالون کو اے بڑے بخشش والے قبول کر۔

۴۵ مسجد الحرام مین دو رکعت سامنے حجر اسود کے ادا کرے اور احرام اوتارے عمرہ تمام ہوا۔ ایسا ہی متمتع کو کرنا چاہیئے لیکن اگر وہ چاہے یا اوسکے ساتھہ قربانی ہو تو وہ احرام باندھے رہے۔ یا جب وقت حج کا آوے تو دوسرا احرام حج کا باندہے۔ قارن حج تک ایک ہی احرام باندہے رہے۔

کیفیت حجر اسود و مقام ابراھیم یہہ دونون بہشتی پتھر ہین۔ بائین گوشہ بیت اللہ مین حجر اسود طاق نقرئے مین باہر کیطرف نصب ہے۔ دروازہ بیت اللہ کے محاذی مین مقام ابراہیم ہے اور وہ ایک سنگ کلان ہے جو اوسمین نشان قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور ایک قبہ اوسپر بنا ہوا ہے۔ حال دونونکا یہہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بخوف طوفان کوہ ابو قبیس پر پوشیدہ کردی تھی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنانے لگے تو حسب نشاندہی حضرت جبرئیل علیہ السلام کے انکو جبل ابو قبیس سے نکال لائے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے بوسہ دینے کے وقت فرمایا مین جانتا ہون تو پتھر ہے نہ ضرر کرتا ہے نہ نفع دیتا ہے اور اگر نہ دیکھتا مین پیغمبر خدا علیہ التحیۃ والثنا کو بوسہ دیتے تجکو تو مین بوسہ نہ دیتا کہتے ہین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے نفع و ضرر پہنچتا ہے کہا کیونکر جواب دیا کہ حقتعالے نے کاغذ عہد ذریت آدم کا اسکے موہنہ مین امانت رکھا ہے اسنے کہا مین گواہی دونگا جو پورا کریگا

کیفیت حجر اسود و مقام ابراہیم

کرے گا اس عہد کو گواہی اسکے بہی نفع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
پناہ مانگتا ہون مین اپنی زندگی سے اوس قوم مین جسمین تو نہووی ابو الحسن
مخفی نرہی کہ جس نفع کے نفی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی وہ اور
ہی اور جس نفع کا اثبات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہی اوس سے
اور مراد ہے مگر ارشاد ہر دو صاحبان موصوفین رضی اللہ عنہما کا برادر خود
ٹھیک اور درست ہی حجر اسود کو حجاج طواف مین بوسہ دیتی ہین اسکا
ذکر صدر مین بالتشریح تحریر ہو چکا مقام ابراہیم کے قبہ کے اندر اکثر زیارت
کرتے ہین اور نشان قدم موصوف مین آب زمزم پر کرکے تبرکًا پیتے
ہین اور گھرون کو لیجاتے ہین اور بیمارونکو ذریعہ صحت جانکر پلاتے
ہین بلا شک یہہ پانی متبرک ازالہ مرض ظاہری و باطنی کے لئی بے نظیر
دوا ہے اس زیارت کو داخلی مقام ابراہیم کہتی ہین خاص داخلی
مین فی نفر دو روپیہ یا ایک پاؤ اہل کلید حجاج سے لیتی ہین کیفیت
حطیم یہ ایک احاطہ ہے کعبہ کے شام کیجانب نصف دائرہ کے شکل پر کہ
اوسکی گرد بقدر سینہ آدم کے بلند دیوار سنگ مرمر کی کھچی ہوئی ہے اور
احاطہ کے دونون طرف راستہ ہے میزاب رحمت بھی حطیم کیطرف
ہی ... یہہ ... وہین جگہ کعبہ کی ہے وجہ تسمیہ حطیم
قریش نے جب کعبہ بنایا اور مال حلال اتنی جلد کی داخل کرنیکو کافی نہوا تو اوسکو
باہر رکھا گیا اسی لئے اسکو حطیم کہتی ہین یعنی ٹوٹی ہوئی — اور حجرہ بھی
اسکا نام ہے ... معنی مستثنیٰ ہین یہہ جگہہ ہی منع کی گئی ہی داخل
... میزاب رحمت میزاب بالکسر و یای معروف و زای

حطیم

معجمہ یا بای موحدہ ـ یہہ لفظ عام ہے بمعنی پنالہ کے جو کوٹھی کا پانی ادسمین سے خارج ہو ـ اور میزاب رحمت خاص پنالہ بیت اللہ کو کہتی ہین جو وہ گہر اشرف ترین مقامات ہے ـ

کیفیت صفا و مروہ و وجہ التسمیہ ہر دو ـ یہہ دو پہاڑیان ہین مکہ معظمہ مین ـ صفامین زینہ بنا ہواہی جو اوسپر چڑہکر حجاج پڑہتے ہین اور آخر صفامین ایک محراب ہے ـ یہی حال صورت مروہ کا ہے ـ وجہ التسمیہ دو طرحپر ہے **اولا** کہتی ہین صفاپر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام بیٹہی تہے اور مروہ پر امراہ یعنی حضرت حوا علیہا السلام بیٹہین تہین اسلئی اسکا نام صفا مروہ ہے **ثانیا** مشہور ہے کہ صفا و مروہ نام تہے مرد و عورت کے جن سے کعبہ مین بدکاری ہوئی تھی وہ دونو مسخ ہو کر پتہر بن گئی اور عبرت کی لئی اونکوان دونو پہاڑیون پر رکہدیا تہا رفتہ رفتہ ان دونو پہاڑیونکا بہی وہی نام زبان زد ہو گیا ـ

تتمہ حال راقم چونکہ بندہ نے احرام قران کا باندہا تہا اسلئی بعد ادای عمرہ سر نہین منڈایا اور احرام نہین کہولا ـ اور مکان رضوان بصراوی مطوف پر واپس آکر کہانا کہایا اور یہہ کہانا مطوف مذکور کیطرف سی تہا کس لیئے کہ وہان کے مطوفین کا یہی دستور ہے لیکن اہل وسعت قیمت اوسکی کر دیتی ہین اور مطوف حتی المقدور نہین لیتی ـ بیشک اگر مطوف کہانا تیار نرکہین تو حجاج کو نہایت تکلیف ہو کس واسطے کہ صبح سے تا دوپہر بدقت ارکان عمرہ ادا ہوتی ہین اوسوقت اگر کہانا تیار کرائی تو شام کو نصیب ہو مگر اسقسم کے آسایش اوس حالت مین ہوتے ہی جو مطو

مطوف ایک ہی مقرر کیا جاوے **پھراٹھی** مکہ معظمہ مین نہایت عمدہ
ہوتی ہین اور ملک ہند مین ویسی نہین ہوتی باشندگان مکہ مطہرہ اکثر
بطور ناشتا پھراٹھی دہی وبورہ کے ساتھہ کہاتے ہین اسلیئے صبح کی نو
بجے تک بازار مین فروخت ہوتے ہین اور پھر نہین ملتی - غرض کہ بعد
انفراغ طعام مطوف مذکور سے بابت تقرر کرایہ مکان کہا گیا اوسنے کہا کہ
کرایہ نہین لیتا اسکو اپنا سمجھو بوقت روانگی وطن جو دوگے لونگا ہر چند
اوسکو اسباب مین باصرار کہا لیکن وہی جواب پایا ناچار اوسکی گفتگو دبی طمع
سمجھکر خاموشی اختیار کی اور بعد خواب چاشت کے محمد پنجابی نے رضوان
مذکور کا یہہ پیام پہونچایا کہ بیس ریال تا ایام حج جو صرف دس روز ہوتی ہین
بابت کرایہ مکان مانگتا ہے اور بالاخانہ اپنی تعلق رکھیگا - چونکہ یہہ پیام جو خلاف
کلام سابقہ کے تہا نہایت ناگوار طبع ہوا اور نیز حیثیت مکانسی کرایہ زیادہ
دیکہا اور بسبب بیتعلقی بالاخانہ کے جو وہان موجب تکلیف ہے بمعرفت محمد
پنجابی کے مکان مملوکہ شاہ نواز زرگر کہ جسمین ایک دالان مع کوٹھری وصحن
وسطح بالائی مسقف و پاخانہ و باورچیخانہ تہا اور زیر جبل سید عمر رضی اللہ عنہ
بیچ ہی محلہ مین ہے آٹھہ ریال کو اس شرط پر کرایہ لیا کہ بعد آنے مدینہ منورہ کے
بیس روز وہ مکان ہمارے قبضہ مین رہے پس شام کو مکان شاہنواز مین
بندہ فروکش ہوا - بتاریخ ششم ماہ مذکور حج **طواف القدوم** بطور طواف
عمرہ وسعی صفا مروہ بدستور مذکورہ ادا کیا - بتاریخ ہفتم بندہ مقیم مکہ معظمہ تہا
اور بعد نماز ظہر خطبہ سنا جو امام اوسمین منبر مسجد الحرام پر چڑہکر مناسک حج بیان
کرتا ہے اسدن اعلان تقرر یوم حج ہوتا ہے - بتاریخ ہشتم قریب گیارہ بجے

دن سے بسواری شتران بعد دینی کرایہ نے شغدف تین ریال اور فی شتری
دو نیم ریال روانہ منی ہوا اور ایک خیمہ بہی دو ریال کرایہ دیکر ہمراہ لیا اور قریب
مسجد خیف واقع منی کے فروکش ہوا بوقت شام زیارت غار مرسلات سے بندہ
مشرف ہوا اور بعد نماز عشا کی منی سے روانہ ہوکر قریب ایک بجی رات کے
وارد عرفات ہوا۔ اگرچہ مسجد خیف مین حکم ہے کہ ظہر سے فجر تک پانچ نمازین ادا
کرے اور اندہیری وقت مین نماز صبح کے پڑہکر جب آفتاب طلوع ہو تب مسجد
خیف کے پہاڑ کے راہ سے روانہ عرفات ہو لیکن نفے زمانہ حال بسبب ازدحام
کثیر حجاج جو صبح کے چلنے مین تکلیف ہوتی ہے اور راہ نہین ملتا اسواسطے
مطوفین اپنی ہمراہی حاجیونکو رات ہی کو روانہ کرتے ہین بلا انتظار صبح
اور بباعث تاریکی شب کے جبل رحمت نظر نہین آتا اور حد عرفات کی جو سلطان
روم خلد اللہ ملکہ نے مینار نصب کرکے مقرر کی ہے اوس سے حجاج معلوم کرکے
دعا و استغفار وغیرہ مین مشغول ہوتے ہین۔ بتاریخ نہم بندہ نے بعد
نصب کرانے خیمہ اور رکہنی اسباب کے عرفات مین آب نہر سے جو بطور کنوئین
کے محاذی مسجد النمرہ کے جسکو مسجد ابراہیم بہی کہتی ہین تعمیر ہے اور ڈول
سے پانی نکالا جاتا ہے غسل کیا اور مسجد موصوف مین خطبہ سنکر پیچہے
امام کے نماز ظہر و عصر ایک اذان و تکبیر کے ساتھہ ظہر کے وقت ادا کے
کثرت خلائق سے خطبہ کی آواز بہی سنائی نہین دیتی صرف قرائن سے
معلوم ہو جاتا ہے۔ پہر بندہ اپنی فرودگاہ پر آکر ہمراہی مطوف زیارت
آنحضرتی مقام جبل عرفات اور زیارت جگہ درخت بیری اور زیارت مقام
ابراہیم علیہ السلام واقع بالای جبل عرفات سے مشرف ہوا اور جبل

جبل عرفات کے زینہ پر ٹھہر کر خطبہ سنا۔ بعد غروب آفتاب کی عرفات سے روانہ ہوکر مزدلفہ مین ٹھہرا نماز مغرب وعشا کی اپنی مطوف کی پیچھی جمع کرکے ادا کی اور بقدر نخود و باقلا کے کنکریان قریب باٹھ سنگ کے مزدلفہ سے چنی اور رات بھر رہکر نماز صبح پڑہکر بتاریخ دہم روز جمعہ قریب نو بجی دن کے وارد منی ہوا اور قریب گیارہ بجی دن کے ہمراہی مطوف شیطان کے سات کنکریان مارکر اپنی مکان فرودگاہ پر آیا اور وہانسی ہمراہی مطوف کی ... ہوکر بیرون شہر سے بکری (قیمت مین پندرہ قرش سے نہایت بیس قرش تک) اور دنبہ ومدہ ریال سے دو ریال تک خرید کر ذبح کنندہ کو فی جانور ایک ... اجرت دیکر مسلخ مین قربانی کرے اور احرام کھولا۔ بتاریخ یازدہم خطبہ سنا جو مسجد خیف مین بعد نماز ظہر کے امام پڑہتا ہے اور باقیاندہ احکام ... کرتاہی۔ جمرۃ الاولی پر پہر جمرۃ الوسطی پر پہر جمرۃ العقبہ پر ... سات سات کنکریان مارین۔ بتاریخ دوازدہم بعد نماز ظہر کے ... کنکریان مارکر روانہ ہوکر محصب مین ٹھہر کر مکہ معظمہ مین پہونچا۔ طواف الزیارت سی مشرف ہوا۔

کیفیت و وجہ تسمیہ منی ۔ منی۔ ایک شہر دو تین کوس کے فاصلہ پر مکہ معظمہ سے جانب مشرق کے ہی وہان مکانات اور دکانین بہت عمدہ بنی ہوئی ہین موسم حج مین وہان بازار آراستہ ہوتا ہے۔ منی کے معنی لغت مین اندازہ کرنیکے ہین اسجگہ بہی قربانی کرنا اندازہ کیا جاتا ہے اسلئی اسکا نام منی ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے اس مقام مین جدا ہونے لگے تو کہا تمن یعنی آرزو کر

حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اتمنی الجنۃ یعنی آرزو کرتا ہون مین جنت کی اسلیئی منی نام رکہا گیا کہ امنیت حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی آرزو وہان واقع ہوئی تھی —

کیفیت مسجد خیف و وجہ تسمیہ آن - یہہ مسجد منی مین ہے اور یہہ جگہ ایسی متبرک ہے کہ جسمین ستر پیغمبر علیہم السلام نے نماز پڑہی اور اوسمین مدفون ہوئی اور اونکی مدفن پر ایک قبہ بہی پختہ بنا ہوا ہی - خیف کہتی ہین کنارہ کو اور یہہ مسجد بہی منی کے کنارہ مین یا منی کے پہاڑ کے کنارہ مین ہی اسلیئی اسکو خیف کہتی ہین —

کیفیت و وجہ تسمیہ جبل عرفات - یہہ پہاڑ ہے اسکی نیچے میدان وسیع ہی جو حجاج اوسمین فروکش ہوتے ہین - وجہ تسمیہ اسکے تین ہین اولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوسمین معرفت اسبات کی حاصل ہوئے کہ خواب خدا کیطرف سی ہے اسواسطے اسکو عرفات کہتی ہین ثانیا اسجگہ یا جبرائیل علیہ السلام نے معرفت مناسک حج اونکو تعلیم فرمائی تھے ثالثا یا حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو آپسمین اسجگہ معرفت حاصل ہوئی تھی

کیفیت جبل رحمت - اوپر جبل عرفات کے ایک جگہ ہے جو متصل اوسکے بڑی بڑے پتہر سیاہ ہین جو اوپر آنحضرت علیہ السلام بیٹھی تھے اسکو جبل رحمت کہتی ہین —

کیفیت و وجہ تسمیہ مسجد النمرہ یہہ مسجد عرفات مین ہی اسکو مسجد ابراہیم بہی کہتی ہین قبلہ رو اسمین ایک طرف مکان مسقف ہے اور وسط مین مسجد کے ایک مکان ہے اور اوسمین دو دہانہ نہر بطور چاہ بنی ہوئی ہین

کیفیت و وجہ تسمیہ مسجد خیف

کیفیت و وجہ تسمیہ جبل عرفات

کیفیت جبل رحمت

کیفیت و وجہ تسمیہ مسجد النمرہ

ہین وہ سبیلین سلطان روم کے جانب سے بنی تہی اونمین سے پانی پلاتے ہین
باقی وسیع احاطہ ہے - مسجد النمرہ مشہور ہے نمرہ بھی ایک نام مقام یا پہاڑ کا ہے
جسپر میل حد حرم کی بنی ہوئی ہین -

کیفیت آخری حد عرفات - عرفات کی میدان کے حدود پر مینار
سلطان روم نے تعمیر کرائی ہین تاکہ بسہولت حجاج عرفات سے واقفیت
حاصل کرین مینار جو خاص جبل عرفات پر ہے اوسکو آخری حد کہتے ہین -

کیفیت درخت بیری سبز کے - سابق مین ایک بیری کا درخت عرفات
مین تہا اب بدو لوگ اوسکو کاٹ کر لیگئے لیکن مطوفین اوسکی جگہ سے
حاجیون کو آگاہ کرتے ہین تاکہ حجاج وہان دعا مانگین کس لیے کہ نیچے درخت مذکور
کے بوقت زوال دعا قبول ہوتی ہے گو اب درخت نہین مگر تاہم وہ جگہ متبرک ہے

کیفیت مسجد ابراہیم و خطبہ امام - یہہ مسجد سوائے مسجد النمرہ کے
نیچے اوپر جبل عرفات کی واقع ہے - بلاسقف بطور احاطہ کے بنا
ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسمین خطبہ پڑہا ہے - بروز وقوف
عرفات کے یعنی نوین کے شام کو امام صاحب پادشاہی پر سوار مع افواج سلطانی
بڑی دہوم دہام سے اوس مسجد مین تشریف لاتی ہین اور خطبہ پڑہتے ہین
جس وقت وہ زبان مبارک سے لبیک فرماتے ہین اونکی ہمراہی حجاج
کے سنانی کے بہت آواز سے پکارتے ہین اور کپڑا ہلاتے ہین تاکہ اوسکو دیکہکر
خلایق لبیک کہنے مین مشغول ہو - اس وقت عجیب کیفیت اور قدرت
الہی نمایان ہوتی ہے طرح طرح کے لوگ دیکہنے مین آتے ہین ہر ملکی و
رسمی کا معاملہ پر رو ہی پکار رہا ہے -

کیفیت آخری حد عرفات

کیفیت درخت بیری

کیفیت مسجد ابراہیم و خطبہ

کیفیت و وجہ تسمیہ مزدلفہ - مزدلفہ بضم میم و فتح دال مہملہ و لام مفتوح و فا - ایک جگہ ہے تین کوس عرفات سے جانب مکہ معظمہ کے اور یہان نہر بھی جاری ہے - ازدلاف بمعنی قریب ہونا - اس جگہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہا السلام سے قریب ہوئی اسلئے اسکو مزدلفہ کہتے ہین -

کیفیت و وجہ تسمیہ وادی محسر - یہہ جگہ مزدلفہ مین ہے اسکا پانسو پینتالیس گز کا بعد ہے - جب جناب رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مزدلفہ مین قبول ہوئی تو شیطان نے اس جگہ اپنی سر پر خاک ڈالی اس واسطے اسکو وادی محسر کہتے ہین یعنی حسرت مین ڈالنے والی شیطان کو - اسکا ذکر صدر مین بھی آگی آئیگا -

کیفیت مسلخ - یہہ منی کے کنارہ پر ایک جگہ ہی کہ سوا اوس جگہ کے اور کہین قربانی ہونے نہین پاتی وہان بڑی بڑی خندقین بحکم سلطان روم خلد اللہ ملکہ بنی ہوئی ہین جب جانور ذبح ہوا اوسیوقت خندقین ڈالتی ہین اور بوقت بہرجانیکے مٹی ڈالتی ہین تاکہ عفونت موجب امراض و بائیہ کے نہو -

کیفیت جمرۃ الاولی - یہہ ایک مینار ہے مسجد خیف کے پاس جو اوسپر کنکریان شیطان کے مارتے ہین -

کیفیت جمرۃ الوسطی - یہہ جگہ منی مین نالہ کے نشیب مین ہی اسپر بھی کنکریان مارتے ہین -

کیفیت جمرۃ العقبہ - یہہ جگہ بھی نشیب نالہ مین شیطان کے کنکریان مارنے کے لیے ہی -

کیفیت و وجہ تسمیہ مزدلفہ
وادی محسر
مسلخ
جمرۃ الاولی
جمرۃ الوسطی

کیفیت نفر اول - و نفر ثانی - اگر بارہوین تاریخ کو بعد ظہر کے کنکریان مارکر روانہ مکہ معظمہ کے ہو تو اوسکو نفر اول کہتے ہین - اگر تیرہوین تاریخ کو ایسا کرین تو نفر ثانی کہتے ہین - یہہ نفر اول سے بہتر ہے -

کیفیت وجہ تسمیہ محصب نام ہے ایک گہاٹیکا درمیان مکہ معظمہ اور منی کے اور وہان کنکریان بکثرت ہین اور حصبا، کنکریون کو کہتے ہین پر محصب اوس جگہ کو کہتے ہین جہان کنکریان ہون -

طریق ادای حج بطور قاعدہ کلیہ - اگر افاقی اکیلا حج کیا چاہے تو احرام مثل عمرہ کے باندھی - اگر عرفات کو بضرورت سیدہا جاوے اوسپر طواف القدوم جو مثل تحیۃ المسجد کی مسنون ہے ساقط ہوا اگر بلا ضرورت سیدہا عرفات کو جانا موجب گناہ ہے کسلیے کہ اسصورت مین بہت سنتین جاتے رہتی ہین - اگر سیدہا عرفات نجاوے تو مکہ معظمہ مین طواف القدوم اوا کری جیسے عمرہ مین ذکر ہوا - اگر اس طواف کی بعد سعی صفا و مروہ کے منظور نہو بلکہ طواف الزیارت کی جو وہ مسنون ہے تو اضطباع ورمل اس طواف مین نکری - جس طواف کے بعد سعی منظور ہو اوسمین اضطباع ورمل بہی کرے جیسی عمرہ کی طوافمین لبیک اسطواف و سعی مین کہتا رہے بخلاف عمرہ کے جو اوسمین اول طواف سے لبیک کہنا موقوف کرنا چاہیے - جو حاجی پیچہی طواف الزیارت کے سعی کرے وہ صفا مروہ مین لبیک کہنا موقوف کرے - پہر بعد طواف القدوم یا بعد طواف و سعی کے مکہ معظمہ مین اقامت کری اور احرام باندہی رہے اور جو چیزین احرام مین ممنوع ہین اونسی محترز رہے - یہی حکم ہی قارن اور متمتع کا کہ جسکے

طریق ادای حج بقاعدہ کلیہ

پاس قربانی ہو۔
۲۔ جب چاہی طواف نفلی بغیر اضطباع و رمل کے کرتا ہے۔
۳۔ حج کے مہینوں میں عمرہ ادا نکرے جو وہ مکی ہو گیا۔
۴۔ ساتوین ذی حجہ کو خطبہ سنے جو امام بعد نماز ظہر کے مسجد الحرام میں پڑھتا ہے اور اوسمین مناسک حج بیان کرتا ہے۔
۵۔ بروز ترویہ یعنی آٹھوین تاریخکو آفاقی محرم اور جو مکی غیر محرم ہو وا احرام باندھکر ہمراہ امام و دیگر حجاج کے منی کو جاوے۔
۶۔ مکی اگر طواف نفلی ادا کر کے احرام باندھے تو بہتر ہے۔ اگر بعد اس طواف کے سعی بھی منظور ہو تو طواف مین اضطباع و رمل کرے اگر بعد طواف الزیارت کے سعی منظور ہو تو اضطباع و رمل نکرے۔
۷۔ منی مین پہونچکر مسجد خیف کی پاس فروکش ہو ورنہ جہان جگہ پاوی سو اترہ کے۔ اور ظہر سے فجر تک پنج نماز وہان پڑھے اور تمام شب لبیک و دعا و استغفار پڑہتا رہے۔
۸۔ بروایت طبرانی و بیہقی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کہ سنا مینے سرورکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہین کوئی مرد و عورت کہ عرفی کے شب منی مین یہہ دعا ہزار بار پڑہے مگر جو مانگے سو پاوے سُبْحَانَ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ عَرْشُهٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ فِی الْاَرْضِ مَوْطِئُهٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ فِی الْبَحْرِ سَبِیْلُهٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ فِی النَّارِ سُلْطَانُهٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ فِی الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ فِی الْقَبْرِ قَضَاءُهٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ فِی الْهَوَآءِ رُوْحُهٗ سُبْحَانَ الَّذِیْ رَفَعَ

فضیلت شب منی

رفع السماء سبحان الذی وضع الارض لا ملجأ ولا منجا
منہ الا الیہ ترجمہ پاکی ہے اوس ذات کو جسکا عرش آسمان مین
ہے پاکی ہے اوس ذات کو جسکے زمین پاانداز ہے پاکی ہے اوس ذات کو جسکے
دریا مین راہ ہی پاکی ہے اوس ذات کو جسکی حکومت آگ پر ہے پاکی ہے اوس
ذات کو جسکی رحمت جنت مین ہے پاکی ہے اوس ذات کو جسکا قبر مین حکم
جاری ہے پاکی ہے اوس ذات کو جسکی روح پیدا کی ہوئی ہوا مین ہے پاکی ہے
اوس ذات کو جسنے آسمان بلند بنایا پاکی ہے اوس ذات کو جسنے زمین کو
بنایا نہین ہے پناہ اور نہین ہے نجات اوس سے مگر طرف اوسیکے۔

۵ نماز صبح کے غلس کے وقت یعنی اندہیرے مین پڑہکر منتظر رہے جب آفتاب
طلوع کرے مسجد خیف کی پہاڑ کے راہ سے جسکو ضب کہتی ہین عرفات
کو جاوے۔ راہ مازمین سے جو مزدلفہ و عرفات کے درمیان ہے پہری اور نکلتے
ہوئی یہہ دعا پڑہے اللھم اجعلہا خیر غدوۃ غدوتہا
قط وقربہا من رضوانک وابعدہا من سخطک
اللھم الیک غدوت وایاک رجوت وعلیک
اعتمدت ووجہک اردت فاجعلنی ممن تباہی بہ الیوم
من ہو خیر منی وافضل ترجمہ ای اللہ کر اسکو بہتر صبحو نسے
جو مجہکو ہوی ہین اور قریب تر رضامندی اپنی سے اور دور تر غضب اپنے
سے ای اللہ تیری طرف صبح کی مینی اور تیری سے آرزو کی مینے اور تجہی پر اعتماد
کیا مینی اور تیری ہے ذات کو چاہا مینے پس کر مجہکو اون مین سے کہ افتخار کیا
ہی ساتہہ اونکی اسدن اوس شخص نے کہ وہ بہتر اور افضل ہے مجہسے —

۱۰ جب نگاہ جبل رحمت پر پڑے دعا مانگے اور تسبیح و تہلیل و تحمید و استغفار و تکبیر پڑہے - پہر عرفات مین مسجد النمرہ کے پاس جسکو مسجد ابراہیم بہی کہتے ہین قیام کرے -

۱۱ پہلے زوال کے کہانے و پینے سے فارغ ہوکر غسل کرے واسطے وقوف عرفات کے جو سنت موکدہ ہے -

۱۲ وقت زوال یا پہلے زوال کے مسجد النمرہ مین جا بیٹھے - اور بعد زوال کے خطبہ سنکر پیچہے امام کے نماز ظہر و عصر کے ایک اذان و دو تکبیر کے ساتہہ ظہر کے وقت ادا کرے - درمیان دونو نمازون کی نوافل و سنتین نہ پڑہے اور کہانا نہ کہاوے اور پانی نہ پیوے - جمع کرنا نماز ظہر و عصر کا اسدن منحصر ہے اوپر جماعت کے جو ساتہہ امام اکبر کے ادا کرے اور اکیلا یا چہوٹی جماعت کے ساتہہ نماز ظہر و عصر جمع نکرے -

۱۳ جب نماز سے فارغ ہو فوراً عرفات پر سوای وادی عرنہ کی جہان جاہئے اور جگہہ پانی اونٹ پر سوار ہوکر روبقبلہ پیچہے امام کے ورنہ داہنے بائین پہر نزد جبل الرحمت کے پاس بڑی بڑی سیاہ پتہرون کے فرش پر بہتر ہے کہ وہ موقف جناب سرور کائنات علیہ التحیۃ والثنا کا ہے اور وہان اب احاطہ بطور مسجد کے بنا ہوا ہے - پہاڑ پر چڑہکر وقوف کرنیکو سب مواقف سے بہتر جاننا جی اصل ہے - پیادہ کہڑا رہنا بیٹہنا لیٹنا بہی جائز ہے -

۱۴ اس حالت مین مسکین محتاج کیطرح ہاتہہ پہیلا دعا مانگے - اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ بکمال عجز شام تک پڑہتا رہے اور درمیان مین بعد ہر ہر ساعت کے لبیک پکارتا رہے - اور اپنی گناہونکو یاد کرکے پہوٹ پہوٹ

بہوت روتا رہے - اور توبہ و استغفار دل و زبان سے کبھی - رونا نائے تو بصورت رونے تک اپنی سنگدلی پر روئے - اپنی والدین و استادون و ناشنوائیون و دوستون و تمام مسلمانون کے واسطے مغفرت چاہیئے - قصور و گناہ سے اسدن بہت پرہیز کرے بلکہ مباح سے بہی محترز ہو - محض عبادت و استغفار و توبہ و تسبیح و تلاوت وغیرہ مین مشغول رہے کہ ایسا دن پہر کہان نصیب ہوگا

۱۵ طبرانی و بیہقی و ابن ابی شیبہ حضرت علی و ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہین کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات مین یہ دعا پڑہتے تہے اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَاشَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ - اَللّٰھُمَّ اھْدِنِیْ بِالْھُدٰی وَنَقِّنِیْ وَاعْصِمْنِیْ بِالتَّقْوٰی وَاغْفِرْلِیْ فِی الْاٰخِرَۃِ وَالْاُوْلٰی اَللّٰھُمَّ اجْعَلْہُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا - اَللّٰھُمَّ لَکَ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ وَاِلَیْکَ مَاٰلِیْ - اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَۃِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰھُمَّ اھْدِنَا بِالْھُدٰی وَزَیِّنَّا بِالتَّقْوٰی وَاغْفِرْلَنَا فِی الْاٰخِرَۃِ وَالْاُوْلٰی - اَللّٰھُمَّ اِنِّیْٓ اَسْاَلُکَ رِزْقًا حَلَالًا طَیِّبًا مُّبَارَکًا - اَللّٰھُمَّ اِنَّکَ اَمَرْتَنِیْ بِالدُّعَآءِ وَلَکَ الْاِجَابَۃُ وَاِنَّکَ لَا تُخْلِفُ وَعْدَکَ اَللّٰھُمَّ مَآ اَحْبَبْتَ مِنْ خَیْرٍ فَحَبِّبْہُ اِلَیْنَا وَیَسِّرْہُ لَنَا وَمَا کَرِھْتَ مِنْ شَرٍّ فَکَرِّھْہُ اِلَیْنَا وَجَنِّبْنَاہُ وَلَا تَنْزِعْ مِنَّا الْاِسْلَامَ بَعْدَ اِذْ

مدینتنا لا اله الا الله وحده لا شریك له له
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
قدير۔ اللهم اجعل في صدري نورا وفي سمعي نورا
وفي بصري نورا وفي قلبي نورا۔ اللهم اشرح لي صدري
ويسر لي امري واعوذ بك من وساوس الصدر وشتات
الامر وعذاب القبر۔ اللهم اني اعوذ بك من شر
ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح
وشر بوائق الدهر۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة
حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اني اسالك من خير
ما سالك منه نبيك واعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك
صلى الله عليه وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم
الصلوة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي و
لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا
بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا
انك رءوف رحيم۔ ربنا انك انت السميع العليم وتب
علينا انك انت التواب الرحيم۔ لا حول ولا قوة الا
بالله العلي العظيم۔ اللهم انك تعلم وترى مكاني وتسمع
كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء

فِيْ مِنْ اَمْرِيْ وَاَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ
الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهٖ اَسْاَلُكَ مَسْاَلَةَ الْمِسْكِيْنِ
وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ
الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ وَفَاضَتْ
عَيْنَاهُ وَنَحَلَ لَكَ جَسَدُهٗ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهٗ ۔ اَللّٰهُمَّ
لَا تَجْعَلْنِيْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ لِيْ رَءُوْفًا رَحِيْمًا
يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ آمِيْنَ ترجمہ اللہ بڑا ہی اللہ بڑا
ہی اللہ بڑا ہی اور واسطے اللہ کے ہی ہے اور اللہ کو ہی تعریف اور اللہ کو
ہی تعریف نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ اکیلا نہیں کوئی ساجھی اوسکا
اوسیکو ہی باوشاہی اور اسیکو ہی سب تعریف اے اللہ دکھلا مجکو راہ اور
پاک کر مجکو اور کر مجکو مضبوط پکڑنیوالا تقوی کا اور بخش مجکو عقبی و دنیا مین
اے اللہ کر اسکو حج مقبول اور گناہ بخشے گئے اے اللہ تجکو ہی نماز میری
اور عبادت میری اور تجہی کو اختیار ہے زندگی اور موت میری کا اور تیری ہی
طرف ہے پہرنا میرا اے اللہ پناہ مانگتا ہون تیرے قبر کی مار سے اور دل کے برے
خیال سے اور پریشان امر سے اے اللہ راہ دکہلا ہمکو ساتھہ ہدایت کے
اور آراستہ کر ہمکو ساتھہ پرہیزگاری کے اور بخش ہمکو آخرت و دنیا مین
اے اللہ تحقیق مین مانگتا ہون تجہسے روزی حلال پاک برکت والے
اے اللہ تحقیق تونے حکم کیا ہے مجکو ساتھہ دعا کی اور قبول کرنا تیرا کام ہے
اور تو خلاف نہین کرتا ہے وعدہ کو اے اللہ جسکو دوست رکہتا ہے تو بہلا

سے پس محبوب کر اوسکو ہماری لئی اور ستیر کر اوسکو واسطے ہماری اور جسکو
برا جانتا ہی تو برائی سے پس مکروہ کر اوسکو ہماری لیئے اور دور رکھہ اوسکو
ہمسی اور نہ چہین ہمسے اسلام بعد ایمان دینی کے نہین ہے کوئی معبود برحق مگر
اللہ اکیلا نہین کوئی ساجہی اوسکا اوسیکو ہے بادشاہی اور اوسیکو ہے
سب تعریف جلاتا ہی اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آی اللہ
ڈال بیچ سینہ میری کے نور اور بیچ کان میرے کے نور اور بیچ آنکھہ میری کے
نور اور بیچ دل میرے کی نور ای اللہ کھولدے میرا سینہ اور آسان کر میرا کام
اور پناہ مانگتا ہون ساتھہ تیری وسوسون سینہ سے اور پریشانی کام سے
اور عذاب قبر سی آی اللہ پناہ مانگتا ہون مین ساتھہ تیری برائی اوس
چیز سی جو داخل ہوتی ہے رات مین اور برائی اوس چیز سے جو داخل ہوتی
دنمین اور برائی چلنی ہواون کے سے اور برائی حوادث زمانہ سے آی اللہ دے
ہمکو دنیا مین بہلائی اور آخرت مین بہلائی اور بچا عذاب دوزخ سے آی اللہ
مانگتا ہون تجہسی وہ بہلائی جو مانگی ہے تجہسی تیری نبی م نے اور پناہ مانگتا ہون
ساتھہ تیری اوس برائی سے کہ پناہ مانگی ہے اوسسے نبی تیری نے درود
ہو جیو اوسپر اور سلام اللہ کا آی اللہ ظلم کیا ہے ہمنے اپنی نفسون پر اور اگر تو
نہ بخشے اور رحم نہ کرے ہم پر تو ہونگے ہم ٹوٹے مین آی رب کر مجکو ٹہیک ٹہیک پڑہنے
والا نماز کا اور میرے اولاد کو آی رب ہماری قبول کر دعا ہمارے آی رب
ہماری بخش مجکو اور ماباپ میرے کو اور سب مسلمانون کو جس دن قایم ہو
حساب آی رب رحم کر اون دونون پر جیسا پالا اون دونون نے مجکو
لڑکا آی رب ہماری بخش ہمکو اور بہائیون ہمارے کو جو ہمسی پہلی گذری

گذرے ساتھہ ایمان کے اور نہ ٹہرا ولون ہمارے مین کینہ اون لوگونکی کہ ایمان
لائے ای رب ہمارے بی شک تو مہربان رحم کرنے والا ہی ای رب ہمارے
تو سننے والا جاننے والا ہے اور توفیق توبہ کی دے ہمکو بیشک تو توفیق دینے
والا توبہ کا مہربان ہے اور بچا گناہ سے اور قوت عبادت پر مگر ساتھہ اللہ برتر
بزرگ کے ای اللہ تو جانتا ہی اور دیکھتا ہے مکان میرا اور سنتا ہی کلام میرا اور
جانتا ہی تو پوشیدہ و ظاہر میرا اور نہیں چھپی ہے تجھپر کوئی چیز کام میرے سے
اور مین بہت محتاج فقیر فریاد کرنے والا خوف کرنے والا ڈرنے والا اقرار کرنے
والا معترف اپنی گناہ کا ہون پناہ مانگتا ہون مین تجھسی مانگنا فقیر کا سا اور
گڑگڑاتا ہون طرف تیرے جیسے گنہگار خوار اور دعا مانگتا ہون تجھسے دعا
خوف کرنے والی اندہی کے جھکی تیری لیے گردن اور آنسو بہائین دونو
انکھین اوسکی اور دبلا ہو تیری واسطہ بدن اوسکا اور خاک مین ملے تیرے
لیے ناک اوسکی ای اللہ نکیجو مجکو ساتھہ دعا اپنی کے بدبخت اور ہو تو میری لیئے
مہربان رحم کرنیوالا ای بہتر سوال کئی گیونکی ای بہتر دینی والون سے ای
بہتر رحم کرنے والون سے اور سب تعریف اللہ کو ہے پروردگار عالم کا۔

۱۶ دعای خضر علیہ السلام کو بھی وظیفہ کرے۔ وہ یہہ ہے یَا مَنْ لَا یَشْغَلُهُ
شَانٌ عَنْ شَانٍ وَلَا سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ
يَا مَنْ لَا يُغَلِّطُهُ كَثْرَةُ الْمَسَائِلِ وَالْحَاجَاتِ وَلَا يَخْتَلِفُ
عَلَيْهِ اللُّغَاتُ وَيَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ
وَلَا تَضْجُرُهُ مَسْئَلَةُ السَّائِلِينَ أَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَ
حَلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ وَلَذَّةَ مُنَاجَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ

ترجمہ اے وہ شخص کہ نہین روکتی ہے اوسکو کوئی حالت دوسرے حالت سے اور نہ مانع
ہوتا ہے اوسکو کوئی سننا دوسرے سننے سے اور اے وہ شخص کہ نہین مشتبہ ہوتے ہین
اوسپر آوازین اور اے وہ شخص کہ نہین غلطی مین ڈالتی ہین اوسکو بہت حاجتین مانگنی اور نہین
غیر معلوم رہتے ہین اوسپر زبانین اور اے وہ شخص کہ نہین تھکا دیتا ہے اصرار دعا مانگنے والونکا
اور نہین تنگ کرتا ہے اوسکو سوال کرنا سائلون کا چکھا ہمکو ٹھنڈک بخشش اپنی کے اور لذت
مناجات اپنی کے اور رحمت اپنی کے ۔

١٧ امام غزالی رہ نے جو احیاء مین یہ دعا لکھی ہے پڑھے اِلٰهِیْ مَنْ مَدَحَ اِلَیْكَ
نَفْسَهٗ فَاِنِّیْ لَائِمٌ لِنَفْسِیْ اَخْرَسَتِ الْمَعَاصِیْ لِسَانِیْ فَمَا لِیْ وَسِیْلَةٌ
مِنْ عَمَلٍ وَّلَا شَفِیْعٌ سِوَی الْاَمَلِ ترجمہ اے اللہ جسنے تعریف کی اپنے
تیرے سامنے مرد کرے مین تو ملامت کرنیوالا ہون آپکو گونگا کر دیا ہے گناہون نے
میری زبان کو پس نہین کوئی وسیلہ ہے مجھکو عمل سے اور نہ کوئی شفیع ہے سوائے امید کے ۔

١٨ عرفات سے بعد ڈوبنے سورج کے لبیک اور دعائین پڑھتا ہوا ہمراہ امام کے اطمینان
و وقار کے ساتھہ مزدلفہ کیطرف آوے ۔ اگر ممکن ہو تو جلدی چلے بشرطیکہ کسیکو تکلیف
نہو یہ مسنون ہے ۔ جب مزدلفہ کے پاس پہونچے اگر ہوسکے تو پیادہ ہولے اور غسل
کرے ورنہ وضو کرے ۔

19 مزدلفہ کے پہاڑ کے پاس جسکو مشعر الحرام کہتے
ہین مسجد کے قریب راہ سے داہنے طرف اوترے نہ عین راہ مین جو مکروہ ہے ۔ وہان
جگہ نہ پائے تو تمام مزدلفہ ٹھیرنیکا مقام ہے سوائے وادی محسر کے کہ وہانسے گذرتے ہوئے
بقدر پھینکنے ایک پتھر کے شتاب چلے سوار ہو تو سواری کو تیز کرے بشرطیکہ دوسرے
حجاج کو ایذا نہو اور وہانسے گذرتے ہوئے یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ
وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ ترجمہ اے اللہ نہ قتل کر ہمکو اپنے

اپنی غضب سے اور نہ ہلاک کر ہمکو اپنی عذاب سے اور عافیت دے ہمکو پہلے اس سے ۲۰ مزدلفہ مین پہلے اپنا اونٹ بٹھا دے اگر مطمئن ہو تو نماز مغرب و عشا کے ایک اذان و ایک تکبیر کے ساتھہ پیچھے امام کے عشا کے وقت ملا کر ادا کرے امام شافعی امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک دو تکبیر کے ساتھہ ادا کرے سنت مغرب و عشا کے اور وتر بعد ان دونون کے پڑہے۔ اور نماز مغرب کی مین بھی نیت ادا کی کرے۔ جماعت سنت موکدہ ہے اگر اکیلا پڑہے تو بھی اسیطرح جمع کرے۔ ۲۱ تمام شب مزدلفہ مین رہے اور مثل عرفات کے ذکر خدا و دعا و استدعای رضامندی اعدا و استغفار مین مشغول رہے جب صبح صادق ہو اندہیری مین صبح کے نماز پیچھے امام کے ورنہ اکیلے پڑہکر پہاڑ مشعر الحرام کے پاس جسکو جبل قزح بھی کہتی ہین اور اب وہان پر مکان بنا ہوا ہے جاکر قبلہ رو ہوکر لبیک و تسبیح و تہلیل و تکبیر و تحمید و درود مین مشغول ہو اور ہاتہہ پہیلا کر قریب طلوع آفتاب تک دعا مانگے۔ یہہ دعا پڑہے اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ بَلِّغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مِّنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ترجمہ ای اللہ بحق مشعر الحرام اور بحق کعبہ معظمہ کے اور بحق شہر حرام اور بحق رکن یعنی کونے حجر اسود والے کے اور بحق مقام ابراہیم کے پہونچا روح محمد کو ہمسی درود اور سلام اور داخل کر ہمکو جنت مین ای صاحب بزرگی و اکرام کے۔

۲۲ پہر اونچاس کنکریان باقلا یا چنی کے برابر مزدلفہ سے اوٹھا کر منی مین آوے۔ اگر نفر ثانی ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اکیس کنکری اور لیوے کل ستر کنکری چنے۔ سوای مزدلفہ کے اور جگہ سے کنکری لینے ...

کہ تیر کے مکروہ ہے - نالی کے نشیب مین پانچ گز یا اس سے کچھہ زیادہ فرق ہے
جمرۃ العقبہ کے سامنے منی کو داہنی جانب کعبہ کو بائین طرف چھوڑکر سوار سے
ہو یا پیادہ کھڑا ہو کر داہنی ہاتھہ کے انگوٹھی اور انگلی شہادت سے سات کنکریان
متفرق خوب تاک کر جمرۃ العقبہ پر مارے اور ہر کنکری مارنیمین یہ دعا پڑہے -
بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهٖ وَرِضًى
لِلرَّحْمٰنِ وَلُطْفِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا
وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا ترجمہ کنکری مارتا ہون مین ساتھہ نام اللہ کے
اللہ سب سے بڑا ہے واسطے خاک آلودہ کرنے ناک شیطان کے اور اوسکے ساتھہ
والون کے اور واسطے راضی ہونی اللہ اور مہربانی اوسکے کی ای اللہ کر اسکو
حج مقبول اور دوڑ دہوپ قدر کی گئی اور گناہ بخشے گئے -

۲۳ کنکریان پھینکنے کے وقت ہاتھہ اسقدر بلند ہو کہ بغل نظر آنی لگی - اور
پھینکنے کا طریق یہہ ہے کہ کنکرے انگوٹھی کے ناخن پر رکھکر انگشت شہادت
سے پھینکے - یا انگشت شہادت کے اوپر کے جوڑ پر اندر کے جانب رکھکر انگوٹھی
کے ناخن سے پھینکے - یا ان دونون کے پورین پکڑکر پھینک دی یہ سب سے
آسان ہے - اگر جمرۃ العقبہ پر لگی یا اوسکے آس پاس تین گز تک پڑے تو بہتر ورنہ
اوسکے بدلے اور پھینکے - پہلی کنکری پھینکتی ہوی لبیک کہنا موقوف کرے
خواہ یہہ شخص مفرد ہو یا قارن یا متمتع - اور کنکریون کو جمرا کے پتھر سے اوٹھاکر
نہ مارے اسلیئے کہ رمی مقبول کے کنکریان فرشتے لیجاتی ہین جو باقی رہے نامقبول
ہین پس رمی کرنا کنکری نامقبول سے نہ چاہیئے لیکن بکراہت جائز ہے البتہ اگر
ہاتھہ سے کنکری گر پڑی ہو اوسیکو اوٹھاکر ماری اسمین قباحت نہین - جب

جب پہینکنے سے فراغت پاوے دعا مانگتا ہوا اپنی مقام پر آوے کہ وہان
ٹہرنے مین دیگر حجاج کو تکلیف ہوتی ہے - پہر آتی ہے قربانی کرے قربانی
مفرد پر مستحب ہے اور قارن و متمتع پر واجب ان دونون کو اگر مقدور نہو تو
تین روزہ دسوین تاریخ سے پہلی اور سات بعد ایام تشریق کے رکھی -

۲۴ قربانی کے ذبح کرنیسی پہلے یا پیچہی یہہ دعا پڑہے اِنِّي وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا
اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ هٰذَا النُّسُكَ
وَاجْعَلْهَا قُرْبَانًا لِوَجْهِكَ وَعَظِّمْ اَجْرِيْ عَلَيْهَا ترجمہ
تحقیق مینے موںہہ اپنا کیا ہے طرف پیدا کرنیوالی کے آسمانون اور زمین کو
سیدہا ہوکر اور نہین ہون مین شرک کرنے والونسے تحقیق نماز و عبادت اور
زندگی اور موت میری خدا کی لیئے ہی جو پروردگار عالمون کا ہی نہین ہے
کوئی اوسکا ساجہی اور اسیکی ساتہہ مجکو حکم ہے اور مین پہلے فرمان بردار ونسے
ہون ای اللہ قبول کر مجہسی یہ عبادت اور کر اسکو خدا واسطے ذات اپنی کے
اور بڑا دی اجر مجکو اسپر -

۲۵ قربانی کے دنبی اور بکرے کی سر اور پانوکا سیاہ ہونا اور باقی بدنکا
سفید ہونا بہتر ہے - اور مستحب ہے کہ قربانی کے دو ہاتہہ ایک پاؤن باندہکر
اوسکا موںہہ بائین ہاتہہ سے پکڑ کر داہنے ہاتہہ سے روبقبلہ ہوکر ذبح کرے -

۲۶ بعد قربانی کے سر منڈائی یا بال کترائے جسطرح عمرہ مین گذرا - منڈائی

وقت یا بعد اسکے تکبیر بہی کہی اور دعا مانگے جیسے عمرہ مین مذکور ہوا۔ اس وقت
مین اوسکو سب چیزین جو احرام باندہنے کے بعد منع تہین حلال ہوگئین مگر عورت
سے بات چیت برغبت کرنا یا جماع کرنا جایز نہین البتہ بعد طواف الزیارت کے
جایز ہوگا۔ پہر اوسیدن مکہ مطہرہ مین اگر طواف الزیارت ادا کرے بغیر اضطباع
و رمل کے اگر پہلی رمل و سعی کر چکا ہو۔ اگر پہلے سعی نہ کی ہو تو اس طواف مین
رمل کرے نہ اضطباع۔ پہر صفا و مروہ مین سعی کرے اور طواف گیارہوین
بارہوین تاریخ بہی جایز ہے۔ پس بعد طواف الزیارت کی یا بعد طواف و
سعی کے منی مین جا کر شب باش ہو۔ گیارہوین کو امام مسجد خیف مین بعد ظہر کے
خطبہ پڑہتا ہی اور باقی احکام بیان کرتا ہے پس بعد سننے خطبہ کے جمرۃ الاولے
پر جو متصل مسجد خیف کے ہی بدستور سابق سات کنکریان ماری پہر تہوڑا سا
بڑہکر قبلہ رو ہوکر حمد خدا و تسبیح و تہلیل بجالائی اور درود پڑہی اور ہاتہہ اوٹہاکر
دعا مانگی جسقدر عرصہ مین سورۂ بقر یا تین پاو سپارہ یا تیس آیتین پڑہ سکے۔
پہر جمرۃ الوسطی پر آکر یہی عمل یا ہی کرے مگر باین طرف نالی کے اوترائی اور
نشیب مین ٹہرے۔ پہر جمرۃ العقبہ پر کنکریان مار کر بلا توقف دعا مانگتا ہوا
اپنی فرودگاہ پر آئی اور شبکو وہین رہے جو مسنون ہے۔ اور امام شافعی رح
کے نزدیک واجب ہے۔ پہر بارہوین تاریخ بہی بعد ظہر کے مثل گیارہوین کنکریان
مارے۔ اگر اوسی روز چلا آوی تب بہی مضایقہ نہین۔ حقتعالی فرماتا ہے
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ ترجمہ پس جو شخص شتابی کری
دو دون مین پس نہین گناہ اوسپر۔ اسیواسطی بہت لوگ اسیدن چلے آتے
ہین اسکا نام نفر اول ہے۔ بہتر یہہ ہے کہ تیرہوین کو بہی بعد ظہر کے کنکریان مارکر

مار کر بکمال عاجزی و تواضع کے روانہ ہوا اکثر پرہیزگار بلند ہمت ایسا ہی کرتے
ہین اسکو نفر ثانی کہتے ہین اور محصب مین آکر ٹھہرے اور دعا مانگی کہ آنحضرتؐ
نے وہان قیام فرمایا ہے —

۲۷ پہر آفاقی حاجی کو خواہ مفرد ہو خواہ قارن یا متمتع طواف وداع یعنے
طواف رخصت واجب ہے مگر عمرہ لانیوالی اور حیض والے اور زچہ عورت اور غیر
آفاقی پر واجب نہین اس طواف کو بغیر اضطباع و رمل کے جیسا مذکور ہوا
گہر جانے کیوقت بجالائے اور آب زمزم کا پینے کے بعد تبرکاً اپنی سر اور منہ دہو اور
باقی بدن پر ڈالی — پہر ملتزم پر آکر چمٹی — اور اپنی سینہ اور داہنی گال کو دیوار
کعبہ معظمہ پر رکھی اور داہنے ہاتہ کو دروازہ کے چوکہٹ کیطرف بڑہاوے
اور پردہ کعبہ کو جیسا غلام اپنی مولی کا دامن پکڑکر تقصیر بخشواتا ہی ہاتہ مین پکڑکر
روتا ہوا گناہ بخشوائی — اور استغفار و دعا و کلمہ توحید و درود پڑہے پہر دروازہ
کے چوکہٹ کو بوسہ دی اور جو چاہے دعا مانگے — اور استلام حجر اسود کا کرے — اور
کعبہ پاک کو حسرت سے دیکہتا ہوا اپنی جدائی پر روتا ہوا اولٹی پاؤن پہرے
اور باب الوداع سے باہر آئی مگر عورت حیض والی اور زچہ دروازہ پر سے رخصت
ہو طواف وداع اوس سے ساقط ہی — رخصت ہونیکے وقت کچہہ مساکین
پر خیرات کرے —

تتمہ حال راقم بتاریخ چہاردہم ماہ مذکور روز سہ شنبہ بوقت آٹھ بجے صبح کے
زیارت دار خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا سے بندہ مشرف ہوا — بعد ازان زیارت
مولد حضرت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام — بعد ازان دار ابی بکر رضی اللہ
عنہ — بعد ازان زیارت حجر متکلم حجر مسکا — بعد ازان زیارت مولد حضرت علیؓ

بعد ازان وار ارقم سے مشرف ہوا۔ کرنا ان زیارتون کا مستحب ہے۔
بتاریخ پانزدہم روز چہارشنبہ بعد سات بجے صبح کے زیارت مسجد غنم۔ وزیارت
چلہ خانہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ۔ اور زیارت مسجد الرایہ۔ اور
زیارت مزار سید رفاعی رح۔ اور ابو البرکات نسفی مصنف کنز رحمہم اللہ۔ اور
زیارت مزار ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جنت المعلی مین بہت سے قبور مطہر کے
زیارت خصوصًا زیارت مزار حضرت عبد الرحمن بن امیر المؤمنین سیدنا ابا بکر صدیق
رضی اللہ عنہم اور مزار حضرت خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا اور مزار جناب آمنہ والدہ
رسول کریم علیہم السلام اور زیارت مسجد الجن سے شرف اندوز ہوا۔ بتاریخ ہفتدہم
روز جمعہ داخلی بیت اللہ سے بطریق مقرر مشرف ہوا۔ یہہ داخلی مستحب ہے
واضح ہو کہ داخلی عام مین جو بحکم سلطان روم خلد اللہ ملکہ ہوتی ہے کچھہ صرف
نہین ہوتا اور بسبب ازدحام حجاج کے بڑی دقت و کوفت سے نصیب ہوتے
ہین۔ اور داخلی خاص کا یہہ حال ہے کہ جب دو تین سو حاجی جمع ہو کر صاحب کلید
بیت اللہ سے درخواست داخلی کرتے ہین تو وہ بیت اللہ کو کھولکر فی نفر دو مجیدی
لیکر داخلی کراتے ہین اور زیارت کلید بیت اللہ کی بھی کچھہ لیکر کراتے ہین البتہ
اسکی تعداد کچھہ مقرر نہین ہے۔ سبحان اللہ ایسی نعمت بے بہا جو بعد تحمل ہزارہا
صدمات سفر کے نصیب ہوتی ہے ایسی قلیل ترصرف مین حاصل ہو اگر کوئی
کوتہ اندیش اسکو ناگوار سمجھے تو کمال حماقت ہے یہہ نہین نصیب جو اسی حیلہ سے
خاص بیت ربی مین کچھہ نذر دیا جاوے۔

طریق مقررہ داخلی کا یہہ ہے۔

۱ خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت کو داخلی کہتے ہین۔ اور یہہ مستحب ہے

٢۔ برہنہ پا سر جھکائے ہوئے بکمال عجز و نیاز اپنی افعال و اعمال بد سے پشیمان و شرمسار زبان پر توبہ و استغفار بیت ربی مین داخل ہو۔ بیت اللہ کے چھت کی طرف نظر نکرے جو خلاف ادب ہے۔

٣۔ سیدہا سامنے دروازہ کے چلا جاوے جب تین ہاتھ باقی رہے وہان نفل پڑہے جو وہ مصلی جناب سرور کائنات علیہ التحیۃ والصلوۃ کا ہے۔

٤۔ پہر بیدا بٹہکر اپنا رخسارہ دیوار پر رکہے اور حمد و استغفار کرے اور جو چاہے دعا مانگے۔ پہر چارون کونون مین جاکر ایسا ہی کرے اور درود پڑہے اور اپنی اور اپنی والدین کے اور جمیع مسلمانون کے لیئے جو چاہے دعا مانگے۔

٥۔ اور یہہ دعا پڑہے رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا۔
اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنِیْ جَنَّتَكَ كَمَا اَدْخَلْتَنِیْ بَیْتَكَ وَارْزُقْنِیْ رُؤْیَتَكَ اَللّٰهُمَّ یَا رَبَّ الْبَیْتِ الْعَتِیْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ یَا عَزِیْزُ یَا غَفَّارُ۔ اَللّٰهُمَّ یَا خَفِیَّ الْاَلْطَافِ اٰمِنَّا مِمَّا نَخَافُ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ترجمہ اے رب داخل کر مجکو سچا داخل کرنا اور نکال مجکو سچا نکالنا اور مقرر کر میری لیئے اپنی پاس سے حکومت کی مدد اے اللہ داخل کر مجکو بہشت اپنی مین جیسا داخل کیا تونے مجکو گھر اپنی مین اور نصیب کر مجکو زیارت اپنی

ای اللہ ای صاحب ہر قدیم کے ازاد کر گردنین ہماری اور گردنین باپون ہماری اور ماؤن ہماری کے دوزخ سے ای زبردست ای بخشنی والی بڑی ای اللہ ای پوشیدہ مہربانی والی نذر کر ہمکو جس سے ہم ڈرتے ہین ای اللہ مانگتا ہون مین تجھسی وہ بھلی بات جو مانگی ہے تجھسے پیغمبر تیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پناہ مانگتا ہون مین ساتھ تیری برائی اوس چیز سی کہ پناہ مانگی ہے اوس سے پیغمبر تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ای رب قبول کر ہمسی بیشک تو سننے والا جاننے والا ہی اور توفیق توبہ کی اوتار ہم پر بیشک تو بڑا توبہ قبول کرنیوالا رحم کرنیوالا ہے

بتاریخ بیست وچہارم روز جمعہ راقم الحروف زیارت مسجد جبل ابوقبیس اور مقام شق القمر سے مشرف ہوا۔ بتاریخ بیست وپنجم روز شنبہ بعد نماز عصر بسواری شتران ہمراہی قافلہ روانہ مدینہ منورہ کے ہوا۔ اور کرایہ شتران فی شقدف بیس ریال اور فی شبری اونیس ریال دیا۔ سوای کرایہ کی روٹی دونون وقت کی بھی اونٹ والی لیتی ہین۔ جس قدر اونٹ والون کو خوش رکھا جائیگا اوسیقدر ہر اذیت سے محفوظیت ہوگی۔ نصف کرایہ لوگ مکہ معظمہ مین لیتی ہین اور نصف راہ مین یا خاص مدینہ منورہ مین۔ اور ایک خیمہ مع پاخانہ بکرایہ دو ریال آمد ورفت کو لیا۔ خیمہ کے تو چندان ضرورت نہین ہوتی مگر پاخانہ بغیر نہایت دقت ہوتی ہے۔ قبل از طلوع آفتاب وارد مسمی بوادی فاطمہ کے ہوا۔ منزل ہذا مین بازار و باغات بھی ہین پانی شیرین نہر کا بلا قیمت ملتا ہے۔

منزل اول

بتاریخ بیست وششم روز یکشنبہ دو پہر دن کے روانہ ہوکر بتاریخ بیست وہفتم روز دوشنبہ بوقت طلوع آفتاب کی منزل مسمی بیر عصفان پر

منزل دوم

پیر فروکش ہوا۔ اسجگہ کوئی اور باولی ہین چہپرون کا بازار ہے۔ پانی
شیرین بلاقیمت ملتا ہے۔ ہندی زبان مین اس منزل کو چار یارون کے
کوئی کہتی ہین۔ اس جگہہ سے خوف چورون کا شروع ہوتا ہے
منزل رابغ تک لیکن ڈاکہ زنی نہین ہوتی البتہ اگر مسافر قافلہ سے علیحدہ
ہوجاوے تو اوسکو لوٹ لیتی ہین چنانچہ چند نفر حجاج ہندی قافلہ سے علیحدہ
رہ گئی تہی وہ لوٹے گئی جنہون نے مقابلہ کیا وہ بضرب پتہرون کے زخمی
ہوی۔ اوسی تاریخ بوقت چار بجی دن کے روانہ ہوکر قریب ایک بجی
رات کی وارد منزل مسمی خلیص ہوا اور تمام شب چورون کے ہاتہ سے
واویلا رہا۔ بتاریخ بیست وہشتم روز شنبہ دو بجی دن کے روانہ ہوکر وارد
منزل مسمی قدیمہ پر ہوا۔ اسجگہہ چاہی پانی شور ملتا ہے بازار نہین
صرف دو تین چہپر ہین مگر عورات جو چاہ ہای خام یعنی کہارو نسی پانی
لاتی ہین اور مٹی گر یہ چہہ خمسہ کو دیتی ہین بہ نسبت پانی چاہ پختہ کے
شوریت مین کم ہوتا ہی۔ بتاریخ بیست و نہم روز چہارشنبہ ایک بجی دن کے
روانہ ہوکر بتاریخ سی ام روز پنجشنبہ ساڑہے سات بجی صبح کے وارد منزل مسمی رابغ
ہوا۔ اسجگہہ بوقت آمد و رفت کے قافلہ کا ایک مقام بغرض رفع تکان ہوتا
ہے۔ یہان بازار و قلعہ ہے اور قلعہ پر توپین چڑہی ہوئی ہین تہوڑی سی
فوج بہی ماتحت افسر ترک کی رہتی ہے اور محاذی قلعہ کے ایک چاہ شور ہے
اوسکا پانی مفت ملتا ہے۔ پانی شیرین کا یہہ حال ہے کہ قریب اس جگہہ
کے برساتی نالہ ہے اگر اوسمین پانی ہوتا ہے تو وہ والا نالہ کے نشیب مین
گڑہا کہود کر پانی نکالکر لاتے ہین اور بنے کرایہ ایک قرش قیمت ہے

یہہ وہ جگہ ہے کہ زوار بارادہ مدینہ منورہ اگر براہ خشکی نہ آنا چاہین تو جدہ شریف
سے کشتی مین سوار ہوکر یہان اوترکر بسواری شتران مدینہ منورہ کو جاتے
ہین — اس سے آگی ڈاکہ زنی کا نہایت خوف ہے — غرہ شہر محرم الحرام ۱۲
ہجری روز جمعہ بعد نماز صبح روانہ ہوکر دو گہڑی رات گذری وارد منزل نامی
بیر بیر یلیب ہوا — بیر بیک شیخ باشندہ رابغ کا نام ہے اوسنی اس جگہ کو تعمیر
کیا ہے اسلئی یہہ منزل اوسکے نام سے مشہور ہے — بتاریخ دوم روز شنبہ
بعد نماز صبح کی روانہ ہوکر باران بجی رات کے وارد منزل مسمی بضباع
ضلع فرعی کے ہوا — فرعی ایک ضلع کا نام ہے جو عربستان مین مابین مکہ معظمہ
مدینہ منورہ کے واقع ہے یہہ راہ رابغ سے مدینہ مطہرہ کو نیا سلطان روم خلد اللہ
ملکہ نے نکالا ہے اوسمین نہر و باغات بھی ہین — یہانسی راہ فرعی شروع ہوا
بتاریخ سیوم یکشنبہ تین بجی دن کے روانہ ہوکر دو بجی رات کے وارد منزل مسمی
ریان ہوا — اس منزل کے راہ مین دو طرفہ باغ کہجور وغیرہ کے ہین پانی نہر کا
شیرین بکثرت بلاقیمت ملتا ہے اور ڈاکہ کا بڑا خوف ہے — بتاریخ چہارم روز
دوشنبہ تین بجی دن کے روانہ ہوا رات کو بسبب تقاطر باران و ہوای تند
کے راہ مین ہرج واقع ہوا اور صبح تاریخ پنجم روز سہ شنبہ ایک میدان مین سوا ے
منازل مقررہ کے اونٹون کے آرام دینی کے لئی ٹہرے اور قریب ایک بجی دن
کے روانہ ہوکر بتاریخ ششم روز چہارشنبہ وارد منزل بیر ماشی ہوی —
اس جگہ چہپرون کا بازار ہے اور چوکی سلطانی بہی یہان ہے کچہہ سپاہی بہی
رہتی ہین — اسی روز دس بجی دن کے روانہ ہوکر پہر رات گئی مشرف مدینہ
مطہرہ کے ہوا اور مخناقہ مین ٹہرا مخناقہ اوس جگہ کا نام ہے جہان مردمان قافلہ

منزل
منزل
منزل
منزل

وَمِنْبَرِیْ عَلٰی رَوْضَۃٍ مِّنْ رِیَاضِ الْجَنَّۃِ ۔ ترجمہ درمیان گھر اور منبر میرے کے باغچہ ہے باغوں جنت سے یعنی نزول رحمت کے راہ سے یا درحقیقت یہہ زمین جنت میں جائیگی یا جنت سے آئی ہے ۔ روضہ یہہ ایک جگہہ مربع ہے مسجد نبوی میں طول اسکا حجرہ شریف سے منبر تک اور عرض پشت مسجد نبوی قدیم سے ستون علی یا ستون وفود تک اور وہانسے منبر کے سیدھ تک ۔

۱۳ وہاں اگر جگہہ نہ پاوے تو روضہ میں جہاں جگہہ پاوے پڑہے پھر سجدۂ شکر ادا کرے کہ حقتعالے نے توفیق وہاں پہونچنے کی بخشی اور جو چاہے سو دعا مانگے اور استمداد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بکمال عجز و نیاز چاہیئے ۔

۱۴ پھر شباک کی پاس آنحضرت علیہ السلام کے سرہانے جا کر بکمال ادب تو جہ قبلہ کو پیٹھ کرے ہاتھ کو بائیں پر رکھکر کھڑا ہو جیسے نماز میں اور صورت منور کو حبیب المسلمین صلی اللہ علیہ السلام لحد میں آرام کرتے اور میری حاضر ہونی اور زیارت کرنے کو جانتے ہیں اور سلام و کلام سنتے ہیں ۔

۱۵ نہایت لحاظ و ادب و حضور قلب و عجز و نیاز سے یہہ کہے اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہِ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ اَشْھَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰہِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَۃَ وَاَدَّیْتَ الْاَمَانَۃَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّۃَ وَجَاھَدْتَ فِیْ اَمْرِ اللّٰہِ حَتّٰی قُبِضَ رُوْحُكَ حَمِیْدًا مَّحْمُوْدًا فَجَزَاكَ اللّٰہُ عَنْ صَغِیْرِنَا وَکَبِیْرِنَا خَیْرَ الْجَزَآءِ وَصَلّٰی عَلَیْكَ اَفْضَلَ الصَّلٰوۃِ وَاَزْکَاھَا وَاَتَمَّ التَّحِیَّۃِ وَاَنْمَاھَا اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ نَبِیَّنَا یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اَقْرَبَ النَّبِیِّیْنَ وَاسْقِنَا مِنْ کَاْسِہٖ وَارْزُقْنَا مِنْ شَفَاعَتِہٖ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَآئِہٖ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اَللّٰھُمَّ لَا تَجْعَلْ ھٰذَا اٰخِرَ الْعَھْدِ

بِقَبرِ نَبِیِّنَا وَارْزُقْنَا العَوْدَ اِلَیْهِ یَا ذَا الجَلَالِ وَالاِکْرَامِ ترجمہ
سلام ہو جیو تجہپر ای نبی اللہ کی اور رحمت اللہ کی اور برکتین اوسکی گواہی دیتا ہون مین کہ
تحقیق تم رسول اللہ کی ہو تحقیق تمنے پہونچایا پیغمبری کو اور ادا کیا امانت کو اور خیر خواہی
کی تمنی امت کے اور جہاد کیا تمنی بیچ حکم اللہ کے یہانتک کہ قبض کی لئی روح آپکی پیرا یکی
حمد کی گئی پس جزا دی تمکو اللہ چہوٹی ہماری اور بڑی ہماری سے بہتر جزا اور درود بہیجی
تجہپر اللہ بہتر درود اور پاکیزہ تر اور تمامتر تحفہ اور بڑہتا ہوا ای اللہ کر پیغمبر ہماری کو دن
قیامت کی قریب تر سب نبیونسی اور پلا ہمکو اوسکی کاسی اور نصیب کر ہمکو شفاعت
اوسکی اور بنا ہمکو اوسکی رفیقونسی دن قیامت کے ای اللہ نکر تو یہ پہلا عہد ساتھ قبر
پیغمبر ہماری کے اوپر ہو جیو سلام اور نصیب کر پہرآنا طرف اوسکی ای صاحب بزرگی اور اکرام کے۔
۱۶ جنی اسسی وصیت کی ہو اوسکا سلام پہونچاوی اور یہ کہی اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ
یَا رَسُوْلَ اللہِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ یَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلٰی رَبِّكَ فَاشْفَعْ
لَهٗ وَلِجَمِیْعِ الْمُسْلِمِیْنَ ترجمہ سلام ہو جیو تمپر ای رسول اللہ فلانی بیٹی فلانی کے
طرف سی شفیع کرتا ہے وہ تمکو طرف پروردگار تمہاری کے پس شفیع ہو تم اوسکی لیئے
اور سب مسلمانون کی واسطی۔
۱۷ پہر سرہانی سے ہٹ کر مسجد جدید عثمانی کیطرف جاکر چہرہ مبارک کے روبرو پشت بقبلہ
کہڑا ہو اور درود و سلام پڑہی جتنی بار چاہے۔
۱۸ پہر ایک ہاتہہ داہنی طرف ہٹ کر روبروی شریف حضرت سیدنا ابی بکر صدیق
رضی اللہ عنہ کی ہوکر کہی اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا خَلِیْفَةَ رَسُوْلِ اللہِ اَلسَّلَامُ
عَلَیْكَ یَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللہِ فِی الْغَارِ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَفِیْقَهٗ
فِی الْاَسْفَارِ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا اَمِیْنَهٗ فِی الْاَسْرَارِ جَزَاكَ اللہُ عَنَّا

عنا افضل ما جزی اماما عن امۃ نبیہٖ ولقد خلفتہ باصدق خلف وسلکت طریقہ ومنہاجہ خیر مسلک وقاتلت اھل الردۃ والبدع ومھدت الاسلام ووصلت الارحام ولم تزل قائما للحق ناصرا لاھلہ حتی اتاک الیقین والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللھم امتنا علی حبہ ولا تخیب سعینا فی زیارتہ برحمتک یا ارحم الراحمین ترجمہ سلام ہو تجھپر اے قائم مقام رسول اللہ کی سلام ہے اے یار رسول اللہ کی غار ثور میں سلام ہے تجھپر اے رفیق رسول اللہ کی سفروں میں سلام ہے تجھپر اے معتمد رسول اللہ کی چھپی میں جزا دے تجھکو اللہ ہمسے بہتر جزا پیشوا امت پیغمبر اپنی کے بیشک قائم مقام ہوا تو رسول اللہ کی سچا خلیفہ اور چلا تو اوسکے طریق اور راہ پر اچھا چلنا اور جہاد کیا تو نے مرتدوں وبدعتیوں اور بچھایا تو نے بچھونا اسلام کا اور صلہ رحم کیا تو نے اور ہمیشہ رہا تو واسطے حق کے مدد کرتا ہوا حق والوں کے لئے یہانتک کہ آپہونچا تجھپر وعدہ یقینی یعنی موت اور سلام ہو تجھپر اور رحمت اللہ کی اور برکتیں اسکی اے اللہ وفات دیو ہمکو محبت صدیق پر اور بیفائدہ نہ کیجیو کوشش ہماری بیچ زیارت اوسکی کے ساتھ رحمت اپنی کی اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

۱۹ پھر ایک ہاتھ اور سرککر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سامنے کھڑا ہو کر کہے السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق السلام علیک یا من کمل اللہ بہ الاربعین السلام علیک یا من استجاب اللہ فیہ دعوۃ خاتم النبیین السلام علیک یا من اظھر اللہ بہ الدین السلام علیک یا من اعز اللہ بہ الدین السلام علیک یا من

نطق بالصواب ووافق قوله محكم الكتاب السلام عليك
يا من عاش حميدا وخرج من الدنيا شهيدا جزاك الله عن
نبيه وامته خير السلام سلام الله وبركاته عليك ترجمه
سلام تجھپر ای سردار مسلمانون کے عمر فاروق سلام تجھپر ای وہ شخص کہ پورا کیا اللہ نے
ساتھہ اسلام اوسکی کے چالیس مسلمانون کو سلام تجھپر ای وہ شخص کہ قبول کی اللہ نے
اوسکے حق مین دعا خاتم النبیین کی سلام ہو جیو تجھپر ای وہ شخص کہ قوی کیا ساتھہ
اوسکی دین کو سلام ہو تجھپر ای وہ شخص کہ عزت دی اللہ نے سبب اوسکے دین کو سلام
ہی تجھپر ای وہ شخص کہ بولا حق بات اور موافق پڑی بات اوسکی ساتھہ قرآن حکیم کے
سلام ہے تجھپر ای وہ شخص کہ زندہ رہا سراہا ہوا اور گیا دنیا سے شہید ہوکر جزا دے
اللہ تجکو طرف پیغمبر اپنی اور امت اوسکے سے بہتر سلام سلام اللہ کا اور برکات اوسکی تجھپر
تک پھر بقدر نصف ہاتھہ کے اوپر سرکر دونون کے درمیان کہے السلام علیکما
يا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه
ومشيريه والمعاونين له على القيام في الدين والقائمين
بعده بمصالح المسلمين جزاكما الله احسن جزاء جئناكما نتوسل
بكما الى رسول الله ليشفع لنا ويسأل ربنا ان يتقبل سعينا
ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته ترجمه سلام
ہو تمپر ای دونو ہمخواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دونون رفیق اور دونون
وزیر اور دونون مشیر اونکی اور دونون مدد کرنے والی اوسکی راستی دین مین اور کھڑے
ہونیوالی بعد اوسکے مسلمانون کے بھلائی مین جزا دی تمکو اللہ اچھی جزا آئی ہم تمہارے
پاس وسیلہ کرنے والی تمکو طرف رسول اللہ کی تا شفاعت کرین رسول اللہ ہمارے

ہماری اور مانگی اللہ سے کہ قبول کرے وہ ڑہوب ہماری اور زندہ رکھی اوپر دین اوسکے
ہمکے اور ماری اوسکے دین پر اور اوٹہائی اوسکے لوگو میں —

۲۱ پہر چلی مشرق کیطرف اور پڑہی زیارت حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام کے جو وہ فرشتے اوس جگہ سے رسول مقبول علیہ السلام کے گہر میں داخل ہوتے تہی

۲۲ پہر آگی بڑہکر پڑہے زیارت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جو انکی گہر میں انکی قبر بتی ہوئے ہی کہتی ہیں کہ آنحضرت علیہ السلام نے بافراط محبت خود روح پاک حضرت موصوفہ کو اپنی قرب میں طلب فرمالیا ہی اور کسی اہل کشف نے یہہ ثابت کیا ہی لیکن مراصل مدفن جناب مطہرہ جنت البقیع میں ہے —

۲۳ پہر آگی بڑہکر جانب مشرق قریب باب جبرئیل کے زیارت اہل بقیع کی پڑہے —

۲۴ پہر جانب اوترکے زیارت شہدائے احد رض خصوص حضرت امیر حمزہ رض کی پڑہے —

۲۵ پہر واپس آکر روبرو چہرہ مبارک رسالت پناہ علیہ السلام کی مثل نمبر ۱۵ ادابت ہذا کی زیارت پڑہے اور اپنے اور اپنی ماں باپ کے لئی اور جسنے درخواست کی ہو دعا مانگے اور اللہ کے ثنا و صفت بیان کرے اور درود پڑہے اور اپنی اور سب کے لیے دعا مانگے اور یہ پڑہے السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خَاتِمَ النَّبِیِّیْنَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا شَفِیْعَ الْمُذْنِبِیْنَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اِمَامَ الْمُتَّقِیْنَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مِنَّةَ اللّٰہِ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا طٰہٰ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا یٰسٓ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَعَلٰی اَهْلِ بَیْتِکَ وَذُرِّیَّتِکَ الطَّیِّبِیْنَ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَعَلٰی اَزْوَاجِکَ الطَّاهِرَاتِ

امہات المؤمنین السلام علیک وعلی اصحابک
اجمعین وعلی التابعین الی یوم الدین اللھم اعطہ
نہایۃ ما ینبغی ان یسألہ السائلون وغایۃ ما ینبغی ان
یأملہ الاٰملون اللھم انک قلت وانت اصدق القائلین
ولو انھم اذ ظلموا انفسھم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر
لھم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما یا حبیب اللہ یا شفیع
اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ قد اتیناک ظالمین لانفسنا
مستغفرین من ذنوبنا فاستغفر لنا واشفع لنا الی
ربک فیجد اللہ توابا رحیما واسئلہ ان یمن علینا بسائر
مطلوباتنا ویحشرنا فی زمرۃ عبادہ الصالحین اللھم اشھدک
واشھد رسولک وابا بکر وعمر صاحبی رسولک و
اشھد الملائکۃ النازلین علی ھذہ الروضۃ الکریمۃ
العاکفین علیھا والقائمین علی ھذہ البقعۃ العظیمۃ بانی
اشھد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان
محمدا عبدک ورسولک واشھد ان ما جاء من عندک الی
رسولک من امر ونھی فھو حق لا کذب فیہ وانی مقر
لک بجنایتی ومعترف بخطیئتی ومعصیتی من الکبائر
والصغائر فاغفر لی جمیعھا ولوالدی وللمؤمنین
وامنن علی بالذی مننت بہ علی اولیائک بتوفیق
الطاعۃ فانک المنان ذو الفضل والاحسان الغفور

الغفور الرحیم باھل الایمان ربنا اٰتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاٰخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین — ترجمہ سلام ہوجیو تم پر ای خاتم النبیین سلام ہوجیو ای بخشوانیوالی گنہگارون کے سلام ہوجیو تم پر ای پیشوا پرہیزگارون کے سلام ہوجیو تم پر ای رسول رب العالمین کے سلام ہوجیو تم پر ای احسان اللہ کے اوپر مسلمانون کے سلام ہوجیو تم پر ای طاہا سلام ہوجیو تم پر ای یس سلام ہوجیو اور اوپر گھر والے تمہاری کے اور اولاد پاک تمہاری کے سلام ہوجیو تم پر اور بیبیون پاک تمہارے پر جو مائین ہین مسلمانون کے سلام ہوجیو تم پر اور یارون تمہاری پر تمام اور تابعین پر قیامت تک ای اللہ دی مجکو پر لی درجہ کے خیر جو مانگتی الون کو چاہیئی اور نہایت آرزو جو آرزو کرنیوالونکو چاہیئے ای اللہ تحقیق تونے کہا ہی اور تو سب کہی والو نسے چاہے اور اگر ظلم کرنیوالی اپنے جانونپر آوین تیری پاس پس گناہ بخشوانا چاہین اللہ سے اور گناہ بخشوائی اونکی رسول سے تو بیشک پاوینگے اللہ کو توبہ قبولکرنیوالا رحم کرنیوالا ای حبیب اللہ کی ای شفیع اللہ کے ای نبی اللہ کے ای رسول اللہ کی تحقیق ہم آئی ہین تیری پاس ظلم کرنے والے اپنی جانونپر مغفرت مانگنے والی اپنی گناہونسی پس بخشواؤ تم گناہ ہماری یا رسول اللہ اور شفاعت کرو ہماری طرف پروردگار اپنی کے پس پاوینگے تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنیوالا اور دعا مانگو تم اللہ سے کہ عنایت کرے ہمکو سب مطالب ہماری اور اوٹھائی ہمکو اپنی نیکبخت بندون کے فرقہ مین ای اللہ گواہ کرتا ہون تجکو اور گواہ کرتا ہون رسول تیرے کو اور گواہ کرتا ہون حضرت ابوبکر رض

اور عمر رضہ دونون یارون رسول ؐ تیرے کو اور گواہ کرتا ہون فرشتون اور رہنیوالون
کو اس روضہ بزرگ پر شہر نبوی الی اور قایم رہنے والی اسجگہ تیری پر ساتھہ اس بات کی
گواہی دیتا ہون کہ نہین کوئی معبود برحق مگر تو اکیلا نہین کوئی تیرا ساجھی تیرا
اور تحقیق محمد بندہ تیری اور رسول تیری ہین اور گواہی دیتا ہون مین کہ جو کچھہ تیرے
پاس سے آیا ہے تیری رسول پاس امر و نہی سے وہ حق ہے نہین جھوٹھہ ہے اسمین اور مین
اقرار کرتا ہون تیری سامنے ساتھہ گناہ کرنے اپنی کے اور اقرار کرتا ہون ساتھہ خطا
اپنی کے اور گناہ بڑی چھوٹی اپنی کے پس بخش وہ سب اور بخش دے ماں باپ کو اور
سب ماؤن کو اور احسان کر مجھہ پر جو احسان کیا ہے تو نے اوپر اولیا اپنی کے ساتھہ
توفیق بندگی کے پس تحقیق تو منت رکھنی والا فضل والا احسان والا بخشنی والا
رحم کرنیوالا ہے ساتھہ ایمان والون کے اے رب ہمارے دے ہمکو دنیا مین نیکی
اور آخرت مین نیکی بچا ہمکو عذاب دوزخ سے پاکی ہے پروردگار تیری کو رب عزت سے
پاک ہے اوس سے جو کچھہ یہ اسکو لگاتی ہین اور سلام ہو بھیجا ہوا پیغمبرون کے اور
شکر ہے واسطے اللہ پروردگار عالمون کے —
یہ خاکسار نے ابیات مناجاتیہ جناب سرورکائنات علیہ التحیۃ والصلوۃ کی شان مین جہاز پر
تصنیف کئے تھی گو یہہ بسبب عدم مہارت خاکسار کے لطائف شاعری سے معرا ہین لیکن
اکثر انکو اوس بارگاہ عالی مین بندہ درگاہ نے پڑھا ہے عرض عالی لیئے بہت اچھا
ہے اس واسطے مندرج کتاب ہذا کرتا ہون صاحب استعداد نکتہ چینی نہ فرماوین
ستم گری قواعد عروض سے معاف رکھین اگر طبیعت قبول کرے
رو برو چہرہ مبارک علیہ السلام کے پڑھین —

ابیات

ازسر الہا میدہ ام این آرزو — تا لب درگاہت نمایم حسن رو —

شکر ایزد را بجا می آورم
ای محمد مجتبی بر تو سلام
السلام ای پیشوای اولین
السلام ای مظہر نور خدا
السلام ای مہر خشان اسلام
السلام ای مورد انوار حق
السلام ای صاحب لطف و کرم
السلام ای مصطفی بحر عطا
السلام ای سید والا قدر
سیدی و مالکی مولائی مر
طاقت شکری کجا آرد بجا
علیک الصلوٰة و علیک السلام
جملہ خصم ظاہری و باطنی
عفو کن یا شافع روز جزا
ناتمام ہستند حصل یا رسول

بر مراد خویشتن فائز شدم
ای شفیع مذنبین بر تو سلام
السلام ای مقتدای آخرین
السلام ای فیض بخش دو جہان
السلام ای نور یزدان السلام
السلام ای حبیب خدا عز و علی
السلام ای حضرت والا ہمم
السلام ای رحمة للعالمین
سیدی و مالکی یا بے بگر
یک سر موئی ز اوصاف رسول
انتہای نعت را داند خدا
لیکن از درگاہ پاکت این حکیم
از عنایات خویشتن شفیع کنی
آرزو ہا نیکہ دردل ہا کبار
التہ برای چاریاران قبول

ای محمد مصطفی بر تو سلام
رہنمای گمرہین بر تو سلام
السلام ای شافع روز جزا
السلام ای چارہ بیچارگان
السلام ای واقف اسرار حق
السلام ای منبع لطف عطا
السلام ای مالک ہر دو سرا
السلام ای پیشوای مرسلین
السلام ای سید عالی نظر
یک کار ہے ز انعامات رسول
ختم کردم نعت را بر یک کلام
حصہ خواہد ز الطاف عمیم
جملہ تقصیرات این بیکس گدا
یا کہ از دنیا و با انجام کار

۲۷ پھر بعد اوسکے اسطوانہ ابو لبابہ کے پاس جو قبر شریف و منبر کے درمیان ہے جا کر دوگانہ پڑہے اور توبہ کرے اور دعا مانگے پھر روضہ شریف مین نماز پڑہے اور تسبیح و ثنا و استغفار کرے۔

۲۸ پھر قریب منبر کی درود پڑہے اور دعا مانگے۔ پھر ستون حنانہ کی پاس جا کر ایسا ہی کرے

۲۹ پھر روز بعد زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت جنت البقیع سے

مشرف ہوجو مستحب ہے - جب زیارت بقیع کو جاوی یہہ پڑہے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ -

۳۰ جمعرات کے دن زیارت شہداے احد رضی اللہ عنہم سے مشرف ہو - یہہ مستحب ہے اور وقت حاضر ہونے قبرونکے یہہ کہے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ترجمہ سلام ہو تمپر صبر کرنے پر تمہارے پس کیا اچھا ہے پچھلا گہر سلام ہو تمپر اے گہر قوم مسلمانوں کے اور تحقیق ہم اگر چاہے اللہ ساتہہ تمہارے ملنے والے ہیں اور آیۃ الکرسی اور قل ہو اللہ پڑہے -

۳۱ زیارت مزار حضرت اسمعیل بن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فیما بیع - مستحب ہے -

۳۲ زیارت مزار مالک بن سنان ہے اور زیارت قبہ نفس زکیہ رضی سے مستفیض ہو -

۳۳ زیارت ان مساجد کی جنمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑہی کرے مستحب ہے وہ یہہ ہیں اول مسجد قبا - آنحضرت نے دو رکعت کو وہاں برابر عمرہ کے فرمایا ہے - بروز شنبہ وہاں جاوے اور یہہ دعا پڑہے يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ يَا مُفَرِّجَ كَرْبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ يَا مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاكْشِفْ كَرْبِيْ وَحُزْنِيْ كَمَا كَشَفْتَ عَنْ رَسُوْلِكَ كَرْبَهٗ وَحُزْنَهٗ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا كَثِيْرَ الْمَعْرُوْفِ يَا دَائِمَ الْاِحْسَانِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ترجمہ اے فریادرس فریاد کرنیوالوں کے اور دور کرنیوالے گہبراہٹ بے چینوں کی اے قبول کرنیوالے دعا بیقراروں کے درود بہیج اوپر محمد اور آل اوسکے کے اور دور کر سختی میرے

زیارت بقیع

زیارت شہداے احد رضی اللہ عنہم

زیارت مزار حضرت اسمعیل

زیارت مزار مالک

مساجد مدینہ منورہ

میری اور غم میرا جلیسا دور کیا تو نے رسول اپنی سے سختی اور رنج کو اس مقام مین ای
بخشنے والی ای منت کہنے والی ای بہت احسان کرنیوالی ای ہمیشہ احسان کرنیوالے
ای سب سے زاید رحم کرنیوالی **دوم** مسجد الجمعہ **سیوم** مسجد الفضیح **چہارم** مسجد
بنی قریظہ **پنجم** مسجد مشربہ ام ابراہیم بن رسول خدا علیہ التحیۃ والثنا **ششم**
مسجد بنی ظفر **ہفتم** مسجد الاجابہ **ہشتم** مسجد الفتح **نہم** مسجد سلمان فارسی رضی اللہ
عنہ **دہم** مسجد سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ **یازدہم** مسجد سیدنا علی رضی اللہ عنہ
دوازدہم مسجد بنی حرام **سیزدہم** مسجد القبلتین **چہاردہم** مسجد السقیا
پانزدہم مسجد الرایہ **شانزدہم** مسجد صغیر **ہفدہم** مسجد ابی ذر **ہجدہم**
مسجد اُبَیّ بن کعب **نوزدہم** مسجد مصلی عید **بستم** مسجد سیدنا ابوبکر رضہ
و مسجد سیدنا عمر رضہ و مسجد سیدنا علی رضہ متصل مصلی عید ۔ ان مساجدین سوائے
زیارت کی نماز و نفل پڑہی ۔

۳۴ مدینہ منورہ مین روزہ رکہنا ۔ اعتکاف کرنا مسجد نبوی مین خصوصاً
شب بیداری کے ساتہہ ۔ خیرات کرنا محتاجون و مساکین مدینہ منورہ کو غنیمت جانئے

۳۵ جن کنوئین آنحضرت صلعم نے آب دہن و غسالہ وضو ڈالا ہو پانی اونکا پئی اور وضو کری
اگر کوئی مانع نہو غسل بہی کری وہ یہہ ہین **اول** بیر اریس **دوم** بیر حا **سیوم**
بیر غرس **چہارم** بیر بضہ **پنجم** بیر حالہ **ششم** بیر بضاعہ **ہفتم** بیر رومہ

۳۶ جملہ زیارات مدینہ منورہ کے کیفیت فصل ششم باب ہذا مین مندرج ہے ۔

۳۷ طریق رخصت کا مدینہ منورہ سے یہ ہے **اول** دوگانہ رخصت کا مسجد نبوی
مین ادا کرے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر پڑہنا افضل ہے **دوم**
زیارت کے قبولیت کی دعا مانگے **سیوم** پہر حاضر ہونے کے اور دین و دنیا کے

بہبودی کے دعا مانگی چہارم روضۂ مقدس پر جا کر بعد صلوٰۃ و سلام کے یہہ عرض کرے اللّٰھُمَّ لَا تَجْعَلْ ھٰذَا اٰخِرَ الْعَھْدِ نَبِیِّكَ وَمَسْجِدِهٖ وَحَرَمِهٖ وَیَسِّرْ لِیَ الْعَوْدَ اِلَیْهِ وَالْوُقُوْفَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَارْزُقْنِیَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَرُدَّنَا اِلٰی اَھْلِنَا سَالِمِیْنَ غَانِمِیْنَ اٰمِنِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ترجمہ ای اللہ نکیجیو اسکو آخر عہد ساتہہ پیغمبر اپنی کے اور مسجد اور حرم اوسکی کے اور میسر کر مجکو پہر آنا طرف اوسکے اور تہہرنا روبرو اوسکے اور دی مجکو عفو و عافیت دنیا و آخرت مین اور پہیر ہمکو طرف گہر اپنی کے سلامت غنیمت یابی اور برحمت خود ای سب سے زاید رحم کرنیوالے۔

۳۸ گریہ و زاری مین بوقت رخصت مبالغہ کری و آنسو بہاوے۔ یہ قبولیت کا نشان ہے

۳۹ پہر حسرت کرنا اپنی جدائی پر آنحضرت صلعم کی حضور یسی سید یا یا اولٹی پاون ہٹے۔

۴۰ خیرات کری جس قدر مقدور رکہتا ہو یہ باعث نجات از بلیات و موجب سلامت از جمیع آفات ہے۔

۴۱ خاکسار نے گو مفصل طریق روانگی مدینہ منورہ و زیارت مزار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کردیا ہی تاکہ زوار مزورنکی سے ہو غلطی نکہاوین والامثل مکہ معظمہ کے جب قافلہ قریب مدینہ منورہ کی پہونچتا ہے تو صدہا مزور لوگ آملتی ہین جسنے جسکو اپنا مزور قرار دیا وہ سب مراتب واکرا دیتا ہے۔

تتمہ حال راقم تاریخ مذکورۃ الصدرین بعد نماز عصر کے جنت البقیع مین زیارت مزار امیر المومنین سیدنا عثمان غنی خلیفہ سیوم رضی اللہ عنہ اور مزار فاطمہ بنت اسد والدہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور مزار حضرت ابو سعید خدری اور مزار حضرت حلیمہ سعدیہ اور مدفن شہدای احد واقع جنت البقیع رضی اللہ عنہم سے مشرف ہوا

بیبیاں ... ستر

ہوا۔ واضح ہو کہ مزور لوگ جو دہر مزار پر ساتھ جاکر زیارت پڑہاتی ہیں اور ہر مزار
کا پتا بتاتے ہیں لیکن اول ہے روز ہمراہی مزور کے حاجت پڑتی ہے پہر تو خود ہے
زوار تنہا چلی جاتی ہیں اور زیارتیں کرتے ہیں۔ بتاریخ ہشتم ماہ مذکور روز جمعہ بعد نماز
عصر زیارت مائدہ حسنین علیہم السلام اور مسجد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور غار حجر رسول اللہ صلعم اور نشان
حجر رسول خدا صلعم سی مشرف ہوا۔ بتاریخ نہم روز شنبہ بعد نماز عصر جنت البقیع میں جاکر
زیارات موصوفہ سی اور پہر زیارت مزار حضرت ابراہیم بن خاتم النبیین علیہ السلام اور
مزار حضرت عثمان بن مظعون اور مزار عبد الرحمن بن عوف اور مزار سعد بن ابی وقاص
اور مزار حضرت نافع اور مزار امام مالک اور مزارات ازواج طاہرات سرور کائنات صلعم اور
مزارات دختران رسول خدا صلعم اور مزار عقیل بن ابیطالب اور مزارات اہلبیت اور مزار
حضرت صفیہ پہوپہی رسول اللہ صلعم اور حضرت اسمعیل بن امام جعفر صادق علیہم السلام سی مستفیض
ہوا۔ بتاریخ دہم روز یکشنبہ بعد نماز صبح زیارت مزار حضرت امیر حمزہ اور مزار شہدای احد رضی اللہ عنہم
اور زیارت مشہد دندان مبارک آنحضرت صلعم اور زیارت اوس جگہ سی جہان جنگ احد میں
اصحاب رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور زیارت اوس جگہ سے جہان چالیس برس
جسم مطہر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا دفن رہا اور زیارت مشہد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
اور زیارت اوس جگہ سی جہان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت تشریف بری جنگ
احد قیام فرمایا تہا اور زیارت اوس جگہ سے جہان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نی تشریف لیجانے جنگ احد کی شب باش ہو کر صبح زرہ و خود کو جسم مطہر سے افتخار
بخشا تہا اور زیارت نفس زکیہ حضرت مہدی پوتی حسن مثنی علیہ الرحمہ سے شرفیاب ہوا
اور بعد نماز عصر کی زیارت مزار حضرت عبد اللہ والد جناب رسول خدا علیہ السلام اور مزار
حضرت مالک بن سنان بیرقدار رضی اللہ عنہ سی شرف اندوز ہوا۔ بتاریخ یازدہم

روز دوشنبہ بعد نماز صبح زیارت مسجد بنات النجار اور مسجد الجمعہ اور مسجد قبا اور مسجد حضرت علی رض اور مسجد حضرت فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مع اسیای حضرت موصوفہ اور مسجد عمرہ کہ آنحضرت کی دعائین قبول ہوئین اور زیارت بیر خاتم اور چاہ آب شور و شیرین اور باغ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الشمس اور بیر غرس اور مسجد مشربہ ام ابراہیم بن رسول اللہ علیہ السلام سے شرف ہوا۔ بتاریخ دوازدہم روز سہ شنبہ بعد نماز عصر زیارت مسجد سیدنا عمر رض اور مسجد غمامہ اور مسجد سیدنا علی رض اور مسجد سیدنا ابابکر صدیق رض سے شرف ہوا۔ بتاریخ چہاردہم روز پنجشنبہ بعد نماز صبح زیارت بیر عثمان اور مسجد القبلتین اور مسجد الفتح اور مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور مسجد سیدنا ابی بکر صدیق رض اور مسجد سیدنا علی رض اور مسجد بالای تالاب اور مسجد بنی قیف بنی حرام سے شرف ہوا۔ بتاریخ نوزدہم روز سہ شنبہ بعد نماز ظہر زیارت مسجد امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جو قلعہ مین ہے فایز ہوا۔ بتاریخ بستم روز چہارشنبہ بعد نماز صبح زیارت الوداع مزار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فایز ہوا۔ اوسی روز پیش از نماز عصر مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر بتاریخ بیست و یکم روز پنجشنبہ پیش از نماز صبح وارد منزل موسومہ بیر شیخ یوفی ہوا۔ اس منزل مین صرف ایک چاہ ہے بازار وکانون نہین پانی بلا قیمت ملتا ہے لیکن اتنی ہاتھ پر پانی ہے۔ بتاریخ مذکور بوقت یک و نیم پاس روز باقیماندہ روانہ ہو کر بتاریخ بست و دوم روز جمعہ چار گھڑی دن چڑھے وارد منزل مسمی بیر عباس ہوئی اسجگہ بازار ناقص اور ایک چاہ ہے پانی بقیمت ملتا ہے اقل درجہ قیمت فی گربہ پانی ایک عشرہ اور چوکی سلطانی بھی یہان ہے۔ اس منزل تک طریق موسومہ سلطانی ہے۔ بتاریخ مذکور بوقت یک پاس روز باقیماندہ روانہ ہو کر بتاریخ بست و سیوم روز شنبہ بوقت نماز فجر وارد منزل

منزل بیر شیخ

بیر عباس

منزل مسمی بیر عبید رب ہوا۔ اسجگہ بازار و گانو نہیں فقط ایک کنوان
ہی اور پانی وہ بھی دور ہے یعنی چاہ عمیق ہے۔ حجاج کو چاہئی کہ یہانسی پانی بقدر ضرورت
دو تین دن کے ہمراہ لیوین کس لیئے کہ دو تین منازل آئندہ مین آب شور یعنی کہاری
ملتا ہے۔ بتاریخ صدر چہٹین رہے روانہ ہوکر ایک بجی رات کی وارد منزل موسومہ
بیر بینا ہوا۔ یہان پانی نزدیک ہے مگر شور ہے گانو اور بازار نہین البتہ قرب وجوار
کے بدو گوشت و کہجور و پیاز وغیرہ اشیا لاکر فروخت کرتے ہین۔ منزل عبید رب
اور یہ منزل طریق موسومہ ملف کے ہے ملف بفتح میم و سکون لام بمعنی پیچیدہ شدہ
بتاریخ بست و چہارم روز یکشنبہ بوقت یکنیم پاس روز باقیماندہ روانہ ہوکر بتاریخ
بست و پنجم روز دوشنبہ پہرون چڑہے وارد منزل مسمی بیر مستورہ ہوا۔
مسمات مستورہ مرحومہ نے اسجگہ کو الگایا ہے اسواسطی اوسکے نام مسمی یہہ منزل ہوئی
ہی اور قبر بہی مسمات مرحومہ کی قریب چاہ کے ہے پانی اسکا شور ہے۔ یہان سی تا
مکہ معظمہ طریق موسومہ سلطانی ہے۔ بتاریخ صدر بعد نماز عصر روانہ ہوکر بتاریخ بست و
ششم روز سہ شنبہ کو وارد منزل رابغ ہوا پانی سیل کا شیرین یعنی برساتی موقتہ
ملا۔ اس تاریخکو بمقام رابغ مابین نماز ظہر و عصر کے احرام عمرہ کا باندہا۔ بتاریخ بست و
ہفتم روز چہارشنبہ صبح وقت نماز شافعی بمقام رابغ ایک حاجی واسطہ رفع حاجت کے
بیرون قافلہ بیٹہا تہا بدوؤن نے بارادہ غارت گری اوسکو جا پکڑا اور جنگ باہمی مین
بدو سخت مجروح ہوا اونٹ والون بدوؤن نے بارادہ انتقام حاجی مذکور کو گرفتار کیا اور
قریب سہ پہر دن چڑہے کی پاشا مقیم قلعہ رابغ نے حاجی مذکور کو بدوؤنسی باندیشہ قتل پاین وعدہ
چہوڑا کر اپنی حوالات مین کیا کہ تا صحت بدو مجروح کے حوالات مین رہیگا اور بصورت
مرنے مجروح کے قتل کے لیئی حوالہ بدون کے ہوگا۔ اور تا سیرو روز قریب بارہ بجی دن کے

روانہ ہوکر بتاریخ بست و ہشتم روز پنجشنبہ چار گھری دن چڑہے وارد منزل موسومہ
قدیمہ ہوا۔ مقام رابغ مین جو حال محرر و حیثیت بدو تحریر ہوا ہے وہ باشندہ منزل
خلیص کا تھا اوسکا والد واسطے انتقام اپنی فرزند کی قریب سات ہزار بدوون کے جمع کرکے
مستعد قتل قافلہ کا تھا اوسکے خوف سے شیخ الجمال نے قافلہ کو تا تاریخ بست و نہم روز جمعہ
اسجگہ بانتظار آمد شریف ٹھہرایا۔ بتاریخ سی ام روز شنبہ شریف نے حال شرارت بدوان
سنکر پچاس سوار واسطہ حفاظت قافلہ کے رابغ سے بھیجے اور قافلہ ہمراہی سواران
مذکور بوقت گیارہ بجے دن کے روانہ ہوا۔ اور خلیص سے جو جائے مجمع بدوان تھا
قریب بارہ بجے رات کی گذر ہوا مگر بسبب سواران سلطانی کا ایسا اونکی لوپر چہایا
کہ ایک نفس نے سر تک نہ اوٹھایا اگرچہ فوج سلطانی نہایت آراستہ اور جنگ
آزمودہ ہے اور سبب اونکی انتظام نہ کرنے کے عرب مین بجز جدہ شریفہ مطلق انتظام نہین
ہے باوجودیکہ ہزارہا حجاج کو گوناگون تکالیف لاحق ہوتی ہے۔ غرہ صفر المظفر روز
یکشنبہ کو چار گھری دن چڑہے وارد منزل بر عصفان ہوا۔ بتاریخ صدر دو بجے
دن کے روانہ ہوکر بتاریخ دوم روز دوشنبہ چار گھری دن چڑہے وارد منزل وادی
فاطمہ ہوا۔ بتاریخ صدر تین بجے دن کے روانہ ہوکر راہ مین زیارت مزار حضرت میمونہ
زوجہ رسول اللہ علیہم السلام سے مشرف ہوکر قریب بارہ بجے رات کی مکہ معظمہ
مین مستفیض ہوا۔ بتاریخ سیوم روز سہ شنبہ بعد نماز صبح طواف بیت اللہ
اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہوکر احرام کھولا۔ بتاریخ صدر معرفت سید علی صاحب
سابق ساکن پٹیالہ حال مہاجر و متوطن مکہ معظمہ نے فی نفر بارہ روپیہ تو ٹنک اور
فی نفر پندرہ روپیہ کوٹھری و چھتری کا جہاز قضائی والہ مین کرایہ کیا۔ مخفی
نرہے کہ یہ کرایہ تابع ہے سب جملہ حجاج مکہ معظمہ کرایہ جہاز کا اپنی ملک کو معرفت

منزل بست و ہفتم

منزل بست و ہشتم

منزل بست و نہم

معرفت گماشتہ ہای مالکان جہاز کے کر سکتے ہیں ۔ بتاریخ چہارم روز چہارشنبہ
غلاف اندرون و بیرون بیت اللہ بعد ادای ہدیہ لیا ۔ بتاریخ سیزدہم روز جمعہ
بعد نماز صبح داخلی مقام ابراہیم سے بعد ادای ہدیہ دو روپیہ فی نفر کے مشرف ہوا ۔ بتاریخ
چہاردہم روز شنبہ بوقت شام بندہ نے طواف الوداع ادا کیا ۔ بتاریخ صدر بعد نماز
مغرب روانہ ہو کر بتاریخ پانزدہم روز یکشنبہ وارد منزل مسمی حدہ ہوا ۔ اور کرایہ
اونٹ کا مکہ معظمہ سے تا جدہ شریفہ فی شغدف ایک ریال اور فی شبری پچیس قرش
ہی حدہ مابین مکہ معظمہ و جدہ شریفہ کے یہہ جگہ فرودگاہ کے لئی مقرر ہے مسافرین
کے واسطے جہونپڑیاں بنی ہوئی ہیں کرایہ فی نفر یک و نیم قرش لیتے ہیں اور لکڑی اور پانی
کرایہ میں مع صاحب جہونپڑی کے ہی اور یہاں چوکی سلطانی بھی ہے ۔ بتاریخ صدر
بعد نماز ظہر روانہ ہو کر بتاریخ شانزدہم روز دوشنبہ دو گھڑی دن چڑھے وارد جدہ شریفہ
ہوا ۔ رباط میں ایک مکان بکرایہ فی نفر یک قرش مع سید لیکر فروکش ہوا ۔ بتاریخ ہفدہم
روز سہ شنبہ بعد نماز صبح زیارت مزار جدہ حوا علیہا السلام سے مشرف ہوا ۔ ایک پیپا
چوبی بقیمت ایک ریال لیکر اوسمین پانی صحری چہ قرش کا بہروایا گو اہل جہاز پانی اور لکڑی
مسافرین کو کرایہ میں مفت دیتی ہیں لیکن تاہم لابد ہی کہ پیپا پانی شیرین عمدہ کا خم
صحری ہو خواہ نہر کا ازآن خود ہمراہ رکھی والا موجب تکلیف ہے اور جہاز میں کرایہ پیپی کا
نہیں ہوتا ۔ شام کو کرایہ ہوڑی یعنی کشتی فی نفر تین قرش دیکر جہاز قصائی والہ
میں سوار ہوا ۔ بتاریخ نوزدہم روز پنجشنبہ بعد نماز فجر لنگر اوٹھا جہاز روانہ ہوا ۔ حال
جہاز مذکور یہہ ہے مالک قصاب باشندہ صورت کا ہے ۔ طول اسکا پینتالیس گز ہمرے
اور عرض آٹھہ گز نلبری ہے ۔ ہوا کی طاقت سے چلتا ہے یعنی ہوائی ہے ۔ اسکے چار
درجہ ہیں درجہ زیرین میں اسمین اسباب و قران اہل جہاز ہے ۔ و ہم [illegible]

جدہ

حال جہاز قصائی والہ

عام جسکو تو تک کہتی ہین اسمین چار کوٹھری مسافرین کی لئی جو آدمی کے
بدقت اوسمین گنجایش ہوتی ہے اور دو کوٹھری کلان واسطے اسباب اہل جہاز
کے اور دو کوٹھری کلان واسطے زنجیر آہنی لنگر کے ہین سیوم کمرہ ہا اور دو کوٹھریا
و باورچیخانہ و پاخانہ وغیرہ چہارم چہتری - دو کشتیان البتہ جہاز - تنخواہ
کپتان یک صد و نیم صد روپیہ ماہوار معلم اول اسی روپیہ ماہوار معلم دوم پچاس روپیہ ماہوار
سکانی چار نفر تنخواہ فی نفر بیس روپیہ ماہوار - خلاصی پنج نفر نجار دو نفر تنخواہ چودہ روپیہ
سی بیس روپیہ تک ٹوپس یعنی ہلالخور دو نفر فی سات روپیہ ماہوار - کہانا سبکا
بذمہ مالک جہاز سوای تنخواہ مذکور - بتاریخ بست و سیوم روز دوشنبہ قضا کار بوقت
نصف شب غفلت اہل جہاز سے جہاز زمین پر جا لگا اسوقت جو تہلکہ اہل جہاز
پر تہا زیادہ از تقریر و تحریر ہے بجز گریہ و زاری بدرگاہ باری اور کوئی تدبیرین نہین
سوجہتی تہی ہر لحظہ جہاز کا ٹہوکر کہانا موت کا آنا تہا مہتمان گوناگون تدابیر کرتی تہے
مگر کارگر ہوتی لاچار تہی بے اختیار تہی الغرض کہ اسی تکاپو مین صبح ہوئی اور معلوم ہوا
کہ جہاز بندر مخا مین ٹہرا ہی اوسیوقت نائب میر بحر ملازم سلطان روم خلد اللہ
ملکہ کو اطلاع دی سپاہی ترک آئی اور بکمال اخلاق حجاج کا اطمینان کیا اور یہ تشخیص
کیا کہ جہاز مین وزن حد طاقت جہاز سے زیادہ ہے اسلیئے بیٹہ گیا فورا خالی کرایا
اور بتاریخ بست و چہارم روز سہ شنبہ تین بجی دن کے جہاز اوٹہا اور اوس آفت
جانکاہ سے نجات پائی اور اسیقدر جہاز کو ہٹاکر لنگر کیا گیا مہتمان جہاز سے سنا
گیا ہی کہ جہاز افتادہ کا استادہ ہونا ممکنات سے نہین کیا معنی کہ جب جہاز ٹہوکر
کہائیگا شق ہو جائیگا جب شق ہوگا پانی مین غرق ہوگا سبحان اللہ کیا قدرت
ایزدی ہے کہ جو بات امکان سے باہر ہے کر دکہاتا ہی بقول بیت قادرا قدرت

قدرت تو داری هرچه خواهی آن کنی + مرده را جان به بخشی زنده را بیجان کنی
اوسی روز ایک عورت حاجیہ کا انتقال ہوا جو بسبب کثرت کار کی اوسکو کنارہ پر دفن نہ کرسکے دریا برد کیا چونکہ کنارہ قریب تہا از روی شریعت غرا محمدی اوسکا دریا برد کرنا ممنوع ہے اسکی اطلاع حکام ترک مقیم مخا پا کر قریب غروب آفتاب کپتان کو گرفتار کرکے لیگئی اور وہانی سو ریال جرمانہ لیکر رہا کیا - شہر مخا مین مزار حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے - بتاریخ بست و پنجم روز چہارشنبہ بعد تین بجے دن کے جہاز بندر مخا سے روانہ ہوا - بتاریخ سیوم شہر ربیع الاول السنہ روز چہارشنبہ نو بجے رات کے جنابہ مکرمہ معظمہ جنابہ اللہ صاحبہ بندہ نی جہاز مین مابین عدن و بمبئی انتقال فرمایا خداوند کریم اونکو غریق لجہ مغفرت کری بحق محمد مصطفی علیہ التحیۃ والثنا الی - بتاریخ چہارم روز پنجشنبہ بعد نماز فجر حسب قاعدہ بحر جنابہ ممدوحہ کو دفن کیا یعنی تکفین و غسل وادای نماز جنازہ پیر نیسی و پتھر باندہکر (تا کہ مردہ تہ دریا مین بیٹھہ جاوی) دریا مین چہوڑ دیتی ہین - بتاریخ سیزدہم روز شنبہ بوقت صبح جہاز کو بندر بمبئی مین لنگر ہوا اور بندہ شام کو وارد مسافر خانہ اسماعیل سیٹھہ واقع بنڈی بازار شہر بمبئی ہوا بتاریخ ہفدہم روز چہارشنبہ ایک بجی دن کے فی نفر گیارہ روپیہ بیساہی تین آنہ کرایہ دیکر ریلمین سوار ہوکر بتاریخ ہجدہم روز پنجشنبہ چہ بجی دن کے وارد ناگپور ہوا - بمبئی سے ناگپور پانسو ستائیس میل ہے - بتاریخ نوزدہم روز جمعہ ایک بجی دن کے بسواری بنڈی روانہ ہوکر بعد طی منازل بتاریخ بست و ہفتم روز سہ شنبہ [illegible] بجی دن کے وارد جبلپور ہوا قریب اشٹیشن جالمین جو پناہی نی فی نفر ایک فلوس لیکر شب باش ہوئی دیتی ہین پاخانہ پختہ بہی قریب ہے فی نفر نیم فلوس لیتے ہین اب جو کے بنانی سے مسافرون کو آرام ہے بنڈی بیلون کے گاڑی نامعقول ہے

ہی خاکسار نے فی ہنڈی سولہ روپیہ کرایہ دیا لیکن کرایہ اسکا مقرر نہیں دس روپیہ سی بیس
روپیہ تک ہوتا ہی — بتاریخ بست و ہشتم روز یکشنبہ سات بجی دن کے جبلپور سی فی نفر
تین روپیہ نو آنے کرایہ دیکر سواری ریل چلکر آٹھہ بجی رات کے وارد سرای الہ آباد ہوی — بتاریخ
بست و نہم روز دوشنبہ نو بجی دن کے مال گاڑی ریل مین اسباب کہوایا — غرہ شہر
ربیع الآخر روز چہارشنبہ چار بجی دن کے بعد دینی کرایہ فی نفر ایک روپیہ سات ہی چودہ آنہ
ریل مین سوار ہوکر دس بجے دن کے کانپور پہونچکر وارد سرای مغل ہوا — بتاریخ
دوم روز پنجشنبہ دس بجے دن کے بعد دینی کرایہ فی نفر چار روپیہ یعنی چار آنہ ریل پر
سوار ہوکر قریب بارہ بجی رات کے وارد شہر دہلی ہوا — بتاریخ ہفتم روز سہ شنبہ بعد نماز ظہر
زیارت مزار حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور زیارت قدم شریف
جناب رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم سے فائز ہوا — بتاریخ دوازدہم روز یکشنبہ دس بجے
رات کے بعد دینی ساڑہی پینتالیس روپیہ کرایہ پوری شکرم کی جو چہہ آدمی اوسمین
سوار ہوتے ہین سوار ہوکر پانی پت و کرنال مین زیارت مزار حضرت بو علی شاہ قلندر
صاحب علیہ الرحمہ سے مشرف ہوکر بتاریخ سیزدہم روز دوشنبہ قریب آٹھہ بجی رات
کے وارد شہر انبالہ ہوا — بتاریخ چہاردہم روز سہ شنبہ فی گاڑی نر گاوان تین روپیہ
کرایہ دیکر دس بجے دن کے روانہ ہوکر پانچ بجی دن کے داخل وطن حسب دستور معہود یعنی
پٹیالہ ہوا — داخلہ وطن —

فی مجئ وطن

۱ جب اپنی شہر کی پاس پہونچی یہہ کہی — اٰیِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ
ترجمہ امان مین آنیوالی توبہ کرنے طرف رب اپنی کے حمد کرنیوالی —
۲ پہلی پہونچنی سے اپنی گہروالون کو خبر کری تاکہ وہ استقبال کرین —
۳ جو مسجد پہلے وطنی شہر مین ملی اوسمین دوگانہ پڑہے —

یہ کہتا ہوا گھر مین داخل ہو — توباً توباً لربنا اوباً لایغادر علینا حوباً ترجمہ توبہ توبہ ہے طرف رب ہمارے کے بہر ناہی طرف کے نہ باقی رکھی ہم پر گناہ — ۵ گھر مین داخل ہو کر دوگانہ تحیۃ المنزل اداکرے — بہ نسبت سابق زیادہ تر بقیہ العمر کارہای خیر مین متوجہ رہی یہ علامت حج مبرور و زیارت مقبول کے ہی —

میزان کل کرایہ یک نفر از پٹیالہ تا بمبئی بتفصیل ذیل ہہ ہی بابت آمدرفت — ۹ ۱۲ / ۱۱۲ واضح ہو کہ اسوقت انبالہ سی دہلی تک اور جبلپور سی ناگپور تک ریل جاری نہین ہوئے

تفصیل کرایہ کی یہ ہی

از پٹیالہ تا انبالہ سواری ارابہ نرگاوان	۱۲ /	از انبالہ تا دہلی سواری شکرم	۱۲ / ۱
از دہلی تا الہ آباد سواری ریل درجہ سیوم	۹ ۱۲	از الہ آباد تا جبلپور سواری ایضاً	۷ ۱۲
از جبلپور تا ناگپور سواری بند تا ۱۲ لیخی نرگاوان	۹	از ناگپور تا بمبئی سواری ریل درجہ ۳	۹

مخفی نرہے کہ بمبئی سے جدہ شریفہ تک پہنچنے کا سفر جہاز مین جانا ہوتا ہی — اور کرایہ جہاز ہوائی و دخانی کا از بمبئی تا جدہ مقرر نہین ہی — لیکن بندہ کی آمد و رفت جہاز ہوائی مین ہوئی اوسکا کرایہ فی نفر بتیس ۳۲ روپیہ نشست گاہ عام تخمیناً تو تک کی بابت آمد و رفت ہو گئی — بوقت الیسی کرایہ جہاز کا بہ نسبت جانیکے نصف ہوتا ہی عربستان کا سفر اونٹ پر کیا جاتا ہی بجز دو آدمی کے اونٹ کرایہ نہین ہوتا شبری اور شغدف حجاج کو اپنی پاس سے خریدنا ہوتا ہی یکس شتر کرایہ ذیل مین تحریر ہوتا ہی — خوراک اونٹ والی کے اس سے سوا ہے —

از جدہ شریفہ تا مکہ معظمہ		از مکہ معظمہ تا عرفات آمد و رفت	
بوقت رفتن حجاج مکہ معظمہ	بوقت آمدن حجاج جدہ شریفہ	شغدف	شبری
۱۲	۸	۱۲ / ۱	۶

ناگپور سے اختتام کتاب
ہزاین ہوشنگ جبلپور
... کو سیدی ...
۱۲۸۴

از مکہ معظمہ تا مدینہ منورہ بابت آمد و رفت — شقدف — شبری

میزان کل کرایہ سفر عربستان جو حاجی شقدف مین طی کرے ۱۲۰

میزان کل کرایہ سفر عربستان جو حاجی شبری مین طی کرے ۱۰۰

الغرض کرایہ سواری مین بابت سفر ہندوستان و دریا و عربستان سوای انعام جہازیان و جمالان و کرایہ فرودگاہ سفر و کرایہ مکان مکہ معظمہ و مدینہ منورہ و کرایہ خیمہ وغیرہ و سوای خوراک جمالان و انعام مطوف بحساب سوار شقدف فی نفر ۱۰۰

بحساب شبری تین سے چار روپیہ بس اس رقم مذکورہ مین کم ہونی چاہیئے — اگر سفر دریا جہاز دخانی مین ہوگا تو قریب پچاس روپیہ کے زیادہ ہونگی ✢

فصل دوم مین مندرج ہی فہرست مقامات اجابت دعا مکہ معظمہ و نواح متبرکہ آن

۱ جب کعبہ پاک پر نظر پڑی — ۲ قریب حجر اسود خاصۃ بوقت دوپہر

۳ مطاف مین باب کے سامنے — ۴ قریب ملتزم خصوص وقت نصف شب

۵ حطیم مین — ۶ زیر میزاب رحمت خصوصا وقت صبح

۷ قریب رکن یمانی خاص صبح کے وقت ۸ مابین رکن یمانی و باب مسدود ۹ مابین رکن یمانی و حجر اسود

۱۰ قریب مقام ابراہیم خاص صبح کو ۱۱ زمزم پر خصوص بوقت غروب

۱۲ اندر خانہ کعبہ کے چارون گوشہ مین اور درمیان ستونون کے خصوص بوقت زوال

۱۳ صفا مروہ پر خصوص بعد عصر — ۱۴ بین المیلین —

۱۵ نیچے درخت بیری کے جو عرفات پر تہی — بوقت زوال —

۱۶ بائین طرف جبل رحمت کے جو عرفات پر ہے بوقت ڈوبنی سورج کے —

۱۷ مشعر الحرام ہیش از طلوع آفتاب ۱۸ قریب مسجد خیف واقع منی —

١٩ منی میں جہاں کنکریاں مارتے ہیں خصوص چودھویں کو آدھی رات ۔
٢٠ قیام عرفات میں ٢١ قیام مزدلفہ میں ٢٢ جمیع مساجد میں
٢٣ جمیع مزارات پر ۔

فصل سیوم میں معلوم فہرست زیارات مقامات متبرکہ مکہ معظمہ و قرب و جوار آن

مع کیفیت بعض مقامات کے

١ زیارت اندرون خانہ کعبہ ۔ ٢ اندرون مقام ابراہیم ٣ مسجد الرایہ
٤ مسجد الجن ٥ مسجد الشجرہ ٦ مسجد الغنم ٧ مسجد ابابیل
٨ مسجد ابو قبیس ٩ مسجد ذی طوی ١٠ مسجد [illegible]
١١ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا ١٢ مسجد منحر النبی ١٣ مسجد [illegible]
١٤ مسجد الخیف واقع منی ١٥ دار خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا ١٦ دار ابو بکر رضی اللہ
عنہ ١٧ دار ارقم یعنی دار خیزران ١٨ مولد رسول اللہ علیہ السلام ١٩ مولد
علی رضی اللہ عنہ ٢٠ جنت المعلی ٢١ مزار خدیجہ زوجہ رسول اللہ صلعم واقع جنت المعلی
٢٢ مزار آمنہ والدہ آنحضرت واقع جنت المعلی ٢٣ مدفن ستر پیغمبروں کا علیہم السلام
واقع مسجد خیف بمقام منی ٢٤ مزار ابو البرکات نسفی صاحب کنز ٢٥ مزار سید
رفاعی ٢٦ مزار ملا علی قاری ٢٧ مزار میمونہ زوجہ رسول خدا علیہ السلام ٢٨
مزار جدہ حوا علیہا السلام واقع جدہ ٢٩ حجر متکلم ٣٠ حجر متکا ٣١ غار حرا
یعنی جبل نور ٣٢ مقام شق الصدر ٣٣ غار ثور ٣٤ غار مرسلات ۔
٣٥ کوہ شق القمر ٣٦ چلہ خانہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ٣٧ جگہ درخت
بیری کی جو عرفات پر تھی ٣٨ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ۔

ف مسجد الرایہ
کیفیت مسجد الرایہ یہہ مسجد جانب بلندی مکہ معظمہ کے جنت المعلی کے راہ مین ہے — یہان بروز فتح مکہ جناب رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ گاڑا اور نشان پڑہے

ف مسجد الجن و مسجد الشجرہ
کیفیت مسجد الجن و مسجد الشجرہ یہہ قریب مسجد الرایہ کے ہی ہے اسمین آنحضرت علیہ السلام سے جنون نے حاضر ہو کر قران مجید سنا ہی — یہہ مثل تہ خانہ کی سطح زمین سے نیچی ہے شاید بعد اسکی تعمیر کے اسقدر بلندی زمین کو حاصل ہوئی ہے — مسجد شجرہ بھی مقابل اس مسجد کی ہے —

ف مسجد الغنم
کیفیت مسجد الغنم ظاہرا یہی مسجد الاجابہ ہے جو متصل وادی محصب محلہ معلاۃ وادی ذو روہ مین واقع ہے اسکے گرد و پیش بکریان فروخت ہوتی ہین —

ف مسجد اجیاد
کیفیت مسجد اجیاد یہان بادشاہ تبع کی گہوڑی بندہے تھی مگر اب مکہ معظمہ مین ایک محلہ کا نام جیاد ہے —

ف مسجد جبل ابو قبیس
کیفیت مسجد جبل ابو قبیس یہہ مسجد پہاڑ مسمی بہ قبیس پر واقع ہی اور یہہ پہاڑ نہایت بلند ہے اور اسیقدر مکہ کے آبادی مین ہے اسپر سے چہت بیت اللہ نظر آتی ہے — اس مسجد مین حضرت بلال نے اول اذان دی ہے اسکے دیوار مین ایک جگہہ ہی کہتی ہین جو کسی وقت اسجگہ حجر اسود رکہا گیا ہے —

ف مسجد ذی طوی
کیفیت مسجد ذی طوی یہہ مسجد تنعیم کے راہ مین ہے —

ف مسجد جعرانہ
کیفیت مسجد جعرانہ یہہ مکہ معظمہ سے نو کوس پر طایف کے راہ مین ہے جہان حرم کی حد ہے —

ف مسجد عایشہ رضہ
کیفیت مسجد عایشہ رضی اللہ عنہا یہہ مسجد تنعیم کی راہ مین ہے —

ف مسجد منحر النبی صلعم
کیفیت مسجد منحر النبی علیہ السلام یہ مسجد بمقام منی ہے اسجگہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم پر سورہ انا اعطینا نازل ہوئی —

کیفیت مسجد الکبش اسکو منحر ابراہیم علیہ السّلام بھی کہتی ہین — یہہ مسجد منی مین ہے اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نی قربانی کی ہے حضرت موصوف کی کارد کو نشان تہہر مین بہت عمیق بطور معجزہ کی ہے —

کیفیت دار خدیجہ رضی اللہ عنہا اس گہر مین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئین — اور جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوم ہجرت تک اسی گہر مین مطہر مقیم رہے — اب اسجگہ گنبد عالیشان سنگین بہت عمدہ بنا ہوا ہی جو اوس گنبد مین حجاج نفل پڑہتی ہین اور دعا مانگتی ہین اسکے ایک گوشہ مین جاتی داہنی طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گہر ہے — اسمین مقام ولادت حضرت موصوفہ پر ایک قبہ چوبی بنا ہوا ہی اور آسیا حضرت موصوفہ کے قبہ کی پاس نصب ہے ایک گوشہ مین بائین طرف مقام وضو بطور چہوٹی حوض کے اور عبادت خانہ جناب رسالتماب علیہ السلام کا بنا ہوا ہی اوسمین حجاج نفل پڑہتے ہین اور دعا مانگتی ہین اسکی محاذی مین خلوت خانہ ہے —

کیفیت دار ابی بکر رضی اللہ عنہ یہہ معروف تہہ دکان حضرت ابی بکر کی ہے کوچہ حجر مین واقع ہے بالفعل اس کوچہ کو زقاق صوا ئین یعنی کوچہ زرگران کہتی ہین اس جگہ پاک مین نفل پڑہتے ہین —

کیفیت دار ارقم اسکو دار مجتبی اور دار خیزران بھی کہتی ہین — یہہ مسجد ہے صفا کی پاس اسمین امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائی تہی — یہان اب حجاج نفل پڑہتے ہین — دار مجتبی اسواسطہ کہتی ہین کہ ابتدائی حال مین آنحضرت صلعم اسمین پوشیدہ رہی تہی اور مومنین کے ساتہہ نماز جماعت سی ادا فرماتے تہے — دار خیزران اسلئی نام ہے کہ مسمات خیزران والدہ ہارون رشید نے

اسکو قبول کیا اسواسطے اوسکے نام سے نامزد ہوئی —

مولد سرور عالم

کیفیت مولد شریف جناب رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم

یہ جگہ پیدایش جناب سرور عالم علیہ السلام کی ہے — اب یہان مکان نہایت عمدہ دیکھا سنگین زیر جبل ابو قبیس بنا ہوا مشہور ہے — اور خاص مقام ولادت آنحضرت صلوات اللہ علیہ پر قبہ چوبی منصوب ہے اور غلاف زرین سے ڈھکا ہوا ہے اسکو ان سطور مین نقل پڑہتی ہین — اور ایکجانب دیوار اسمقام متبرک کے دس بجے صبح تک حراج یعنی اسباب بطور نیلام فروخت ہوتا ہے اور ہر روز میلہ کے کیفیت تازہ ہوتی ہے —

مولد علی رض

کیفیت مولد امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ

یہہ جگہ پیدایش حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے — وہ شعب بنی ہاشم مین مشہور ہے — اسمین نفل پڑہتے ہین — بالفعل اسجگہ بڑا عمدہ مکان بنا ہوا ہی اور خاص مقام ولادت پر قبہ چوبی پردہ زرین سے ڈہکا ہوا ہے —

جنت المعلی

کیفیت جنت المعلی

معلا در اصل معلاة تھا کثرت استعمال سے تا آخر کی موقوف ہوگئی جیسے لفظ صلا کہ در اصل صلاة تھا — معلا کو پہلے حجون بھی کہتے تھے جنت المعلی کے دو حاطہ ہین — انمین بہت اصحاب وتابعین خصوص حضرت آمنہ والدہ رسول اللہ اور حضرت خدیجہ زوجہ رسول خدا علیہم السلام مدفون ہین یہہ بڑا قبرستان ہے اکثر خوش نصیب جو مکہ معظمہ مین مرتے ہین اسمین دفن کیے جاتے ہین یہہ جگہ نہایت متبرک ہے —

مزار ابو البرکات و سید رفاعی رح

کیفیت مزار ابو البرکات نسفی و سید رفاعی علیہم الرحمۃ

یہہ دونون مزار راہ مین جنت المعلے کے ہین —

مزار ملا علی
کیفیت مزار ملا علی رحمۃ اللہ علیہ یہہ مزار دروازہ پر جنت المعلی کے ہے —

مزار حضرت میمونہ
کیفیت مزار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت زوجہ خاتم النبیین کے ہین — یہہ مزار براہ مدینہ منورہ مابین مکہ معظمہ و منزل فاطمہ رہ وادی کے ہے — مزار عالیشان بعمارت پختہ بنا ہوا ہی اور ایک مسجد بھی اسمین ہے —

مزار حضرت حوا
کیفیت مزار حضرت حوا علیہا السلام یہہ حضرت جدہ بنی آدم کے ہین — مزار انکا بیرون شہر جدہ شریفہ جانب مکہ معظمہ کے ہے — نہایت طویل ہی ایک نشان سر کے جگہ ایک قبہ عمدہ ناف پر ایک نشان پاؤنکی جگہ بنا ہوا ہے باقی دو رویہ دیوار لنبی بطور حد قبر طول مین بنائی ہوئی ہے اور کہتی ہین کہ اگرچہ حضرت موصوفہ کا قد لنبا تہا مگر اسیقدر پر تعمیر مین اکتفا کیا گیا —

حجر متکلم و حجر متکا
کیفیت حجر متکلم — و حجر متکا — یہہ دونو پتہر مطہر مکہ معظمہ مین قریب دار سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ کے محاذی ہی ایک دو سرے کے دیوار مین نصب ہیں حجر متکلم وہ ہے کہ جسنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سی سلام و کلام کیا — حجر متکا وہ ہے کہ جسپر جناب رسالتمآب علیہ السلام کی کہنی پاک کا نشان ہے —

غار حرا
کیفیت غار حرا اب اسکو جبل نور کہتی ہین — مکہ معظمہ سے جانب مشرق تین کوس پر ہے — قبل نبوت اسمین آنحضرت علیہ السلام عبادت کیا کرتی تہے —

مقام شق الصدر
کیفیت مقام شق الصدر — اسجگہ آنحضرت علیہ السلام کا سینہ حضرت جبرئیل و میکائیل علیہم السلام نے چاک کیا پہر سورۂ اقرا نازل ہوئی — یہہ جگہ قریب غار حرا کی بنی ہوئی ہے —

غار ثور
کیفیت غار ثور — یہہ مکہ معظمہ سے جانب جنوب و مشرق تین کوس سے کسیقدر زاید ہے — یہہ پہاڑ بہت بلند و دشوار گذار ہے چوٹی کے پاس اسکے

وہ غار ہے۔ زیارت اسکی و داخل ہونا اسکے اندر ہے۔ اسمین اندر جانیکا مقام ایسا تنگ ہے کہ بادی النظر اوسکے اندر جانا ہرگز ممکن نہین معلوم ہوتا فقط درمیان بالائی یک بشت و چار انگشت کی بلندی ہے اور دو نو طرف سے کم ہوتا گیا ہی مگر پہلے دونو ہاتھ اندر بڑہا کر باقی بدن گہسا کر داخل ہو جاتی ہین۔

غار المرسلات

کیفیت غار مرسلات ۔ یہہ جگہ منی مین قریب مسجد خیف کے ہی۔ اسجگہ متبرک مین جناب سرور کائنات علیہ السلام و الصلوۃ پر سورہ مرسلات نازل ہوئی ہے۔ کفار لاعین نے جناب رسول مقبول علیہ الصلوۃ و السلام کیجانب ایک پتھر نہایت بہاری گرایا اور جناب تبارک و تعالی نے اوسکو مبارک پہر ایا نشان سر مطہر کا ابتک اوس پتھر مین قایم ہے۔ یہان مختصر سی مسجد بھی سلطان روم خلد اللہ ملکہ نے تعمیر کر دی ہے۔ حجاج اس مسجد مین نفل پڑہتے ہین اور نشان سر پاک مین برا و حصول شرف سر اپنا دیتی ہین۔

کوہ شق القمر

کیفیت کوہ شق القمر ۔ اسجگہ جناب سردار اولین و آخرین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ شق القمر ظاہر ہوا ہی زیارت گاہ مسلمین ہے کوہ ابو قبیس پر مسجد جبل ابو قبیس سے آگی بڑہکر بطور چبوترہ کے یہہ جگہ ہے۔

چلہ خانہ حضرت شیخ عبد القادر قدس اللہ سرہ

کیفیت چلہ خانہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ
یہہ جگہ مکہ معظمہ کے آبادی مین ہے۔ حضرت موصوف نے یہان عبادت کی ہے اب بطور مسجد مختصر مکان بہی یہان ہے۔

مسجد سیدنا حضرت عمر

کیفیت مسجد امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ۔ یہہ جگہ مسجد جبل عمر پر واقع ہے اور مکہ معظمہ کے آبادی مین ہے اسکے نیچی ہندی محلہ واقع ہے۔

فصل چہارم مین فہرست تبرکات اور اشیای عمدہ جو حجاج کو مکہ معظمہ سے لانی چاہئیے مرقوم ہے اور کیفیت بعض اونکی۔

۱ غلاف سیاہ بیرون خانہ کعبہ کا ۲ غلاف سرخ اندرون خانہ کعبہ
۳ آب زمزم۔ ۴ آب زمزم جو مقام ابراہیم سے لیا جاوی ۵ خاک معطر اندرون
خانہ کعبہ جو بذریعہ جاروب برامد کرکے خدام بیت اللہ باخذ ہدیہ دیتی ہین ۶ عود
معطر ۷ سرمہ ۸ تسبیح ہر قسم خصوص عقیق البحر ۹ مسواک
۹ سوای اخذ تبرکات کے سبیل آب زمزم کے للہ بنام خود و بزرگان و دوستان
خود جاری کرادے فہرست اشیای عمدہ ۱۰ بانات و میض
۱۱ صدری ۱۲ عطر استنبولی ۱۳ ظروف مس و پیتل عربی و ترکی
۱۴ حمام و پیتل ساخت مصر ۱۵ ظرف پیتل چاہ پکانیکا ۱۶ گھوڑا۔ بکری
دنبہ ۱۷ پاپوش گرگابی استنبولی ۱۸ نبات ساخت مصر ۱۹ نان سفری
۲۰ ظرف چینی ساخت مصر ۲۱ فیروزہ ۲۲ عقیق یمنی ۲۳ کتب
حدیث وغیرہ چھاپہ مصر و استنبول ۲۴ قرص و ریال وغیرہ سکہ سلطانی بقدر
ملاحظہ احباب ۲۵ سنا مکی ۲۶ افیون مصری ۲۷ عشبہ مغربی
۲۸ کلاہ ترکی ۲۹ کبوتر جو یاہو بولتی ہین ۳۰ مرچ سرخ والایچی
کلان جو نہایت بڑی ہوتی ہین ۳۱ چمچہ چوبی۔

کیفیت غلاف بیرون بیت اللہ۔ یہہ رنگ مین سیاہ بنتے
ہین منقش بکلمہ شریف ہوتا ہے۔ فی درعہ مکی کا جو لمبری سے کسیقدر کم ہوتا
ہی دو روپیہ نہایت سوا ریال ہدیہ مقرر ہے۔ ہر سال بروز حج یہہ غلاف

بدلا جاتا ہی مصر مین بنتا ہے ۔

ف غلاف اندرون بیت اللہ

کیفیت غلاف اندرون بیت اللہ یہہ رنگ مین سرخ بنتی مین منقش باآیات و تسبیح ہوتا ہی ۔ یہہ بہت کمیاب ہے ہدیہ اسکا از حد گران ہے جب سلطان روم خلد اللہ ملکہ جدید تخت نشین ہوتا ہی تو جب سے ہمین تیار کراکے اس غلاف کو چڑہاتا ہے

ف آب زمزم

کیفیت آب زمزم ۔ یہہ دو طرح لیتے ہین یا یہہ کہ زمزمی ہا ہی خورد یا بزرگ ٹین کے آب زمزم سے بہرا ہوا منہہ بند بازار سے خرید لیوین یا یہہ کہ آب زمزم لیکر اپنی طرف مین بہر کر منہہ اوسکا بند کر کے ہمراہ لاوین ۔ لیکن گلاب وغیرہ اسمین ملایا جاوے تو اندیشہ ہے کیا اسمین کہ بصورت خالص ہونے آب زمزم کے جس جگہ پانی نہو اور تیمم کرنا چاہیے جائز نہوگا اندیشہ حال اگر تیمم کیا جاوی تو نماز وغیرہ درست نہین اگر آب زمزم صرف مین لاوین تو اوسپر نہین ہوتا ۔

ف کیفیت آب زمزم مقام ابراہیم

کیفیت آب زمزم مقام ابراہیم علیہ السلام بروز دخلی مقام ابراہیم کے نشان قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام مین آب زمزم بہرتے ہین اور تبرکا اوسمین سے وہ لیکر حجاج پیتے ہین اور آنکہون و سینہ پر لگاتے ہین اور بیمارون کے لیے لیجاتے ہین اور حجاج ٹین کے زمزمی مین بطور آب زمزم بند کرکے لاتے ہین ۔

ف سرمہ

کیفیت سرمہ سائیدہ یا غیر سائیدہ مکہ معظمہ مین ملتا ہے اور سرمہ سائیدہ صرف چرمی مین محکم بند ہمراہی حجاج کی لیے بازار مین بکتا ہے ۔

ف تسبیح

کیفیت تسبیح ۔ تسبیح استنبولی سفید و سرخ مونگا نما ایک روپیہ کے چار ملتی ہے اور تسبیح خاک شفا نہایت ارزان قسم ہے فی عدد دو پیسہ قیمت ہے ۔ تسبیح عقیق البحر اعلیٰ قسم ہے اس سے بہتر کوئی قسم تسبیح کا نہین قیمت بہت باقی ہے چار آنہ سے ناقص بہی کم نہین ہوتی ۔

کیفیت سبیل زمزم — زمزمی لوگ دو روپیہ لیکر سال بہر تک سبیل جاری رکہتی ہین اور ایک صراحی للہ سبیل کرانے والی کے نام سے ہر روز ایک سال تک پلاتے ہین اور صراحی پر نام اوسکا جسکے نام سبیل ہو لکہتی ہین —

کیفیت نان سفری یعنی کار آمد سفر — یہ بصورت حلقہ کے خشک ہوتی ہے ڈبل روٹی اور بسکٹ کیطرح دیر رکہنی مین خراب نہین ہوتی اور مکہ معظمہ مین تیار ہوتی ہے اور وزن پر نرخ مقرر ہے — شیرین و سادہ ہوتی ہی اگرچہ تنہا کہانیمین بھی بخلاف ڈبل روٹی کے خستہ اور لذیذ ہوتی ہے مگر دودہ یا پانیمین اگر ایک لمحہ تر کرکے کہائی جاوی تو نہایت لذیذ ہوجاتی ہے —

فصل پنجم مین مندرج ہی فہرست مقامات اجابت دعا مدینہ منورہ کے

۱ جب دیوار جنت مدینہ کے نظر پڑے	۴ جب شہر مین داخل ہو	۷ جب مسجد نبوی مین داخل ہو
۲ درمیان منبر و قبر شریف کے	۵ سرائی جناب ...	۸ بروقت ...
۳ قریب ستون حنانہ —	۶ جمیع مساجد —	۹ جمیع مزارات

فصل ششم مین فہرست مقامات زیارت راہ مدینہ منورہ ... اور کیفیت بعض اونکے زیارات راہ مدینہ منورہ

۱ مسجد تنعیم جسکو مسجد عائشہ بھی کہتی ہین —	۲ مسجد واقع مزار حضرت میمونہ رضہ —	۳ مسجد غلیص کہ جسکے صحن سے باہر نہر جاری ہے —
۴ مسجد بدر —	۵ مسجد ... کہ جسکے آگے نہر جاری ہے نام اسکا مسجد شریف ...	۶ مسجد الشجرہ ذوالحلیفہ مین ہے —

زیارت خاص مدینہ منورہ و تمام متبرکات مقدم تر زیارت آنحضرت جو مقصود اصلی ہے اور مسجد نبوی کی

۷ مزارات جنت البقیع

---

۱۱ شہدای احد بروز پنجشنبہ

۱۳ مزار نفیسہ کہ حضرت [illegible] پوتے حسن [illegible] کے

۱۴ غار جبل رسول اللہ ﷺ

۲۰ وہ جگہ جہاں جناب رسالتمآب ﷺ بوقت تشریف بری [illegible] کے قیام فرمایا

۲۳ مشہد [illegible] آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم [illegible]

۲۴ مشہد شہدائے احد

۲۸ مسجد قبا -

۲۹ مسجد الفضیخ

۳۲ مسجد بنی ظفر -

۳۵ مسجد حضرت سلمان فارسی رض

۳۸ مسجد بنی حرام

۴۱ مسجد الرایہ

۴۴ مسجد ابی بن کعب - واقع بقیع

۴۷ مسجد امیر المومنین سیدنا علی رض قریب مصلی عید -

۵۰ مسجد بنات النجار متصل مسجد الجمعہ -

۸ مزار فاطمہ بنت اسد والدہ حضرت علی رضی اللہ عنہم

۱۲ مزار حضرت اسمعیل بن امام جعفر صادق

۱۵ مزار امیر حمزہ رض -

۱۸ نشان اسم و خیمہ رسول خدا ﷺ

۲۱ وہ جگہ جہاں سرور کائنات ﷺ تشریف برے [illegible] اور [illegible] جسم پاک سے ممتاز فرمایا -

۲۵ مشہد جناب امیر حمزہ رض

۲۸ مسجد [illegible]

۳۱ مسجد بنی قریظہ -

۳۳ مسجد الاجابہ -

۳۶ مسجد امیر المومنین سیدنا ابوبکر رض

۳۹ مسجد القبلتین -

۴۲ مسجد [illegible] واقع احد

۴۵ مسجد مصلی عید -

۴۸ مسجد امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رض قریب مصلی عید

۵۱ مسجد امیر المومنین حضرت علی رض متصل مسجد قبا

۹ مزار ابو سعید خدری رض

۱۰ مزار حضرت صفیہ پھوپھی حضرت رسول ﷺ -

۱۳ مزار مالک بن سنان پدر بزرگوار ابو سعید خدری رض

۱۶ مزار حضرت عبداللہ والد حضرت رسول اللہ ﷺ

۱۹ وہ جگہ جہاں چالیس سال جسم مطہر حضرت امیر حمزہ رض کا رہا

۲۲ باغ رسول اللہ ﷺ واقع قبا - اس باغ درخت کھجور کا ہے جو اپنے [illegible] آنحضرت ﷺ کو سجدہ کیا اب تک اسکے تخم کے درخت بطور [illegible] حلقہ زن ہیں - اسکی بھی زیارت کرے -

۲۶ مشہد امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ -

۲۷ مشہد امام ابراہیم فرزند رسول خدا ﷺ

۳۴ مسجد الفتح -

۳۷ مسجد امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رض

۴۰ مسجد السقیا -

۴۳ مسجد ابی ذر رض -

۴۶ مسجد امیر المومنین سیدنا ابوبکر رض قریب مصلی عید -

۴۹ مسجد حضرت فاطمہ رض قریب [illegible] حسنین رض -

۵۲ مسجد حضرت فاطمہ [illegible] شعب [illegible] قبا

۵۳ مسجد غمامہ -	۵۴ مسجد امیر المومنین سیدنا علی رضہ قریب مسجد غمامہ -	۵۵ مسجد امیر المومنین سیدنا عمر رضہ متصل مسجد غمامہ
۵۶ مسجد امیر المومنین سیدنا ابابکر صدیق رضہ متصل مسجد غمامہ	۵۷ مسجد امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضہ اندرون قلعہ مدینہ	۵۸ آباغچہ و چاہ جناب فاطمہ رضہ واقع مسجد نبوی صلعم
۵۹ مائدہ حسنین ع -	۶۰ بیر اریس -	۶۱ بیر عہن -
۶۲ بیر غرس -	۶۳ بیر بصہ -	۶۴ بیر حاکہ -
۶۵ بیر بضاعہ -	۶۶ بیر عثمان غنی رضہ -	۶۷ وہ چاہ جسمین پانی

آب شور اور ایک شیرین ملا ہوا ہوتا ہی اور یہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک سی علیحدہ علیحدہ ہوکر جارے ہین - واقع قبا - ۶۸ مسجد عمرہ واقع قبا ۶۹ مسجد بالای تالاب متصل مسجد الفتح - ۷۰ وہ جگہ جہان سے خاک شفا لا کر قرص بناتی ہین ۷۱ بتی ہای موم جو منبر کے دونو طرف مسجد نبوی کے لگائی ہوئی ہین نہایت معطر ہین ایک بتی سال بہر جلتی ہے - چہار تنجر ستون لیبت کی جو سوای حصول ثواب کے مشاہدہ عجائبات سے ہے -

کیفیت جنت البقیع - بیرون شہر مدینہ منورہ متصل دروازہ یہہ قبرستان ہی ہر چہار طرف دیوار سنگین اسکی بنی ہوئی ہے اسمین داخل ہوکر اول زیارت مزار امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مشرف ہوکر پہر اور زیارات سے فایز ہوتی ہین اکثر بروز پنجشنبہ دستہ ریاحین کی قبور پر رکہتی ہین - تفصیل زیارات یہہ ہے اول قبہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ - نہایت عالیشان قبہ ہے سامان روشنی و فرش وغیرہ سے آراستہ ہے - دوم قبہ اہلبیت رضی اللہ عنہم - یہہ عالی عمارت ہے اسمین چوبی کٹہرہ کی اندر یہہ تفصیل قبور متبرک ہین حضرت عباس و

حضرت امام حسن رضؓ و حضرت امام زین العابدین رضؓ و حضرت امام محمد باقر رضؓ و حضرت
امام جعفر صادق علیہم السلام - ایک گوشہ میں اس قبہ کی حضرت سیدۃ النسا
فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ علیہ التحیۃ والثنا مدفون ہیں مزار مطہر کے گرد کٹہرہ
چوبی ہے صندوق [illegible] - یہہ قبہ ہر طرح سبی پیراستہ ہی سیوم قبہ حضرت ابراہیم فرزند
رسول کریم علیہ السلام - یہہ قبہ بڑا عمدہ بنا ہوا ہے اور فرش وغیرہ سبی تکلف
ہی اسمیں حضرت عثمان بن مظعون اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی
وقاص بہی مدفون ہیں رضی اللہ عنہم چہارم قبہ امہات المومنین ازواج مطہرات
سرور کائنات سوای حضرت خدیجہ و حضرت میمونہ علیہن السلام پنجم قبہ
دختران رسول اللہ سوای حضرت فاطمہ علیہا السلام ششم قبہ [illegible] حضرت
علی رضی اللہ عنہما ہفتم قبہ نافع مولی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہشتم
قبہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نہم قبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دہم
چبوترہ مدفن شہدای احد رضی اللہ [illegible] ایک ہی متعلق
بمشاہدہ و زیارت رکہی گئی ہے - [illegible] قبہ میں آدمی داخل نہیں ہوسکتے
عورات کو اجازت ہے -

ف مزار فاطمہ بنت اسد

کیفیت مزار فاطمہ بنت اسد - یہہ حضرت والدہ جناب امیر المومنین
سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہیں

ف مزار ابو سعید خدری کا

کیفیت مزار ابو سعید خدری علیہ الرحمہ - یہہ دونو مزار [illegible]
جنت البقیع کے ہیں -

ف مزار حضرت صفیہ

کیفیت مزار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہہ حضرت پہوپہی جناب
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں - قبہ انکا بیرون شہر مدینہ منورہ متصل

متصل دروازہ شہر اور علیحدہ جنت البقیع سے ہے +

کیفیت مزار شہدای احد رضی اللہ عنہم — یہ ... جنت البقیع کی ہیں — مدینہ منورہ سے تخمیناً ... امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھکر ہے — یہاں قبہ نہیں ...

ابیات اسامی شہدای احد رضوان اللہ علیہم ...

تو نام شہیدان مفصل شنو — درین و فزای ... نی ...
رئیس شہیدان جنگ احد — بود حمزہ ... احد
ازان پس ہمہ را مرتب شنو — انیس و انس ... اند و
دو اوس و براء ہست ثابت چہار — دو ثقف اند یک ثعلبہ ... ن س
حبیب و ... و حو ... و دگر — ز دو حنظلہ رض ہفت حارث گذر
حباب است و خلاد زانہا یکیست — بری خیثمہ خار ... اث ...
خبیب رض و خنیس رض ہست یک نامور — خداش ہست و خوات اسم دگر
شماری ز حیہ و ذکوان یگان — رفاعہ رض و رافع سہ و چار دان
زبیر رض و زیاد ہست ناسند ز ید — سلیم اند و سعد شش یک سوید
سبیع رض و سلیمہ رض و پنج اسم سہل — چو شماس رض و صیفی کشیدند نقل
یکی ضمرہ رض و عامر رض چہار اند و د — ز عباد و ز عبد رحمن شنو
دگر پنج عمرو اند و دو کس عبید — دو دو ز عبد اللہ آمد بہ قید
عمیرہ رض و عمارہ رض و عبدہ رض دگر — ز عباس و عثمان رض و عنترہ شمر
پس از عقربہ رض و عقبہ و علقبہ خوان — فضالہ رض و قیس رض و یک قرہ دان
قتادہ رض و قرظہ و کیسان و بس — محیطہ رض و مالک شنو پنج کس

چو مسطح رض چو مرثد رض چو مجذر شمر | ز مقداد رض و معبد رض ز مصعب گذر
سہ نعمان یک از نوفل رض و دو بیک ... | یسار و یزید اندو و عمیر ... ک -
پس از اہل کنیت ابو الاعین است | ابو حنہ رض بو الہیثم رض حق پرست
دیو زید رض بو ... بو حرام | ابو عقیل رض و بو بیرہ رض ... نام
بود و بو عبیدہ رض یکی زان میان | دگر بو قتادہ رض ہم از شان نشان
تو بو بردہ رض و مسعود رض و سفیان ... | چنان کن ابو را کہ دی نخست
... خدا و رسولش ... مدام | بر ایشان بود تا بروز قیام
خدایا بحق رسول امین | ... بیت ...
ہم از عترت جملہ یاران او | و خاندان ... یاران او
گدایان بلال و فتاق را | نکوہیدہ اخلاق ... را
ببخشی بتوفیق طاعت و ہم | ز دنیا ... قناعت دہم
بگردان ز ہر راہ سو راہ خود | ... قریب ... خود
بایمان و ایقان بری زین جہان | ... نگہدار ایشان ...
رہانی ز ہول قیامت تمام | دہی جای او ... استلام

کیفیت مزار حضرت اسمعیل رضی اللہ عنہ - یہ بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ہیں - قبہ انکا اندرون بقیع ... مدینہ منورہ ... بنا ہوا ہے نہایت آراستہ ہے -

کیفیت مزار مالک رضی اللہ عنہ - یہ بیٹے سنان ... باپ ابو سعید خدری کی ہیں علیہم الرضوان - قبہ انکا قریب دیوار مغربی ... شہر مدینہ منورہ بیرون آبادی ... ہے -

مزار اسمعیل ...

مزار مالک رض

کیفیت مزار نفس زکیہ رضی اللہ عنہ - پوتی حسن مثنی کے ہین - قبہ انکا بیرون شہر مدینہ مطہرہ جبل سلع سے جانب شرق ہے - یہہ بوقت ابو جعفر منصور شہید ہوی -

کیفیت مزار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ - قبہ انکا مدینہ منورہ قبا سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے - اور عالیشان سامان روشنی وغیرہ سی آراستہ

کیفیت مزار عبد اللہ والد رسول اللہ علیہ السلام - قبہ انکا بیرونے آبادی مدینہ منورہ مین ہے -

کیفیت غار حجر رسول خدا علیہ التحیۃ والثنا - یہ محاذی مائدہ حسنین رضی اللہ عنہم کے ہی اور اسپر قبہ سنگین بنا ہوا ہی - یہہ جگہ جنت البقیع سے آگی بڑہکر ہے - کہتی ہین کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر کو کفار نے پکڑنے کا ارادہ کیا تہا وہ بحکم الہی آپ بجگہ پہاڑ پہٹ کر مدینہ شریف مین جا نکلے اب بہی وہان غار مثل سرنگ کے ہے حجاج اسمین داخل ہوتی ہین -

کیفیت نشان سم حجر آنحضرت علیہ السلام - یہہ بہی مائدہ حسنین کی ہے ایک پتہر مین نشان سم کا ہی اسپر قبہ نہین -

کیفیت مدفن چہل سالہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ - پہلی یہان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مدفون تہی پانی کے سیل نے مزار شریف گرا دیا جو جسم مطہر صحیح سالم برآمد ہوا تو اوٹہاکر جہان اب مزار ہے اور صدر مین ذکر اوسکا ہو چکا دفن کیا - اسجگہ بہی قبہ عالیشان ہے - یہہ جگہ قریب مشہد حضرت موصوف اور کسیقدر ہٹ کر مزار عالی سے ہے

کیفیت قیامگاہ رسول اللہ علیہ السلام - یہہ راہ مین مزار امیر حمزہ

رضی اللہ عنہ کی ہے - بطور چبوترہ کی اور چھوٹی چار دیواری بنی ہوئی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا عرصہ بوقت تشریف بری جنگ احد کے
اسجگہ قیام فرمایا ہے -

ف مقام شب باشی جناب رسول خدا صلعم

کیفیت مقام شب باشی جناب رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم
یہہ جگہ برابر مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بطور چبوترہ کی بنی ہوئی ہے
یہاں آنحضرت صلوات اللہ علیہ بموقع جنگ احد رات کو ٹھہرے ہین -

ف مشہد دندان مبارک آنحضرت صلعم

کیفیت مشہد دندان مبارک آنحضرت علیہ السلام - دندان مبارک جنگ
احد مین شہید ہوا - ایک پتھر منسوبہ دیوار پر نشان دندان مطہر موجود ہی اسجگہ
مسجد بنی ہوئی ہے ادہر ادہر نفل پڑھتے ہین - مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ
عنہ سے آگے بڑہکر یہہ جگہ ہے -

ف مشہد شہدای احد رضم

کیفیت مشہد شہدای احد رضی اللہ عنہم - اسجگہ جنگ احد مین
اصحاب شہید ہوئے [illegible] جنکا ذکر صدر مین تحریر ہوا
دفن کئے گئے - یہہ جگہ بصورت چبوترہ کی بنا ہوا ہی اور چند قدم کی فاصلہ پر مزار
شہدای احد کے ہی رضوان اللہ علیہم -

ف مشہد امیر حمزہ رضم

کیفیت مشہد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ - یہہ جگہ قریب [illegible] جبل سالہ
حضرت رض ممدوح کی ہے - اور بطور چبوترہ کے بنا ہوا ہی - یہان حضرت
موصوف شہید ہوئی -

ف مشہد حضرت عثمان رضم

کیفیت مشہد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ - یہہ جگہ مدینہ منورہ
مین مسجد نبوی کے ساتھ ہے - یہان جناب موصوف نے شہادت کو پہونچے
مکان عمدہ بنا ہوا ہے -

کیفیت مسجد قبا - یہہ مسجد مدینہ منورہ سی تخمیناً تین کوس کی بُعد رکھتی
ہی - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کا اسمین پڑھنا برابر ایک عمرہ کے
فرمایا ہے ہفتہ کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیجاتی - بڑی عالیشان
مسجد ہے - اسمین چار جگہہ زیارت کی ہین ۱ نشست گاہ جناب رسالتمآب
صلی اللہ علیہ وسلم ۲ جہان سرور کائنات علیہ السلام والصلوۃ کو مکہ معظمہ
اور زمزم دکہائی دیا ۳ جسجگہہ سرور عالم صلواۃ اللہ علیہ کا ناقہ بیٹھا تہا
۴ جہان آیت فرقانیہ نازل ہوئی **قبا** بضم اول ایک موضع ہے جو یہہ
مسجد اوسکے نام سے منسوب ہوئی ہے -

کیفیت مسجد الجمعہ - اسکو مسجد الوادی اور مسجد العاتکہ بھی کہتے ہین -
مدینہ منورہ مین آکر آنحضرت علیہ السلام نے پہلا جمعہ یہان پڑہا ہے - براہ مسجد
قبا جاتی ہوئی داہنے طرف ہے - اب یہان سنگین چار دیواری بنی ہوئی ہے

کیفیت مسجد الفضیخ - اسکو مسجد الشمس بھی کہتے ہین - یہہ بڑا ہے چبوترہ
کے ہی اور چار دیواری بھی بنی ہوئی ہے - مسجد قبا سی آگے بڑہکر جانب
مشرق ہے - بوقت چڑہائی بنی نضیر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہان
نماز پڑہی ہے - فضیخ ایک قسم کی شراب کا نام ہے جب آیت حرمت شراب
کے نازل ہوئی اوس شراب کے مشک کا دہانہ کہولکر اس جگہہ بہادی تھے
اسلئے نام اسکا مسجد الفضیخ ہوا - مسجد الشمس اسکو دو وجہ سے کہتے ہین اول
سرور عالم سید المرسلین صلواۃ اللہ علیہ بوقت تشریف آوری مکہ معظمہ
کے نماز عصر پڑہنے کو یہان ٹہری تھی اوسوقت آفتاب قریب بغروب تہا
آنحضرت علیہ السلام نے معجزہ سے آفتاب کو ٹہراکر نماز ادا کی اسواسطے مسجد الشمس نام

[illegible] پر پہلے یہان دہوپ آتی ہے اسلئی مسجد [illegible] —

[illegible] مسجد الشمس ہی —

کیفیت مسجد مشربہ ام ابراہیم [illegible] علیہم السلام — یعنی باغ والدہ [illegible] — اب یہان ایک شکستہ عمارت ویرانہ [illegible]

مسجد البغلہ

کیفیت مسجد بغلہ — یہہ بقیع سے جانب مشرق کے ہی — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہان نماز پڑہی ہے — یہان ایک پتہری جو اوسیر قاری کو بٹہاکر قران مجید پڑہوایا ہے کسی پتہر مین آنحضرت علیہ السلام کے کہنی کا اور کسی مین انکے خچر کے سم کا نشان ہے اسکو مسجد بغلہ و سفرۃ النبی بھی کہتے ہین —

مسجد الاجابہ

کیفیت مسجد الاجابہ — یہہ مسجد البقیع سے اوتر کے جانب بلندی پر ہے دو دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمین قبول ہوئین ۱ امت کا قحط سے نہ مرنا ۲ غرق سے ہلاک نہونا —

مسجد الفتح

کیفیت مسجد الفتح — اسکو مسجد الاحزاب و مسجد علی بھی کہتے ہین اسکو تخمینا ڈہائی کوس کا مدینہ منورہ سے بعد ہے — ایک ٹیلہ کوہ پر بعمارت سنگین بنی ہوی ہے — جبل سلع سے جانب مغرب مقام جنگ احزاب مین واقع ہے

مسجد حضرت سلمان وابابکر رض و علی رض

کیفیت مسجد حضرت سلمان فارسی و سیدنا ابابکر صدیق و سیدنا علی رضی اللہ عنہم — یہہ تینون مساجد متصل مسجد الفتح کے مقام جنگ احزاب مین ہین — عمارت سنگین ہے — ہر سہ حضرت اس جگہ نماز تہجد ادا فرماتے تہے —

کیفیت بنی حرام - اسکو مسجد قیف بنی حرام بھی کہتی ہین - سلع پھاڑ مین بائین طرف پڑتی ہے اگر مسجد الفتح سے مدینہ منورہ کو آوین نہایت ٹیلہ بلند کوہ پر یہہ قبہ بنا ہوا ہے بدقت اسپر چڑھا جاتا ہے مختصر عمارت ہے - اور اسمین ایک غار ہی کہتی ہین کہ یہان رسول اللہ علیہ التحیۃ والثنا مغفرت امت کی لیے مقیم رہی تھے اب لوگ تبرکا اسمین سے نکلتے ہین -

کیفیت مسجد القبلتین - یہہ مسجد الفتح سے آدہ کوس جانب مغرب ہے اسمین ایک محراب بیت المقدس کے طرف اور دوسرے کعبہ کیجانب ہے لیکن محراب جانب کعبہ پر مسجد بنی ہوی ہے اور محراب بیت المقدس کی دیوار مین ہے

کیفیت مسجد السقیا - شش گز طول وعرض مین یہہ مسجد ہے - مکہ معظمہ سے جانی والی کو پہلی ملتی ہے بہت چھوٹی مسجد ہے -

کیفیت مسجد الرایہ - یہہ مدینہ منورہ سی باہر ہے - شام کی راہ مین کوہ ذباب پر واقع ہے - جو مدینہ منورہ سی شام کو جاوی اوسکو داہنے پر ملتی ہی - اور جبل سلع سے جانب مشرق ہے -

کیفیت مسجد صغیر - اسکو مسجد الفسح بہی کہتی ہین - احد کو جاتی ہوے مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے مشرق کیطرف ہے - آیت یاایہا الذین آمنوا تفسحوا فی المجالس الخ اسجگہ نازل ہوی اسی لیے اسکو مسجد الفسح کہتی ہین -

کیفیت مسجد ابی ذر کہ - یہہ مزار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جاتی ہوے داہنی طرف پڑتی ہے -

کیفیت مسجد مصلی عید - بیرون شہر مدینہ منورہ جانب مغرب کے ملی

مسجد بنات النجار

کیفیت مسجد بنات النجار — اس جگہ جناب رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھی تو دختران بنجار نے آنحضرت علیہ السلام کی شان عالی مین یہہ گایا تہا شعر [illegible] مرحبا + یا اهلاً [illegible] وادی قبا + واظہر الدین [illegible] البنا — اب یہان مسجد سنگین ہے [illegible] اور دختران بنجار کے نام سے مشہور ہے —

مسجد غمامہ

کیفیت مسجد غمامہ — یہہ آبادی بیرونی مدینہ منورہ مین ہے — عمارت عالی ہی — آنحضرت [illegible] موجودات صلی اللہ علیہ [illegible] پر بادل سایہ کرتا تہا

مائدہ حسنین

کیفیت مائدہ [illegible] یہہ جگہ جنت البقیع سی آگے بڑہکر ہے یہان [illegible] قبہ کی بائین جانب کے گوشہ مین قریب دروازہ [illegible] پر پانو کا نشان ہے لوگ [illegible] ہمراہ گہر سے لیجاتی ہین [illegible] اکثر خود کہاتی ہین اور [illegible] وہان بہی حاضرین کو [illegible] کہتی ہین [illegible] رضی اللہ عنہما شدت گرسنگی سے [illegible] جناب [illegible] فرزند [illegible] بہی جناب مطہر علیہ السلام [illegible] حال سے آگاہ ہوکر دعا مانگی اور اسیوقت ایک دسترخوان نازل ہوا [illegible] حاضرین [illegible] تناول فرمایا اور جس جگہ وہ پیالہ [illegible] نشان ہو گیا [illegible] اسکو مائدہ حسنین رضی اللہ عنہما کہتی ہین —

بیر اریس

کیفیت بیر اریس — یہہ [illegible] چاہ کی ہے — اسکو بیر خاتم بہی کہتی ہین قریب مسجد قبا جانب [illegible] واقع ہے — اسکی اوپر قبہ [illegible] ہوا ہی اور اوسی قبہ مین مسجد [illegible] نوافل کے ہے اور محاذی ایک مختصر حوض

حوض ہے پتھر کا۔ اوسمین پانی بھرا رہتا ہے لوگ تبرکاً اوسمین سے پانی پیتے ہین اور غسل و وضو کرتے ہین کچھ مجاورین کو دینا ہوتا ہے۔

کیفیت بیر غرس۔ مسجد قبا جانب شرق بفاصلہ نصف میل کے واقع ہے۔

کیفیت بیر بصہ۔ قبا کو جاتی جنت البقیع سے آگے جانب بائین ہے۔

کیفیت بیر حاکہ۔ سامنے مسجد نبوی کے دیوار مدینہ منورہ کے باہر باغ ابو طلحہ مین ہے۔

کیفیت بیر شہداء۔ بیرون دروازہ شامی جو اس طرف جاتی ہے مزار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو باغ جبل کے پاس واقع ہے۔

کیفیت بیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اسکو بیر رومہ بھی کہتے ہین مدینہ منورہ سے ... آگے ... جانب ... عقیق مین ... ایک مسجد بھی ہے۔ پانی اسکا بہت صفت موصوف ... بہتری مین معروف ہے اکثر اہل مدینہ بیمارون کو اسکا پانی پلاتے ہین۔ پہلی یہہ ایک یہود کی قبضہ مین تھا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حسب الارشاد آنحضرت علیہ السلام مول لیکر وقف کر دیا۔

فصل ہفتم مین فہرست تبرکات مع غیرہ جو حجاج کو مدینہ شریف سے لانی چاہئین اور کیفیت بعض اونکے

۱۔ غلاف سبز اندرون روضہ مطہر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔

۲۔ خاک پاک مسجد نبوی و مزار مطہر سرور عالم علیہ السلام۔

۳۔ خاک پاک اون مقامات کی جہان خلاصہ موجودات علیہ السلام نے قیام فرمایا۔

۴ خاک جاروب کشی مزارات ۔	۵ موم شمع روضہ مطہر علیہ السلام
۶ عود روضہ مقدس صحابات اہلبیعہ ۔	۷ روغن زیتون بقیہ وشنی روضہ انور علیہ السلام ۔
۸ برادہ صندل مفروشہ روضہ پاک علیہ التحیۃ والثنا ۔	۹ آب چاہ فاطمہ واقع مسجد نبوی اسکو زمزم مدینہ بھی کہتی ہین ۔
۱۰ ثمر کہجور فاطمہ متصلہ چاہ مذکور ۔	
۱۱ آب غسل روضہ مطہر علیہ السلام ۔	۱۲ کہجور بے تخم اسکو کہجور معجزہ بھی کہتے ہین
۱۳ کہجور جلی ہوئی اسکو بھی معجزہ کی کہجور کہتے ہین ۔	۱۴ کہجور برنی وغیرہ ۔
	۱۵ قرصہای خاک شفا مدینہ منورہ
۱۶ پانی چاہ ہای متبرکہ مدینہ منورہ کا جو مندرج فصل ششم باب ہذا ہی	۱۷ تسبیح الدلایل سے اجازت پڑہنے دلائل الخیرات کے حاصل کرے ۔
۱۸ بیضہ نعم جو نہایت کلان ہوتا ہے اور اوسکو خالی کرکے مزارات کے زیبایش کے لئے لٹکاتے ہین ۔	۱۹ پنجہ مریم ۳ ۔
	۲۰ نور النبی ۳ ۔

غلاف اندرون روضہ مطہر

کیفیت غلاف اندرون روضہ مطہر علیہ السلام ۔ یہہ غلاف وجہ دوم روضہ مطہر کا ہوتا ہے ۔ رنگ سبز ریشمی بافندگی مین منقش ہی درود شریف و اسمای پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتا ہے ۔ ہدیہ مین گران تری جو پائے سے دستیاب ہوتا ہے ۔ تخت روم پر جب سلطان جدید بیٹھتا ہے تو عرصہ بیس برس مین بصرف کثیر تیار کرکے چڑہاتا ہے ۔

خاک پاک مسجد و مزار نبوی

کیفیت خاک پاک مسجد و مزار نبوی علیہ السلام ۔ منجانب سلطان روم خلداللہ ملکہ حبشی خادم مقرر ہین بلحاظ خدمات و محافظت اونکی ذمہ ہی یہہ لوگ بذریعہ جاروب خاک پاک عطر آمیز کاکلہ با خدمہ ہدیۃ دیتی ہین ۔

کیفیت موم وعود وروغن زیتون وبرادہ صندل یہہ حسب ذیل خدام مونسی یا دای ہدیہ خواہ بطور خود خواہ معرفت مزور حاصل ہوتے ہی — حال انکا یہہ ہے کہ درجہ دوم روضۂ پاک مین موم وعود کے بتی وروغن زیتون جلتا ہے اوسکا بقیہ بطور تبرک خدام دیتی ہین اور برادہ صندل درجہ دوم روضۂ مطہر کے دیوار کے گرد واسطے عطریت کے بچھا ہوا ہے اور وہ بدلا جاتا ہے اوسمین سے خدام دیتی ہین

کیفیت آب چاہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا — چہوٹی سے کوئی مسجد نبوی کے صحن مین ہے اوسکا پانی بطور آب زمزم مکہ معظمہ کے ٹین کے زمزمیون مین لاتے ہین خواہ خود پانی لیکر کسی ظرف یا زمزمی مین موہنہ بند کرکے لاوین — یا بازار سے تیار زمزمی پر از آب وہان بند خرید لین —

کیفیت آب غسل روضہ مطہر علیہ السلام — روضۂ مطہر ومسجد نبوی کا ایک پنالہ جانب صحن کے ہے جب بارش ہوتی ہے لوگ اوس پنالہ کا پانی جمع کرکے بطور آب چاہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بطور خود یا بازار سے لاتے ہین —

کیفیت کہجور ہر قسم — کہجور اکثر ہوای سمندر سے کرم خوردہ ہوجاتی ہی اسلئی ٹین کے پٹاری بنا کر اوسمین کہجور کے تہ لگا کر ایسا قلعی سے بند کرتے ہین جو اوسمین ہوا سرایت نہ کرے — مدینہ منورہ مین نہایت عمدہ کہجور انواع اقسام کے ہوتے ہین —

کیفیت قرصہای خاک شفا مدینہ منورہ — مدینہ شریفہ کے نواح مین ایک جگہ ہے جو بحکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجروحین جہاد علیحدہ ہوکر شفایاب ہوئی تھی اب اوسجگہ کے خاک کے ٹکیان بناکر فی قرص سکہ سلطانی ستو عدد ٹکی اوسکے دیتے ہین پہوڑی اور زخم پر لگانے سے صحت

ہوتی ہے اسلیے لوگ اسکو شفا کیواسطے پیتے ہیں -

کیفیت آب چاہ فاطمہ - انکا پانی یا خود بوقت زیارت کوزونمین جمع کرین یا معرفت خدمتگاران اسی اجرت منگاکر بطور آب چاہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ لاوی -

کیفیت اجازت مزاولت دلایل الخیرات - دو حضرت دلائل الخیرات کی اجازت بخشتے ہین - ایک محمد مغربی - دوسرے علی حریری - اور دونونکے اجازت مین کسیقدر تفاوت لفظی ہے لیکن دونونکا طریق واجب التسلیم ہے - فی الحال محمد مغربی رحلت فرماگئے - اونکے جانشین مسجد نبوی مین اجازت دیتے ہین اور شیخ حریری اپنی دوکانداری مین مشغول ہین اونکے ارشاد سے جناب شیخ محمد صاحب آکر اونکی صبح سے شام تک سرہانے آنحضرت عم کے بیٹھے رہتے ہین اور ہر ملک کے لوگ بعد نماز کے بعد دیگری حاضر ہو کر دلائل الخیرات سناتے ہین اور بعد صحت کتاب شیخ صاحب موصوف اجازت نامہ تحریری عنایت فرماتے ہین - اسوقت نقدی بقدر وسعت خود نذر کرنا ہوتا ہے -

کیفیت پنجۂ مریم - یہہ ایک قسم روئیدگی کی ہے جو رابغ و مدینہ منورہ کے بصورت پنجہ کے ہوتی ہے - اگر عورت کو جننے مین تنگی واقع ہو تو ایک پنجہ کو پانی مین ڈالکر درود شریف پڑہتے ہین وہ کشادہ ہوتا ہے وہ پانی عورت کو پلانیسے عسر ولادت دور ہوجاتی ہے اور وہ پنجہ پانیسے نکالنے پر پہر بصورت اصلی خود ہو جاتا ہے -

کیفیت نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم - یہہ بہی روئیدگی ہے قریب مدینہ منورہ کے سنگریزونمین پائی جاتی ہے بادام کا مزہ اسکے برگ کے کہانیمین آتا ہے اسکو آنحضرت صلواۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا ہے -

باب دوم میں مندرج ہیں نصائح سفر بری و آسایش سفر بابت صحت

(جسمیں نمبر تیرہ اور یہ مشتمل ہے اوپر آٹھ فصل کے)

فصل اول میں ذکر ہے اون باتونکا جو باعث آسایش مسافران ہندوستان ہیں مخفی نہ رہی کہ ہندوستان میں تا بمبئی یا کلکتہ جہاز کو سفر بحری ہوتا ہی — اور بسواری ریل مسافر بہت آسایش اور جلدی اور کفایت سے منزل مقصود کو پہونچتا ہے — اسمیں چند عمل باعث آسایش مسافر ہیں —

۱ ڈبل روٹی و بسکٹ ہمراہ رکھی بعض جگہ کہانا نہیں ملتا اس سے کام نکلتا ہے

۲ اسباب محصول دیکر ریل میں رکھی — گو بلا محصول ہمراہ لیجا نہیں گو نہ کفایت ہے مگر مسافر کو اسباب کے اوٹھانے اور پاپ بانی کرنے میں نہایت وقت رہتی ہے علاوہ ازین شرعًا بھی اس قسم کے بدعہدی ممنوع ہی — اور مہتمان ریل بھی اگر کسی جگہ دیکھہ لیتے ہیں سو ہے لینے کرایہ اسباب کے ذلیل کرتے ہیں

۳ وقت معین ریل کے روانگی سے پہلی اسٹیشن پر جانا چاہیے تاکہ بسہولت ٹکٹ حاصل کرکے سوار ہو جاوے —

۴ ریل میں اسقدر سفر کرے جو شام کو کسی جگہ آرام پاوے دو دو دن شب میں ازحد تکلیف ہے اور اسکا خیال بوقت لینی ٹکٹ کے رکھنا چاہیے کیا معنی کہ جہانتک کا ٹکٹ لیا جاویگا وہان اوترنا ہوگا —

۵ ٹکٹ بڑی احتیاط سے اپنی پاس رکھی کس واسطے کہ بوقت اترنے ریل کے وہ واپس لیا جاتا ہے اگر گم گیا ہو تو جس جگہ سے ابتدا اوس ریل کے ہوتی ہے وہانتک کا کرایہ دینا پڑتا ہے اور ذلت سوا ہے — بقول یکے رفتن مایہ — دوم شماتت ہمسایہ —

۶ ٹکٹ آج کا کل کام مین نہین آتا اسکو یاد رکھی -

۷ ریل مین بہ ہوشیاری بیٹھی اکثر دزد وگرہ بر غافل دیکھکر اسباب اوٹھا لیجاتے ہین -

۸ جانور مثل کبوتر و بلی وغیرہ وحوش وطیور کا کرایہ دینا ہوتا ہے تعداد اوسکے اسٹیشن ریلوی سے دریافت ہوسکتی ہے -

۹ عینک غباری ریل مین لگائے رکھی تاکہ دہوی وچنگاری و گرم ہوائے انجن سے آنکھین محفوظ رہین -

۱۰ لوٹہ ڈوری کٹوری ہمراہ رکھی اگرچہ اسٹیشن پر پانی پلانیکی لئے سقہ موجود ہوتی ہین مگر تاہم بغیر کٹوری کے دقت ہوتی ہے - اور بعض جگہ بسبب بے احتیاطی پانی موجودہ اسٹیشن سے کراہت لاحق ہوکر خود کوئی سے پانی لانا ہوتا ہے ایسی حالت مین لوٹہ ڈوری درکار ہے -

۱۱ اگر رفع ضرورت کی لیئ ریل سے اوتری تو بہت جلد فراغت ہوکر سوار ہو والا ریل روانہ ہوجاتی ہے مسافر رہ جاتا ہے -

۱۲ گھڑی ہمراہ رکھی تاکہ وقت نماز و روانگی ریل سے بآسانی واقفیت حاصل ہوتی رہے -

۱۳ جب ریل پر سی اوتری سواری کرایہ مین سوار ہوکر فرودگاہ پر جاوی ایک تو موجب آسایش تن وقیام قوت جسم دوسری بلا تجسس گاڑیوان سرای مین لیجاتا ہی خصوص بمبئی مین جو شہر عظیم الشان ہے یکایک خود مسافر فرودگاہ پر نہین پہونچسکتا سوای مسافرخانہ اسمعیل سیٹھہ واقع بھنڈی بازار کی اور کوئی بمبئی مین سرای نہین ہے اسمین البتہ سب طرح سے

ہر کسی مسافر کو آرام ملتا ہی یعنی مکان بے کرایہ اور پانی بلا قیمت سیٹھ موصوف کی طرف سے ملتا ہے

فصل دوم حال اون سامان کا مندرج ہے جو ہندوستانی لوگ ہندوستان سے لیجائیں اور عرب شریف (میں اوس سے فائدہ اوٹھائیں)

کس واسطے کہ وہ چیزین عربستان میں اچھی نہین ملتی اگر ملتی ہین تو نہایت قیمت مین گران ہین۔ اور حجاج کو عربستان مین جدہ شریفہ سے تا مدینہ منورہ سفر بڑے ہوتا ہے۔

۱ اشیای خوردنی مثل اچار و مربے و قند سیاہ و بورہ و شکر و کہانڈ وغیرہ نبات کوزہ کی اگر ہند سے لیجائی تو مضایقہ نہین والا نبات مصری جو نہایت عمدہ ہوتی ہے مکہ معظمہ مین ارزان ملتی ہے۔

۲ گندم و نخود و برنج وغیرہ غلہ جسقدر ممکن ہو۔

۳ رسی سوت و سوئی و چاکو جو شغدف کے درستی کے لیئے سفر مدینہ منورہ مین ضروری کار آمد ہین۔

۴ پارچہ سفید پوشیدنی وغیرہ حتی الامکان کہ ملتی کہ عربستان مین ہو بہی کم ہے

۵ خیمہ و پاخانہ و قنات وغیرہ پارچہ کا۔

۶ ستطرنجی واسطہ فرش کے اور چہوٹی یا کہیس یا کوئی اور کپڑا دبیز واسطے مڈہنے شغدف کے۔

۷ عینک غباری جو عربستان مین اکثر آندھی و غبار رہتا ہے۔

۸ سلاحات مثل تلوار و بندوق و تمنچہ وغیرہ جو سفر مدینہ شریف مین درکار ہین

۹ سرمہ دانی و کنگہا و شیشہ وغیرہ —
۱۰ کاغذ سیاہی قلم وغیرہ سامان تحریر —
۱۱ چہتری جو عرب شریف مین دہوپ تیز ہوتی ہے —
۱۲ جوتا یعنی پاپوش جو وہان حسب پسند ہندوستانیون کے نہین ملتا اور
بخلاف چپل جو عرب کا جوتا ہے ہندوستانی جوتا احرام مین پہنا بہی رست ہے —
۱۳ پارچہ مین کہرہ و ململ و دلبیں و دیگر پارچات باریک جو عرب مین نہین ہے —
۱۴ پارچہ پشمی و پشمینہ مثل چوریہ و دارائی و گورنٹ اطلس و دوشالہ و رومال
و چادر و جامہ دار و شملہ وغیرہ —
۱۵ لٹہ واسطے احرام کے اگرچہ یہ عرب مین ہوتا ہے مگر احرام جو جہاز مین باندہتے
ہین اور جہاز مین لٹہ ملنا محال ہے —
۱۶ آئینہ جو عادی کو دراہم نہین ملتی —
۱۷ اہل و سست کو لازم ہے کہ قدر پارچہ لٹہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہمراہ رکھے
اگر ہمراہی مین کسیکو موت کیہہ لیا تو کار آمد کفن ہوگا —
۱۸ مشک جو حرم جو سفر میں ہے میں پانی سے بہر کر ہمراہ رکھتی ہین —
۱۹ بادکش یعنی پنکہہ جو جہاز مین بسبب قلت ہوا کے درکار ہے —
۲۰ لوئی و کمل و چوتہی و کہیس اگر ایک ایک فی نفر ہمراہ لیجائی تو نہایت کارآمد
اور فایدہ بخش ہے —
۲۱ مقراض و چاکو و استرا و موچنہ —
۲۲ صندوق واسطے پارچات وغیرہ کے — صندوقچہ واسطی حفاظت
چہوٹی چیزون وغیرہ کی —

۲۳ کپی چرمی قفل دار واسطے روشن زرد کے —

۲۴ جوہر لیمو — جوہر آلو بخارا — جوہر تمر ہندی — سرکہ —

۲۵ بتی موم و دیو می سلائی —

۲۶ لال ٹین جو جہاز مین کار آمد ہے —

فصل سیوم مین چیزین باحتیاج سفر عرب شریف [illegible]

۱ جدہ شریف سے شغدف شبری خرید کرے یہ دو دونون آبجگہ بہی بخوبی [illegible]
مکہ معظمہ مین مضبوط و عمدہ دستیاب نہین ہوتی —
۲ حرم شریف کے جانیکے وقت جو حجاج روپیہ وغیرہ خیرات کی لیئے لیجاتی ہین
معلم لوگ بطمع خود گرہ بروان سے ڈرا کر خود بانٹنیکو لیتی ہین انکی بات ہرگز
نہ ماننا چاہیئے اور اپنی ہاتہہ سے خیرات کرنا چاہیئے —
۳ حجاج مجرد بی وسعت کو رباط یعنی سرائے خیراتی مین فرود کش ہونا چاہیئے
جسمین کرایہ نہین — اہل وسعت مجرد رباط غیر خیرات مین ٹہرے جو فی نفر ایک [illegible]
کرایہ دیکر بہمہ جہت آرام ملتاہے —
۴ حجاج اہل وسعت اگر مع قبائل ہو تو مکان علیحدہ بہر کیف کرایہ لیکر فرودکش ہو
بدانست بندہ اہل وسعت مجرد کو بہی مکان کرایہ لیکر ٹہرنا چاہیئے اور کرایہ لینی مکان
مین شرائط ذیل عمل مین لاوی اول یہ کہ بعد معاینہ مکانات مختلف و دریافت
حال کرایہ ہر ایک ایک مکانین مقرر کرنا چاہیئے تاکہ نرخ کرایہ معلوم ہوجاوی دوم
جس مکانین فرودکش ہو پہلے کرایہ و مدت قیام مقرر کرلیوی والا وہ لوگ پہلی تو باخلاق
اپنی مکانین ٹہرالیتے ہین اور پہر بوقت روانگی مدینہ منورہ نہایت سختی سے

کرایہ لیتی ہین اور بعد واپس آنے مدینہ منورہ کے وہ مکان کرایہ سابقہ مین نہین
دیتی البتہ اگر دوسرے آدمی کو وہ مکان بکرایہ دیا ہو تو جدید کرایہ مقرر کر کے دیتی ہین
بایں صورت بوقت مشرف ہونے مکہ معظمہ کے تلاش مکانین معاً نہایت سرگردانی
لاحق ہوتی ہے سیوم مکان مع بالاخانہ وسقف مکان وغسلخانہ و باورچیخانہ دالان
و دالان و صحن و پاخانہ کرایہ لینا چاہیئے جو بدون انکی انواع تکالیف عاید ہونے
ہی چہارم بخلاف رسم ہندوستان کے حاجی کو چاہیئے کہ دستاویز مالک مکان
سے اس قسم کے حاصل کرے کہ جسمین تفصیل جا مکانات مثل بالاخانہ وغیرہ بالتشریح
مندرج ہو اور نیز تعداد قیام یعنی تا روانگی وطن تحریر ہو جو موجب آسایش ہے
ورنہ وہ لوگ بوقت دینی مکان کے زبانی وعدہ کر لیتے ہین اور پیچھی سے اگر دستاویز
مین ذکر اوسکا نہو خلاف وعدہ خود عمل کر کے اذیت دیتی ہین ۔

۵ غلہ ہر قسم کا مثل آرد و برنج وغیرہ وسامان خوراک مکہ معظمہ سے بقدر خرچ سفر
مدینہ منورہ خرید کر ہمراہ لیجاوے ۔

۶ سفر مدینہ منورہ مین اکثر اونٹ پر سے پیشاب کرنا ہوتا ہے اسلئے ظرف مخصوص
اس عمل کا لینا چاہیئے ۔ اس ظرف کو مشتجا کہتے ہین عرب شریف مین ٹین
والون کے دوکان سے ملتا ہے ۔

۷ پارچہ پوشیدنی اپنی گھر پر دھونی چاہیئے کسلیئے کہ عرب مین دھوبی اچھے
نہین ہوتی فقط صابون سے دھو کر فی پارچہ ایک قرش اجرت لیتے ہین ۔

۸ بوقت ارادہ سفر مدینہ منورہ کے سب اسباب نقد وجنس مکہ معظمہ مین کسی
دوست یا مطوف کی گھر مین امانتاً رکھا جاوے جزوی ضروری چیزین ہمراہ
لیجاین و الا راستہ مین اندیشہ نقصان ہے اور یہی طریقہ بالفعل حجاج مین جاری

۹ بوقت سفر مدینہ منورہ کے بطور خود اونٹ کرایہ کرنے چاہیئے کس واسطے کہ مطوف وغیرہ دیگر کرایہ زیادہ دلاتے ہین اور جمال یعنی اونٹ والونسی حصہ اپنا ٹہرا لیتے ہین —

۱۰ اونٹ معرفت جمال مشہور کے بضمانت کرایہ کرنے چاہیئے — ضمانت کا یہہ حال ہے کہ اونٹ والونکا ایک افسر ہوتا ہے اوسکو شیخ الجمال کہتے ہین اوس سے بابت سلامتی قافلہ پیشگاہ حکام مین ضمانت لیئی ہوی ہوتی ہے اگر اوسکے اونٹ کرایہ کیئے جاوین تو اندیشہ زیان جان ومال ودست بردی غارت گران کا سفر مدینہ شریف مین کم ہوتا ہے اور وہ ذمہ ار ہر امر کے ہوتی ہین اور جو مال اونٹ پر سے جاتا رہے وہ جمال سے حاکم دلاتے ہین اور جو منزل مین سے چوری جاوے اوسکی ذمہ واری جمال کے نہین — اور شیخ الجمال سے بوقت روانگی قافلہ تا واپسی مدینہ مقدسہ و ایصال مکہ معظمہ کے ضمانت مین دو ایک آدمی قرابتی اوسکے حکام حوالات مین رکھتی ہین —

۱۱ بوقت تقرری کرایہ کی جمال ذی الناس کا لفظ کہتی ہین یعنی جیسے اور لوگ [illegible] دینا — اسکو نماننا چاہیئے اور کرایہ کی تعداد مقرر کرنی چاہیئے کس لیئے کہ [illegible] اوی تو کرایہ لینی مین وہ لوگ دق کرتے ہین —

۱۲ [illegible] کے سوای کرایہ ذمہ حجاج ہوتی ہے لازم ہے کہ اونکو نرم زبانی وخوش [illegible] بخشش رکھی —

۱۳ تنخود بر [illegible] ور کہجور مکہ معظمہ سے خرید کر ساتھہ لیجائی سوای نان دو وقت کے یہہ دونو [illegible] نقل جمال کو دیا کرین وہ اسکو کہا کر خوش ہوتی ہین خوشنودی جمال پر [illegible] آسایش وحفاظت سفر کا حصر ہے —

۱۴۔ قافلہ سے پس و پیش نہ رہنا ایک شب ہم نے فرق مین بدو لوگ لوٹ لیتے ہین اور مار ڈالتے ہین ۔

۱۵۔ ارتحال کی ہوشیاری رکھنا چاہیئے کس لیئے کہ اگر قیام ہے تو غفلت مین چیز کا اندیشہ ہے ۔ اگر چلتے ہین تو دزد و غارت گر بیخبر دیکھکر ایسا کرتے ہین کہ اسباب وغیرہ جو کہ پیچھے کے اونٹ پر باندہا ہوا ہوتا ہے اوسکو کارد سے کاٹ کر کچھہ نکال لیجاتے ہین اور باقی گر کے ضایع ہوتا ہے ۔ یا قطار مین سے چند اونٹ نکالکر غار کوہ مین (لیجا کر بلا اسباب وغیرہ لوٹتی ہین)

فصل چہارم مین تذکرہ ہی بابت حفظ صحت مسافر موسم گرما

واضح ہو کہ جو صاحب موسم گرما مین سفر کرین اونکو چند باتین لازم ہین ۔

۱۔ سر کو دہوپ سے بچاوے ۔ ۲۔ روغن بنفشہ سر پر ملین ۔

۳۔ لعاب اسپغول و تخم خرفہ کا سینہ پر لیپ کرین ۔

۴۔ پہلے سوار ہونیکے ستو بہوا اور شربت میوجات تناول کرکے اسقدر تامل کرین جو معدہ مین وہ غذا پکڑے ۔

۵۔ اگر بسبب شدت گرما کے ضعف قوی کا اندیشہ ہو تو رات کو سفر کرے اور دن مین آرام کرے اور مکان بلند مین ٹہرے ۔ ۶۔ اگر مقام زہرناک سے گذر ہو تو منہہ اور ناک کو رومال سے باندہین آخر پیاز دہی کے ساتھہ کہاوین آخر روغن مغز تخم کدو و روغن بادام ناک مین ٹپکاوین ۔ ۷۔ انبہ خام کا پوست دور کرین اور گٹھلی اوسکے ریزہ ریزہ کرکے دو گہڑی پانی مین رکہین جو پانی کسیقدر ترش ہو جاوے صاف کرکے قند یا نبات ملا کر تناول کرین رفع اذیت ہواے سمی کے کرتا ہے ۔

۸ انب خام کو گرم خاک مین کہین جو نرم ہو جاوے اوسکو نکالکر پانیمین نچوڑ دیوین اور قند یا نبات سی شیرین کرکے پیوین دافع سمیت ہوا ہوتا ہے –

۹ اگر تشنگی غلبہ کری کلّی پانی سرد سے کرین بحالت مجبوری تہوڑا تہوڑا پانی پیوین آخر شراب قیق پانی مین ملا کر دیوین آخر افشردہ فالسہ قند و گلاب مین پیوین آخر دودہ اور دھی کہاوین –

۱۰ تمر ہندی اور فشردہ تمر ہندی دافع تشنگی و سمیت ہوای جاری ہے –

۱۱ کسیرو گڑ کے گلاب نبات مین حل اور صاف کرکے تناول کرین دافع تشنگی و سمیت ہوا ہے –

۱۲ اگر ہوا وبائی ہو – زہر مہرہ بقدر چار جو کے ہمیشہ کہایا کرین آخر نارجیل دریائی بقدر سہ ماشہ گلاب کے کہاوین آخر سونگہنا ترنج کا اور ترش کرنا اوسکے پتو نکا مفید ہے آخر سونگہنا نارنج و برگ نارنج کا فائدہ مند ہے آخر سونگہنا لیموں کا نافع آخر سیب اور بہی اور ناشپاتی اور نیلوفر اور بنفشہ اور کدو اور گلسرخ فرداً فرداً یا مجموع اپنی پاس رکھے –

۱۳ بخور موم دافع عفونت ہوای وبائی ہے –

۱۴ کافور و موتہہ و صندل و مشک و اگر و عنبر و مشک و اترج و طرفا و ورق چنار کی فرداً فرداً یا مجموع دہونی دیجاوی مصلح ہوا ہے – آخر آب بید و گلاب گہر مین چھڑکین

۱۵ جو شخص سیتا اپنی پاس رکھی ہوا سے بد سے محفوظ رہے –

فصل پنجم مین گفتگو ہی بیچ حفظ صحت مسافر موسم سرما

جب صاحب موسم سرما مین سفر کرین اونکو چند باتین لابد ہین –

۱ گرم کپڑا بدن پر رکھیں ۔ ۲ منہ اور ناک کو ہوا سرد سی بچاوین ۔
۳ اول شراب صرف تناول کریں کہ یہ عرصہ قیام کریں جب معدہ مین قرار پکڑے
پہر روانہ ہوں کیونکہ خالی شکم مسافرت روا نہین ۔ ۴ پاتابہ پشمی
پاؤن پر لپیٹ کے موزہ پہرین مگر موزہ ایسا ہو جو اوسمین جنبش پا ممکن ہو ۔

فصل ششم مین تدبیر حفاظت رنگ چہرہ مسافر کی ہے

مسافرت مین ضرور ہے جو رنگ چہرہ کا متغیر ہو ۔ پس اگر تدابیر مفصلہ ذیل عمل
مین آوین تو اس آفت سے محفوظ رہے ۔
۱ لعاب اسپغول و کتیرا و صمغ عربی و سفیدہ تخم مرغ چہرہ پر لیپ کرین تاکہ اثر
گرمی و سردی غبار سے محفوظ رہے ۔
۲ روئی خشک پانیمین ترکرکے لیپ کرین ۔ ۳ نان سپید پانی مین بہگو کر لیپ کرین
۴ موم سفید کو روغن چنبیلی مین پگہلا کر مکرر پانیسی دہو کر مونہہ پر ملین بعضی عطر
بہی اسمین اسواسطے خوشبو کی داخل کرتے ہین ۔

فصل ہفتم مین تدابیر دفع مضرت آبہای مختلفہ کے مندرج ہی

۱ اگر مسافر پانی اپنی شہر کا ہمراہ رکہی اور فرودگاہ کی پانی مین ملاکر پیوین مفید ہی ۔
۲ مٹی اپنی شہر کی ساتھہ لیجاتی اور آب منزل مین ملاکر حرکت دیوین
اور صبر کرین جب تہہ نشین ہو اور پانی صاف نکلی پس تناول کرین ۔
۳ آب منزل کو دیگ مین ڈالکر پکاوین جب نصف پانی باقی رہے صاف اور سرد
کرکے نوش کرین ۔

حفاظت رنگ چہرہ

دفع مضرت آبہای مختلف

۴ اگر خالص پانی کا مثل گلاب عرق کھینچکر تناول کرین مفید ہے —

۵ ظرف گلی مین سوراخ کرکے پانی سے پر کرکے دوسرے ظرف مین بلندی پر رکھکر ٹپکا وین

۶ دیگمین پانی بہر کر اور اوسکے مونہہ پر لکڑی بدینصورت ✕ رکھکر اوسپر صوف پاکیزہ ندافی اسقدر رکہین جو دہن دیگ کو ڈہکی اور نیچے دیگ کے آگ جلائین جو بخار صوف پر آوے اور پہر دیگ مین ٹپکی جب اسیطرح چند مرتبہ ہو تو صوف کے پانیکو دیکہین اگر شیرین معلوم ہو تو دوسرے ظرف مین نچوڑ لین اسیطرح دو تین بار عرق لیوین اور پانی دیگ کا گرادین اس عمل سے پانی شور و تلخ شیرین ہوجاتا ہے

۷ دو قدح لیکر ایک کو پانی سے پر کرکے دوسرا خالی اوسکی پہلو مین رکہین اور سر ایک فتیلہ صوف پاکیزہ کا ایک قدح مین اور دوسرا سرا اوسکا دوسرے قدح مین اسطرح رکہین جو پانی فتیلہ مین سے ہوکر خالی قدح مین آوے پس استعمال کرین —

۸ اگر نرملی کو پیسکر گدلی پانیمین ملاوین تو بعد ایک گہنٹہ کے پانی صاف ہوجاتا ہی — اخر پہٹکری پیسکر پانی مین ملانے سے بہی فایدہ ظاہر ہوتا ہے اخر متعز بادام ہر گرکے ملاوین — ۹ آب شور مین اگر سرکہ یا سکنجبین ملا کر پیوین دافع مضرت ہے

۱۰ پہلی چینی آب تلخ اور دیگر آبہای ردیہ کے اگر نخود یا پانی اونکا تناول کرین تو دافع مضرت ہے

۱۱ کہانا میوہ ہای سرد کا مثل انار وغیرہ بہی سبب دافع مضرت آبہای ایستادہ ہے —

۱۲ حب الاس و زعرور و خرنوب پانیمین ڈالکر اسقدر توقف کرین جو اونکا اثر پانی مین آوے پہر تناول کرین مفید ہے — ۱۳ مسافر کو طعام بغیر لہسن و پیاز کے کہانا چاہیے

۱۴ پانی چہانکر پینا چاہیے — ۱۵ پیاز ساتہہ سرکہ کے کہانا مفید ہے — ۱۶ لہسن ساتہہ سرکہ کے کہاوی — ۱۷ کاہو کا کہانا فائدہ مند ہے ۱۸ مداومت زہر مہرہ کی بقدر چار جو کے دافع مضرت آب و ہوا ہے

۱۹ کہانا بقدر ایک چانول کے ناجیل ودریائی کا ہمراہ گلاب کے ہفتہ مین دو بار —

بنیا اوسکے غلاف مین پانیکا مضرت آب و ہوا کو دور کرتا ہے —

۲۔ آب ملخ کہ اشیای چرب و شیرین کے ساتھہ کہاوین —

فصل ہشتم مین ذکر ہے اون چیزون کا جو مسافر کو ہمراہ رکہنی ضرور چاہیے

۱۔ جو شخص مبتلا بمرض دائمی ہو یا مستعد حدوث مرض ہو — اوسکو چاہیے کہ ادویہ دافع اوسکے ہمراہ رکہی — ۲۔ ادویہ حار موسم سرما مین اور ادویہ بارد موسم گرما مین رکہی — ۳۔ ادویہ دافع امراض کثیر الوقوع مثل سعفہ و تپ وغیرہ ہمراہ رکہے ۴۔ ادویہ مقوی دل و دماغ و دافع اسہال مثل مشک و عنبر و مفرح حار و بارد و قرص کافور وغیرہم ہمراہ رکہین — ۵۔ جو جابجا زہریلی جانورون سے ڈرتا ہو دافع سموم شربت کے شاخ گاو کوہی و فاد زہر حجر الحیہ و مہرہ مار و تریاق فاروقی و تریاق اربعہ و خطائی و ہستان و طین مختوم و نارجیل دریائی وغیرہ مثل انکے ہمراہ رکہین — ۶۔ پیاز عنصل دافع اذیت جمیع حشرات ہے — ۷۔ ادویات دفع کنندہ جانوران موذی ہمراہ رکہے مختصر مندرج فصل ہذا مین مشرحا فصل سیوم باب ہشتم کتاب ہذا مین ملاحظہ فرماوین — ۸۔ چوب انگور و انار و ملٹھی و پودینہ و منقل و ہشت و شاخ و سم حیوانات کی دہونی سے گزندہ جانور بہاگ جاتے ہین — ۹۔ شاخ گوزن کے دہونی سے سانپ نہین رہتا آخر اِشم نہر و گوگرد و مو انسان کے دہونی سے سانپ بہاگتا ہے —

۱۰۔ بچہو اور کبریت و سم خر و ہرتال و چربی بز کے دہونی سے بچہو نہین رہتا آخر پانی ہینگ کا گہر مین چہڑکنی سے بچہو بہاگتا ہے — ۱۱۔ روغن تخم ترنج بدن پر ملنی سے عقرب نزدیک نہین آتا —

باب سیوم مین مندرج ہین نصایح سفر بحری بابت آسایش سفر و حفظ صحت وغیرہ
(اور مشتمل ہے اوپر دو فصل کے)

فصل اول مین ذکر ہے بابت آسایش تن مسافران بحر — مخفی نرہے کہ مسافران بحر کو چند باتین ضرور ہین —

۱. بندر یعنی جو شہر کنارہ دریا پر ہو اوسمین جس قدر اشیاء خوردنی بقدر مدت قیام جہاز تک اکتفا کری بلکہ زیادہ از ضرورت خرید کر ہمراہ لیجاوین کیونکہ صرف لکڑی واسطے جلانیکے کرایہ مین اہل جہاز دیتی ہین — مرغ اور بکری ہمراہ لیوی کیونکہ گوشت جہاز مین نہین ملتا اپنا جانور ذبح کرسکتا ہے اور کرایہ جانور کا جو کہانیکے لئے ہو نہین ہوتا —

۲. آب شیرین بندر سی لیکر پیپی مین بہروا کر ہمراہ رکھی گو اہل جہاز فی نفر مین بوتل پانی کے دیتی ہین لیکن اوس سے جمیع ضروریات کی رفع کیلئے مکتفی نہین ہوتا علاوہ ازین جہاز ہوائی کو اگر سبب تہوڑی ہوا کی توقف ہو تو دوسری سے بھی آب شیرین ملتا ہے غرض کہ دونو صورتون مین ہمراہ ہونا پانیکا بہتر ہے —

۳. بعد غروب آفتاب بارادہ سوار ہونیکی جہاز پر نجاوی کسواسطے کہ اہل جہاز اوس وقت دو سبب سے سوار نہین کرتے کرایہ کشتی مفت دینا پڑتا ہے — ایک تو یہہ کہ مالک جہاز جو حجاز سوار کرانیکے ہین وہ رات کو اپنی گہر پر شہر مین چلی آتے ہین اکثر جہاز مین نہین ہوتی بجز اونکی اور کوئی سوار نہین کرسکتا — دوسرے رات کو صدمہ حرکت جہاز سے کشتی کے غرق ہونیکا اندیشہ ہوتا ہے —

۴. بمبئی مین دلال نہایت مکار ہین حجاج کو بطمع خود کرایہ دینی جہاز مین ازحد دق کرتے ہین اکثر اوقات ایسا بہی ہوتا ہے کہ حاجیونکو دلال دم مین رکہکر حج سے بدین خیال محروم رکہتی ہین کہ جس قدر حج قریب ہوگا یہہ کرایہ

زیادہ دینی کو راضی ہوگا حتی کہ سب جہاز چلی گئے تو جواب دیا - پس حاجیونکو لازم ہے کہ بطور خود جہاز مین کرایہ کرین دلالون کے دم مین نہ آوین -

۵ جہاز مین کوٹھری یا کمرہ کی لیئے فقرے زیادہ روپیہ خرچ نکرین محض بے حرکت فضول ہے کیا معنی کہ تکلیف تو جہاز مین بہر کیف ہوتی ہے اور کمرہ مین یہہ زیادہ ہی کہ ہوا بہت کم جاتی ہے البتہ اگر مستورات ساتھ ہون تو کمرہ یعنی دیو لینا ضروریات سے ہے والا پردہ دری اور بیحجابی ہے -

۶ اہل وسعت کو ایسا کرنا چاہیئے کہ جہاز مین ایک آدمی کے جگہ چہتری پر لیوے جو بہت ہوا دار جگہ ہوتی ہے اور ایک آدمی کے جگہ عام نشست گاہ یعنی تو تک مین لیوی اسکا یہہ فائدہ ہے کہ جس جگہ تک بارش نہو وہی چہتری پر آرام کری اور جب وہ دریا آوی جہان بارش ہوتی ہے عام نشست گاہ مین قیام کرے -

۷ پنکہہ یعنی بادکش ہمراہ رکہی - ۸ جملہ ادویات دافع عوارض بحر مندرجہ فصل اول باب ششم کتاب ہذا ہمراہ رکھے - ۹ مجربین کا قول ہے جو جہاز مین سب سے پہلے سوار ہونا چاہیئے تا اچھی جگہ ملے - اور سب سے پیچہی اوترے تا کہ بآرام اوترنا ہو اور بسہولت و حفاظت اسباب وتارے - بندر جدہ پر اہل کشتی کا یہہ قاعدہ ہے کہ از خود بلا اجازت حجاج اسباب واسطے زیادہ حاصل کرنے کرایہ کے اوٹہا لیتے ہین گو اوسکے گم ہونیکا اندیشہ نہین لیکن تلاش اسباب مین نہایت خرابی ہوتی ہے پس لازم ہے کہ جس کشتی مین خود سوار ہو اوسے مین اسباب رکھے -

۱۰ وسط جہاز مین جگہ لینی چاہیئے تا کہ جنبش جہاز سے تکلیف کم ہو -

۱۱ سیر سمندر مین نظر دور دور پہونچانی نہ چاہیئے موجب نقصان و زیادتی غثیان ہے

۱۲ شام کے وقت کہانا پکانے مین جلدی کرے کس لیئے کہ بعد غروب آفتاب کے آگ

اگ بجہا دیتی ہین — ۱۳ خلاصیان جہاز کو انعام وغیرہ سے خوش رکھی وہ لوگ آرام دیتی ہین — ۱۴ لالٹین اور موم کی بتی ہمراہ رکھی اہل جہاز بعد آٹھہ بجے شب کے روشنی نہین دیتی — ۱۵ بوقت واپسی وطن کے مکہ معظمہ مین کرایہ جہاز کا کرلیوی وہان گماشتہ ہای اہل جہاز بلکہ بعض خود مالک جہاز موجود ہوتے ہین اسمین چندان کم آسایش ہے

فصل دوم مین ذکر ہے بابت حفظ صحت مسافران بحر

فصل دوم حفظ صحت مسافران بحر

۱ جو باتین بابت حفظ صحت مسافر بتحریر مین آئی ہین وہی مسافر بحر کے لئے مفید اور درکار ۲ غذا اور دوا مقوی معدہ اولاً تناول کر کے کشتی پر سوار ہونا چاہیئے —
۳ لیمون ترش چوسنا بہتر ہے — ۴ املی کہایا کرین —
۵ افشردہ تمر ہندی تناول کرین — ۶ فیروزہ اپنی پاس رکہین بجلی اور غرق سے
۷ رکہنا انگشتری یاقوت کا واسطے قضای حاجات کے و دفع ضرر صاعقہ اور غرق کے مفید ہے — ۸ اگر چربی شیر کے بدن پر ملے جاوے تو جبتک بو چربی کے بدن سے آتی رہی تمساح نزدیک نہین آتا

باب چہارم مین گفتگو ہی بابت حفظ صحت مسافران بر و بحر بطور قاعدہ کلیہ

باب چہارم حفظ صحت مسافران بر و بحر بطور قاعدہ کلیہ

۱ جو شخص ارادہ سفر کا کرے اگر ممتلی ہو تنقیہ فضلات کرنا چاہیئے —
۲ بتدریج ریاضت مین بڑہتے جاوین — ۳ ساتہہ بہوک و پیاس وسوار ہونے کے اور پیادہ چلنے کے اور ان باتون کے عادت کرین کہ جنکے مسافر کو حاجت مسافرت مین پڑتے ہے — ۴ گرمی مین بمکان گرم نشست اختیار کرین

۵ سفر مین بمکان کشادہ نشست لیہین یا ہوای صحرا کے عادت کرین –
۶ کہانا جو سفر مین کہانا پڑی شہر مین کہانی کے عادت کرین –
۷ غذا جید الجوہر قلیل المقدار زود ہضم مثل گوشت بزہ یک سالہ و نان گندم خالص تناول کرین
۸ کہانا کہا کر سوار نہوں کیونکہ پانی زیادہ پیا جاتا ہے اور وہ پانی طعام کو فاسد کرتا ہے
اور بدہضمی پیدا ہوتی ہے – ۹ بعد نزول منزل کے طعام کہاوین –
۱۰ ساگ و میوہ جو اخلاط خام پیدا کرتے ہین ترک کرین – ۱۱ غذا از روی ہضم
نیم برشت کرنی چاہیئے – ۱۲ ٹہرانی بہوک کی لئی جگر بز بریان چربی کا و یا روغن
بادام کہاوین آخر مغز بادام نقل کرین – ۱۳ ٹہرانی پیاس کے لیئے تخم خرفہ پیا
ساتھ سرکہ کے پیوین – آخر پانی ساتھ سرکہ کے کہاوین –
۱۴ جو دوا اور غذا پیاس زیادہ کری (مثل ماہی و اشیای نمکین و شیرین کے)
مسافر کو نہ کہانا چاہیئے – ۱۵ کم گوئی کے عادت کرین – ۱۶ سیر بانکلے
کرین – ۱۷ نا واقف آدمی سے اختلاط نکرین – ۱۸ غیر آدمی کے ہاتھ سے
طعام اور شرب خصوص اشیای نمکین و شیرین و تیز و ترشی نہ کہاوین –
۱۹ جس چشمہ کی بہت سی ابتدا نہون نہ اس مین سے پیوین اور نہ سونگہین نہ بدن پر ملین
۲۰ جو غذا وغیرہ بے سرپوش رکہی ہو نہ کہاوین – ۲۱ جس جگہہ پانی متعفن بکثرت
ہو اور مردہ غیر مدفون وغیرہ سوختہ او زمین نمناک ہو مقام نکرین کہ اس لیئے خوف
وبا ایسی جگہہ ہوتا ہے – ۲۲ تپچی و دہقان کلان اور گہاس کے اور نزدیک آشیانہ
تعلق اور کلاغ اور جوام کی بعدن و ہوتی شاخ [illegible] ن وغیرہ کے خواب نکرین –
۲۳ رات کو چراغ نزدیک اپنی نہ رکہین – ۲۴ اگر سبب پیادہ چلنے پانو کی تکان
ہوجائی تو مشت مال کرین – یا روغن گل یا روغن [illegible] یا روغن [illegible] سے مالش کرین

۲۵ جس جگہ عقرب بکثرت ہوں وہان مولی اور بادروج کہانیکی کثرت کریں —

۲۶ جسکا گلا کمند وغیرہ سی گہونٹا ہو جیسے راہزنوں کا عمل ہے پس اگر دم باقی ہو فوراً پہانسی کاٹیں اگر موںہہ کف دار ہو تو لا علاج ہے اگر کف نہیں اور بیہوش ہے تو فصد سر اروکریں اور حقنہ متوسط عمل مین لاوین اور خردل پیسکر پاؤں پر ملیں جب ہوش آوی روغن بنفشہ و آب گرم سی غرغرہ کریں آخر ہر دو پا کی مالش کرین آخر شیر باشوربہ کرین —

باب پنجم مین مندرج ہی حال امراض سی اور مداوا اوسکا — اور مشتمل (ہے اوپر تین فصل کے)

فصل اول مین ذکر ہے بابت مداوای امراض مسافر موسم گرما —

۱ اگر بسبب شدت گرما کے ضعف قوی مین عارض ہو تو کچہہ عرصہ وقفہ کرکے آب سرد مین شناوری کرے —

۲ اگر موضع سمی مین سم اثر کری تو ہاتہہ پاؤنکو آب سرد سے دہو وے آخر آب سرد مین بیٹہی آخر جماع سے پرہیز کرے آخر روغن گل و آب بید و کدو سر پر ملیں آخر خرفہ و کاہو و خیار و کدو کہاوین —

۳ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور اوسکے رستہ مین مرض تپ اور مغص اور زحیر اور سحج اور اسہال غیر منہضمہ اکثر لاحق ہوتی ہے اور مکہ معظمہ مین آنکہین اس شدت سی دکہتی ہین جو ایکشب مین آنکہہ پہوٹ جاتی ہے — پہوڑا اور زخم اور ناصور بکثرت ہوتا ہے — حجاج جو جہاز مین پانی کے طرف سے تنگی اوٹہاتے ہین اور یکا یک جدہ شریفہ اور مکہ معظمہ مین پانی نہایت عمدہ شیرین اور سرد ملتا ہی تو اوسکو بکثرت پیتے ہین وہ پانی باعث سوء ہضمے ہو کر امراض اسہال

وغیرہ پیدا کرتا ہے حتی الامکان پانسین احتیاط رکہنا چاہیئے جملا امراض مذکورہ کا علاج باب ہفتم مین ملاحظہ فرماوین —

فصل ۲ مداوا سرما

فصل دوم مین ذکر ہے بابت مداوای امراض مسافر موسم سرما

۱ اگر سردی لگجاوے — جلد کو گرم کپڑے سے ڈہکی — جلدی آگ کے سامنے بٹہاوی بلکہ بتدریج — ہاتہہ پاؤن کو جنبش دیوین اور ملین — روغنہا کے مالش کرین خصوصاً روغن شبت اور روغن سوسن اور روغن یاسمین مین فلفل دعاقرقرحا و فرفیون و جندبیدستر و حلتیت ملا کر ملین آخر — قند اور لہسن کا لیپ کرین آخر جوز و لہسن و حنزل وغیرہ گرم اشیا تناول کرین آخر روغن کاؤ بہت خصوصاً اوس وقت جو اوسکے اوپر سے شراب صرف پیجاوی کہاوین آخر حلتیت ہمراہ شراب کے تناول کرین —

۲ اگر ہاتہہ پاؤن بسبب سردی کے ورم کرین — شلغم و کرنب و انجیر و بابونہ پانی مین جوش کر کے ہاتہہ پاؤن اوسمین رکہین آخر برف مین رکہین

۳ اگر بسبب پالے کے اونہ پاؤن کا رنگ سبز و سیاہ ہوجائے — پچہنی لگا کر پانی گرم مین رکہین جو خون تمام نکلکر خود بخود بند ہوجاوی پہر گل ارمنی سرکہ اور یاسمین حل کر کے طلا کرین پہر شراب نیم گرم آخر — پانی اور سرکے سے دہوین مکرر ایسا ہی کرین —

۴ اگر اطراف متعفن ہوجاوین — یہہ علامت بد ہے — عضو متعفن کو کاٹنا چاہیئے تاکہ اعضا صحیحہ اوس آفت سے محفوظ رہین



فصل سیوم مین معالجہ سم ملذوعہ یعنی زہر حیوانات بری کا ذکر ہے اور مشتمل ہے اوپر دو قسم کے

قسم اول علاج سم ملذوعہ قاعدہ کلیہ

قسم اول مین ہے علاج سم ملذوعہ کا بطور قاعدہ کلی —
بوقت پہونچنے گزیدگی کے فوراً قدری اوپر موضع گزیدہ کے باندہین سخت تاکہ مانع
نفوذ سمیت ہو — اگر ممکن ہو عضو گزیدہ کو قطع کرین — یا داغ دیوین — یا حجامت
بالشرط یعنی سینگی ساتہہ پچہنے کے — یا جونک لگاوین — زخم کو چوسین مگر چوسنیوالا
پہلی چوسنے سے کچہہ غذا کہاوی اور ادویہ تریاقیہ منہہ مین چابے — یا سرکہ و روغن گل
سی مضمضہ کرین — یا سینگی کے ساتہہ چوسین — زخم کو بہرنے نہ دیوین — فروج
کو بریان کرکے گرم گرم چاک کرکے موضع زخم پر باندہین جذب سم ہوتا ہے —
ادویہ جاذبہ سم مثل بچال کبوتر و خاکستر چوب انجیر و سرگین نر و لہسن و پیاز
و گوگرد ساتہہ سرکہ و شہد کے ضماد کرین — مہرہ مار موضع گزیدہ مار پر رکہین جو
چسپیدہ ہوجانے مکرر اعمل کرین اس باب مین یہ نہایت قوی ہے — نو ماشہ تخم نارنج
مقشر اور تخم لیمو اور تخم ترنج دینا نہایت مفید ہے — فادزہر اور نارجیل دریا سے
اور جدوار اور تریاق فاروق اور تریاق طین مختوم اور مثرودیطوس واسطے جمیع
اقسام سم کے بالخاصیت نافع ہے — **علامت جودت تریاق کے** یہی کہ
پونی دو ماشہ تریاق خروس کو کہلا کر سانپ یا دوسرے جانور زہردار کو اوس پر مسلط
کرین اگر خروس زندہ رہے تریاق عمدہ ہے — چونکہ اجزای تریاق فاروق و مثرود
یطوس دستیاب نہین ہوتی اصلی نسخہ نہین لکہا گیا لیکن مردم جو اطراف سے
لاتے ہین وہ بہی خالی از فائدہ نہین ہوتا — قدر خوراک تریاق فاروق کے واسطے
گزیدہ مار و سگ دیوانہ کے ساڑہے چار ماشہ اور واسطے گزیدہ عقرب کے پونے دو ماشہ

اور واسطہ گزیدہ زنبور کے نوشادر ہمراہ سرکے کے ہے ۔ قدر خوراک مثرودیطوس قدرے
زیادہ تریاق فاروق سے ہی ۔ جبتک سم بدن مین منتشر نہو فصد نکرین ۔ اگر غشی ہو
علاج غشی کا کرین اور تقویت اعضای رئیسہ کی کرین ۔ ذکر ادویہ مفردہ و مرکبہ
جو دافع گزند جانوران زہردار کے ہین ١ شیر لاغیہ دافع گزند افعی ہے ٢ شراب
انگور افعی گزی مرجائے ایسی ہے واسطہ دیگر جانوران زہردار کی ہے ۔ ٣ تخم ترنج
۹ ماشہ دافع زہرہای مار ہے ۔ ٤ تخم پنجنگشت و بیخ انجدان یا وزن جملہ سموم ٥
حب بلسان و بادام و انجیر و بندق و جنطیانا و جاوشیر و زراوند و شگوفہ و برگ خرزہرہ
و دارچینی و جرجیر و ترسن و قیصوم و قردمانا و غاریقون سب فایدہ بخش ہین ۔ ٦
ثمر درخت چنار تازہ مفید ۔ ٧ شکم و معدہ راسو ہمراہ کشنیز بریان کرکے دینا مفید
٨ طبیخ اسوزندہ اور طبیخ موش دشتی ساتھ شراب یا طبیخ سرطان نہری کے
مفید ٩ خون سنگ پشت اور سپرز اوسکے مفید ١٠ سرگین تر سوختہ و دینا اور
ضماد کرنا مفید ہے ١١ صرف و تخم بادآورد و کمادریوس ساتھ کلونجی کے ١٢ لہسن
اور پیپل و تخم جندقوقی و آب جندقوقی یا شراب و طبیخ پودینہ کوہی مین ضماد کرنا اور کہانا
مفید ہے ١٣ تریاق دافع گزند جملہ جانوران زہردار اور سمیت ادویہ زیانکار ہے
١٤ شونیز تخم ہرا اسپند زیرہ ہر یک سات ماشہ جنطیانا زراوند گرد ہر یک ساڑھی
تین ماشہ پیپل سفید مر ہر یک پونے دو ماشہ جملہ سات دارو ہین کوٹ کر چہان کر
شہد مین ملاکر تیار کرین خوراک بقدر باقلا رومی ہمراہ شراب ١٥ حب بلسان زوفای
خشک تخم شلغم دیسی پیپل سفید و سیاہ دار فلفل برج آنیسون اسارون و کمافیطوس
زیرہ بزر البنج ہر یک چودہ ماشہ سنبل تفاح اذخر ہر یک اکیس ماشہ سب چودہ دوا
ہین کوٹ کر چہانکر شہد مین ملادین خوراک مقدار باقلای رومی ١٦ مر افیون

افیون ہر یک ڈیڑھ تولہ بیخ زراوند طویل و مدحرج ہر یک تین تولہ سداب دو تولہ بیلہ بیخ و آرد۔ آب جرجیر مین جو پختہ اور کف گرفتہ او صاف کردہ ہو ترکرکے شہد مین ملاوین خوراک ساڑہی چار ماشہ ہمراہ شراب ادویہ جو موضع گزند پر رکہی جاوین ۱ لفظ سفید یا ازرق طلا کرین ۲ سیر پختہ و خام ساتہہ روغن گاؤ کے ۳ گوگرد بول مین پیسکر ۴ سرکہ اور نمک ساتہہ زہرہ گاؤ و لفظ کے ۵ خاکستر چوب انجیر و چوب انگور سرکہ مین ۶ لہسن و نمک کوٹ کر ۷ مرغ خانگی سپید نرینہ زندہ کا سینہ چاک کرکے موضع گزند پر رکہین جب گرمی اوسکے کم ہو دوسرا باندہین ۸ سرگین بز طلا کرنا سوائے گزیدگی مار ملک الحیہ کی جا بجا گزیدگی مخفیہ ۹ رفت روغن زیت مین جوش دیکر نمک ملاکر طلا کرین۔

قسم دویم مین علاج سموم ملذوعہ معروفہ ہے۔

اول مار یعنی سانپ۔ یہہ بہت قسم کا ہوتا ہے۔ علاج اسکا بدستور قاعدہ کلیہ کے ہے۔ آخر حلتیت شراب مین دیوین آخر دودہ ہمراہ شراب کے پلاوین آخر گندنا اور پیاز ساتہہ شراب و روغن گاؤ کہنہ کے کہلاوین آخر پنیر مایہ خرگوش تازہ وغیرہ ساتہہ پانی اور سرکہ کے دیوین آخر کہلانا آبنیل آدہ سیر کا اور باندہنا جرم اوسکا سفید ہے آخر دودہ مین مریض کو بٹہاوین آخر شوربا مینڈک کا کہلاوین آخر مینڈک کا شکم چاک کرکے زخم مار پر باندہین۔

دوم۔ عقرب۔ علامت گزیدن عقرب یہہ ہے۔ ورم اور سرخی اور سختی موضع اور درد شدید اگر نیش سر یا نپر ہو غشی لاحق ہو۔ اگر عصب پر ہو صداع اور صرع پیدا کرے۔ علاج بعد تدبیر کلیہ دودہ و شراب پلاوین لہسن کا

ضماد کرین آخر۔ عقرب او کوٹ کر زخم پر رکھین آخر حلتیت و کبریت و گندک و نمک کوٹ کر طلا کرین آخر موش صفدع زندہ پکڑ کے دو نیم کرکے زخم پر رکھین آخر۔ تریاق اربعہ پونے دو ماشہ ہمراہ گلاب و عرق گاؤزبان شربت انار کے دیوین اور قدر ے موضع لزع پر رکھین آخر ضماد نارجیل دریائی کا ایک گھنٹہ مین دفع ضرر گزند عقرب کرتا ہے آخر بندق ہندی منہہ مین چاب کر ضماد کرین آخر تجربہ سے زیادہ مفید ہے ـ

۳ زنبور۔ عنب الثعلب گل بنفشہ کا فور ساتھہ سرکہ اور آب خطمی کے ضماد کرین آخر مٹی ساتھہ گوبر مادہ گاؤ کے ملین آخر برگ گنجد طلا کرین آخر تبرید شربا و ضمادا نافع ہے آخر ضماد نارجیل دریائی ایک گھنٹہ مین دافع الم ہے اسیطرح ہے علاج ۴ مکھی شہد کا ۵ چیونٹی پردار کا ۶ پشہ یعنی مچھر کا جب کس شہد کا سر کاٹ کر باقی کو موضع گزیدہ پر ملین ایک گھنٹہ درد ساکن ہوتا ہی ۷ عنکبوت تریاق فاروق کھلاوین آخر کلونجی شراب صرف مین پلاوین آخر سوت روغن گل مین ملا کر طلا کرین ۸ ہزار پا۔ سرکہ اور روغن گاو کا طلا کرین آخر ہزار پا کوٹ کر موضع گزیدہ پر رکھین آخر اگر جانور ہزار پایہ در مثل اسکے عضو پر چمٹی اور پاؤن اور نیش گوشت مین چبکر سوزش پیدا کری تو پیپیا پیسکر ضماد کرین آخر زراوند طویل و پوست بیخ کبر و آرد ترمس و حنظیانا ہمراہ ماء العسل کے دیوین ۹ شیر و پلنگ و بوزنہ۔ جراحت پنجہ ان حیوانات کو ساتھہ زراوند کی طلا کرین بعد ازان ساتھہ سرکہ خالص کے دھو کر زنگار و چرک نقرہ و توبال مس روغن گاؤ ملین ۱۰ گزیدن آدمی آرد باقلا بیخ بادیان سرکہ مین طلا کرین آخر بادیان شہد کے ساتھ طلا کرین آخر خاکستر چوب انگور ساتھہ سرکہ

فـ زنبور

فـ مکھی شہد جو مسہد کہ بھڑ و ذرنبہ

فـ عنکبوت

فـ ہزار پا

فـ شیر و پلنگ و بوزنہ

فـ آدمی کا ٹہ ہایان

سرکہ و شہد کے طلا کرین ۔ اگر ورم پیدا ہو مردہ سنگ و روغن گل و چربی و موم
مرہم بنا کر ضماد کرین ۔ اسیطرح سے علاج کاٹنے چارپایان کا ۔ علاج گزیدن سگ
و سگ غیر دیوانہ ۔ زخم پر سرکہ لین اخضر یا سرکہ مین بھگا کرین ۔ اخضر
پیاز و نمک و باقلا و بادام تلخ شہد مین طلا کرین ۔ علاج گزیدن سگ دیوانہ
علامت سگ دیوانہ کی یہہ ہے کہ گرسنہ و تشنہ ہو پانی سے بھاگے آنکھین سرخ ہون
گوش افتادہ پشت برآمدہ و گرفتگی آواز مستانہ چلے اور حملہ کرے دوسرے کتے اوس
سے گریزان ہون ۔ اگر پارچہ نان خون زخم گزیدہ سگ دیوانہ مین آلودہ کرکے
آگے سگ غیر دیوانہ کے ڈالین وہ نہ کھاوے علامت سگ دیوانہ کی ہے ۔ اخروٹ
کو نگل کر ایک شب زخم پر باندہین اور آگے مرغ کے ڈالین اگر نفرت کرے یا کہا کر مر جاوے
علامت سگ دیوانہ کی ہے ۔ گزیدہ سگ دیوانہ کو دیوانگی ایک ہفتہ کے اور بعضی کو
بعد چھہ مہینے کے اور بعض کو بعد ہفت سال کے حالت مثل دیوانگی کے ہوتی ہے
اور پانی سے ڈرے اور جسکو یہہ کاٹے یا جو کوئی طعام یا آب پس ماندہ اسکا کھاوے
اوسکو بھی یہی حالت حادث ہو ۔ علاج بعد تدبیر کلیہ کے جراحت کو چالیس روز
تک بھرنی نہ دیوین آخر خروس باندہین آخر ادویہ جاذبہ کا ضماد کرین آخر
نمک و تراتیزک و آب چقندر و بول انسان و خاکستر تاک کو سرکہ مین ضماد کرین جذب
قوی کرتا ہی بعد ازآن مراہم اکالہ مثل مرہم زنگار کے رکھین مگر یہہ تدابیر ابتدا مین کرین
جب ایک ہفتہ گذری اگر امتلای خون ہے فصد کرین اور تنقیہ سودا بعد نضج مکرر کرین
اور تریاق معجون پیوین ۔ اور تقویت اعضای رئیسہ کے کرین ۔ تفریح و ترطیب مانند
مالیخولیا کے کرین ۔ غذا چرب و گوشت مرغ و بزغالہ فربہ ۔ و دودہ و شراب کہنہ
پلاوین ۔ آب آہن تاب پیوین ۔ جماع اور کھانے ترشی و ہوای سرد سے

پرہیز کرین — گاہ گاہ طعام مین پیاز و لہسن ڈالین — جسطرح ممکن ہو پانی پلاوین والا خوف ہلاکت ہے — ظرف پوست کفتار یا ظرف جلد سگ دیوانہ مین اگر پانے دیوین پیتا ہے پرہیز نہین کرتا آخر آب نیل پلانا مفید ہے آخر شراب آب نیم گرم مین دیوین آخر آب گرم مین بٹہاکر پیشاب کراوین آخر پنیر مایہ خرگوش اور نیز دیوین آخر ایک آب نادیدہ ایک تولہ نوشادر دو تولہ باریک کرکے آب یک نیم پاؤ مین ایک حصہ اسکا تمام روز مین پلاوین اور ایسی ہے دو حصہ دیگر بروز دوم و سیوم کہلاوین آخر نبات سرخ رنگ بقدر ناخن قند سیاہ مین گولی بناکر نگلاوین آخر جنطیانا و کلونجی اسباب مین مفید ہے آخر علاج مین کوئی چیز بہتر پیاز سے نہین ہے اور طریق دینی پیاز کا یہہ ہے کہ پاؤ سیر پیاز کا پانی نکالکر تین رات و دن پلاوین آخر تہ مین سر و بینی ساتہہ روغن بنفشہ و کدو کی کرین اگر جگر سگ دیوانہ کو موضع گزیدہ اوسکے پر رکہین یا بریان کرکے کہلاوین مفید ہے آخر تریاق کبیر و تریاق اربعہ نافع ہے — اسیطرح ہے علاج ١٣ گزیدن گرگ دیوانہ ١٤ شغال دیوانہ ١٥ پلنگ دیوانہ ١٦ راسو دیوانہ ١٧ روباہ دیوانہ —

١٨ گزیدن گربہ — علامت درد شدید اور موضع گزند برنگ سبز اور سخت ہو علاج پودینہ ساتہہ کلونجی و کنجد کے ضماد کرین آخر پودینہ خشک کو آب پودینہ سبز مین پیسکر زخم پر ضماد کرین ایک روز مین دافع اذیت ہے —

١٩ گزیدن راسو غیر دیوانہ — علامت مثل کاٹنے کے درد بدن مین پیدا کرنے ہو — علاج لہسن و پیاز کہلانا ضماد کرنا مفید ہے آخر گرسنہ و انجیر خام ضماد کرین — آخر شراب پلاوین آخر پوست راسو اوکہاڑ کر زخم پر رکہین مسکن درد ہے

گربہ

ف راسو غیر دیوانہ

باب ششم مین مندرج ہی حال امراض بحری اور دوا اوسکا

(اور مشتمل ہے اوپر دو فصل کے)

فصل اول معالجہ عوارضات کا درج ہے۔

۱۔ بعض کو بوقت سوار ہونیکے کشتی یا جہاز پر دوار و غثیان و قی لاحق ہوتا ہے۔ پس جس وقت قی عارض ہو بند نکرین جو اخلاط خام خارج ہو جاوین۔ اگر زیادہ ہو مقویات معدہ مثل سیب بہی و انار سے بند کرین۔

۲۔ تخم کرفس کہانا دافع غثیان ہے۔ ۳۔ افسنتین و تبہ و غورہ سرکہ مین بہگا کہانا دافع غثیان اور مانع صعود بخارات جانب دماغ ہی خاصۃ پودینہ اوسمین ضمانہ کیا جاوے۔

۴۔ شربت سماق دافع امراض مذکورہ ہے۔ ۵۔ اسفیداج دونو سوراخ ناک مین ملنا فائدہ مند ہے۔ ۶۔ زرور د طباشیر سفید و صندل سفید و عود و پوست ترنج گلاب و سرکہ مین پیسکر فم معدہ پر لیپ کرین دافع قی ہے۔

۷۔ راقم کو اہل جہاز سے دریافت ہوا کہ اگر آب شور سمندر پیا جاوی ایکبارگی بفراغت ہو کر پہر بند ہو جاتی ہے آخر وسط جہاز مین بیٹہنے اور لیٹنی سے جملہ عوارض کم لاحق ہوتے ہین۔ ۸۔ چوسنا لیمون ترش کا دافع دوار و غثیان و تہوع ہی۔ ۹۔ جو شخص پانی مین ڈوب جاوے اور بوقت نکالنے کے دم باقی ہو مگر بیہوش ہو۔ پس غرق شدہ کو سرنگون کرکے پانی شکم سے نکالین اور واسطے دیگر آفات کے اور دفع بیہوشی اور خشک کرنے رطوبات ردیہ معدہ کی فلفل و زنجبیل سرکہ مین جوش دیکر چہانکر مریض کے حلق مین ڈالین۔۔۔ بعد افاقہ کے

(چند روز آرد نخود اور دودہ کا حریرہ بنا کر دیوین)

فصل دوم میں معالجۂ زہر حیوانات بحری کا درج ہے

اوّل — مچھلی سمرد — مخصوص جو جائے نمناک میں کہی جاوے ہو اگر کھائی جاوے
علاج — آب ترب و نیم ... سے قی کریں پھر شراب صرف پیویں — اگر بعد
قے کے معاجین جاردمانند کمونی کے جاویں مفید ہے آخر — گل مختوم دیویں آخر
زراوند و صعتر تناول کریں —

مرارہ سمک ابی

دوم — مرارہ سمک ابی — اگر ... زہر کہایا جاوے بعد ایک ہفتہ کے ہلاک
کرتا ہے علاج روغن ... دیں — آخر — دارچینی و ... از ہر یک
چہار و نیم ماشہ ... پاؤ بالا تناول کریں —

خرگوش دریائی

سیوم — ارنب بحری — یعنی خرگوش دریائی — یہ قاتل ہے علاج — شیر خر
و شیر گاو و شیر زنان و آب برگ ... و آب خیار و شطران ... دیویں
آخر — ... تناول کریں — بعد تسکین عوارض آخر — ...
غاریقون نرم سفید ... کے بقدر ساڑھے تین ماشہ کے
ہمراہ ... کے پیویں

ضفدع بحری

چہارم — ضفدع بحری — ... یہ سمہ رنگ ہوتا ہے اور چہلکر کاٹتا ہے
اگر کاٹ نہیں سکتا ... دیتا ہے علاج — تریاق کبیر اور مثرودیطوس
کھلاویں آخر — ... زخم پر لیپ کریں —

سانپ دریائی

پنجم — سانپ دریائی — ... مندرجہ قسم اول فصل سیوم از باب پنجم
کتاب ہذا کے ... زخم پر طلا کریں آخر — ضماد مندرجہ علاج ضفدع
بحری استعمال کریں —

ششم ـ سانپ بحری قسم دوم ـ جو اوسکے کاٹنے سے درد شدید اور سردی پیدا ہوکر آدمی ہلاک ہوتا ہے **علاج** ـ مانند علاج زہرہای سردکی ہے **آخر** ـ سرکہ نیمگرم طلا کرین **آخر** روغن عاقرقرحا ملین **آخر** مرچ سیاہ ہمراہ شراب کے دیوین ـ

ہفتم ـ گژدم دریائی ـ **علاج** ـ بعد تدبیر کلے کے مثل علاج ضفدع بحری کے عمل کرین

ہشتم ـ سگ آبی و تمساح و ماہی سیاہ ـ **علاج** ـ شہد و نمک و بورہ ارمنی زخم پر طلا کرین **آخر** سرکہ نمک زخم پر ملین اور دھوین **آخر** ـ نمک اور چربی زخم پر رکھین **آخر** نطرون اور شہد زخم پر رکھین **آخر** جمیع چربیہا اوسکے مفید ہے **آخر** چربی مرغابی و چربی گاؤ کوہی و روغن گاؤ زخم پر رکھین **آخر** چربی تمساح مفید ہے خصوص واسطہ گزیدگی تمساح کے نہایت مفید اور گوشت اوسکا تریاق اوسکے لیے ہے ـ گزیدہ سگ آبی لاعلاج ہے البتہ اگر ہر روز دھوین تو بتدریج صحت ہوتی ہے بعضی زخم پر بول کرکے اشنان زخم پر رکھتے ہین ـ مردمان مصر گزیدہ تمساح کو روغن کنجد مین غرق کرتے ہین ـ بقول زخم تمساح کے اطراف مین داغ دینا چاہیئے والا ہر سال موضع گزند وقت گزندگی مین تازہ ہوتا

باب ہفتم مین مندرج ہے علاج امراض جملہ بطور مجمل و مفصلانہ اور مشتمل ہے اوپر بست و دو فصل کے فصل اول مین معالجہ امراض سر تحریر ہے اور مشتمل ہے اوپر دو قسم

فصل اول مین معالجہ امراض سر بطور مجمل ہے ـ

درد سر ـ اسکے چند قسم ہین **قسم اول** ـ درد سر گرم علامت **تشنگی** و حرارت ملمس و خشکی دہن ـ **علاج** لعاب بہیدانہ تین ماشہ شیرہ تخم کاہو مقشر شیرہ مغز تخم تربوز ہر یک سات ماشہ پانی مین تیار کرکے شربت نیلوفر یا مصری دو تولہ ملاکر تناول کرین **آخر** شیر بز یا شیر دختر ناک مین اور کان مین

ڈالین **آخر** مغز تخم تربوز پانی مین پیسکر ناک و کان مین ٹپکادین **آخر** کشنیز سبز یا
یا عطر گل یا عطر خس سونگہین **آخر** صندل سفید آب کشنیز سبز یا آب کو کنار مین
گہسکر پیشانی پر طلا کرین **آخر** قرص مثلث آب کشنیز سبز مین حل کرکے پیشانی پر ضماد
کرین **آخر** گلاب و سرکہ و روغن گل مین پارچہ ترکرکے تالو پر رکہین دافع صداع
و سرسام ہے **آخر** تہوکیان ساق و کف پا پر کہیچین بعد ازآن باشویہ کرین - غذا
پالک خرفہ و کدو و توری و برنج یا کہچڑی و آش جو و دال مونگ و خشکہ - سیطرح
ہی علاج ۲ **سہر** یعنی بیداری مفرط کا - **آخر** طلا منوم لگادین ۳ **سرسام**
کا ۴ **شقیقہ** یعنی درد نیم سر کا ۵ **ماشرا** یعنی ورم دموی جلد پیشانی
کا ۶ **عصابہ** یعنی وہ درد جو ابرو مین لاحق ہو - لیکن سرسام و شقیقہ و ماشرا
و عصابہ مین فصد سرارو ضرور ہے **طریق فصد** کا یہہ ہے کہ داہنے ہاتہہ سے رگ سرارو
مین سے خون بقدر ضرورت نکالین اور بعد فصد کے تبرید مذکورہ با بزرگی تخم ریحان
پنج ماشہ کے تناول کرین **قسم دوم** - درد سر دموی علامت سرخی چہرہ و غلظ
قارورہ علاج مثل درد سر گرم کے کرین مگر اسمین ابتدا بفصد سرارو کرنی چاہیئے -
قسم سیوم درد سر صفراوی علامت تلخی دہن اور بیخوابی اور زردی صفحۂ
قارورہ علاج مثل درد سر حار کرنا چاہیے مگر اسمین استعمال ادویات باردہ کا زیادہ
ہونا چاہیئے - اگر امراض مذکورہ مین حاجت تنقیہ کے ہو چار روز منضج بارد تناول
کرکے مسہل بارد سے تنقیہ کرین اگر دوسرے مسہل کے ضرورت ہو ایک روز کا وقفہ
دیکر کرین اور یوم وقفہ مین لعاب بہیدانہ تین ماشہ شیرہ عناب پنجدانہ شربت بنفشہ
دو تولہ اسپغول مسلم ہفت ماشہ پلادین - اگر دوای مسہل قے ہو ثفل اوسکا یا
ادویہ مسہلہ سابقہ ملکر جہانکر شیرہ مغز بادام مقشر پنجدانہ اضافہ کرکے پلادین =

اگر مسہل عمل نکرے عرقیات نیم گرم مثل عرق بادیان و عرق مکو و گلاب و شیافہ وغیرہ سے اعانت کرین - اگر مریض مسہل مین عادی قے کا ہو دو روز پہلی مسہل سے قے کرین اور بروز مسہل مقویات معدہ مثل شربت انار وغیرہ استعمال کرین - قسم چہارم دردسر جو بشرکت معدہ کی ہو علاج اصلاح معدہ کی کرین - ترش چیزین کہاتا و قے کرین - اگر مادہ بلغمی ہو تخم شبت و تخم ترب و شہد و نمک پانی مین جوش دیکر صاف کرکے پلادین اور مکرر قے کرادین اور ایک ماشہ مصطگی گلقند مین ملاکر کہلاوین اگر مادہ صفراوی ہو سکنجبین سادہ چار تولہ پانی ایک سیر نیم گرم ملاکر پلاکر قے کرائین اور گلاب سات تولہ مین سکنجبین سادہ دو تولہ ملاکر دیوین قسم پنجم دردسر جو سبب خمار شراب کے ہو - علاج ساتہہ سکنجبین کے قے کرین اور شربت انار اور شربت بہی و سکنجبین ہر یک یکتولہ گلاب پنجتولہ آب سرد پنجتولہ ملاکر دیوین - قسم ششم دردسر جو بسبب کرم دماغ کے ہو علامت دریافت ہونا سرمین دغدغہ اور حرکت کرم کا اور آنا خون کا ناک سے قطرہ قطرہ علاج اسکا ضمن دوم فصل ہذا مین ملاحظہ فرماوین قسم ہفتم دردسر بارد - علاج اسکا مثل علاج لقوہ کے ہے جو آگی آتا ہے مگر اسمین ماء العسل نہ دینا چاہیئے - واضح ہو کہ اور بہی چند قسم کا دردسر ہوتا ہے بسبب طوالت اسیقدر پر اکتفا کیا گیا مطولات مین مطالعہ فرماوین قرص مثلث پیشانی اور صدغین پر طلا کرنیسے شقیقہ و صداع و سہر کو دور کرتا ہے صنعت مرکی افیون مصری بزر البنج لادن کافور زعفران پوست بیخ لفاح ہر یک پنجتولہ کندر انزروت آملہ گل ارمنی ہر یک دو تولہ - کوٹکر چہانکر آب کاہو و گلاب مین ملاکر بہلو قرص بنادین - وقت ضرورت کے واسطہ دفع صداع گرم کے آب لیمو یا سرکہ یا آب کشنیز یا آب کو کنار مین طلا کرین - اور دفع دردسر بارد کے لیئے آب حنا و آب نمک و مرزنجوش مین ملاکر

اطلا کرین - یہ ورم گرم مین بھی ضماداً استعمال ہوتے ہین - مثلث اسلیے
بنائی جاتی ہین جو ستین اور قرص خوردنی مین تفاوت رہے اور جلد حل کیے جاوین -
پاشویہ - واسطے درد سر و تپ ... اور ... بخارات کے مفید صفت عناب ثعلب
گل بنفشہ گل نیلوفر گاؤزبان گل خطمی ہر ایک تین تولہ سبوس گندم نمک سانبھر ہر ایک
چہار تولہ برگ کنار نیم آثار سب کو ریختہ پانی مین جوش دیکر جب تیسرا حصہ پانیکا
جلے صاف کرکے پاشویہ نیم گرم کرین -
شربت بنفشہ دافع درد سر و پتہ و گردہ و نزلہ و زکام و ذات الجنب و ذات الریۃ
و تپ و سرفہ و بول جاری اوسکی نسخہ صفت گل بنفشہ ساڑھے تین تولہ
رات کو پانی مین تر کرین اور صبح ... چھانکر شکر سفید ایک سیر مین قوام بنا دین -
اگر گل بنفشہ تازہ ہو پاؤ سیر ... کافی ہے -
شربت نیلوفر - واسطے تپ صفراوی اور درد سر حار و ذات الجنب و
ذات الریہ کی مفید ہے ترکیب اسکی مثل شربت بنفشہ کے ہے -
طلا منوم - دافع بیداری ... صفت - تخم نیلوفر تخم کاہو تخم خشخاش
صندل سفید ہر ایک ... ماشہ ... ماشہ افیون ... زعفران ہر ایک نیم ماشہ سبکو
پیسکر ایک تولہ روغن گل اور دو تولہ آب گشنیز سبز اور چھ ماشہ سرکہ مین ملا کر تالو اور
پیشانی پر لیپ کرین -
روغن گل مرکب القوی و مرطب دماغ و منوم و رادع و قابض و محلل و موافق
مزاج سرد و گرم اور ساتھ قوت مسہلہ کے اور مسکن التہاب جلد اور دافع مواد
خبیثہ زخمہا اور مضمضہ اوسکا مسکن درد دندان اور نطول اوسکا مقوی دماغ
و اعضای رئیسہ و محلل مواد فاسدہ و مسکن درد طلا اوسکا ساتھ سرکہ کی تحلیلہ اوسکا

اوسکا ساتھہ سرکہ وگلاب کے مسکن درد اور اونکی بخارات دماغی وموافق اورام دماغ اور
جرب کرنا اوسکا ہے اور یہ حابس اسہال کا مقوی فعل ادویہ مذکورہ ہے ۔
بدل اوسکا نیم وزن اوسکے روغن گل ہے اور ہموزن اوسکے روغن بید مشک
ہی ۔ **صفت** ۔ گل سرخ کو روغن کنجد مین ڈالکر دہوپ مین رکہین جب پہول
مذکور سفید ہو جاوین اونکو نکالکر اور پہول ڈالین اسیطرح سات بار تجدید گل کرین
ترکیب دیگر آب افشردہ گل سرخ تازہ ہموزن اوسکے روغن کنجد یا زیتون ملاکر
جوش دیوین جب روغن باقی رہے ۔

منضج بارد جو نضج مادہ حار کرتا ہی **صفت** ۔ تخم گل بنفشہ گل سرخ تخم خطمی
شاہترہ تخم کاسنی ہر یک سات ماشہ گل نیلوفر پنجماشہ عناب آلو بخارا ہر یک
پنجدانہ رات کو گرم پانی مین تر کرین صبح ملکر چہانکر گلقند دو تولہ اوسمین ملاکر پلاوین

مسہل بارد ۔ جو اخراج مادہ حار کرتا ہے **صفت** ۔ مغز فلوس ہفت تولہ
ترنجبین تمر ہندی ہر یک چہار تولہ شیرہ مغز بادام مقشر پنجدانہ منضج بارد مین اضافہ
کرکے دیوین مگر گلقند دو تولہ وزن مین زیادہ کرین اور یوم مسہل مین ہنگام تشنگی
عرق مکو عرق کاسنی نوش کرین ۔ اگر عرق نہ ملے پانیکو جوش کرکے مکو یا کاسنی
تہیلے مین باندہ کر اوسمین ڈالین اور بجای عرق استعمال کرین ۔ یا مکو یا کاسنی چار
تولہ کے پوٹلی باندہکر دس سیر پانی مین جوشدین جب پانی رنگ پکڑے بجای عرق
استعمال مین لاوین ۔ غذا وقت دوپہر اش جو وقت سہ پہر کہچری مونگ ملایم
کہاوین ۔ **لقوہ** ۔ کجی ایک شق چہرہ کو کہتی ہین علاج چار روز تک
ماء العسل پر اکتفا کرین اگر مریض برداشت کرے ایک ہفتہ تا ماء العسل دیوین
اور ایارہ جاتبہل منہہ مین رکہین ۔ پانچوین روز شوربای کبوتر یا دال

ملیٹھہ دیوین بجای پانی کے عرق بادیان پلاوین - اگر حاجت تنقیہ کے ہو آٹھوین روز
منضج گرم شروع کرین اور سولوین دن مسہل گرم سے تنقیہ کرین سترہوین روز
گلقند عسل چار تولہ عرق بادیان ایک پاؤ مین ملکر چہانکر تخم ریحان پنجماشہ اضافہ کرکے
دیوین - اٹھارہوین روز پھر مسہل مذکور دیکر انیسوین روز حسب دستور گلقند
وغیرہ استعمال کرین - پھر دورہ منضج گرم پلاکر روز سیوم حب ایارج یا حب شبیارہی
مثل مسہل مذکورہ ایک روز کا درمیانی وقفہ دیکر دو تنقیہ کرین - بعد انفراغ
از تنقیہ معجون سیر اور دواء المسک حار و دیگر معاجین گرم کہلاوین اور روغن
دہتورہ و دیگر روغنہای حارہ کی مالش کرین - اسیطرح سے علاج - ۸ **فالج**
یعنی ادرنگ کا ۹ **استرخا** یعنے ڈہیلاپن کا ۱۰ **تمدد** یعنی کہچاوٹ کا ۱۱
اختلاج کا یعنی پھرکنا ۱۲ **رعشہ** کا یعنی کانپنا ۱۳ **خدر** یعنی سن کا
۱۴ **سکتہ** کا یعنی مثل موتہ کے ہو جانے **شناخت** اسکے یہہ ہے کہ اگر
آنکھہ کے پتلی مین شبیہ مثل چراغ وغیرہ کے معلوم ہو یا روئی ناک کے سوراخ پر
رکہنی سے جنبش کرے تو سکوت سمجہنا چاہیئے والا مردہ ہے ۱۵ **تشنج** کا یعنے
کہچنا اعضا کا ۱۶ **کزاز** یعنی تشنج پٹہون گردن کا ۱۷ **صرع** - یعنے
مرگی - مگر بقول بقراط جو صرع بعد بلوغ کے حادث ہو زائل نہین ہوتی ۱۸
دوار یعنی جملہ اشیا گردش مین معلوم ہون ۱۹ **سدر** - یعنی بخار بدن سے
اوٹھتا معلوم ہو اور آنکھین تاریک ہو جاوین ۲۰ **کابوس** یعنی چہاتی
پر بوجہہ خواب مین دیکہنی نفس تنگ ہو بولنا اور ہلنا نسکے ۲۱ **لیثرغس** یعنے
سرسام بلغمی ۲۲ **سبات** یعنے اس کثرت سے نیند ہو جو جاگنا محال ہو
۲۳ **جمود** یعنی آدمی یکایک کہڑا یا بیٹہا رہ جائے ۲۴ **نسیان** یعنے

یعنی نواسوشی ماء العسل واسطے فالج ولقوہ وتقویت معدہ وباہ کے مفید
صفت شہد ایکپاو آب صاف آدہ سیر مین آتش نرم پر جوش دین اور کف
دور کرتے رہین جب جملہ وزن مین آدہ سیر باقی رہے تیار ہے نوع دیگر شہد ایک پاؤ
پانی ڈیڑہ سیر جوش دین جب نصف باقی رہی تیار ہے - اگر دارچینی زنجبیل
مصطگی زعفران الایچی جائپھل جوتری ماء العسل مین داخل کرین تو تیز ہوتا ہی -

منضج گرم - جو نضج مادہ بارد کرتا ہے صفت بیخ کاسنی بیخ بادیان تخم کرفس
بیخ اذخر بادیان جملہ نیمکوفتہ پرسیاوشان اسطوخودوس ہریک ہفتماشہ اصل السوس
مقشر نیمکوفتہ پنجماشہ مویز منقی نہ دانہ انجیر زرد پنجدانہ رات کو پانی گرم مین تر کرکے صبح
جوش دیکر ملکر چھانکر گلقند عسلی چار تولہ اوسمین ملکر چھانکر پیوین مسہل گرم
جو اخراج مادہ بارد کرے صفت مغز فلوس سات تولہ شکر سرخ چار تولہ تربد
سفید مجوف خراشیدہ پنجماشہ غاریقون دو ماشہ سنا مکی روغن بید انجیر ہر ایک یکتولہ
روغن بادام یکماشہ منضج حار مین اضافہ کرکے دیوین - ہنگام تشنگی عرق بادیان غذا
بعد دوپہر آب گوشت کبوتر یا آب موٹہہ بعد سہ پہر کھچری موٹہہ -

حب ایارج واسطے دردسر مزمن و مرگی اور سکتہ اور امراض چشم کے مفید
دماغ اور اعضاء رئیسہ کو فضول و اخلاط بلغمی سے پاک کرے صفت دارچینی
عود بلسان حب بلسان سلیخہ مصطگی اسارون زعفران ہریک نیم ماشہ صبر
سقوطری ہشت ماشہ کوٹ کر چھانکر سات ماشہ اسمین سے لیوین اور تربد سفید مجوف
خراشیدہ سات ماشہ حب النیل غاریقون انیسون ہریک ساڑہی تین ماشہ شحم
حنظل نمک ہندی سوا دو ماشہ کوٹ کر چھانکر اوسمین ملاکر آب بادیان بقدر موٹہہ
کے گولیان بناوین طریق استعمال حب ایارج - ایکتولہ حب ایارج

کو روغن بادام یا روغن گاؤ سی چرب کرکے ورق نقرہ لپیٹ کر چار گہڑی رات
رہی آب گرم کے ساتھ کہا کر سو جاوین اور صبح کو مسہل گرم سوائے مغز فلوس
و روغن بید انجیر کے پیوین اور آب غذا مثل مسہل گرم ہے - **حب شبیار** نافع
دماغ کو صفرا و بلغم سے پاک کرے اور دافع دردسر ہے **صفت** پوست ہلیلہ کابلی
پوست بلیلہ صبر سقوطری کندر سنائی ہر یک دو تولہ مقل ازرق ساڑہی تین
ماشہ حب النیل گل سرخ از ہر یک ساڑہی تین تولہ کتیرا ساڑہی دس ماشہ عصارہ
ریوند مصطگی از ہر یک ساڑہی تین ماشہ مقل کو پانی مین حل کرکے اجزای دیگر
کوٹ کر چہانکر اوسمین ملا کر گولیان بقدر موٹہ بناوین - **طریق استعمال
حب شبیار** - بقاعدہ حب ایارج کے استعمال کرین مگر اسکو بوقت خواب
شب کے ایکتولہ ہمراہ آب گرم کہا کر سونا چاہیئے - **معجون سیر** واسطہ لقوہ و
رعشہ و فالج و دردہای بواسیر و عجیب اور پہولبہری کے مفید مقوی معدہ و دافع بلغم
ہے قوت بڑہاوے رنگ سرخ کرے حرارت غریزی کو بڑہاوے خصوص بڈہونکو
نہایت مفید ہے **صفت** لہسن پوست وغیرہ سی پاک آدہ سیر کا ٹکڑے دودہ
ایک سیر مین پکاوین جب گل جاوے تب بیدشک ہمراہ اور نہ تولہ روغن گاؤ مین ملا کر
آگ سے اوتار کر ادویہ مفصل ذیل کوٹ کر چہانکر اوسمین ملاوین تو لگ جاوے
جائفل مصطگی مرچ سیاہ و پیپل [illegible] وکلان ہلیلہ کابلی و آسگندہ سونٹھ از ہر یک دو
تولہ گیارہ ماشہ عود خام زعفران ہر یک ایکتولہ ساڑہی پانچ ماشہ جوز الکے سات
ماشہ سے ایکتولہ - **دواء المسک حار** واسطہ خفقان و فالج و لقوہ و صرع و
خبث النفس و استرخا و گزاز امتلای کے مفید و مقوی قلب اور ہاضم اور
معدہ کو رطوبت وغیرہ سی پاک کرے **صفت** - زرنباد درونج مروارید

مروارید ناسفتہ کہربا بسد از ہریک دو تولہ گیارہ ماشہ ابریشم مقرض الکیس ماشہ بہمن سرخ و سفید سنبل الطیب ساذج ہندی الائچی لونگ از ہریک ساڑھے ستائیس ماشہ دار فلفل اشنہ سونٹھ از ہریک چودہ ماشہ مشک تین ماشہ شہد ایک سیر بطریق معروف معجون بناوین اور بعد دو مہینے کے استعمال کرین اگر جدوار چہارم حصہ معجون اضافہ کرین جمیع افعال خصوص دفع سم مین قوی ہوگی **خوراک** سواد و ماشہ ۔ **روغن دہتورہ** واسطہ لقوہ و رعشہ و جمیع امراض باردہ مزمنہ کے مفید **صفت** سیماب تخم دہتورہ زہر میٹہہ از ہریک ساڑہے تین ماشہ روغن کنجد پنجتولہ دس ماشہ روغن کو گرم کرین جو سرخ ہو جاوئی پہر آگ سے اوتار کر اجزای مذکورہ ملا کر دستہ آہنے سے خوب حل کر کے تیار کرین ۔

روغن بادام شیرین مغز بادام کو مقشر کر کے کوٹ کر قدری نبات سفید ملا کر طبق مس مین آگ پر رکھکر ہاتھہ کو پانی سے تر کر کے مغز بادام کو نچوڑین اور ظرف کو تہوڑا کج رکھین تا کہ روغن اوس طرف جمع ہو **نوع دیگر** مغز بادام کو باریک کر کے بدون آتش کے نچوڑ کر روغن نکالین ۔ ہر دو طریق مذکورہ سے روغن بادام تلخ جو واسطہ درد گوش بارد و دیگر امراض کے نافع ہے تیار ہوتا ہی ۔ اور اسیطرح روغن مغز تخم کدو تیار کرین ۔

۲۵ **مالیخولیا** اسکے چند قسم ہین **قسم اول** احتراق خون سے پیدا ہو علامت مریض ہمیشہ فرحان و خندان بلا سبب ہے ۔ **قسم دوم** احتراق صفراسی حادث ہو علامت جنون و غضب و اضطراب **قسم سیوم** احتراق سوداسی ہو علامت خوف فکر اور رونیکی کثرت **قسم چہارم** بلغم سے ہو علامت سستی و سکون ۔ دیگر اقسام اسکے بڑی کتابون مین ملاحظہ فرماوین ۔

علاج — سبب اول مین فصد ہفت اندام دست راست سی ایک سیر خون لیوین
پھر فصد صافن پانی بہت سی آدھ سیر خون نکالین بعد فصد بلکہ ہر روز بھی تبرید
دیوین — آملہ مربی شستہ ایک عدد ورق نقرہ ایک عدد مین لپیٹ کر ہمراہ شیرہ
آلو بخارا پنجدانہ شیرہ کشنیز خشک مقشر سات ماشہ شیرہ تخم خرفہ سیاہ ست ماشہ
پانی وگلاب ہریک نیم پاؤ مین تیار کرکے شربت نیلوفر دو تولہ تخم فرنجمشک
پنجماشہ داخل کرکے دیوین — اگر خوف سقوط قوت کا نہو ہر حال مین ابتدا
بفصد کرین نشتر وسیع مارین جو مادہ غلیظ خارج ہوجاوی — سینگھی لگانی
ہر دو ساق پر مفید ہین — مفرح بارد تین ماشہ یا ساڑھے چار ماشہ ہمراہ شیرہ
فرنجمشک پنجماشہ شیرہ آلو بخارا پنجدانہ پانی اور گلاب ہریک نیمپاؤ مین تیار
کرکے شربت نیلوفر دو تولہ ملاکر پلاوین — روغن بنفشہ وروغن بادام
شیرین وروغن کدو سر پر ملنا اور ناک وکان مین ٹپکانا مفید ہے — کافور
اور صندل گلاب مین جگر پر لیپ کرین — اگر حاجت تنقیہ کی ہو منضج بارد سے
نضج مادہ کرین پس جب نبض عریض وملایم اور قارورہ غلیظ وکدر ورنگ قارورہ
کا سفیدی سے سیاہی ہو مسہل کرین یعنی جوشاندہ اسطوخودوس بسفایج ہریک
سات ماشہ افسنتین پوست ہلیلہ زرد پوست ہلیلہ کابلی ہلیلہ سیاہ ہریک
چھ ماشہ افتیمون سناءمکی ورپارچہ بستہ ہریک نہ ماشہ غاریقون دو ماشہ مغز فلوس
شش یا ہفت تولہ ترنجبین گلقند شیرخشت تمرہندی ہریک چار تولہ شیرہ
مغز بادام مقشر ہفتدانہ منضج بارد مین اضافہ کرکے دیوین — اسیطرح سی علاج
مالیخولیا سے صفراوی کا لیکن اسمین تبرید اور تسکین زیادہ درکار ہے اور بعد
مسہل کے تنقیہ حب افتیمون کے ساتھ کرین — واسطہ تنقیہ مالیخولیائی یعنی

بلغمی و سوداوی کے منضج حار ہیں گل گاوزبان و گاوزبان گیلانی ہر یک پنجماشہ
گلسرخ اسطوخودوس تخم کاسنی تخم خطمی بیکوفتہ شاہترہ ہر یک سات ماشہ
اضافہ کرکے اور ادویہ شدید الحرارت منضج حار سے موقوف کرکے نضج کریں اور مسہلات
غاریقون و منعزفلوس وغیرہ جیسی صدر میں ذکر ہوا استعمال کریں۔ بعد مسہل
منعزفلوس کے مالیخولیای بلغمی میں تنقیہ بحب ایارج۔ اور مالیخولیای سوداوی کے
میں بحب افتیمون کریں۔ مالیخولیای سوداوی میں ترطیب زیادہ درکار ہے
صفراوی اور سوداوی میں بعد تنقیہ کے ماء الجبن اور شیرہ اور ماء القرع نہایت
مفید ہے۔ مثرودیطوس و دواء المسک حار و مفرح حار سے تقویت کریں تفریح
اور خوشی اور نیند اور ترطیب ہوای خانہ اور خوشبو گھر میں ڈالنی اور سونگھنا
خوشبو کا اور کھلانا غذای مرطبہ فاضل الکیموس کا اور حمام کرنا پہلی غذا سے نافع ہے
کثرت جماع اور غذا سے جو سودا کو زیادہ کرے اجتناب کرنا چاہیئے مثل عدس و
کرنب و گوشت خشک و غذای تیز و نمکین و نہایت ترش۔ اگر بسبب فساد
طعام کے ترشی فم معدہ کی معلوم ہو تو قی کرنا چاہیئے **قسم پنجم** مالیخولیائے
مراقی علامت بیقراری اور تنگی سینہ کے اور انجائی اور ڈکار ترش اور بھوک
زیادہ اور درد درمیان ہر دو شانہ۔ علاج۔ اگر مرض بسبب ورم حار مراق کے
ہو لگانا پچھنوں کا مراق پر اور پینا شیر خر کا چاہیئے اگر مادہ سرد ہو نطول و ضماد
حار استعمال کریں۔ اور تنقیہ میں ادویہ شدید الحرارت نہ دیویں۔ گلقند
و سکنجبین و جوارش و مفرح مقوی معدہ و دل دینا نافع ہے۔ غذا جوجہ
مرغ و زردی بیضہ اور مانند اسکے مناسب ہے۔
مفرح بارد۔ واسطہ مالیخولیا و دیگر امراض کے مفید صفحہ مرواریدنا سفتہ

کہربا شمعی ہریک چار و نیم ماشہ گل گاؤزبان طباشیر سفید مغز تخم کدو شیرین
تخم خرفہ سیاہ مقشر ہریک نہ ماشہ عنبر اشہب ورق طلا محلول ورق نقرہ محلول
از ہریک یکنیم ماشہ رب بہی شیرین رب بہ شیرین ہریک ہفت و نیم تولہ نبات چہل و
پنجتولہ گلاب و بید مشک ہریک نہ تولہ و چار ماشہ بطور معجون کے تیار کرین -

روغن بنفشہ سرسام و ترمنوم و دافع جرب خشکی دماغ و سینہ و سرفہ اور
تطلہ اوسکا تحلیلین دافع حرقت بول و حرارت مثانہ اور سعوط اوسکا واسطے
درد سر حار و بیخوابی کے مفید - بدل اسکا روغن نیلوفر - **ترکیب اسکے**
مثل ترکیب اول روغن گل کے ہے -

حب افتیمون واسطے اخراج مواد سوداویہ و بلغمیہ کے **صنعتہ افتیمون**
سات ماشہ غاریقون تربد سفید مجوف خراشیدہ بروغن گاؤ چرب کردہ
اسطوخودوس بسفایج فستقی ہریک ساڑھی تین ماشہ کوٹ کر چہانکر آب بادیان
مین بمقدار دھہ گولیان بناوین - جملہ ایک نسخہ اک ہے - طریق استعمال مثل
حب ایارج -

طریق استعمال ماء الجبن - شیر بز جوان سرخ رنگ ظرف قلعی دار
مین ڈالکر آگ پر جوش دین دو تین - اور کمال جوش مین سرکہ ڈالکر چوب انجیر
چار پارہ سے حرکت دیوین تاکہ دودھ پھٹ کر نیلا پانی نکلے پس وہ پانی سات
تولہ سے پینا شروع کرین اور تین روز اسی قدر پر اکتفا کرین پھر دو تولہ ہر روز
بڑہا کرین تا بیست تک پہونچائین اور ابتدا مین دو تولہ شربت نیلوفر شامل
کرلیا کرین پھر علی قدر آب شیر مذکور کسیقدر اسکو بھی بڑہاتے جاوین - ایام مسہل
یعنی روز ہشتم و دہم وغیرہ مین سفوف لاجورد سے مسہل کرین - اگر

اگر مادہ بکثرت ہو ایام مسہل مین دو تین بار مغز فلوس چھہ تولہ ترنجبین چار تولہ شیرخشت دو تولہ ماء الجبن ملکر چھانکر ملاکر مسہل دیوین بعد ازان سفوف مذکورہ سی مسہل کرین - اثنای استعمال ماء الجبن مین غذا آشجو یا شوربا خشکہ نان روا کے ساتھہ یا شولہ - لبنیات و مغلظات و حلویات و حموضات تندو بقولات و جماع و جمیع حرکات سخت سے پرہیز کرین - ایسی ہے ترکیب استعمال شیر بز - اور ماء القرع کے مگر سفوف و مسہل مغز فلوس اسمین استعمال نہین کرتے ترکیب نکالنی ماء القرع کے قرع یعنی کدو تازہ کو کارد سے چھیلکر لگائین اور آرد خمیر کا بقدر ایک انگشت کے اوسپر لیپ کرین پھر کپڑا اوسپر لپیٹ کر اوسپر لیپ کرین پھر تنور مین رات کو رکھکر صبح نکالکر اوسکو آرد وغیرہ سی پاک کرکے پانی اوسکا نچوڑین -

اجزای سفوف لاجورد - سنا مکی افتیمون ہریک ڈیڑہ ماشہ دو سرخ غاریقون نرم سفید لاجورد مغسول ہلیلہ سیاہ بادرنجبویہ ہریک ساڑہے تین ماشہ گل سرخ چودہ ماشہ تربد سفید مجوف خراشیدہ پوست ہلیلہ زرد پوست ہلیلہ کابلی بسفایج فستقی پودینہ جنگلی ہریک یکتولہ ساڑہے پانچ ماشہ اسطوخودوس سات ماشہ کوٹ کر چھانکر سفوف بنادین - خوراک نہ ماشہ سی ایک تولہ تک ہے -

مثرو دیطوس ذکر اسکا قسم اول فصل سیوم باب ششم مین مفصل درج ہے

مفرح حار سادہ - دافع ضعف دل و دماغ **صفت** - سعد زرد ورق نقرہ سنبل الطیب مصطگی اسارون زرنب زعفران ہریک ساڑہے چودہ ماشہ جدوار الایچی خورد کلان جائپہل ہریک پانچ کم سات ماشہ

عود خام ایکتولہ آٹھ ماشہ دو سرخ کوٹ کر چھانکر شہد پچیس تولہ تین ماشہ مین
معجون بناوین خوراک ڈھائی ماشہ ہمراہ عرق گاؤزبان و شربت سیب ۔
فایدہ ۔ امراض عصبانی مین استعمال شراب و سرکہ کا اور امراض دماغی
مین رات کا کہانا نہایت مضر ہے ۔

فائدہ

۲۶ زکام و نزلہ ۔ جو دماغ سے ناک کی راہ جاری ہو زکام ہے ۔ جو
حلق اور سینہ پر گری نزلہ ہے اگر حار ہو علامت سرخی روئے و چشم و تیزی
رطوبت ہے **علاج** ۔ بہیدانہ تین ماشہ عناب پنجدانہ سپستان سات دانہ
تخم خطمی سفید گاؤزبان گیلانی ہریک سات ماشہ پانی مین آبالکر چھانکر شربت بنفشہ
دو تولہ ملاکر دیوین ۔ بصورت کثرت نزلہ کے گوند و کتیرا ہریک یکماشہ باریک
کرکے خمیرہ خشخاش سات ماشہ مین ملاکر ہمراہ جوشاندہ مذکور کے دین ۔ زعفران
و گوند و کتیرا و افیون ہریک یکماشہ سبکو پیسکر آب کوکنار یا سفیدی تخم
مرغ مین ملاوین اور کاغذ مثل روپیہ کے تراش کر سوزن سے سوراخ کرکے
وہ اسپر لگاکر ہر دو پٹپٹے پر لگاوین ۔ غرغرہ کوکنار استعمال کرین ۔
عطسہ لینا مفید ہے ۔ اگر حاجت تنقیہ کے ہو بعد نضج کی مسہل بارد و حب
بنفشہ سے تنقیہ کرین ۔ اگر مادہ تیز ہو اول فصد سرارو کرین اور پہر تبرید
مندرجہ علاج دردسر دیوین روغن کدو و روغن نیلوفر ناکمین ٹپکاوین
کافور اور صندل کے دہونی دین ۔ ابتدامین نزلہ کو بند نکرین بلکہ اگر بند
ہوگیا ہو شکر طبرزد و کاغذ و عنبر و عود کی دہونی دین بطبیخ بابونہ سے انکباب
کرین ۔ اگر مادہ بلغمی ہو تنقیہ مسہل گرم و حب ایارج سے چاہیے جبتک
زکام زایل نہو گوشت کہائین ۔ جملہ اقسام نزلہ مین ہوا سرد و آب سرد سے

زکام و نزلہ

اب سرد سے پرہیز کرین — دن کو خصوصاً بعد کھانے کے خواب نکرین —

خمیرہ خشخاش واسطے سرسام اور بیخوابی اور درد سر اور منع نزلات حارہ اور اصلاح زخم شُش اور درد سینہ او تعدیل اخلاط محترقہ اور تسکین حرارت مزاج کے مفید — دو سال تک قوت اسمین رہتی ہے **صفت** کوکنار طلا ۱ نر با تخم دس عدد نیمکوب کرکے ڈہائی سیر آب بارانمین پکا کر چہانکر ڈیڑہ سیر نبات مین قوام خمیرہ کا بناوین —

غرغرہ کوکنار — واقع نزلہ **صفت** کوکنار ہر یک چھ ماشہ کوکنار چار عدد پانی تین پاو پختہ مین جوش دین جب آدہ سیر باقی رہے چہانکر نیمگرم غرغرہ کرین —

حب بنفشہ اخلاط غلیظہ کو سینہ سے دور کرے ربو وضیق النفس کو دفع کرے امراض چشم وسینہ کو زائل کرے **صفت** تربد وبنفشہ رب السوس ورق گل سرخ ہر یک ساڑہی تین ماشہ سقمونیا غاریقون ہر یک ۶ ماشہ کوٹ کر چہانکر پانیمین بقدر موٹہہ کے گولیان بناوین — جملہ ایک خوراک ہے استعمال مثل حب ایارج —

روغن کدو — واقع درد سر وصداع بیسی ومرطب ومنوم — دوسرے درجہ مین سرد وتر **صفت** کدو سبز کو پوست سے پاک کرکے مع لحم وشحم وتخم کوٹ کر پانی اوسکا نکالین اور چہارم حصہ اوسکے روغن کنجد ملاکر جوش دین جو پانی جل جاوے اور روغن باقی رہے —

ضمن دوم مین مندرج ہے علاج امراض سر بطور مسافرانہ —

یعنی ایسی دوائین جو قلیل اجزا ہین کہ جنکا بہم پہونچنا مسافر کو سہل ہے یا ایسے دوا کہ ایکبار بنائے جاوے اور عرصہ تک کام آوے مثل سفوف وحبوب

[illegible] وغیرہ — اور نیز اوسمین یہہ ملحوظ ہو کہ قلیل المقدار استعمال مین آوی
[illegible] ہمراہ رکہنا دشوار نشود —

درد سر گرم

۱ درد سر گرم — تخم کاسنی گلاب مین پیسکر سر و پیشانی پر لیپ کرین
آخر — تخم [illegible] پانیمین پیسکر ایسا ہی کرین آخر — شیر گلاب مین اسطرح لگاوین
آخر — صندل [illegible] گلاب مین پیشانی پر لیپ کرین —

درد سر بارد

۲ درد سر بارد — [illegible] روغن بنفشہ مین ملا کر ناکمین ٹپکاوین شقیقہ کو
بہی نافع ہے آخر — [illegible] پانیمین پیشانی پر طلا کرین درد سر جو [illegible] ہوتا ہے

درد سر کہ بسبب [illegible] ہو

۳ درد سر [illegible] گرم [illegible] — [illegible] سبز [illegible]
[illegible] آب برگ سبز [illegible] ناک مین ٹپکاوین آخر — [illegible] باریک کرکے فسوار [illegible]
آخر — [illegible] آب برگ سبز [illegible] مین پیسکر ناک مین ڈالین آخر — آبلوہ رسوت [illegible]
جوش [illegible] چہانکر [illegible] شیدہ اوسمین ملا کر ناکمین ٹپکاوین —

درد سر [illegible] قسم

۴ درد سر [illegible] قسم — [illegible] سر [illegible] مین آخر — [illegible] گلاب مین پیسکر
لیپ کرین آخر — [illegible] کلونجی شیر خشک [illegible] ہر ایک [illegible]
کوٹ کر چہانکر قدرے قلیل فسوار دیوین نزلہ و زکام کو بہی مفید ہے —

درد نیم سر

۵ شقیقہ یعنی درد نیم سر — نک چکنی پانیمین پیسکر دو تین قطرہ جانب
مخالف درد ناکمین ڈالین آخر — [illegible] پانیمین گہسکر ناک مین ٹپکاوین آخر —
شیرہ [illegible] مین [illegible] قدرے ملا کر ناکمین ڈالکر رو برو آفتاب کے بیٹہین آخر —
[illegible] ملا کر ایسا ہی کرین آخر — آشیانہ گنجشک پانیمین پیسکر
لیپ کرین اور دو تین قطرہ ناک مین ڈالین آخر — [illegible] ہلیلہ
[illegible] پانی مین [illegible] بوقت صبح ناک مین ٹپکاوین آخر — زعفران [illegible]

انجبار پیسکر شامل کرین آخر تیتیس چار تولہ نوشادر دو تولہ زعفران دو ماشہ مرچ سیاہ ایک عدد لونگ کوٹ کر چھانکر تھوڑی قلیل شامل کرین —

۴ — ضعف چشم — چراغ کی آنکھ ... سفید آبی ... شکر چھانکر آنکھ مین ملا کر ... ایک ... سے ... پیسکر ... ساتھ ... چشم ... روغن گاو ... پر ملین —

۵ ضعف دماغ — مغز ... کو ... سیاہ ... روغن ... چند روز ... کرین اور ... قلیل ... سر پر ملین ... مقوی دماغ ہے اور ... ہی آخر گلقند ... مقوی دماغ ہے آخر ... اور کھاوین آخر ... آب ... پیسکر ملاوین مقوی دماغ گرم ہے آخر دودھ پلاوین آخر گوشت مرغ اور تیتر کا کھاوین — آخر — خمیرہ گاوزبان عنبری — مقوی دماغ و مفرح قلب و دافع انواع مالیخولیا ... گاوزبان ... تین تولہ گل گاوزبان کشنیز خشک آبریشم مقرض ... سفید ... صندل سفید تخم ... ہر ایک ایک تولہ ... دو ماشہ — سبکو سوائے عنبر ... رات کو تر کرکے صبح ... جب تیسرا حصہ باقی رہے چھانکر نبات سفید ایک سیر شہد ایک پاؤ مین قوام تیار کرین آخر قوام مین عنبر ... اور ورق طلا و ورق نقرہ ہر یک ... اضافہ کرین جسقدر زیادہ حل کیا جاوے بہتر ہے — اگر مروارید و یاقوت

ادونہ مروڈ زہر مہرہ ہر ایک ساڑھی چار ماشہ اضافہ کیا جاوی خاصیت تریاق کے
پیدا کرتا ہے خوراک تین ماشہ سے سات ماشہ تک خمیرہ گاؤزبان دیگر
نہایت مقوی دماغ و دل و دافع خفقان و غشی صفت کافور چہہ سرخ مشک
پوست دو ماشہ زعفران ساڑھی تین ماشہ تراشہ صندل گلسرخ بالچھڑ اشنہ
ہر ایک ساڑھی تیرہ ماشہ بادرنجبویہ ساڑھے بائیس ماشہ گل گاؤزبان تین تولہ
نہ ماشہ گاؤزبان گیلانی ساڑھی سات تولہ۔ سوای پہلے تین دواؤن کے
سبکو ڈیڑھ سیر پانی اور گلاب مین رات کو ترکرکے صبح ابالکر چھانکر تین
پاؤ نبات مین قوام بناوین اور تینون اجزای مذکورہ ملاوین خوراک
سات ماشہ سے ساڑھے دس ماشہ تک ہمراہ عرق بید مشک اور گلاب کے ۔

۹ صرع یعنی مرگی ۔ اسطوخودوس تبفایج افتیمون عاقرقرحا صرع
ہر ایک تین تولہ آٹھ ماشہ مویز منقی مین سات گولیان بناوین ۔ ہر روز
ایک گولی کھلاوین آخر حلتیت ساتھ سکنجبین کے دیوین آخر وج
عود صلیب سفید ھی آخر پنیر مایہ حیوانات خصوص پنیر مایہ خرگوش ساتھ سرکہ
کے دین آخر سنگ عقیق پیسکر ملاوین آخر ریٹھہ پلاوین اور ریٹھہ
آب چقندر مین گھسکر ناک مین ڈالین آخر جوڑہ عود صلیب کا نیلے تاگے مین
باندھکر گلوی مریض مین ڈالین آخر لبدو یا توت درمردگردنین لٹکاوین
آخر دم موش سر پر لٹکاوین آخر عاقرقرحا سونگھنا اور لٹکانا مفید ہے آخر
استخوان انسان سوختہ ناکمین ڈالین آخر جند بیدستر و حلتیت سونگھین
آخر تاج خروس کے دھونی دین آخر گوشت کلھرے بریان قدری کھلاوین
آخر دو عدد بند انگرکھہ کو خون کھٹمل مین ترکرکے آگے ناک کے دھونی دین

دین آخر استخوان سر آدمی ناسوختہ نہایت باریک مانند سرمہ کے پیسکر سات ماشہ نہار تین روز تک کہلائین انشاء اللہ العزیز یہہ مرض پہر عود نکرینگے بالفرض اگر کرے تو سات سر نگس پانی مین پیسکر ناک مین ڈالین آخر پنبہ کو عرق بناگوش فیل مست مین تر کرکے رکہین اور عند الضرورت اوس پنبہ کو پانیمین تر کرکے دو تین قطرہ ناک مین ڈالین آخر پلاس پاپڑہ پانیمین گہسکر ناک مین ٹپکاوین مصروع بحال ہوتا ہے وجور عود صلیب۔ جدوار عود صلیب ہر یک یکماشہ عرق بادیان مین پیسکر حلق مین ٹپکاوین۔

۱۰ صرع و سکتہ۔ شحم حنظل قثاء الحمار نوشادر شونیز کندش خربق ابیض فلفل زنجبیل جند بید ستر فرفیون اسطوخودوس بادر نجبویہ فرداً یا مجموعگی منسوار دین۔

۱۱ فالج۔ کباب چینی اجواین نمک سانبہر تخم کشائی دار فلفل ہر یک دو تولہ سبکو باریک کرکے آب گہیکوار یا آب برگ آک یا شیر آک مین چند بار تسقیہ کرکے بقدر نخود گولیان بناکر ایک گولی صبح اور ایک بوقت خواب کہاوین آخر سنکہیہ سفید کتہہ سفید ہر ایک دو تولہ آب لیمو اور آب اونٹ کٹارا مین خوب کہرل کرکے بقدر موٹہہ گولیان بناکر ایک یا دو گولی کہلاوین وجع مفاصل کے لئی بہی مفید ہے آخر مغز بادام غاریقون نرم سفید آسارون ہر یک ساڑہے سترہ ماشہ شیر خشت سات ماشہ انجیر بتیس ۳۲ ماشہ گولیان بناکر پانچ روز متواتر کہاوین۔ ترشی سے پرہیز کرین لقوہ بہی دور ہوتا ہے اگر ایک گولی منہہ مین رکہین بالتخصیص دافع لقوہ ہے آخر کباب چینی وار چینی وج عاقر قرحا چباوین صرع کو بہی نافع ہے۔

۱۲ لقوہ - آئینہ چینی میں (جو مس اور نقرہ اور برنج سے بنایا جاتا ہے)
دیکھتے رہیں۔ آسٹر حب صنوبر کھانا بھی فالج کو بھی مفید ہے۔ آسٹر تریاق
اور شنگرف وغیرہ ... دو ماشہ ... تین تک دیویں۔ واقع صرع و سکتہ
و فالج بھی ہے۔ آسٹر ... برابر کوٹ کر چھانا ہوا آب ...
میں ملا کر حب الیس ... متواتر کھلائیں۔

۱۳ سکتہ - تا پا کرم ... کرین۔ آسٹر کندش ... جند بیدستر
سونگھاویں۔ آسٹر نیل اور ... دو تولہ باریک کر کے ... گولیاں
بناویں ... تین تولہ شیرہ ... سکوت بیہوش کو دیں اگر
... اندر ... دانت ...
... تا ہوش میں آئے ... آسٹر شونیز و کندش ... فرفیون
... بیدستر ... مشک ... عاقرقرحا ... نوشادر
ارمنی جملہ برابر باریک کر کے نلکی کے ساتھ ... اگر نہ ہو ... سعوط
لقوہ اور فالج اور دیگر امراض دماغی کو بہت مفید ہے اور منقی دماغ ... آسٹر
اخراج ... بذریعہ عطسہ کے کرے ... چھینک آنے کے وقت منہ اور ناک بند
کر کے تمام زور اندر کیطرف رجوع کریں۔

۱۴ خدر - آسٹر خا ... عاقرقرحا ... روغن ... میں ملا کر لیپ کریں۔ آسٹر
دار شیشعان ... باریک ... سرکہ میں ملا کر لیپ کریں۔

۱۵ خدر - عاقرقرحا ... برابر باریک ... سرکہ کہنہ یا آب پودینہ میں ملا کر
طلا کریں۔ آسٹر ... آب پودینہ میں ملا کر طلا کریں۔

۱۶ رعشہ بلغمی و لقوہ و فالج اور سوراخ جو حلق میں ہو جاوے

کابہل چار تولہ چینی دو تولہ باریک کرکے پھانک دیوین۔

۱۷ رعشہ۔ بزر البنج شیطرج حب بیستر جاقرقرحا ہر یک تین تولہ سکبینج حنظل ہر یک چار تولہ ایارہ فیقرا چہبولہ گولیان بناکر آٹھ ماشہ روز کہلا دین۔

۱۸ دوار و سدر و کابوس۔ اسطوخودوس کشنیز خشک ہر یک باریک کرکے اطریفل کشنیزی ایک تولہ مین ملاکر دیوین اطریفل کشنیزی دافع درد سر و چشم و گوش جو بخارات سے لاحق ہو اور مقوی معدہ ہی اور ... کو دور کرتا ہے صفت پوست بلیلہ زرد پوست بلیلہ کابلی بلیلہ سیاہ آملہ بلیلہ کشنیز خشک مغز مساوی کوٹ کر چہانکر روغن بادام یا روغن گاؤ چرب کرکے شہد سہ چند ادویہ مین ملادین۔ اگر دیر پا چاہین تو روغن بادام چرب کرنا چاہیے بعضی کشنیز برابر مجموع ادویہ کے ڈالتی ہین۔ اگر ... زیادہ منفعت ... ایک ... اضافہ کرین۔ اگر کشنیز داخل نہ کیا جاوے ... اطریفل صغیر کا ہی۔ بعد دو مہینے کے استعمال کرین۔ اگر بطور ... کے استعمال کیا جاوے تو ہمراہ نبات یا نمک کے یا بدون ملانے کسی چیز کے رات کو تر کرین اور صبح ملکر چہانکر باشربت مناسبہ پلا دین خوراک نو ماشہ سے سوا تولہ تک ہے۔

۱۹ نسیان۔ مغز سر مرغ پکاکر کہلادین اخضر مصطگی اور شکر ملاکر ... کے وقت دیوین اخضر سعد و زنجبیل ہر یک سات ماشہ کوٹ کر چہانکر مویز منقی مین ملاکر سات ماشہ ہر روز کہلا دین اخضر و آجینی ... تین ماشہ ہر روز دیوین اخضر زنجبیل سات ماشہ ہر روز کہلائین اخضر ... سعد لبان جملہ برابر کوٹ کر ... ماشہ دیوین اخضر ...

ملا در ہر روز دو یون اور نیز دافع جمیع علل بارده دماغی ہے -

۲۰ **مالیخولیا ہر قسم** - افیون بقدر فلفل کے آشجو مین ملا کر دینا شروع کرین اور ہر روز قدرے قدرے بڑہا کر افیون ڈیڑہ ماشہ تک پہونچائین -

۲۱ **لیثرغس** - جندبیدستر مریض کے سر پر ملین یا سونگہاوین -

۲۲ **سام ہر قسم** - نان مونگ ایک پہر سر پر رکہین اور حسب ضرورت تکرار عمل کرین آخر مرغ زندہ کا شکم چاک کرکے گرم خون سر پر ڈالین اور گرم گرم اوسکو سر پر باندہین جب بہبود ہو کرین ایسا ہی کبوتر کے بچہ کا عمل کرین -

۲۳ **زکام ونزلہ** - زعفران بزر البنج افیون صمغ عربی تخم کاہو تخم خشخاش سفید رب السوس یک یک ماشہ باریک کرکے پانی مین بقدر نخود گولیان بناکر ایک صبح اور ایک شام دیوین آخر افیون گوند زعفران کتیرا ہر یک ماشہ آب کاہو مین گولیان بنا کر ایک گولی بوقت خواب کہاوین

فصل دوم علاج امراض چشم بطور مجمل ومسافرانہ مندرج ہے

۱ **شبکور یعنی اندہراتا** - تیل تنباکو جو آب نیچہ سے برآمد ہوتے ہے اور آب پیاز دونون کو ملاکر آنکہہ مین ڈالین آخر فلفل گرد قرنفل لعاب دہن اسپ مین گہسکر بقدر فلفل آنکہہ مین ڈالین آخر دو تین قطرہ خون سے آنکہہ مین [illegible] آخر تنباکو خشک باریک کرکے بوقت غروب آفتاب سلائی لعاب دہن سے ترکرکے اوسکو تنباکو سائیدہ سے آلودہ کرکے آنکہوں مین ڈالین آخر [illegible] رو غن گاؤ بوقت صبح کہلاوین آخر فلفل دراز جغرات مین پیسکر ڈالین آخر کرم شب تاب کو برگ پان مین رکہکر شب یکشنبہ کو کہلاوین - آخر فلفل دراز مسلم جگر گوسفند مین چہپا کر آگ پر رکہین جو سوختہ ہو پس نکالکر شہد مین ملاکر

ملاکر آنکھوں مین ڈالین ۔ اخر زہرہ گاو شیشہ مین ڈالکر دو روز دہوپ مین رکھین پس
مرو زعفران برابر کوٹ کر اوسمین ملاکر تین روز دہوپ مین رکھکر استعمال کرین ۔

بیاض چشم

۲ بیاض چشم یعنی پھولہ ۔ سونٹھہ و پھٹکری و نمک سنگ مساوی الوزن
کوٹ کر چھانکر ہر روز تین بار آنکھہ مین ڈالین و اسطے پھولہ بسبب قیل کے بہی مفید ہے
اخر پھٹکرے گلابی دو تولہ نوشادر ایکتولہ دونون کو باریک کرکے پانی مین
ملاکر جوش دین تاکہ جلکر دوا باقی رہے بس اسکو مانند سرمہ کے پیسکر سات روز متواتر
آنکھہ مین ڈالین اخر نیلہ تھوتھہ بریان پوست ہلیلہ زرد افیون مصری ریسوت
قسم اول پھٹکری بریان کتھہ سفید کف دریا جملہ برابر سبکو پانی مین صلایہ کرکے شیاف
بنا وین بوقت حاجت پانی مین حل کرکے آنکھہ مین لگاوین اخر گل بجد غنچہ چنبیلی
فلفل گرد ہر یک چہار عدد پھٹکری سفید ساٹھہ تین تولہ بارہ ماشہ آبِ ... بہر ...
بناکر لگاوین اخر مغز کدو تلخ روغن مین ملاکر آنکھہ مین ڈالین ... ... مین
شاخ گوزن سفید عورت مین پیسکر آنکھہ مین ڈالین اخر نبات سفید پیسبر مین
گھسکر لگاوین اخر زیرہ سیاہ پانی مین پیسکر لگاوین اخر کف دریا آب سہرو مین
گھسکر ڈالین اخر روغن مغز بیضہ انسان سہی تین ماشہ کف دریا چہارم حصہ ملاکر بعد
ورا زنک ڈالتے رہین اخر ہلیلہ سیاہ بلاسر زرد چوبہ نمک سنگ آب ... صندل سرخ
جملہ برابر پانے مین پیسکر حبوب بناکر آنکھہ مین ڈالتے رہئیے ۔

احول

۳ احول ۔ دخان سندروس مین قدری شنگرف عنبر ملاکر آنکھہ مین ڈالین
چونکہ یہہ مرض منقسم باقسام ہے اسلئے بلاحظہ مطولات علاج کرنا چاہئیے ۔

خیالات

۴ خیالات یعنی روبرو آنکھون کے الوان و اشکال مختلفہ مشاہدہ ہون
اسکے چند قسم ہین ۔ اولا بسبب نزول کے ہوتا ہے ۔ مگر بقول حکما اگر چہ ...

تک خیالات ایک و تیرہ ہر رہین یعنی کدورت اور ضعف بصر زیادہ نہو تو خوف
نزول الماکا نہین ثانیا بسبب بخارات سوداوی جانب دماغ کے ہوتاہے - علاج
اطریفلات و خمیرجات و دیگر مقوی دماغ سے کرین ثالثا بسبب بخارات معدہ کے
ہوتا ہی - علاج اصلاح معدہ اور تقویت اوسکی کرین - علامات اور اقسام اسکے
بڑی کتابون مین دیکہین کحل واسطہ خیالات و بیاض و دمعہ و ظلمت بصر و ابتداے
نزول آب و نشف رطوبات و تقویت چشم کے مفید ہے صفحہ استخوان خرنا
سوختہ ساڑہی تین ماشہ تیزپات یونانی دو ماشہ نشاستہ سات ماشہ سرمہ اکیس ماشہ باریک
کرکے آنکہون مین ڈالین -

۵ نزول الماء یعنی موتیا - اسکی چند قسم ہین جو مطالعہ مطولات سے ظاہر
ہوسکتا ہی - جسوقت یہہ مرض نظر کو بند کرتی ہے لاعلاج ہوتا ہی البتہ جس آنکہہ
مین پانی سفید اور صاف و رقیق ہوتا ہے قدح یعنی سوا لگانے سے جاتا ہے دوا
کوئی موثر نہین ہوتی لیکن ابتداے نزول مین علاج بالدوا کرنا چاہیے علامات
ابتدا مین مثل پشہ اور بال اور دہوئی کے مریض پیش چشم محسوس کرے چراغ
اور چاند دو چند دکہائی دے علاج اطریفلات و خمیرجات کی مداومت کرین -
اگر حاجت ہو تنقیہ دماغ حب ایارج سے کرین - تخم کتیرہ باریک کرکے شہد مین ملاکر
آنکہہ مین لگائین آخر - نیلی شہد مین پیسکر آنکہہ مین ڈالین آخر پتنگ ساندہ پیسکر
آنکہہ مین ڈالین آخر صدغین پر گل لگائین آخر کحل - صابون پہٹکری نیلا تہوتہ
رال ہر یک ساڑہی تین ماشہ صابون کو کارد سے ریزہ ریزہ کرکے ظرف آہنی مین
ڈالکر آگ پر رکہین اور نیلا تہوتہ ہاون آہنے مین باریک کرکے وزن کرکے صابون
مین ملاوین تاکہ ہر دو یکجا ہوجاوین پہر رال ملاکر دستہ آہنے سے حل کرین اور نیچی

نزول الماء

نیچے آگ تیز جلاوین جب رنگ دواکا سیاہ ہو جائے آگ سے اوتار کر رکھین بوقت حاجت بقدر دانہ خشخاش پانیمین حل کرکے آنکھہ مین ڈالین بعد تین دنکے پھر ایسا ہی کرین اسیطرح تیسری روز ڈالتی رہین یہہ دوا جالہ کو بھی دور کرتی ہے **نفوخ** واسطہ نزول آب اور تنقیہ دماغ کے صفقتہ کا بہل چار ماشہ زعفران دو ماشہ مشک بالبہر ہر یک یکماشہ کوٹ کر چہانکر قدر قلیل استعمال کرین —

۶ **ترخیم مژہ یعنی گرنا پلک کا** — حجر لاجورد حجر ارمنی خستہ تمر ہندی سوختہ دخان کندر پوست صنوبر سنبل الطیب مساوی سبکو باریک کرکے آنکھہ مین لگائین **آخر** خاکستر پیخ آگ پانیمین پیسکر ستوا ترگرد آنکھہ کے ملین جا ترشی چشم کو منفعت ہے

۷ **قمل اجفان یعنی جوئین پلک مین ہوجانا** — نمک پانیمین ملاکر پلکونکو دہو ئین اور زرد شتق سے تنقیہ کرین آلو تلخ پلکونپر ملین **آخر** صبر سقوطری میں پیسکر طلا کرین آخر زنگار دو ماشہ میویزج ایک ماشہ باریک کرکے روغن مین ملاکر مژگان پر طلا کرین —

۸ **شعر المنقلب و شعر زائد** — اگر پلک جانب چشم اولٹ جائین **شعر منقلب** ہے اگر بال زائد زیر پلک جانب چشم پیدا ہون شعر زائد ہے — بالونکو اوکھاڑ کر شیر انجیر و خون مینڈک یا خون چچری اونٹ یا خون چچری کتے کا لگائین یا خون کہنہ کتی کا یا خون کھٹمل کا ملین — اگر حاجت تنقیہ کی ہو بعد نضج مسہل جار بعد ازان حب ایارج و شبیار دین —

۹ **قروح چشم** — اگر زخم مین میل ہو آب الماء العسل آنکھہ مین ڈالین اور شیر بز ٹپکاوین بعد ازان شیاف کندر آنکھہ مین ڈالین اور فرور سنکھہ استعمال کرین **اجزای شیاف کندر** — انزروت نشاستہ صمغ عربی کندر سفیدہ ارزیز

گوشت کرچہا، سفیدہ، تخم مرغ سے شیاف بناوین اجزای دیگر سنگہہ
سنکہہ سوختہ شادنج مغسول ہر دو مساوی کو تکر چہانکر شیاف بناوین ۔ بال اوکہاڑ کر
فوراً خون سے تر یا روغن کنجد لگاوین آخر صدف کو چک سوختہ سائیدہ قطرہ انزروت
ملاکر ملین ۔

۱۰ جرب عین یعنی باطن پلک مین سختی ہوکر خارش پیدا کرے
املہ کو آب گلاب مین تر کرکے اوس گلاب کو آنکھ مین ڈالین آخر مازو باریک پیس کر شہد ہمراہ
ملاکر پپوٹون پر لگاوین آخر پہٹکری کو پانی مین حل کرین ۔

۱۱ خارش پلک جو بسبب بوی بغل کے ہو ۔ زہرہ ماہی خشک ساڑہے
تین ماشہ نیلم یا بوسیر باریک کرکے آنکھ مین ڈالین ۔

۱۲ دمعہ یعنی ڈہلکہ ۔ زنگار صافی ساڑہے دس ماشہ اقلیمیا ہی فضہ اشق صمغ
عربی سفیدہ اندر ہر یک سات ماشہ باریک کرکے آب سداب مین ملاکر شیاف
کرین آنکھ مین لگاوین دافع سبل و جرب و کل چشم بہی ہے آخر ۔ توتیا مغسول
پندرہ ماشہ تبسہ ہلیلہ زرد صبر ہر یک چودہ ماشہ فلفل بوسفے دو ماشہ دارفلفل
ساڑہے تین ماشہ کحل تیار کرکے آنکھ مین ڈالین آخر ہلیلہ سیاہ گلاب یا پانی مین
پیسکر آنکھ مین لگاوین آخر شیرہ کنوار ایک قطرہ آنکھ مین ڈالکر سو رہین صبح
ڈہلکی کو بہی دور کرتا ہے آخر سنگ بصری ہلیلہ زرد ہر یک ساڑہے سات ماشہ
صبر سقوطری فلفل ہر دو ہر یک دو ماشہ گوشت کرچہا ملاکر آنکھ مین ڈالین آخر
کتہ سفید ایک تولہ سفیدہ کاشغری دو تولہ پانی مین پیسکر بقدر موٹھ گولیان بناوین
اور پانی مین حل کرکے بوقت صبح قدر قلیل آنکھون مین لگاتی رہین رمد و سبل و دیگر
امراض چشم کے لیے بہی مفید ہے ۔

۱۳ شعیرہ یعنی ورم مانند جو کی منبت پلک پر ہو۔ یہہ دو قسم ہے
اول ہم رنگ پلک دوم سرخ رنگ و نرم علاج۔ ہر دو فصد و تنقیہ دماغ کرین
گرسنہ رکھین رات کو طعام نہ دیوین۔ ابتدا مین رسوت مامیثا صبر گل ارمنی ہر یک
یکماشہ آب کاسنی مین پیسکر ضماد کرین پھر خون کبوتر کا لگائے۔ جب زمانہ
ابتدا گزر جای شمع گرم و دو خلیون لگاوین۔ قسم اول اگر زائل نہو شعیرہ کو دو ٹہا کہ
ناخن یا مقراض سے تراش کر ایک گہنٹہ خون بند نکرین پھر ذرور اصفر ملا...
۱۴ حرقت عین یعنی سوزش چشم۔ قلفل و فلفل ہر یک ساڑہے...
ماشہ زعفران سنبل الطیب ہر یک چودہ ماشہ رسوت اکیس ماشہ کا...
باریک کرکے آنکھہ مین ڈالین۔
۱۵ سلاق یعنی پلک موٹے اور سرخ ہو کر بال جھڑ جائین
چراغ مین روغن چراغ ملا کر تہالی حبت پر سپاری چہالیہ سے پیسکر آنکہہ مین
ڈالین آخر زنگار چہہ سرخ صمغ عربی اشق ہر یک چار ماشہ اقلیمیای طلا...
ہر یک دو ماشہ مازو یکماشہ کوٹ کر چہانکر آب سداب مین شیاف بنا...
کرین دافع جرب و سبل و شعر زائد ہے۔
۱۶ ظفرہ یعنی ناخنہ۔ یہہ ایک زیادتی ہے جو گوشہای چشم سے شروع ہو کر
تمام ڈیلہ کو ڈہکے۔ ساذج ہندی زنگار ہر یک یکنیم تولہ اقلیمیا دو تولہ اشق...
و ازقلفل ہر یک نیم تولہ اشق سکبنج کو شراب کہنہ مین حل کرکے دیگر ادویہ...
کرکے اوسمین ملا کر شیاف بناوین اور آنکھہ مین لگائین آخر کندر پانی...
مین پیسکر صبح اور شام آنکھہ مین لگاوین آخر زعفران پانی مین پیسکر...
کرین۔ آخر آب کرفس آب سماق آنکھہ مین ڈالین آخر چہرا...

ایک دن مین دو تین بار اونکھ مین ڈالین آخر نوشادر ایا سر اوسکا مانند قلم کے باریک تراشکر اوس سے سہالی ناخنہ کو اندک اندک حرکت ایک دن مین دو تین بار دیوین چند روز مین تمام ناخنہ جمع ہوکر دور ہو جاتا ہے —

پرپین چشم

۱۷ سپریدن چشم یعنی پہرکنا پلک کا — جوز بوا کا نہل روغن ہتیلی مین پیسکر پلک پر ملین آخر زعفران جو تری پانی مین گہسکر پلک پر ملین آخر زنجبیل قرنفل مامیران فلفل دار فلفل توتیا کرمانی مغسول صمغ عربی جملہ برابر ذرور بناکر استعمال کرین واسطے جمیع امراض باردہ مزمنہ و تقویت چشم کے مفید

شعور پلک

۱۸ شعور پلک یعنی گہانجنی — بقول بعضی شعیرہ ہے — رسوت گیرو پانیمین گہسکر لیپ کرین جب پختہ ہو زغال دیوار کہنہ نام پانیمین پیسکر لیپ کرین آخر غاذہ نرم ہو طلا کرین آخر لونگ اور ہلدی پانیمین گہسکر طلا کرین جلد پختہ کرتی ہے آخر انگشت دست راست کو کف دست چپ پر ملکر گرم کرین اور گہانجنی پر رکہین مکرر یہہ عمل کرین ایک وقت مین — اور ایسا ہی ایک روز مین چند بار کرین گہانجنی دور ہوتی ہے —

غرب

۱۹ غرب یعنی ناصور چشم — چرک ناصور پنبہ سے پاک کرکے لونگ چابکر ناصور پر باندہین آخر استخوان سر گربہ جو چالیس روز زمین مین دفن کیا ہو پیسکر ناصور پر چہڑکین آخر آب برگ توری خصوص جنگلی ناصور مین ڈالین آخر ماش چابکر ناصور پر باندہین آخر شیاف غرب واقع ناصور ہے آخر ناصور کے داغ دین — اگر یہہ تدبیر مفید نہو فصد سر اور اور حب تنقیہ حب ایارج سے کرین اجزا شیاف غرب صبر دکندر انزروت گلنار مر اخوین سرمہ پہٹکری ہر یک سات ماشہ تین ماشہ زنگار زنگار سرخ کوٹ کر چہانکر گلاب مین شیاف بناوین —

طرفہ

۲۰ طرفہ یعنی نقطہ سرخ آنکھہ مین پیدا ہو — خون بال کبوتر یا خون بال
بطہ یا کحل ابیض آنکھہ مین ڈالین اخر اقلیمیای فضہ مین سوختہ ہر یک پنتیس ماشہ
دم الاخوین بسد مروارید ہر یک چودہ ماشہ زرنیخ سرخ شکر طبرزد ہر یک پونے
دو ماشہ زعفران کتیرا اقاقیا نشاستہ زردچوبہ ہر یک چھہ ماشہ سرخ شیاف بناکر
استعمال کرین —

رمد و سبل

۲۱ رمد و سبل — اگر ورم سفیدی چشم مین حادث ہو رمد کہتی ہین — اگر
پردہ آنکھہ مین بسبب انتفاخ رگون ملتحمہ کے لاحق ہو سبل بولتی ہین یہہ دونو
[illegible] میں اکثر ہوتی ہین علاج لعاب بہیدانہ تین ماشہ شیرہ عناب پنجدانہ
شیرہ تخم [illegible] سات ماشہ شربت نیلوفر دو تولہ سے تبرید کرین اخر کثیرا انیلا
علی الفترات آنکھو پر رکھین آخر ماہ پانی مین گہسکر گرداگرد آنکھہ کے طلا کرین آخر
پھٹکری روغن گاؤ مین بریان کرین اور قدری افیون ڈالکر اور روغن زرد قلیل
ضماد کرکے کہرا آہنی مین دستہ آہنی سے خوب حل کرین اور گرد آنکھہ کے طلا کرین اخر
گہرہ اور جب گرد استعمال کرین آخر امچور کوٹ کر تابہ آہنی پر پانی مین طلا کر دستہ
آہنی سے باہستگی گھسین جو مانند سرکے یکذات ہو پس آنکھہ پر طلا کرین اگر قدرے
آنکھہ مین ڈالین ایک روز مین فایدہ بخشتا ہے آخر اسبغول [illegible] کری کو [illegible]
ضماد کرین آخر لیمون کا سر تراش کر نوک کارد سے اوسکے تخم دور کرکے قدرے
افیون اوسمین ڈال کر کارد سے اوسکے تخم دور کرکے تہ نشین کرین
اور اوسپر مستی جس قدر کہ ممکن ہو ڈالکر تہ کو پہونچا کر بہر کرین — اور
لیمون کو اگ پر رکھین جو جوش ماری پس پارچہ بافتہ دہن لیمون پر رکھکر نیم گرم
آنکھہ پر رکھین اور ایک قطرہ آنکھہ مین ٹپکا دین اگرچہ ٹپکانے سے ایک گونہ تکلیف

بعض نسخہ مشہور در ہند [illegible]

دو ہوتی ہے مگر جلد تر بانٹے جاری ہو کر سخت ہو جاتی ہے آخر روغن زرد کو شاث پانی سی دھو کر
پہٹکری بریان اوسمیں ملا کر پلک پر مالش کریں آخر آب دانہ انار ترش میں قدری افیون
اور چند افیون سے پہٹکری ملا کر جوش دیکر غلیظ کریں اور گولیاں بناویں آخر ضرور تا
گلاب یا پانی میں حل کر کے گرد چشم طلا کریں آخر برگ نیم برگ املی برگ سرس زرد چوب
پہٹکری افیون پونے دو ماشہ کوٹ کر پوٹلی باندھکر پانی میں رکھیں اور ساعت بساعت
تنکہ سے پہرائیں اور پانی اوسکا آنکہہ میں ڈالیں ایک رات دن میں دافع درد چشم جو
بسبب مد و سبل کے ہوجاتا ہے آخر تہلیہ کلان سنگ بصری مساوی پانی
گلاب میں پیسکر طلا کریں آخر افیون پہٹکری بریان آب لیمو میں ملا کر دستہ
آہنی سے تابہ آہنی پر پیسکر سیاہ کریں او طلا کریں دافع درد چشم ہے آخر زرد چوب
پہٹکری لودہ ہریک چہہ ماشہ قرنفل ایک عدد کوٹکر شیرہ تمر ہندی میں جوش کر دس
صاف کرتے ہیں ملا کر پارچہ میں پوٹلی باندھکر پانی میں رکہیں اور دو تین قطرہ
میں ڈالیں او پوٹلی مذکور ساعت بساعت آنکہہ پر پہرائیں ایک پہر میں درد
سرخی دور ہو جاتی ہے آخر برگ انار یا پانی گلاب میں پیسکر ٹکیہ بنا کر آنکہہ پر باندھیں
یا برگ تمر ہندی سے عمل کریں دافع سرخی و سوزش و آشوب چشم ہے آخر جست
آخر ملٹہی پانی میں پیسکر پنبہ آلودہ کر کے آنکہہ پر رکہیں دافع سرخی چشم ہے
برگ کشائی آنکہہ میں ڈالیں یا برگ اوسکے آنکہہ پر باندہیں دافع درد چشم ہے
ایک پنبہ کو چاچہ میں ابالکر آنکہہ پر باندہیں دافع درد ہے آخر انزروت کو
سفیدی بیضہ مرغ یا شیر دختر یا شیر بز میں پیسکر آنکہہ پر لیپ کریں دافع درد ہے
اگر تدبیر مذکورہ سے ازالہ مرض نہ ہو تو فصد سر اروے جانب مرض نیم آثار خون
لیویں او بعد فصد کی تبرید مذکورہ باضافہ تخم ریحان پنجماشہ کے دیں اور شرتہی

پیچھے دونو کانون کے اور گرد گرد مین سات سات جوک لگائین دوسری روز
پھر اسیطرح جوک لگائین ۔ اگر حاجت تنقیہ کے ہو بعد استعمال منضج بارد مسہل
بارد سے تنقیہ کرین پھر حب ہلیلہ دیوین ۔ اگر مادہ مرکب ہو اور مزاج گرم ہو استعمال
حب ایارج بھی جایز ہے ۔ **سگہڑہ** دافع درد چشم و رمد و دمعہ **صفتہ** لیمون کاغذی
آدہ سیر افیون ساڑھی دس ماشہ پھٹکری آدہ پاؤ ظرف آہنی مین پھٹکری کو بریان
کرکے افیون ملاکر آب لیمو قدری قدری ڈالکر دستہ آہنی سے حل کرین جو خوب
مخلوط ہو تو آب لیمو خالی ہو پس گولیان بناوین ۔ ضرورتا پانی مین پیسکر گرم
گرد چشم طلا کرین یا آنکھ مین ڈالین ۔
حب گیرو ۔ دافع جمیع امراض چشم خصوص آخر رمد و سبل و سلاق و سواد چشم
و سکن درد **صفتہ** گیرو چار تولہ افیون یکتولہ صمغ عربی زنجبیل ہر یک ۳ ماشہ
کوٹ کر چھانکر اگر ورم ہو آب گشنیز سبز مین اگر مواد نزلہ کا چشم پر گرا ہو آب
کوکنار مین گولیان بناکر سایہ مین خشک کرین ضرورتا آب چاہ یا آبہای مذکورہ
مین حل کرکے آنکھ پر طلا کرین ۔ **حب سبز** ۔ دافع امراض چشم **صفتہ**
پھٹکری دو تولہ افیون یکتولہ رسوت چار تولہ برگ نیم پنجدہ زعفران پنج سرخ
سبکو پیسکر کڑاہی آہنی مین قدری پانی ملاکر دستہ آہنی سے خوب کھرل
کرکے آگ پر رکھین جو پانی سوختہ ہو کر غلیظ ہو جائے پھر گولیان بناکر بطور حب
گرم مستعمل کرین ۔ کبھی اسمین ایلوہ بھی ملاتے ہین ۔ **حب ہلیلہ** دافع اقسام
صداع و مالیخولیا و امراض چشم **صفتہ** پوست ہلیلہ زرد پوست ہلیلہ کابلی ہلیلہ
سیاہ آملہ مقشر پوست بلیلہ گل سرخ ہر یک ۳ ماشہ سنا مکی چھہ ماشہ خار خسک
ترمس و سفید تربد سفید مجوف خراشیدہ لاجورد مغسول ہر یک سات ماشہ گولیان

پلادین — اگر لاجورد و نہو صبر و مصطکی ہر یک سات ماشہ پلادین — ترکیب استعمال مثل حب ایارج

۲۲ کمدر یعنی سرخی خفیف چشم — علاج اسکا مثل رمد کرنا چاہئے مگر بقدر خفیف ہو — ف کمدر

۲۳ دبیج یعنی رمد عظیم جو آنکھ بند ہو سکی — مثل علاج رمد — ف دبیج

۲۴ روزکورہ یعنی دن میں نہ سوجھی — لعاب بہیدانہ تین ماشہ لعاب اسبغول پنجماشہ شیر خشخاش سات ماشہ شربت نیلوفر دو تولہ پلادین — ف روزکورہ

شیر زنان و روغن بنفشہ و روغن کدو ناک میں ڈالین — آب سرد مین غوطہ دین ترطیب و تقویت دماغ اغذیہ مرطبہ سی اور تغلیظ خون اغذیہ لزجہ سے کرین مثل ہریسہ و کلہ پاچہ — برودہ مرہم آنکھ مین ڈالین — برودہ حصرم و اثمد جرب و بیاض و روسلاق و سنبل و مغزہ صفتہ توتیای کرمانی سعول پنجماشہ پوست بلیلہ زرد زرد چوب زنجبیل ہر یک ساڑہی ستروہ ماشہ دار فلفل مامیران چینی ہر یک ساڑہے دس ماشہ نمک ہندی ساڑہے تین ماشہ کوٹ کر صاف کر آب غورہ میں بیس روز پرورہ کرکے خشک کرین اور پہر کوٹ کر دوا بنا کر استعمال کرین —

۲۵ بردہ یعنی رطوبت غلیظ اندر پلک کے منجمد ہو — انزروت سرکہ مین طلا کرین — اگر تحلیل نہو چیر کر خارج کرین — ف بردہ

۲۶ کمنہ اسکے چند قسم ہین اولا بوقت جاگنی کے رنگ یا خاک آنکھ مین معلوم ہو سبب اسکا ریح غلیظ سے گرانی پلک مین پیدا ہو اور طبقات چشم مین بخارات غلیظ محتبس ہون علاج بعد تنقیہ عام احمرلین اور احرجادہ اور باسلیقون آنکھ مین ڈالین شیاف سود پلک پر بطرف بیرون مالش کرین اور ہر صبح حمام کرین ثانیا ریح طبقہ قرنیہ مین جمع ہو علاج مطولات مین ملاحظہ فرماوین ثالثا بسبب ارتفاع بخارات سودا و یہ کے بینائی ضعیف ہو اور حالت شبیہ بزرشکی

برمد خشک حادث ہو علامت ابر اور دہوا نظر مین رہے رنگ طبقات کا
سرخ اور مکدر ہو اور حرکت چشم مین ثقل پیدا ہو اور مریض بخیال خود انکہہ کو ہیئت
اصلی سے زیادہ سمجہے اور انکہہ مین خارش ہو اور آب گرم سے اگر دہووین تخفیف و
تسکین حاصل ہو۔ علاج حب ایارج اور طبیخ افتیمون سے استفراغ کرین اخیر
ذرور کمشہ انکہہ مین ڈالین اخیر حلبہ اکلیل الملک بابونہ پانی مین جوش دیکر انکہہ پر تکمید کرین

شیاف احمر لین۔ شادنج چہہ تولہ صمغ عربی کتیرا ہر یک پنجتولہ مس سوختہ
تین تولہ آب مروارید کہرپا سپیدہ رصاص شنگرف ہر یک یکتولہ دم الاخوین زعفران
ہر یک چہہ ماشہ جملہ گیارہ دوا۔ کوٹ کر چہانکر پانی مین شیاف بناوین۔

شیاف احمر حاد۔ شادنج زاج سوختہ ہر یک یکتولہ مس سوختہ زعفران فلفل
ہر یک نیمتولہ کوٹ کر چہانکر آب سداب مین شیاف تیار کرین۔

باسلیقون یعنی شاہانہ دوا صفحہ زبد البحر اقلیمیای نقرہ ہر یک دس ماشہ
مامیران عروق ہر یک تین ماشہ مس سوختہ نمک اندرانی شادنج سفیدہ رصاص
توتیا فلفل دار فلفل سنبل ہر یک آٹہہ ماشہ قشر ہلیلہ نمک عجین عصارہ مامیثا
ہر یک پنجماشہ مشک آدہ ماشہ کوٹ کر چہانکر کحل بناوین۔

شیاف اسود دافع سبل صمغ اقاقیا مغسول صمغ عربی ہر یک آٹہہ
ماشہ مس سوختہ پنجماشہ مر افیون ہر یک دو ماشہ کوٹ کر چہانکر پانی مین شیاف بناوین
ذرور کمشہ۔ مامیران دار فلفل ہر یک چہہ رتی صبر سقوطری نشاستہ ہلیلہ زرد
زبد البحر مر سوخت ہر یک ساڑہی تین ماشہ۔ جملہ ہفت دارو۔ کوٹ کر چہان کر
استعمال کرین۔ کبہی آب بادیان مین گولیان بناتے ہین۔

۲۷ قذی یعنی کوئی چیز انکہہ مین پڑے۔ اسکے دو قسم ہین اول خشن و حاد

آنکھہ مین پڑے **علامت** بلا سبب یکر بعد پہونچنی غبار کے اشک جاری ہون
علاج آنکھہ کو گرم پانی سے دہووین آنکھہ ملنی سے پرہیز کرین دودہ عورت کا
ڈالین — اس سے دود و غبار زائل ہوتا ہے — **تمق** چشم یا بیخ پلک مین اگر شی
افتادہ محسوس ہو تو میل سے نکالین — یا پنبہ اوسپر ایک ساعت رکہین جو وہ
اوسپر لگ جائے یکبارگی نکالین — اگر شی افتادہ ملتحمہ یا باطن پلک مین چمٹ
گئی ہو تو پارچہ کتان وغیرہ سے بآسانی اوسکو خارج کرین — اگر چمٹ گئے
ہو نشاستہ نہایت باریک کرکے آنکھہ مین ڈالین اور ایک ساعت رکہین جو اوسمین
وہ شی چسپان ہو ضع خود سے علیحدہ ہو کر نشاستہ مین لگجائی الیس نشاستہ
کو مع شی چسپیدہ کی پنبہ سے اوٹھا دین — اگر قذی نامعلوم ہو پارچہ کتان
انگشت پر لپیٹ کر اندرون پلک کے پہرائین — اگر پارہ خوشہ گندم یا جو یا ریزہ شیشہ
آنکھہ مین پڑکر چمٹ جائی اوسکو آلہ مختصہ سے خارج کرین اور یا جس طرح سے
ممکن ہو نکالین اور اوسکے اثر پر شیر زنان یا سفیدہ بیضہ مرغ ٹپکا دین **دوم** جانور
آنکھہ مین پڑجانے — ایک جانور چھوٹا پتنگا سا دو بازو باریک والا ہوتا ہی آنکھہ مین
پڑکر حدقہ پر چمٹ کر گزند پہونچاتا ہے جو درد شدید پیدا ہو کر آنکھہ سرخ ہو جاتی ہے
علاج کل سرشو باریک کرکے آنکھہ مین پر کرکے ایک ساعت باندہین جب جانور
مٹی مین لگ جائی پارچہ یا پنبہ سے خارج کرین —
۳ **ضربہ چشم** — سرخی اور ورم ہو **علاج** فصد کرین تقویات خفیفہ
و ماء الفواکہ سے تلیین کرین — اگر حاجت ہو پچھنہ لگائین — بعد تنقیہ کے تسکین
درد کے لئے سپیدہ و زردی بیضہ و روغن گل ملا کر آنکھہ پر رکہین — اگر بعد ازالہ
عوارض کے سیاہی رہے کشنیز و فوتنجر و سنگ دہیل و زنجبیل طلا کرین —

پتھر جو پیپل مین سے ملتا ہے اوسکو سنگ پیپل کہتی ہین اگر تلوار یا پتھر وغیرہ سے
ملتحمہ پر تفرق الاتصال واقع ہو علاج فصد و اسہال ہے اگر خون نکلا ہو پاک
کرین اور شادنج مغسول اور انڈکہہ کافور اوسپر باندہین اگر خون نکلا ہو تو تنہا
زردہ اور زردہ تخم مرغ پشت چشم پر رکہین تہوڑے تہوڑی بات کی بعد
فصد و اسہال عمل مین لاوین **کحل** ضرب چشم کے لئی سفید صفتہ ایلوہ رسوت
پوست ہلیلہ زرد شیاف مامیثا جملہ برابر کحل بناوین۔

۲۹ **ضعف بصر**۔ نمک سنگ سفید باریک کرکے اسقدر اسمین شیر چوب ملاوین
جو رنگ زرد ہو جائے اور استعمال کرین مقوی بصر و دافع دیگر امراض چشم کی ہی آخر
بہلاوہ یکعدد جلاوین جو دود اوسمین نر ہے او خاکستر بہی نخود یعنی کوئلہ ہوجا
اور پہٹکری بقدر دو نخود افیون بقدر یک نخود لیکر شکم تابہ مصفا مین
بہلاوہ ڈالکر آب لیمو قدری قدری ڈالکر دستہ آہنی سے حل کرین جو دو لیموں
ہون پس ظرف چینی مین بحفاظت رکھین اور عند الحاجت آب لیمو مین حل
کرکے آنکھوں مین ڈالکر آنکہہ بند کرکے حدقہ کو حرکت دین جو پانی بہت نکلی بعنایت
رفتہ آتی ہے جالہ و پہولہ و ابتدا نزول الماء کو مفید ہے آخر۔ حب آنکہہ کو
روشن کری اور چرک اوسکے دور ہو صفتہ۔ مغز خستہ ہلیلہ آملہ
مغز خستہ بلیلہ سنگ بصری ملٹھی جملہ برابر باریک کرکے آب سرد یا گلاب مین
بناوین اور آب سرد مین حل کرکے بوقت خواب آنکہہ مین ڈالین
خشک اور تنباکو بالمناصفہ حقہ مین دہوا کہاوین اور مداومت کرین آخر
بادیان نبات ہر یک سات ماشہ کوٹ کر رات کو سونیکے وقت کہالیا کرین آخر
سلائی طلائی آنکہہ مین ہر روز پہیرتے رہین آخر۔ **کحل** مقوی بصر و دافع

اجزاء صن چشم صفت سرمہ تین تولہ سنگ بصری ایک تولہ مروارید دو تولہ ممیران
چینی ماشہ سونا سوا تولہ سب دوا ہرون کو شیر حیوان ملا کے آٹھ روز تک آب ہلیلہ مین
[illegible] ماشہ کرین پہر چاہ ماشہ ورق طلا ملا کر ایک روز تک کہرل کرین بعضی کل نمرود
اول کرنے مین صرف ہون اور کہرل سنگ سماق یا چقماق ہونا چاہیے پس سلائی
سے آنکہہ مین نہار لگاتے رہین کحل الجواہر مقوی بصر صفت سرمہ اصفہانی
سات ماشہ مارقشیشا پانچ ماشہ اقلیمیا چہ ماشہ بارہ ماشہ مروارید ناسفتہ تین ماشہ زعفران
نیم ماشہ شب یمانی ماشہ صلایہ کرکے آنکہہ مین لگادین۔

حب کثیر المنفعت اگر ایک گولی جغرات مین حل کرکے اول بال پلک کے
اوکہاڑ کر لیپ کرین تو بال کو دور کرتا ہے۔ اگر آب کیلہ مین حل کرکے آنکہہ مین ڈالین
دافع دمعہ ہے۔ اگر بول بچہ گاو مین حل کرکے آنکہہ مین لگائین دافع تاریکی ہے۔
اگر شیر عورت مین حل کرکے آنکہہ مین ڈالین دافع سوزش چشم ہے۔ اگر آب بہنگرہ مین
حل کرکے آنکہہ مین ڈالین دافع شبکوری ہے۔ اگر دو گولی ہمراہ آب گرم کے کہاوین
دافع ہیضہ و درد شکم و گزدم گزندہ ہے۔ اگر چار گولی ہمراہ آب گرم دیوین دافع
زہرمار گزیدہ ہے۔ اجزای آن ناگر موتہہ آبرنگ زنجبیل سہاگہ چرائتہ
کٹکی دست ہلیلہ زرد فلفل دراز برگ نیم ہلدی مرچ سیاہ ہریک ششماشہ کوٹ کر
چہانکر بول بز مین خوب کہرل کرکے بقدر کنار دشتی گولیان بناکر سایہ مین خشک کرین

فصل سوم مین علاج امراض گوش مجملا اور مسافرانہ تحریر ہے

۱ درد گوش گرم۔ علامت سرخی اور سوزش کان کے اور درد شدید
اور تسکین درد اشیای بارزہ سے علاج تبرید مندرجہ ذیل استعمال کرین آخر

فصل علاج مجمل و مسافرانہ گوش

درد گوش

مہا در شیر دختر یا شیر بز مین نیمگرم کانمین ڈالین آخر دو قطرہ روغن گل ایک
قطرہ سرکہ ملا کر جوش دیکر نیمگرم کانمین ڈالین آخر ماء القیح اور ماء الخیار ڈالین آخر
صندل سرخ صندل سفید تخم کاہو ہر یک سات ماشہ گلاب اور آب کشنیز مین
گرد کان کے طلا کرین آخر کوکنار چار عدد و تکمو گل خطمی گلبنفشہ ہر یک سات ماشہ
شہ گاو ایک سیر بختہ مین جوش دیکر بخار اوسکا کانمین لیوین - اگر درد نہایت
سخت ہو تو تھوڑی قلیل افیون روغن گل مین حل کرکے نیمگرم کانمین ڈالین - اگر درد
ورم سے تبرید مذکورہ بلا ئین آخر جدوار کو صندل سرخ صندل سفید رسوت
گل ارمنی ہر یک پنج ماشہ آب کشنیز سبز کان کے گرد طلا کرین - اگر تدابیر مذکورہ سے
ازالہ نہو تو فصد سر ارو اور جوک لگائین - اگر حاجت تنقیہ کی ہو منضج بارد
اور مسہل بارد استعمال کرین - اگر ورم تحلیل نہو اور شدت [illegible]
ہو لعاب حلبہ و تخم کتان و تخم مرو ہر یک یکماشہ شیر دختر مین ملا کر نیمگرم کان مین [illegible]
تا کہ ورم نضیج پاکر منفجر ہو - پس فتیلہ پنبہ کہنہ شہد مین تر کرکے [illegible] رکھین جو پاک [illegible]
انزروت پیسکر اوپر فتیلہ کے جوش شہد مین ملوث ہو چھڑک کر کانمین رکھین - اگر
بسبب طول زمان قرحہ کے گرم پیدا ہون علامت حرکت کرم کے محسوس ہو
علاج عصارہ افسنتین سرکہ مین ملا کر کانمین ڈالین آخر آب برگ شفتالو یا آب
برگ نیم کانمین ڈالین آخر ادویہ قاتل کرم مندرجہ علاج درد سری استعمال
کرین - اسیطرح یہ علاج ہوام یعنی کانمین کوئی جانور گھس جاوے درد گوش
سرد - علاج روغن بابونہ روغن سوسن و روغن بلسان مجموع یا فردا فردا نیمگرم
کانمین ڈالین آخر روغن ترب یا روغن بادام تلخ یا روغن زرد کہنہ کانمین
ڈالین آخر دو تین قطرہ شیر تھوہر کے ڈالین آخر آب سکھدرسن کانمین ڈالین

روغن بابونہ ۔ محلل اورام باردہ اور مجفف ہے فلہٰذا اسکا واسطہ گرانی سامعہ اور تحلیل ریاح اعضاء و درد کمر و مفاصل و نقرس اور درد گوشش بارد و دیگر امراض کے مفید ترکیب اسکی مثل روغن بنفشہ کے ہے ۔

روغن سوسن واسطے کہولنی عروق منہ بواسیر کے اور ڈہائی تولہ اسہال قوی اور غرغرہ اسکا ہمراہ ماء العسل کے واسطہ خشونت قصبہ ریہ اور پلانا اسکا واسطہ رفع سمیت فطر و قولنج و ایلاوس صفراوی اور واسطہ امراض رحم و درد عصب کے شربا و ضماداً مفید ترکیب اسکی مثل روغن بنفشہ ۔

روغن ترب واقع درد گوش و ثقل سمع اور رواد جو کان میں ہو صفت روغن کنجد بیستولہ آب ترب تین تولہ ملاکر جوشدین جب پانی سوختہ ہوکر روغن باقی رہے ۔ درد گوش جو بسبب ورم سرد کے ہو ۔ تکو متفرقلوس اکلیل الملک بابونہ ہریک ششماشہ آب شنیر سبز مین پیسکر نیمگرم کان کے گرد ضماد کرین اور انہین ادویہ کو بوزن یک یک تولہ لیکر شیر گاو یک اثار نیم جوشش کر بہپارہ لیوین استعمال روغنہای مذکورہ کا اسمین بہی مفید ہے اخضر برگ نیم پانین جوشدین اور بخار اوسکا کان مین پہونچائین اسیطرح علاج درد گوش کا جو بسبب ہوائے سرد یا آب سرد کی ہو ۔ اسیطرح ہی علاج درد گوش کا جو بسبب ریاح کی ہو

۲۔ رطوبت صرف کان سے جاری ہو ۔ مازو باریک کرکے شراب کہنہ مین ملاکر کان مین ڈالین ۔

۳۔ نقصان یا بطلان سماعت یعنے کم یا جاتے رہنا شنوائی کا علاج

روغن سیرہ آلو تلخ کا نیم گرم ڈالین اخضر انجیر مزول ہریک یکماشہ کوٹکر فتیلہ بناکر کان مین رکہین اخضر موم بیائی روغن گل مین ملاکر ٹپکادین آخر دیگر تدابیر امراض مذکورہ

رطوبت صرف کان سے جاری ہو

نقصان یا بطلان سماعت

عمل مین لاوین۔ اگر امراض مذکورہ مین حاجت تنقیہ کی ہو منضج حار اور مسہل
حار بعد ازان حب ایارج اور حب شبیار دیوین۔

دوی و طنین

۴ دوی و طنین یعنی آواز کان سے آوی۔ علاج مثل علاج امراض مذکورہ الصدر
کے ہے آخر روغن قسط کانین ڈالین اخر شبت نرگس بابونہ اکلیل الملک
مساوی الوزن پانی مین ابالکر بخار اوسکا کانین لیوین ترکیب روغن قسط
قسط نیمکوفتہ پنتیس ماشہ ایک شب سرکہ مین ترکرین صبح آدہ سیر پانی ملاکر جوش
دین نصف باقی رہے آدہ سیر روغن کنجد اوسمین ملاکر جوش دین جو پانی جل
کر روغن باقی رہے۔

پانی کانین پڑجانا

۵ پانی کانین پڑجائے۔ کف ست سوراخ کان پر رکہکر ایک پاؤن کے
بل کہڑی ہوکر کودنا شروع کرے اخر پنبہ سلائی پر لپیٹ کر گرم کرکے کانین
پہراوین تاکہ پانی جذب ہو۔

خارش گوش

۶ خارش گوش۔ افسنتین سرکہ مین جوش دیکر صاف کرکے نیم گرم کانین ڈالین

آواز سخت کانین ناگوار ہو

۷ آواز سخت کانین ناگوار ہو۔ تقویت دماغ اطریفلات و خمیرجات
و شمومات و مروحات سے کرین۔ اطریفل کشنیزی مقوی دماغ و معدہ
و باہ دو دافع بواسیر صفت ہلیلہ سیاہ بلیلہ ہلیلہ کابلی آملہ مقشر فلفل فلفل دراز
ہر یک انیس ۱۹ ماشہ خشخاش سفید کنجد مقشر مغز حب القلقل لسان العصافیر
سرخ و سفید و زرد شقاقل مصری شیطرج ہندی بوزیدان تسباسہ زنجبیل
بہمن سرخ و سفید از ہریک نو ماشہ کوٹ کر چہانکر روغن بادام یا روغن گاؤ سے
چرب کرین اور ساتہہ ترنجبین آٹہہ تولہ اور شہد تین پاؤ کے قوام بناوین خوراک
سات ماشہ سے چودہ ماشہ تک خمیرہ مروارید مقوی دماغ و دل صفت

مروارید ناسفتہ یکتولہ یشب شسودہ لہر یا شمعی صندل سفید طباشیر سفید ہر یک
چہار ماشہ تباشیر سفید بادام غسل کشمیری یکتولہ گلاب اور بید مشک تمام کرین
ابریشم مقرض دو ماشہ صمغ عربی عنبر اشہب یکماشہ عود ہندی دو ماشہ صندل سفید
ماشہ شکر گلاب ... عود و صندل باریک کرکے اوسمین ملادین اور نگہداین
دیگر تدابیر مندرجہ علاج صرع دماغ عمل مین لادین —

فصل چہارم مین علاج امراض بینی مجملا اور مسافرانہ مرقوم ہے

علاج امراض بینی

رعاف

۱ رعاف یعنی خون ناک سے جانا — ہندی مین نکسیر کہتی ہین — علاج تبرید
جو ہر مین تجویز ... استعمال کرین اور گل ارمنی چہار ماشہ سرکہ مین سر پر ضماد
کرین آخر آملہ خشک پانی مین تالو پر لیپ کرین آخر کافور قدر قلیل سرکہ مین
جوش دیکر ناک مین ڈالین آخر آب افشردہ سرگین خر مین کافور قدر قلیل ملاکر کے
ناک مین ٹپکادین — اگر قدری افیون اضافہ کرین قوی تر ہوگی آخر پشم سوختہ
ناک مین پہونکین آخر کائی خورد پانی مین پیسکر سر پر ضماد کرین آخر اسکی راکھ
پانی مین خمیر کرکے سر پر رکہین آخر دو تین قطرہ تنہا آب افشردہ سرگین خر ناک مین
ڈالین آخر ریشم کو خرقہ کتان مین باندہکر آگ مین جلاکر خاک اوسکے ناک مین پہونکین
آخر آب کشنیز سبز مین قدری کافور حل کرکے ناک مین ڈالین آخر روغن بنفشہ
بادام اوسکو ملاکر ناک مین ٹپکادین آخر فتیلہ سفیدہ تخم مرغ مین آلودہ کرکے
کافور اور سر چہڑک کے سوراخ بینی مین رکہین آخر گل ملتانی پانی مین پیسکر
سر اور چہرہ اور گردن پر طلا کرین جب خشک ہو دور کرکے اور لگائین اور
مکرر عمل کرین — اگر تدابیر مذکورہ سے ازالہ مرض نہو فصد سرارو کرین پہوکیان

پھوکیاں موٹی ہوں اور شکم پر لگائیں - اگر بسبب بحران کے ہو بند نکریں لیکن اگر خطرہ
خوف ضعف کا ہو - **روغن بنفشہ بادام** مقوی و مرطب دماغ صفتہ
بنفشہ کو روغن بادام میں ڈالیں جب مضمحل ہوں تبدیل کریں - یا گل بنفشہ تازہ کو پانی
میں جوش دیکر ملکر چھان کر روغن بادام میں ملاکر جوش دیں جب روغن باقی رہے
یا مغز بادام مقشر کے زیر و بالا گل بنفشہ تر رکھیں جب خشک و سفید ہوں چند بار ایسا
کریں جب بادام سے بوی بنفشہ آوی تو روغن بطور روغن بادام سادہ کے بناویں
اسی طرح روغن نیلوفر بادام بنتا ہے -

نقصان شم

۲ **خشم یعنی بطلان یا نقصان شم** - سرکہ یا الکحل شیشہ میں ڈالکر بو
ناک کے رستہ میں آنسو اور آلا مشہد میں پانی بھرین تاکہ دوا مد نہ میں نجاوے پھر فلفل
شونیز کندش مشک ساوی پانیمین پیسکر ناک میں ڈالیں آخر شونیز خردل
پودینہ شحم حنظل جملہ برابر پانیمین جوش دیکر بخار دوسکا ناک میں لیوین اور قدرے
قلیل پانی اسکا ناکمین ٹپکاوین - اگر صحت نہو بعد نضج مسہل حار و حب ایارج
سے تنقیہ کرین -

بواسیر الانف

۳ **بواسیر الانف** - یعنی گوشت زائد نتھنوں میں پیدا ہو - **علاج** فصد
سرار و کرین آخر جونک لگائین آخر تبرید مندرجہ ردعا میں آخر مسہل بارد اور
حب ایلیہ سے تنقیہ کرین آخر فتیلہ زاج ناکمین رکھین آخر ضماد حب السلاطین
ناک پر کرین آخر مرہم زنگار لگاوین آخر جوز السرو انجیر برابر کوٹکر فتیلہ بناکر
ناکمین رکھین - اگر نجاوی قطع کرین **فتیلہ زاج** دافع بواسیر انف صفتہ
زاج سات ماشہ زنگار پونے دو ماشہ باریک کرکے فتیلہ مین لگاکر رکھین -
ضماد حب السلاطین - دافع بواسیر انف و بواسیر شفت صفتہ

حب السلاطین چار ماشہ زنگار دو ماشہ خوب باریک کرکے ناک یا لب پر ضماد کرین

مرہم زنگار - مجفف قروح اور زوائد گوشت زائد اور دافع عفونات و مواد

فاسدہ کلیہ و منبت لحم و مسقط بواسیر صفتہ ملک الطعام اتیتج ہر یک پچاس ماشہ

زنگار دو ماشہ کوٹ کر چھانکر روغن زیت مین ملاوین -

۴ قروح انف - اگر زخم ناک کا تر ہو تو فصد اور حجامت پس سر کے بعد

تنقیہ کرین اور مرہم سفیدہ لگائین - اگر زخم خشک ہو موم روغن اور روغن

بنفشہ اور روغن کدو کے مالش کرین اسیطرح ہے علاج -

۵ خشکے ناک کا مرہم سفیدہ مسکن درد بواسیر صفتہ - سفیدہ ارزیر

موم سفید روغن گل باہم حل کرکے تیار کرین -

۶ عطاس یعنی عطسہ بہت آنا علاج - روغن گل و روغن بید

ناک مین ڈالین - آخر سیب سونگھادین آخر آب نیمگرم سر پر ڈالین آخر

روغن نیمگرم کانون مین ڈالین اور بناگوش پر ملین آخر - حریرہ گرم تناول کرین آخر

تکیہ گرم زیر قفا رکھین آخر - ہاتھ اور پاؤن و آنکھ و کان و تالو ملین اور

لیٹ کر رو مین لیوین آخر - دود اور غبار وغیرہ سے پرہیز کرین -

۷ خارش بینی - بعد تنقیہ کے صندل و کافور گلاب و روغن گل مین حل

کرکے سونگھین -

۸ بدبو دریافت ہو خوشبو نہو - جند بیدستر پانی مین حل کرکے

ناک مین ڈالین آخر بول خر ٹپکادین آخر نفوح سعد ناک مین پھونکین

اگر ازالہ مرض نہو مسہل و حب ایارج سے اخراج بلغم کرین اجزای نفوح سعد

قرنفل سعد سنبل الطیب نرد و جملہ برابر باریک کرکے استعمال کرین -

ف قروح انف

ف عطاس

ف خارش بینی

ف بدبو دریافت ہو خوشبو نہو

۹ خوشبو دریافت ہو نہ بو ہو — مشک پانی میں حل کرکے ناک میں لگاویں۔ اگر حصول علاج ہو تنقیہ خلط کا کریں

۱۰ کوئی چیز ناک میں پہنسی — کندش و خربق سفید و پیپل و جند بیدستر و خردل کوٹکر چہانکر مرغ کے پر کے ساتھ ناک میں پہونچائیں آخر — عاقرقرحا و سداب وحشی آلودہ کے نسوار دیں — اور عطسہ آور ادویہ جملہ مفید ہیں مگر گرم مزاج کیلئے ادویہ بارد مزاج لائیں

فصل پنجم میں علاج امراض ہائے لب و زبان مجملاً و مسافرانہ مندرج ہی

۱ جوشش دہن — اگر سرخ چھالے مونہہ میں ہوجائیں — علاج — تبرید مندرجہ ردیویں — صندل سفید گلاب میں پیسکر زبان پر لگاویں — آخر ذرور کافور استعمال کریں آخر — مضمضہ کافور و مضمضہ سیغول عمل میں لاویں آخر طباشیر سفید جو سوختہ شیر خشت جملہ برابر پیسکر چہالوں پر ڈالیں آخر زہرہ مہرہ سائیدہ طباشیر سفید زرور گل نیلوفر خرفہ مقشر صندل سرخ و سفید گل ارمنی شیاف مامیثا سوت کمی عدس مقشر گلنار مغز کول کہہ کتہ سفید شستہ کوٹ کر چہانکر ذرور کریں اور بحالت شدت حرارت کے کافور اضافہ کریں اگر تحلیل منظور ہو کباب تمو خشک پیسکر ملاویں — اگر ازالہ خشونت ہو تو سرد و چہار رگ و جوک عمل میں لاویں — اگر حاجت تنقیہ کی ہو تو بعد نضج مسہل بارد دیں — اگر مادہ سرد ہے علاج — مضمضہ مامیران ذرور لسان الثور مضمضہ مغز فلوس استعمال کریں آخر اقاقیا ہلیلہ زرد گلنار گزمازج ورق زیتون طباشیر باریک کرکے مونہہ میں ڈالیں اگر حاجت ہو بعد نضج مسہل حار سے تنقیہ کریں ذرور کافور دافع جوشش دہن حار صفت طباشیر گل سرخ کتہہ سفید مغز کول کہٹہ کافور زرور ہر یک دو ماشہ باریک کرکے مونہہ میں چہڑکیں —

کوئی چیز ناک میں پہنسی

علاج امراض لب و زبان

جوشش دہن

مضمضہ کافور - بمنافع ایضاً صفتہ - برگ حنا ایکتولہ پانی مین تر کرکے
ملکر چہانکر کافور ایکماشہ اوسمین حل کرکے مضمضہ یعنی کلی کرین -
مضمضہ اسپغول بمنافع مذکورہ صفتہ - لعاب اسپغول مسلم دو تولہ پانی
خالص آدہ سیر مین نکالکر آب کشنیز سبز آدہ سیر ملاکر مضمضہ کرین -
مضمضہ مامیران - عاقرقرحا تخم ترب مامیران نیم کوفتہ ہر یک شش ماشہ سرکہ
آدہ سیر مین ابالکر چہان کر کلے کرین -
ذرور لسان الثور واقع جوشش دہن بارد صفتہ - الائچی خورد پہٹکری
سوختہ گاوزبان سوختہ سیاہی تابہ ہر یک دو ماشہ باریک کرکے - بالکرین -
مضمضہ مغز فلوس بمنافع ایضاً صفتہ - مغز فلوس دو تولہ آب کشنیز
سبز آدہ سیر مین حل کرکے نیمگرم مضمضہ کرین -
۲ - درشتی وخشونت زبان موسوم انجہر - مغز کر نجوہ نمک آب لیمو ف
مین پیسکر زبان پر ملین جو لزوجت خارج ہو آخر پہٹکری سفید باریک
انجہر پر ملکر دہن کشادہ رکہین جو رطوبت نکل جاے آخر لودہ گیرو مرچ ہر یک
چار ماشہ پہٹکری ستہ ماشہ نیلہ تہوتہہ دو ماشہ باریک کرکے صبح اور شام زبان پر
ملین اور بعد ملنے دوا کے شیرہ کاسنے دو تولہ پانی مین نکالکر پیوین آخر
برگ بید انجیر سے پہلے زبان کو خراشیدہ کرین پہر بسلوجن کتہہ سفید کباب چینی
سنگجراحت الائچی کلان شورہ قلمی جملہ برابر کوٹ کر چہانکر چہڑکین -
۳ - اکلہ یعنی جوشش سخت - علامت اسکے مانند جوشش دہن کے ف اکلہ
ہی مگر اسمین فساد زیادہ اور انتشار جلد اور بدبو ہوتی ہے علاج - فصد سرارو
کرین جوک اور پچہنہ لگامین تنقیہ سوداے محترقہ کا کرین آخر - مضمضہ حصرم سے

حصرمی استعمال کرین جو مانع انتشار ہو آخر مثل علاج جوشش دہن عمل کرین
اگر انسداد انتشار نہو فلدفیون کے مالش کرین **مضمضہ حصرمی** آب غورہ
سرکہ آب سماق جملہ برابر ممزوج کرکے مضمضہ کرین **فلدفیون** خورندہ گوشت
فاسد صفت ہے آب نادیدہ یکتولہ زرنیخ سرخ درزد قلی اقاقیا از ہر یک نیم تولہ
باریک کرکے چھانکر سرکہ مین ملاکر قرص بناوین۔

سیلان لعاب از دہن

سیلان لعاب از دہن ۔ اگر بسبب حرارت و رطوبت کے ہو
علامت۔ حالت خلوی معدہ مین زیادہ ہو **علاج** فصد باسلیق کرین آخر
شیرہ زرشک سہ ماشہ سکنجبین و شربت انار ہر یک یکتولہ پلاوین آخر مضمضہ
وردی استعمال کرین آخر کاسنے تازہ نمک کے ساتھہ کھاوین۔ اگر بسبب
رطوبت معدہ کی ہو **علاج** مسہل گرم اور حب ایارج سے تنقیہ کرین آخر
گلقند جوارش مصطگی کھلاوین۔ اگر بسبب گرم کے ہو **علامت** خواب مین
زیادہ ہو **علاج** اسکا آگے آئیگا **مضمضہ وردی** گل سرخ سماق ہر
یک یکتولہ پانی دو سیر مین جوشش دین جب تیسرا حصہ سوختہ ہو صاف
کرکے مضمضہ کرین **گلقند** یہہ دو قسم ہے ایک عسلی دوسرا شکری **قسم اول**
کو جلنجبین اور گلنگبین کہتی ہین قوت عسلی کے چار سال باقی رہتی ہے آخر دوم
مین گرم وخشک ہے واسطہ تقویت معدہ و دماغ اور تخفیف رطوبات غریبہ
معدہ اور دفع درد مفاصل و لقوہ و فالج و تفتیت سنگ گردہ و مثانہ اور
عسر بول کی مفید سرد مزاجون اور فصول بارد کی لیئے نہایت موافق ہے
قسم دوم کو گلقند اور گلشکر کہتی ہین قوت اسکے دو سال باقی رہتی ہے
اول دوم مین گرم خشک ہے مین معتدل ہے۔ ابتدائی وسواس جنون کی لیئے

مفید چبانا بعد غذا کے مانع صعود ابخرہ بدماغ ہے — ہر دو قسم گلقند کو اگر شش چند
پانی میں جوش دیں جو ثلث باقی رہے صاف کریں قائم مقام شربت ورد مکرر کے
ہوتا ہے صفت برگ گلاب سرخ آدہ آثار شکر تین آثار دونوں کو ایک ظرف میں
ڈالکر کف مال کریں جب یکجان ہوجائیں چالیس روز تک دہوپ میں رکہیں
اگر لطیف درکار ہو بجای شکر کے قند ڈالیں — اسی طرح ہے ترکیب بنانے
گلقند عسلی کے یعنی بجای قند کے شہد ڈالیں جوارش مطبوخ کے لیے سوا
پنجتولہ اور اوسکے جرم سے ڈیڑہ تولہ **جوارش مصطکی** — برودت معدہ اور
جگر اور ریاح اور سیلان لعاب کے لئے مفید صفت مصطکے ایک تولہ ڈیڑہ ماشہ
باریک کرکے آدہ سیر مصری اور ساڑہے سات تولہ گلاب میں قوام بناویں خوراک
چہ ماشہ سے سات ماشہ —

۵ **بخر یعنی گندہ دہنی** — اگر متلی اور تہوک بکثرت ہو آب نیمگرم سے　　بخر
مضمضے کریں گلقند و سکنجبین ہر یک یکنیم تولہ ملا کر کہاویں آخر اطریفل کشنیزی
یکتولہ جوارش عود پنجماشہ دیویں آخر مسہل جالی دیں جب ریاح سے تنقیہ کریں
آخر کندر مصطکے الایچی لونگ ہریک یکماشہ چابیں آخر حب عود منہ میں
رکہیں — اگر بسبب فساد گوشت دندان کے ہو فصد جاہرگ اور مسہل بارد
کریں آخر مضمضہ مازو استعمال کریں — اگر بسبب حرارت معدہ کی ہو علامت
خلای معدہ میں زیادتی گرمی تناول طعام بارد سے تسکین ہو **علاج**
آب تمرہندی دو تولہ شیرہ خرفہ تین ماشہ شربت انار شیرین و سکنجبین
ہریک یکتولہ دیویں آخر مسہل بارد عمل میں لاویں آخر حب کافوری
منہ میں رکہیں **سکنجبین سادہ** — اوسکے چند قسم ہیں مگر اسجگہ سادہ مطلوب

سادہ مطلوب ہے پس سکنجبین سادہ دافع صفرا و بلغم اور دافع تپہای گرم اور تشنگی ہے اور سدہ کہولتی ہے بول جاری ہوتا ہے اور موافق محرور مزاج اور جگر گرم ہے **صفت** قند سفید یک آثار دیگ مین ڈالکر پاؤ آثار سرکہ صاف ملاکر قوام کرین اور ڈہائی تولہ گلاب اضافہ کرین — اگر بجای قند کے شہد ملایا جاوی سکنجبین عسلی ہو جاتی ہے

جوارش عود شیرین — تقویت معدہ اور ازالہ رطوبت و بلغم کے لیئے مفید **صفت** الایچی خورد و کلان دارچینی زنجبیل دارفلفل زعفران ہر یک ... عود قرنفل ہر یک نیم تولہ باریک کرکے شہد ... چند ادویہ مین ملاوین ... ساڑہی چار ماشہ **حب عود** زنجبیل عود سعد کبابہ جملہ برابر باریک کرکے شہد مین گولیان بناوین **مضمضہ مازو** — مورد گلنار مازو ہر یک ... ماشہ سرکہ آدہ سیر ابالکر چہانکر مضمضہ کرین **حب کافوری** مشک ... ہر یک چہہ سرخ طباشیر سفید بونی دو ماشہ گلسرخ صندل سفید ... ہر یک سات ماشہ چہالیہ کبابہ ہر یک ساڑہی تین ماشہ باریک کرکے ... گلاب مین گولیان بناوین — اگر اسمین قرنفل خولنجان عاقرقرحا ہر یک ساڑہی تین ماشہ اضافہ کرین تو واسطہ وقع بخر کے جو بسبب فساد گوشت بن دندان کے ہو مفید ہے —

۸ **ورم زبان** ہے اسکا نام **ثقل زبان** — علاج انکا مثل جوشش ...

۹ **خشکی زبان** — علاج مانند جوشش ... کے کرین آخر مضمضہ ... استعمال کرین اجزای **مضمضہ** مورد گلنار مورد گلسرخ ہر یک ... سرکہ اودہ سیر ابالکر مضمضہ کرین —

۱۰ **ترقیدن زبان** یعنی پہٹنا زبان کا علاج مثل جوشش دہان

ورم زبان
خشکی زبان
ترقیدن زبان

آخر - لعاب خیار جو بوقت تراشنے کے برآمد ہوتی ہے زبان پر لگائیں آخر اسبغول بہیدانہ کتیرا منہ میں رکھیں آخر لعاب بہیدانہ لعاب اسبغول کتیرا ہر یک یک تولہ پانی میں تیار کر کے مضمضہ کریں -

۱۱ **ورم لب** علاج مانند جوشش دہان آخر ضماد گلنار لگائیں آخر اجزای آن - تخم اسپاری گلنار گل سرخ ہر یک دو ماشہ سرکہ اور گلاب میں پیسکر ورم پر ضماد کریں -

ورم لب

۱۲ **قروح و بثور لب** - علاج مثل جوشش دہن آخر مرہم سفیدہ لگائیں

قروح و بثور لب

۱۳ **ترقید لب** - علاج مثل ترقید زبان آخر پوست باریک بیضہ اوس پر رکھیں آخر مقرر بادام پیسکر لگائیں -

ترقید لب

۱۴ **بطلان ذوق** یعنی زبان مزہ دریافت نکرے - علاج مسہل گرم اور حب ایارج اور حب شبیار سے تنقیہ کریں آخر مضمضہ عاقرقرحا عمل میں لاویں - اگر حرارت سے ہو مضمضہ ریاسے کریں - اگر جمیع ماکولات تلخ معلوم ہوں مسہل بارد دیویں - اگر شیرینی دریافت کرے دلیل غلبہ خون و بلغم شیرین کی ہے - بحالت غلبہ خون فصد و تنقیہ صفرا کریں بحالت غلبہ بلغم تنقیہ مسہل حار اگر شور یا ترش محسوس ہو مسہل حار دیں ہر دو مضمضہ مذکورہ عمل میں لاویں

بطلان ذوق

مضمضہ عاقرقرحا - ثقل زبان و بطلان ذوق کے لئے مفید صفتہ عاقرقرحا سونٹھ خردل ہر یک شش ماشہ سرکہ آدہ سیر ابالکر مضمضہ کریں **مضمضہ ریاسے** واضع ثقل زبان و بطلان ذوق حار صفتہ ریاس گل سرخ سماق ہر یک شش ماشہ سکنجبین و ترنجبین ہر یک چار تولہ پانی میں ملاکر مضمضہ کریں -

۱۵ **ضفدع** - یعنی زیر زبان غدے پیدا ہو - اگر سرخ با سوزش ہو

ضفدع

علاج تبرید مندرجہ صدر ہو یا ان فصد سرارو اور جونک اور مسہل بارد عمل مین لاوین
اگر سفیدہ سخت ہو علاج مسہل حار دین آخر نوشادر کافی زاج محرق زنگار مُر یا
مانند انکی دیگر اکالہ سے کرین پہیکر زیر زبان لگائین آخر ادویہ مندرجہ بواسیر الانف
استعمال کرین آخر زاج محرق سورنجان سفیدی بیضہ مین ملاکر زبان پر
رکھین۔ اگر افاقہ نہو چاک کرکے اخراج مادہ کرین۔

بواسیر لب

۲۵ بواسیر لب۔ یعنی لب پر بین سطبر ہو اور درمیان اوسکے شق ہو یا مانند توت
کے پیدا ہو یا ہر دو لب پر منتشر ہو علاج فصد سرارو اور چار رگ اور مسہل مندرجہ
مالیخولیا عمل مین لاوین آخر ضماد حب السلاطین لگائین آخر بابونہ عدس اکلیل
الملک خطمی پانی مین ابالکر کوشت کر مغز بیضہ اور چربی ملاکیا نمین گرم کر موضع ماؤف
ماؤف پر رکہین۔

علاج امراض اسنان و لثہ

فصل ششم مین علاج امراض اسنان و لثہ مندرج ہے

درد دندان

۱ درد دندان۔ اگر شدید ہو اور شیای سرد سے تسکین پاوی علاج تبرید
مندرجہ صدر اور فصد سرارو اور چار رگ اور جونک اور مضمضہ عدسی عمل مین لاوین
اگر زیادہ شدت کرے کافور سرکہ و گلاب مین ملاکر نیم گرم مضمضہ کرین اور غرغرہ
کہائین اور دانتون پر ملین آخر سنون زردکی مالش کرین آخر مسہل بارد سے
تنقیہ کرین۔ اگر درد شدید ہو اور شیای گرم موجب تسکین ہون علاج اصل
السوس مقشر نیلوفر پرسیاوشان گاؤزبان گیلانی ہر یک پنجماشہ دانہ ہیل
سہ ماشہ نبات سفید یک و نیم تولہ پانی مین جوش دیکر چہانکر ملائین اور انہین دواؤن
کو ابالکر مضمضہ کرین آخر حلتیت و لہسن بریان کرکے دانتو پر رکہین

آخر بر شعشا کہائیں اور دانتون پر ملین آخر بعد تنقیہ مسہل گرم دین - اگر ازالہ
درد نہو بشرطیکہ لسوڑہ پر ورم نہو دانت کو زنبور سی اوکہارین آخر شیر انجیر
و شیر تہوہر مین پنبہ تر کرکے یا چربی ضفدع بحری اسطرح دند درد مند پر رکہین جو اثر
ہنکا دوسرے دانتون نکو نہ پہونچے دند کو اوکہاڑ دیتا ہے اگر درد کے ساتھہ ورم لسوڑہ
کے ہو علاج ورم کا کرین - اگر سبب گرم کے ہو علاج لہہ تخم گندنا تخم
تربہ چربی ملا کر آگ پر ڈالین اور بخار اوسکا دندان درد ناک کو پہونچائین
اگر کرم خارج ہو آخر مضمضہ بابرنگ استعمال کرین آخر بابرنگ کے پارچہ پیالہ
مین پوٹلی باندہکر دانتونمین رات کو رکہین صبحکو نکالین کرم اوسمین آجائیگا آخر
گوگرد سرکہ مین حل کرکے پنبہ مین رکہکر دانتون پر رکہین آخر حب نیم کو نرم
پیسکر دانتون پر رکہین آخر تخم پیاز آگ پر جلائین اور زبان بعد سنے دود اوسکا
پہنچنے دین جو کرم خارج ہو آخر نوشادر و افیون پیسکر دانتون پر رکہین اور
اوسپر موم لگائین چند مرتبہ ایسا ہی کرین آخر شونیز کوٹ کر چہانکر سرکہ مین
ملا کر زیر دندان کرم خوردہ کے رکہین آخر برگ و بار و شاخ و گل کنار ہی کوٹ کے
پانی نکالکر مضمضہ کرین مضمضہ عدسی عنب الثعلب گلنار ج کشنیز خشک
بزر البنج ہر یک شش ماشہ گلنار چار ماشہ گل کنار چار عدد جملہ نیم کوفتہ عدس مسلم یکسیر
پانی سہ سیر مین ابالین جب سوم حصہ جلجائی صاف کرکے مضمضہ کرین
سنون زرد - واسطے درد اور استحکام دندان کے مفید صفتہ پوست
انار گلنار زرد چوب سماق پہٹکری بریان مازو ہر یک یکماشہ کوٹ کر چہانکر
تیار کرین بر شعشا اسکو برشش کہتے ہین - وافع زکام و ظلمت چشم و
نزلہ و دوار و طنین و لقوہ و فالج و صرع و رعشہ و سبات سہر کے و نسیان و مالیخولیا

مالیخولیا وغیرہ امراض سوداوی وسہر مفرط وہذیان وضعف اعصاب واسترخاء
لثہ وبلاوت ذہن وبخر فم وسیلان لعاب ونزف دم وقولنج ومغص ودرد معدہ وکبد
وسدہ وضعف کبد وانواع استسقا وعسر انزال وحمیات عفنیہ وسعال اور
مداومت اسکی بعد انزال کے امن دہندہ ہی اوسکے نقصان سے اور فادزہر سموم
ہی قوت اسکی پنجسال تک رہتی ہے صفت فلفل سیاہ فلفل سفید بزر البنج السفید
ہر یک ساڑہی سات تولہ افیون مصری پونی چار تولہ زعفران ساڑہی بائیس
ماشہ سنبل الطیب عاقرقرحا فرفیون ہر یک ساڑہی چار ماشہ اول سب دوائیونکو
جدا جدا پیسکر وزن کریں اور شہد خالص سہ چند ادویہ میں ملادیں اور تین
مہینے جو میں دفن کرکے استعمال کریں خوراک چہہ سرخ سے سوا دو ماشہ
تک ہے۔ **مضمضہ بابرنگ**۔ برنگ مقشر پارچہ سالو سرخ میں پوٹلی
باندہکر قدری پانیمیں جوش دیکر صاف کرکے مضمضہ کریں اور پوٹلی کو بن دندان
میں رکہکر خواب کریں مکرر ایسا ہی عملکریں۔ **علاج مسافرانہ درد وسردی دندان**

علاج درد دندان

۱ **دافع درد وسردی دندان**۔ فلفل عاقرقرحا مویزج زنجبیل جملہ برابر کوٹ
کر چہانکر شہد میں دانتوں پر ملیں ۲ میل آہنی گرم کرکے چند مرتبہ دانتوں پر رکہیں
۳ دافع درد دندان سوخدار صفت فلفل عاقرقرحا مازو جملہ برابر باریک کرکے
شہد میں ملاکر سوراخ دندانمیں رکہیں ۴ برگ سنبہالو نمک سنگ جو کوب
کرکے پارچہ میں باندہکر زیر دندان رکہیں ۵ سہاگہ تیلیہ آگ پر رکہیں اور
دستہ آہنی سے صلایہ کریں اور آگ سے اوتار کر پہر خوب صلایہ کرکے استعمال
کریں ۶ پوست درخت سرس چار تولہ برگ چنبیلی دو تولہ یا برنگ [illegible] ماشہ
پانیمیں ابالکر چہانکر مضمضہ کریں ۷ ہلیلہ باریک کرکے دندان پر ملیں ۸

سپاری سوختہ تخم خرفہ ہر دو برابر پیسکر ملین دافع گرمی دندان بہی ہے ۹ پھٹکری وسمی ہر دو مساوی پیسکر ملین ۱۰ خستہ زرد آلو و نمک پیسکر سرکہ مین ملا کر دانتون پر ملین ۱۱ سرکہ او نمک منہہ مین لیوین ۱۲ مویز منقی دو یا تین دانہ کو پنبہ مین لپیٹ کر قدری پانی مین تر کرکے دو پہر تک پیسکر دانتون پر رکہین ۱۳ شحم حنظل قدرے روغن گاو کو جوش دین اور کف دست سلائی کے ساتھہ دانتو پر رکہین ۱۴ برگ ترنج کو ٹکڑ زیر زبان رکہین ۱۵ قدری شکر تیغال پنبہ مین لپیٹ کر دانتو پر رکہین ۔

فی تحرک اسنان

۲ **تحرک اسنان** ۔ اگر بسبب رطوبت رقیقہ کے مسوڑے سست ہو جائین **علامت** استرخای مسوڑہ اور سستی بیخ دندان اور جاری ہونا لعاب کا منہہ سی ہے **علاج** مضمضہ عاقرقرحا و سنون نیلہ تہوتہہ اور تسہیل جار استعمال کرین ۔ اگر ورم حار مسوڑہ مین ہو **علامت** شدت درد و ضربان ہے **علاج** مثل علاج ورم لثہ **اخیر** مضمضہ عاقرقرحا اور سنون زرد استعمال کرین اگر بسبب ضربہ اور سقطہ کے ہو **علاج** اسکا بہی یہی ہے **آخر** سنون پوست مغیلان ملین ۔ اگر بسبب نقصان و تاکل اللثہ کے ہو **علاج** فصد سرارو اور جار رگ اور تسہیل بار ہا بہی **آخر** سنون کرسنہ ملین **سنون نیلہ تہوتہہ** واسطے تحرک اسنان اور پہر ہونے گوشت اور جلا دندان کے مفید **صفت** نیلہ تہوتہہ کو کہہ کہتہ سفید زیرہ سفید مصطگی رومی تجرونتی ہر یک ۱ ماشہ نمک لاہوری تین ماشہ زنجبیل کشنیز خشک ہر یک ششماشہ کہور کہری کباب چینی ہر یک نیم ماشہ نیلہ تہوتہہ کو تابہ گرم پر سفید کرین اور زیرہ و کشنیز بریان کرکے سرخ کرین اور باقی ادویہ کے باریک کرکے دانتو پر ملین اور بعد ملنے کے چار گہڑی پانی کا بچاو

رکہین۔ **سنون پوست مغیلان** واسطے استحکام دندان کے اگرچہ قریب
کرنے کے ہون اور جمیع امراض مسوڑہ کے مفید صفت پوست بیخ مغیلان چار
تولہ انگجراتی کتھہ پاپڑیا سپاری چہالیہ ہریک یکتولہ فلفل سیاہ زنجبیل ہر
واحد یکماشہ چہب شش ماشہ جدا جدا باریک اور وزن کرکے باہم ملادین رات دن
جسوقت چاہین ملین اور بعد مالش کے چار گہری پانی سے بچین **سنون** گرسنہ
نقصان و تاکل گوشت لثہ کے لئے مفید صفت گرسنہ پیش ۳۵ ماشہ کوٹ کر
شہد مین ملاکر اینٹ پر رکہکر تنور گرم مین رکہین جو سوختہ ہو گندم دم الاخوین
ہریک ایک ماشہ ستارہ ماشہ ایرسا زراوند دحرج ہریک ۳ ماشہ سنون بناوین

۳ **تاکل و تفتت اسنان**۔ اگر سبب مادہ ردیہ متعفنہ کے دند
بوسیدہ اور ریزہ ہوجائین علامت دند لاغر اور رنگ متغیر ہو **علاج**
مسہل و حب ایارج سے تنقیہ کرین مضمضہ و سنون مقوی دندان
عمل مین لاوین۔ اگر سبب خشکی کے ہو **علاج** اغذیہ و اشربہ مرطبہ
کہلاوین **آخر** لعاب اسپغول و سفیدہ تخم مرغ و شیر خر و روغن بنفشہ باہم
ملاکر دانتون پر ملین اور مضمضہ کرین۔

۴ **تغیر رنگ دندان**۔ اگر سیاہ یا سبز ہو غلبہ سودا ہے اگر زرد ہو غلبہ
صفرا ہی **علاج** مسہلات و حبوبات مخرج سودا و صفرا سے تنقیہ کرین اگر
بعد تنقیہ کی زردی رہے آولا آب ملو سبز و سرکہ ہریک نیم آثار ملاکر مضمضہ
کرین **آخر** آرد جو عدس خطمی سرکہ مین دانتون پر ملین اگر سیاہی اور سبزی
رہے سنون مجلی ملین **آخر** بیخ کبر سنتین افتیمون اشنہ مصطکی رومی
ہریک یکماشہ باریک کوٹکے روغن گل مین ملاکر دانتون پر ملین **سنون مجلی**

واسطے جلای دندان اور دفع تغیر رنگ دندان و حفر کے صفت زبد البحر خاک صدف سفید نمک شاخ گوزن سوختہ مساوی باریک کرکے دانتون پر ملین —

ف حفر دندان

۵ حفر دندان یعنی ایک جسم مانند سنگریزہ کے بن دندانین بسبب بخارات معدہ کے برنگ سیاہ یا سبز یا زرد پیدا ہو علاج اخلاط غالب کو بدن و معدہ سے ساتھہ تنقیہ کے خارج کرین آخر سنون محلی اور مسواک عمل مین لاوین — اگر ازالہ نہوا ایسے دانتون کے ساتھہ سے جدا کرین —

ف خارش دندان

۶ خارش دندان — تنقیہ سودا کرین آخر گلاب یکپاؤ سرکہ و سکنجبین ہریک دو تولہ مضمضہ کرین آخر اشیای تیز و تلخ و نمکین سے اجتناب کرین

ف آب جانی دانتون کا

۷ آب جانی دانتون کی یعنے تحمل اشیای گرم و سرد و سخت کے نہ کرین علاج مسہل حار و حب ایارج و سنون حب الغار عمل مین لاوین آخر زردی بیضہ نیمبرشت یا طحال بریان کوفتہ سے تکور کرین آخر عنصل بریان کوفتہ سرکہ مین ملاکر تکور کرین سنون حب الغار — پھٹکری زراوند طویل حب الغار جملہ برابر کوٹ کر چھانین —

ف ضرس

۸ ضرس یعنے بسبب کہانے ترش چیزون کے دانت کند اور کھٹے ہو جاتے ہین علاج نمک اور شہد دانتون پر ملین آخر تخم خرفہ مغز بادام مغز قشر نار جیل کوٹ کر دانتون پر ملین آخر شیر تازہ سے مضمضہ کرین آخر طعام نایان گرم دانتون مین چباوین آخر ملنا جملہ ادویہ حارہ کا فایدہ مند ہے — اگر بسبب اجتماع بلغم حار یا سودا کے معدہ مین لاحق ہو علاج قی و مسہل سے تنقیہ معدہ کرین بعد ازان ادویہ مذکورہ سے مالش کرین —

ف ورم لثہ و قروح لثہ

۹ ورم لثہ — علاج اسکا مثل جوشش مین ہے — اسیطرح سے علاج

علاج ۱۰ قروح لثہ کا - اگر لثہ متعفن ہو جاوی فلدفیون کے مالش کرین بعد ازان
گلنار مازو و سنون کر سنہ استعمال کرین -

۱۱ ناصور علاج اسکا مثل علاج لثہ متعفنہ کے ہے آخر روغن کو ابالکر پنبہ لطیف
سلائی کے لپیٹ کر روغنمین غوطہ دیکر گرم گرم ناصور پر رکھین -

۱۲ خون لثہ سے آوی - علاج سنون سپاری چہالیہ ملین صفتہ سپاری
چہالیہ سوختہ گلنار شاخ گوزن سوختہ کاغذ خطائی سوختہ سماق جو سوختہ
بیخ نی طباشیر غنچہ گلسرخ گزمازج استخوان ہلیلہ زرد سنگ رامک برگ مورد
دم الاخوین سعد کوفی کندر عدس مقشر ہر یک دو ماشہ شب یمانی بریان پنجماشہ -

علاج مسافرانہ امراض دندان و لثہ ۱ سنون - واسطہ استحکام
بن اور دندان کے مفید صفتہ زیرہ سفید تخم کشنیز بریان نیلہ تھوتھہ بریان
زنجبیل قسط شیرین فلفل کات ہندی نمک ہندی نمک سیاہ کسیس مصطکی
رومی جملہ برابر ۲ سنون بمنافع ایضا صفتہ نیلہ تھوتھہ بریان کتھہ
سفید نمک سفید زیرہ سفید بریان قسط زنجبیل کشنیز بریان ہر یک یکتولہ
دار فلفل نیم تولہ ۳ دافع جنبش دندان جو بسبب ضربہ و سقطہ کے ہو صفتہ
پھٹکری بریان سپاری سوختہ مرچ سرخ آملہ نیم بریان نمک مساوی کوٹ کر
چہانکر ملین ۴ دافع درد و ورم بن دندان و استحکام آن صفتہ زنجبیل سونٹھ مازو
کسیس کتھہ ہر یک تین ماشہ نیلہ تھوتھہ بریان پنجماشہ باریک کرکے
ملین ۵ واسطہ استحکام و درد دندان کے مفید صفتہ پھٹکری بریان نمک
باریک کرکے ملین ۶ دافع خون بن دندان صفتہ خاکستر عود پھٹکری
بریان ہر دو برابر اور قدرے نمک لاہوری ملاکر ملین ۷ دانتون کو

پٹ کرے اور استحکام بخشی صفت مازو جوز و خار دار نمک سپید باریک کرکے ملین
۸ لثہ کو محکم کرے اور گوشت رفتہ پیدا کری صفت زراوند مدحرج کندر دم الاخوین
گلسرخ بیخ سوسن مساوی کوٹ کر چھان کر سکنجبین عنصلی مین ملا کر استعمال کرین
۹ لثہ اور دندان کو محکم کری صفت توتیای ہندی روغن مین خوب بریان
کرین زنجبیل کتھہ سفید چھالیہ برابر پیسکر ملین ۱۰ واسطہ استحکام دندان اور نشف
رطوبات لثہ کے صفت تمباکو سوختہ فلفل ہر دو برابر پیسکر سنون بناوین
اور ہر روز تین بار ملین ۱۱ خون جانا بند کرے صفت مازو عدس اقاقیا
کندر گلنار شب یمانی بزرالورد ہر یک چودہ ماشہ کوٹ کر چھانکر دانتون پر ملین اگر
وند بعد ملنی کے کند ہون آب برگ و سماق خرفہ سے مضمضہ کرین اور ایک دو
مغز بادام چابین ۱۲ واقع حدت خون صفت گزمازج گلنار طباشیر سماق گلسرخ
پوست انار ترش شاخ گوزن سوختہ سنون بناوین ۱۳ واقع ناصور مین
دندان صفت بیخ سوسن عاقرقرحا ہر یک یکتولہ شب یمانی مازو گلنار سماق
ہر یک دو تولہ سنون تیار کرین ۱۴ واقع اکلہ دہن ولثہ صفت پوست انار
شیرین و ترش ہر یک تین ماشہ مازو گلنار شب یمانی عاقرقرحا کاغذ سوختہ
ہر یک دس ماشہ سماق پندرہ ماشہ نوشادر نمک لاہوری ہر یک پنجماشہ کوٹ کر
چھانکر سرکہ مین ملا کر گولہ بنا کر خشک کرین اور ضرورتا دوبارہ پیسکر ملین ۱۵
واقع اکلہ و ناصور بیخ دندان وخون صفت نوشادر بیخ سوسن زرنبخ سرخ
عاقرقرحا کوٹ کر چھانین ۱۶ استرخای لثہ اور ورم لثہ اور صفائی دندان
کے لئی مفید صفت پوست انار دو ماشہ سماق گلنار زرد چوب پھٹکری مازو
ہر یک یکماشہ سنون تیار کرین۔

فصل ہفتم مین علاج امراض حلق و لہات و مری مندرج ہے

۱ خناق یعنی ورم لوزتین و عضلات و مری و حنجرہ کی ہوتی ہے اور مانع
تنفس و بلع یعنی دم لینے و نگلنے کے ہوتی ہے علاج تبرید مندرجہ ردادع و فصد
پھر چوک پھر فصد رگ زیر زبان پھر حجامت ساق یا درمیان شانہ عمل مین لاوین
نسخہ جدوار پنجاشہ آب کشنیز سبز یا آب مکو سبز مین پیسکر گلو پر طلا کرین نسخہ
تخم خطمی تنہا یا ہمراہ جدوار آب کشنیز سبز مین طلا کرین نسخہ لعاب
اسبغول آب کشنیز سبز ہر یک چار تولہ باہمین ملا کر غرغرہ کرین نسخہ مغز فلوس
چار تولہ آب کشنیز سبز مین حل کر کے غرغرہ کرین نسخہ مغز فلوس چار تولہ شیر
ملائی دور کردہ مین ملا کر نیم گرم غرغرہ کرین انتہائی خناق مین مفید نسخہ مینڈک
بڑی کلان کا شکم چاک کر کے گرم گرم گلو پر باندہین اور پنبہ کہنہ گرم کر کے گلو پر
باندہین واضح خناق سخت ہے نسخہ سنگ پشت کو برابر مونہہ کے یا مونہہ مین
اس طرح رکھین جو ہوا دہن سنگ پشت کی خناق تک پہونچے تحلیل عرصہ مین
بحکم الٰہی ورم خناق تحلیل ہوتی ہی ۔ اگر مادہ جمع ہو کر ورم مسترخی ہو جائے اور
رنگ زرد ہو علاج نوشادر و نمک پیسکر روغن کنجد مین ملا کر غرغرہ کرین ۔ اگر
منفجر ہو جائے روغن زرد اور آب گرم یا ماء العسل سے غرغرہ کرین ۔ اگر منفجر نہو
انگشت یا آلہ سے منفجر کرین ۔ اگر حاجت تنقیہ کی ہو مسہل بارد سے کرین مگر
اسمین حقنہ بہتر مسہل سے ہی ۔ اگر خناق بلغمی ہو علاج مسہل گرم و حقنہ
گرم سے تنقیہ کرین نسخہ عسل و آبکامہ یا انجیر و تخم ترب سے غرغرہ کرین ۔
اگر خناق سوداوی ہو علاج بعد فصد و حجامت ساق کے تلیین و ترطیب

منضج سی اور تنقیہ سودا مسہل و حقنہ سے کرین انجیر و تخم مرو دودہ مین ملا کر غرغرہ کرین
اگر مریض زبان ہمیشہ منہہ سی باہر رکھی یا کف منہہ سے جاری ہو علامت بدہی —
اشربہ و اضمدہ اور غرغرہ خناقین نیمگرم استعمال کرین — بحالت مادہ کثیر استعمال غرغرہ
ابتدئیہ کے مناسب ہے سو خر گردن پر پچہو کیونکا لگانا سعین تنفس اور بلع ہے —

ف مادۂ قتادہ

۲ مادۂ قتادہ یعنی گرنا کانون کا علاج گل ملیدان جو آگ سے سرخ رنگ ہو
پیسکر ایک عدد ... پیسکر اوسمین ملا کر اوسکے ساتہہ مادہ کو اوٹہا دین آخر غرغرہ
ظاہر استعمال کرین آخر گل سرشو ... پیسکر سرپر ضماد کرین اگر بسبب
خلط حار کے ہو علامت سوزش سرخی تشنگی علاج مثل جوشش عناب غرغرہ کرین
غرغرہ کوکنار دیگر — کوکنار چہار عدد گلنار چہار ماشہ عنب الثعلب گزمازج کشنیز
خشک ہر یک شش ماشہ پانی تین پاو پختہ مین جوش دین جب آدہ سیر رہے چہانکر
نیمگرم غرغرہ کرین —

ف ورم لہات

۳ ورم لہات علاج مانند جوشش دہن کرین —

ف ذبحہ و بثور حلق

۴ ذبحہ — یہہ ورم حار ہے جو عضلات طرفین حلقوم مین لاحق ہو علامت
ایک کانسی دوسری کان تک باہر کیطرف سرخی ظاہر ہو اور مانع بلع اور آواز کے
ہو جائی علاج مثل خناق گرم — اسیطرح ہی علاج ۵ بثور حلق کا —

ف زلو وغیرہ سو نہہ مین چمٹ جای —

۶ زلو وغیرہ سو نہہ مین چمٹ جائی — علاج نمک دو تولہ سرکہ پاو سیر
غرغرہ کرین آخر انگوزہ دو تولہ سرکہ پاو سیر غرغرہ کرین آخر مٹی سیاہ
خریطہ مین پر کرکے دہن علیل مین رکہین تاکہ زلو جانب مٹی کے میل کری اور
باہر آوے آخر طحلب منہہ مین رکہین آخر مریض کو لہسن کہلا کر دہوپ مین
بٹہائین جو گرمی از حد شدت کری پس ذولعہ یخ یا کوزہ آب سرد لبون پر

پہر رکہین جبتک لو میل سردی کر کے باہر آوی - اگر وکہائی دیتی ہو زنبور سی پکڑکے
تہوڑا صبر کر کے باہستگی تمام باہر کرین - اگر جونک معدہ مین گئی ہو فوراً قی کرین -
یا مسہل دین -

ف لقمہ وخار وغیرہ حلق مین پہنس جائے -

۴ **لقمہ وخار وغیرہ حلق مین پہنس جائے** - علاج - اگر مشاہدہ ہو زنبور سے خارج کرین
والا پانی پلا کر اور لقمہ بڑا کہلا کر نیچے کرائین **اسفنج** یا صوف تاگی مین باندہ کر
نگلی جب وہ متعلق سے تجاوز کری پانی پیکر بہت جلد باہر کو کہینچین -

ف جسکا گلو کندسی گہٹا ہو -

۵ **جسکا گلو کندسی گہٹا ہو** - علاج - اسکا نمبر ۲۶ باب چہارم کتاب ہذا
مین ملاحظہ فرمائین -

ف بحتہ الصوت

۶ **بحتہ الصوت** - یعنی بیٹہنا آواز کا - اگر سبب نزلہ کی ہو **علاج** مانند علاج نزلہ
اگر سبب گرمی حنجرہ کے ہو یہہ اکثر بعد حمیات حادہ کی ہوتا ہے **علاج** شیرہ تخم
خیارین شیرہ تخم کدو ہر یک ہفت ماشہ شیرہ تخم خرفہ سیاہ ماشہ عرق گاوزبان عرق
نیلوفر ہر یک چہار تولہ شربت بنفشہ یا شربت نیلوفر دو تولہ پلاوین - اگر سبب سردی حنجرہ
کے ہو یہہ ہوا سردی سے ہوتا ہی **علاج** اصل السوس مقشر نیمکوفتہ پنجماشہ بادیان
گاوزبان پر سیاوشان ہر یک سات ماشہ نبات سفید دو تولہ عرق گاوزبان عرق مکو
ہر یک یکپاو ابالکر چہانکر پلاوین - اگر سبب تری حنجرہ کی ہو اسمین ثقل حنجرہ ہوتا
اور خشونت و درد و ندان نہین ہوتا **علاج** اصل السوس مقشر نیمکوفتہ پنجماشہ
بیخ بادیان پر سیاوشان بادیان ہر یک سات ماشہ نبات سفید دو تولہ پانیمین ابالکر
چہانکر نبات ملکرین اور انہین ادویہ مین دو تولہ شہد ملاکر بطریق مقرر غرغرہ کرین
اگر سبب خشکی حنجرہ کی ہو خشونت اور درد اسمین ہوتا ہی یہہ اکثر گرد و غبار سے
ہوتا ہے **علاج** لعاب بہیدانہ تین ماشہ لعاب اسبغول سات ماشہ عرق گاوزبان

عرق مکو مع یک چھٹانک شربت بنفشہ یا شربت نیلوفر دو تولہ پلادین – اگر بسبب مادہ بلغمی کے ہو علاج مثل سوء مزاج مادی اخر مسکہ اور شکر سے غرغرہ کرین اخر روغن بنفشہ غرغرہ کرکے
بیضہ نیمبرشت کہائین – اگر بسبب پانی سند ہو کے ہو علاج گل سرخ عرق بہار
پان مین کہائین اسسے قی ہوکر آواز کہلتی ہے – اگر ہس مرضین حاجت تنقیہ
کے ہو حسب غلبہ خلط کرین –

۱۰ عسر البلع – یعنی ماکول مشروب بدشواری اندر جاتی – آسین اگر سبب
ورم نہو مریض کو توقف گذرنے ماکول مشروب کا بدون درد کی محسوس ہوتا
تو سوء مزاج مری سے ہوتا ہے – لوازم سوء مزاج چند ہین – امراض مری مین استعمال
حلیب و مروخات بہن کتعفین کرنا چاہیے – پس اگر گرم ہے علامت تشنگی غالب
اور آب سرد سے انتفاع علاج شراب تمر ہندی و شیرہ خرفہ و لعاب اسپغول پلادین
و شیرہ عنا بہ بیکجا سے و شیرہ تخم کاہو سے غرغرہ کرین اخر صندل و کافور
و عصارہ کاہو و آبکل و کشنیز سے طلا کرین اخر روغن بنفشہ اور موم ملین – اگر
سوء مزاج سرد ہے علامت ضد گرمی کی ہے علاج شراب دینار و شراب دیخرج
و طبیخ انیسون و مصطکی و سنبل پلادین اخر بادیان و آب چینی شبت بانیمین بالکل
غرغرہ کرین اخر سنبل و سنبل مصطکی جند بید ستر سے طلا کرین اخر روغن
روغن ترب روغن قسط ملین – اگر تر ہو علامت رطوبت منہ سے بہت
جاری علاج شراب بہ و سیب و حب الآس پلادین اخر ہمتین گلسرخ خشک
ہلیلہ بخدان بانیمین بالکل غرغرہ کرین اخر روغن ناردین اور زنبق ملوین
اگر خشک ہو علامت خلاف تر ہے علاج شراب بنفشہ و نیلوفر و لعاب
اسپغول و بہیدانہ پلادین اخر شیر تازہ سے غرغرہ کرین اخر مغز تخم کدو و روغن

ومغز بادام شیرین و بنفشہ و برگ خطمی باریک کر کے لعاب مرا و ر چربی ماکیان میں ملا کر
ملا کرین اور اسبغول و روغن گدو ملین ۔

۱۱ سوزن یا اندرجاوی ۔ علاج سائہی تین ماشہ صلایہ سنگ آہن سا کو ایک
قاشق شراب انگوری میں ملا کر نہار دیوین جب آدہ گہنٹہ گذر جائے سنا مکی ماشہ
گل سرخ و گلبنفشہ ہر یک ۶ ماشہ سپستان ۳۰ عدد انہ پانی ایک پیالہ مین جوش دین
جب نصف رہے صاف کر کے شیرخشت سائہی پنجتولہ اوسمین ملکر چہار
نیمگرم پلاوین اور شیافات سے مدد کرین جب عمل دوا کا آخر ہو شربت قند
وگلاب و تخم ریحان دین غذا نخوداب کرین ۔

۱۲ اورام مری ۔ اگر حار ہو علامت تپ و تشنگی شدید اور درد درمیان
ہر دو شانہ ۔ اگر بارد ہو علامت ثقل درمیان کتفین کے علاج مثل ورم
حار و بارد کے ہے ۔

۱۳ نفث الدم ۔ یعنی تہوکمین خون آوی علاج تبرید مندرجہ ردیف شیرہ
ریشہ پوست بیخ انجبار پنجماشہ شیرہ تخم خرفہ سیاہ تین ماشہ بارتنگ پنجماشہ
لعاب کر کے دین ۔ اگر بند نہو فصد باسلیق کرین آخر قرص کہربا و قرص گلنار
استعمال کرین ۔ اگر بسبب نزلہ کے ہو تدبیر حبس نزلہ کے کرین ۔ غذا جمیع امراض
حارہ مین آشجو و کھچڑے مونگ قرص کہربا ۔ صمغ عربی کتیرا مغز تخم خیار
مغز تخم کدو کہربا ہر یک ۳ تولہ اقاقیا گلنار ہر یک یکنیم تولہ کوٹکر چہان کر لعاب اسبغول
مین اقراص بناوین خوراک پنجماشہ سے سات ماشہ قرص گلنار دافع
نفث الدم و ذیابیطس صفت گلنار گل ارمنی صمغ عربی ہر یک چہار تولہ گل سرخ
اقاقیا ہر یک ۳ تولہ کتیرا دو تولہ کوٹ کر چہانکر آب گلنار مین قرص بنا دین ۔

علاج مسافرانه امراض حلق و لہات و مری

خوراک پنجماشه —

علاج مسافرانه امراض حلق و لہات و مری — حب ۱ ابتداے

خناق صفراوی و دموی مین مفید صفقة سماق کتیرا طباشیر نشاسته تخم خرفه
تخم گل ہر یک ساڑھی تین ماشه کافور چهه سرخ کوٹ کر چھانکر لعاب اسبغول گولیان
بناوین اور ایک حب زیر زبان رکھین ۲ واسطے اندمال قرحه حلق اور آغر وہین کے
مفید صفقة طباشیر سفید تخم گل کہربا دم الاخوین جمله برابر باریک کرکے چهانکر
حبوب بناوین او ایک گولی ہر وقت منهه مین رکھین ۳ دافع قروح حلق صفقة
تخم گل ایکماشه موم کافوری ڈیڑه ماشه انزروت دو ماشه روغن گل ساڑھی تین ماشه
چهوٹی چهوٹی گولیان بناوین ایک ایک گولی زرده تخم مرغ مین آلوده کرکے
نگلتی رہین اگر بطور لعوق کے استعمال کرین انسب ہے غذا زرده تخم مرغ نیمبرشت
۴ خوانفادہ کے لئی مفید صفقة پوست انار شیرین گلنار طباشیر سفید از
ہر یک یکتوله اقاقیا تخم بادیان ہر یک نیم توله کوٹ کر چهانکر سلائی یا انگشت
پر دوا رکھکر ملازه کو اوٹھاوین ۵ اگر پانی پینے کے وقت ناک سے خارج ہوتا ہو تو تخم
ہلیله زرد پانی مین ابالکر غرغره کرین ۶ ساڑھے تین ماشه سپندان ہمراه آب گرم کے
دیوین استخوان متعلقه حلق کے لئی مفید ہے ۷ ساڑھی تین ماشه سپید مورد ہمراه آب
گرم کے ساتهه کہاوین مخرج استخوان متعلقه حلق ہے ۸ دافع بحة الصوت صفقة
مغز بادام تلخ تخم کتان بریان مغز چلغوزه گولیان بناکر منهه مین رکھین ۹ دافع
بحة الصوت جو نزله سے ہو صفقة پوست خشخاش بزر گل سرخ ہر یک ماشه گلنار
ساڑھی چار ماشه بزر البنج پونی دو ماشه جوشیده کر غرغره کرین ۱۰ گوز کے میٹھی چاول آب
بکار سونیکے وقت کہاوین اور کچهه دیر بعد دو چمچه آب گرم کے پیکر سو رہے بعد

بعد اسکے پھر پانی تناول نکرین دو تین روز کے عمل مین گلو بستہ کھلتا ہے —

فصل ہشتم مین علاج امراض صدر او رآلات تنفس مندرج ہین

۱۔ ضیق النفس یعنے تنگی دم کے — اگر بسبب سردی کے مادہ ریہ مین پیدا ہوا گر مادہ دماغ سے گرے علامت اسکی علامت نزلہ کی ہو مثل ثقل و تمدد دماغ اور درد سر و ضیق یکایک حادث ہو علاج ابریشم خام تین ماشہ سبوس گندم گاوزبان ہر یک سات ماشہ زوفا ی خشک اصل السوس مقشر بیکوفتہ گل بنفشہ ہر یک پنجماشہ نبات سفید یک و نیم تولہ پانی مین ابالکر چہانکر تناول کرین اور معتدلہ ہمراہ جوشاندہ مذکور کے دین اگر مادہ دماغی حار ہو علاج فصد اندام یا باسلیق او ر بعد منضج مسہل بارد عمل مین لاوین اخیر لعوق نزلہ اور لعوق معتدل اور لعوق گاوزبان اور سفوف اسکا استعمال کرین اخیر روغن و روغن نرگس کے مالش کرین — لعوق اسمین بہتر مشروب ہی — اگر مادہ مذکور سے ازالہ نہو تو بعد منضج مسہل گرم و حب ایارج سے تنقیہ کرین اخیر قی کرانا بعد مسہل کے مفید ہی — اگر بسبب بخارات حارہ قلب کے ہو علاج خفقان کرین — اگر بسبب ریاح و بخرہ اعضائی تنفس کے ہو علاج شیرہ بادیان سات ماشہ تخم کشوث تین ماشہ گلقند دو تولہ پلادین اخیر تنقیہ مسہل گرم سے کرین — اگر بسبب ورم ریہ یا ورم عضو مجاور اوسکے کے ہو علاج اوسکا ساتھ علاج کرین لعوق نزلہ مع شربت کے مفید صفت اصل السوس مقشر بیجدانہ ہر یک سات ماشہ رات کو دہائی سو تولہ پانی مین تر کرکے صبح کو جوش دین تاکہ نصف باقی رہے چہانکر ساتھ ایک سو بیس تولہ نبات کے قوام کرین

بہیدانہ صمغ عربی ہریک تین ماشہ کتیرا چار تولہ خشخاش سفید و خشخاش سیاہ ہریک پنجتولہ نرم صلایہ کرکے اوسمین ملادین خوراک چہ ماشہ **لعوق معتدل** واسطے تسہیل اخراج بلغم او تغلیظ سوا و رقیقہ حارہ کی مفید **صفتہ** مویز منقی انجیر زرد باقلا تخم خشخاش اصل السوس مقشر مغز تخم کدو شیرین پرسیاوشان بادیان زوفا خشک مغز بادام مقشر حلبہ پودینہ ولایتی صمغ عربی تخم خطمی کتیرا تخم کتان بہیدانہ کوکنار ہریک نیم تولہ جوکوب کرکے دو سیر پانی مین جوشدین جب آدہ سیر باقی رہے صاف کرکے پاو سیر شہد ملاکر قوام کرین **خوراک** پنجماشہ سے سات ماشہ **لعوق گاوزبان** صمغ عربی گاوزبان گل گاوزبان زراوند مدحرج رب السوس بہمن سفید بیخ سوسن قاقلہ سفید ہریک پونی پنجماشہ خشخاش سفید ساڑہی تیرہ ماشہ تخم خشخاش سیاہ ساڑہی آٹھہ ماشہ مغز بادام شیرین سوا پنجماشہ مغز تخم تربوز سات ماشہ تخم کاہو مقشر ساڑہی تین ماشہ عسل سفید پنجتولہ نبات سفید پندرہ تولہ **خوراک** چہہ ماشہ

سفوف آک دافع ضیق النفس بارد و بلغمی و سرفہ **صفتہ** برگ آک خوردہ ہو کہ درخت سے گری ہون ایک سیر چونہ برگ و نمک ہریک ڈہائی تولہ دونون کو باریک کرکے پانی مین پیسکر برگہای مذکور پر ملا کرین اور خشک کرکے سبوچہ گلی مین رکھکر ایک پہر آتش پا چلہ [illegible] مین رکھین جب سوختہ ہو جائی **خوراک** قدر قلیل **روغن نرگس** مسکن و محلل دردہای سوداوی و ریحی و دافع دردسر ریحی و درد سپرز و سوداوی و دردہای بارد و موافق امراض عصب و کشایندہ فم رحم و مسکن دردان رحم و صداع محرورین **ترکیب** مثل روغن گل۔

۲ **تنفس انتصاب** یعنی بدون سیدہی کرنے گردن کے یا بلند کرنیکے دم نا آوے **علاج** مثل ضیق النفس۔

تنفس انتصاب

سرفہ

ہے سرفہ یعنی کہانسی علاج مثل ضیق النفس اٰخر حب گل بستہ منہہ مین رکہین اٰخر تریاق کبیر واسطہ سرفہ بارد کے مفید ہے۔ اگر سبب نزلہ کی ہو علاج نزلہ کا نہایت کوشش سے کرین کیلئے کہ اکثر یہہ منتقل بسل ہوتا ہی اٰخر لعوق نزلہ استعمال کرین۔ اگر سبب گرمی و خشکی ریہ کے ہو علاج بحتہ الصوت مین ذکر ہوا۔ اگر حاجت تنقیہ کے ہو بحسب غلبہ خلط تنقیہ کرین۔ اگر سبب ذات الریہ ذات الجنب و ورم کبد و صدر و فم معدہ کی ہو علاج مرض اصلی کا کرین حب گل بستہ واقع اقسام سرفہ صفتہ۔ بلیلہ گل بستہ ہر یک دو تولہ کوٹ کر چہانکر آب ادرک مین بقدر موٹہہ گولیان بناکر ایک منہہ مین رکہین۔

ذات الجنب

ہے ذات الجنب۔ علامت تپ دایم و درد ناخس زیر اضلاع اور سعال و ضیق النفس اور نبض منشاری۔ یہہ خالص و غیر خالص ہوتا ہے جو مطولات سے معلوم کرین علاج روز سیوم تک جانب مخالف سے فصد باسلیق کرین بعد ازان جانب مرض سے۔ اور عناب پنجدانہ سپستان ہفت دانہ بہیدانہ سہ ماشہ تخم خطمی ہفت ماشہ پانی مین ابالکر چہانکر شیرہ تخم کاہو ہفت ماشہ اضافہ کرکے شربت بنفشہ دو تولہ خاکسی ہفت ماشہ ملاکر پلاوین اٰخر موم سفید چہہ ماشہ روغن گل ایکتولہ انگاکر بجای درد مالش کرین اور پنبہ کہنہ گرم اوس پر باندہین اٰخر قیروطی عنب الثعلب ملین۔ اگر حاجت تنقیہ کے ہو مسہل بارد دیوین۔ آب سرد سے احتراز رکہین واضح ہو کہ اگر چودہ ۱۴ روز مین مادہ اسکا تحلیل نہو تو جمع ہو کر پیپ ہو جاتی ہے اگر چالیس روز مین دفع نہوا اکثر دفع بنفث ہو کر منتقل بسل ہوتا ہی۔ قیروطی عنب الثعلب تخم خطمی عنب الثعلب تخم کتان ہر یک شش ماشہ پانی مین ابالکر چہانکر موم زرد و روغن گل ہر یک دو تولہ ملاکر پہر جوشدین جو پانی سوختہ ہو کر

روغن باقی رہی — ۵ شوصہ — یعنی ورم گرم جو حجاب اضلاع خلقیین واقع ہو
علامت مریض حرکت اور کسیطرح خواب نکرسکے ۶ ذات الریہ یعنی ورم گرم
لاحق ریہ کی ہو علامت تپ دایم و سرفہ و ضیق النفس و درد مقدم صدر و نبض
موجی ۷ ذات الصدر یعنی ورم گرم جو حجاب قاسم صدر مین حادث ہو علامت
تپ دایم و قلق اور مریض تسم معدہ سی تر قوہ تک رونا خس دریافت کری اور نظر
تپچی ۔۔۔ نکرسکے اور پیٹھ اور پہلو پر خواب نکرسکے ۸ ذات العرض یعنی
ورم جو جانب فقرات پشت مین عاید ہو علامت مریض درد درمیان ہر دو
شانہ ۔۔۔ کرے اور خواب پشت پر نکرسکے علاج ان مرضون کا مثل ذات
الجنب ہی ذات الصدر مین ۔۔۔ سینہ پر اور ذات العرض مین درمیان ہر دو شانہ کی ضماد کرنا
اور شوصہ مین ضماد ممنوع ہے ۔ ۹ سل یعنی قرحہ لاحق ریہ ہو — اگر بسبب
نزلہ حار و ذات الجنب و ذات الریہ و سعال مزمن و نفث الدم جو ریہ سی ہو لاحق
ہو علامت تپ و سعال و نفس مدہ می فرق و رمدہ و خلط مدہ بخلاف خلط
کے بعد ساعت کے پانی مین تہ نشین ہوتا ہی اور آگ پر بوی بد دیتا ہی — یہہ مرض
لاعلاج ہی مگر تخفیف عوارض کے لئی لعوقات اور قرص سرطان ہمراہ شیر خر یا شیر
یا شیر زنان کے دیوین خضر سرطان کے پاؤن دور کرکے اور پیٹ چاک کرکے آب
و نمک سی دہوین اور ہمراہ آش جو کی دیوین آخر بقول شیخ بوعلی مرحوم —
گلقند تازہ بہت کہاوی بلکہ روٹی اسیکی ساتھہ کہاوی آخر عرق الشمک پانی مین
حل کرکے مصری ملاکر دیوین خضر نیبر تازہ بی نمک کہلاوین — غذا شوربا کے
گوشت بز و چوچہ مرغ و پارچہ — قرص سرطان نافع سل و دق و نفث الدم
صفت گل مختوم گل ارمنی گل سرخ نشاستہ از ہر یک شش ماشہ سرطان سوختہ

سل

یعنی سیر شکم ماہی کا

سوختہ دو ماشہ طباشیر کتیرا نشاستہ تخم خشخاش مغسول ہر یک پنجماشہ رب السوس پانچ ماشہ کوٹ کر
چہانکر آب لسان الحمل مین اقراص بناوین قرص سرطان و بکرے کے پہیپہرے و دق کے لئے مفید
صفت سرطان محرق گل ترسٹھی خشخاش سفید و سیاہ صمغ عربی مغز تخم خیار ہر یک
دو ماشہ افیون کافور قیصوری مصطگی عربی السمک ہر یک نیم ماشہ طباشیر سنگجراحت
ہر یک پانچ ماشہ خرفہ مقشر کتیرا رب السوس مغز بہیدانہ ہر یک یکماشہ کوٹ کر چہانکر
آب خالص مین اقراص بناوین -

نفث مدہ غلیظ بدون تپ - منضج گرم مین جیسے اصل السوس انجیر فقط
پرسیاوشان اضافہ کرکے ابالکر چہانکر دیوین روغن بابونہ سینہ پر ملین - یہی طریقہ
یہی علاج مدہ جو بسبب دبیلہ صدر کے ہو -

علاج مساعدات امراض صدر و آلات تنفس - ۱ دافع ضیق النفس
و سرفہ بلغمی و رطوبی صفت مرچ پیپل زنجبیل نوشادر بیابہتہ تلیہ ہر یک یکتولہ
حلبہ پنجتولہ کوٹکر چہانکر آب برنج ساٹھی مین بقدر سونٹھ گولیان بناکر ایک گولی دیوین
۲ دافع ضیق النفس صفت سہاگہ بریان ایکتولہ شہد چار تولہ مین ملاکر رکہین
اور بوقت خواب دو تین انگشت کہاوین ۳ بنافع ایضا صفت اسپغول ایک
کف دست ہمراہ آب صبح و شام دیوین مرض بیست سالہ ایکمہینہ کے استعمال سے
دور ہوتا ہی ۴ بنافع ایضا صفت مغز تخم بہیل کوٹ کر چہانکر ایکماشہ ہر روز کہاوین
۵ بنافع مذکور صفت ایلوہ مرچ ہر دو برابر کوٹ کر چہانکر آب ادرک مین بقدر فلفل
گولیان بناکر ایک گولی صبح کہاوین ۶ زہرہ گاو تنہا نگلین اور کباب گوشت
گاو غذا کرین دافع ضیق ہے ۷ صدف سوختہ آب ادرک مین کہرل کرکے بقدر نخود
گولیان بناکر کہاوین ۸ دافع سرفہ شدیدہ و مخرج اخلاط صدر صفت ترنجبین

نفث مدہ غلیظ بدون تپ

مساعدات امراض صدر و آلات تنفس

بنفشہ کتیرا رب السوس ہر یک پنجماشہ تخم خشخاش مغز بہیدانہ ہر یک ہفت ماشہ
سویز مقشر چار نیم ماشہ انیسون بادیان مغز بادام تلخ مقشر قند ہر یک دو ماشہ لبان
آرد باقلا ہر یک ہفت ماشہ کوٹ کر چہانکر لعاب اسپغول مین حبوب بنا کر ایک گولی
منہہ مین رکہین ۹ کاکڑا سینگی کو ٹکر چہانکر پانی مین بقدر فلفل حبوب بنا کر منہہ مین
رکہین کہانسی ہر قسم کے لئی مفید ۱۰ دافع سرفہ بارد و ضیق النفس و ورم طحال و کولہ
صفتہ برگ اک و مرچ و نمک سانبہر ہر سہ بوزن برابر کوٹ کر چہانکر بقدر
فلفل گولیان بنا کر ایک ہر روز دین ۱۱ خاکستر استخوان کبوتر صحرائی بقدر دو
حبہ برگ پان مین دین دافع ضیق ہے ۱۲ پوست انار سوختہ یا املیہ و نمک یا پیپل و
نمک منہہ مین رکہنا دافع سرفہ ہے ۱۳ پوست درخت کیلہ خشک چار تولہ فلفل
دراز یکتولہ نمک دو تولہ کوزہ گلین مین ڈالکر گل حکمت کرکے دس سیر پاچلد شتی مین
آگ دیوین اور بعد سرد ہونیکی نکالکر رکہین اور ایک چٹکی منہہ مین ڈالتی رہین دافع
سرفہ ہر قسم ہے ۱۴ کشتہ ہرتال ضیق النفس و سرفہ ہر قسم صفتہ ہرتال گؤدنتی
بقیمت یکفلوس تینہل یک عدد تینہل کو پانی مین مثل صندل پانی مین پیسکر ڈلیہائے
مذکور پر طلا کرکے دو برگ ڈہاک یا اور چیز مین رکہکر دو آثار یعنی پاچلد شتی مین
آگ دیوین جب سرد ہو نکالکر پیسکر بقدر یک سرخ برگ کنار یا پانی مین کہکر بوقت
خواب شب کہلاوین اور صبح تک پانی نہ دیوین ۱۵ دافع سرفہ وسل صفتہ
نشاستہ کتیرا شکر تیغال از ہر یک سہ ماشہ تخم خشخاش سفید رب السوس
مغز بہیدانہ ہر یک چار ماشہ شکر طبرزد مغز بادام شیرین ہر یک شش ماشہ صمغ عربی
سہ ماشہ کوٹ کر چہانکر لعاب اسپغول مین گولیان بنا دین۔ ایک
گولی منہہ مین رکہین ۔

فصل نہم مین علاج امراض قلب مندرج ہے -

فصل علاج امراض قلب

خفقان

۱ـ **خفقان** یعنی حرکت مضطربہ لاحقہ دل **علاج** فصد باسلیق جانب چپ بعد ازآن فصد صافن کرین اور آملہ مربی شستہ ورق نقرہ مین لپیٹ کر ہر یک بعدد ہمراہ شیرہ تخم خرفہ سیاہ شیرہ زرشک شیرہ کشنیز خشک از ہر یک چہہ ماشہ شیرہ آلو بخارا پنجدانہ گلاب عرق کیوڑہ عرق گاوزبان عرق صندل ہر یک تین تولہ شربت انار شیرین دو تولہ تخم فرنجمشک پنجماشہ دیوین **آخر** خمیرہ صندل چہہ ماشہ ہمراہ تبرید مذکور عوض آملہ مربی کے دیوین **آخر** قرص کافور ہمراہ تبرید مذکور **آخر** صندل سفید آب کشنیز سبز مین سینہ پر ضماد کرین **آخر** گلاب و عرق کیوڑہ عرق صندل بیدمشک جمیع امراض قلب کے لیے مفید **آخر** سنڈی و گاوزبان ہر یک یک آثار سے عرق کھینچین اور بقدر مناسب تنہا یا ہمراہ معاجین قلبیہ کے دیوین **آخر** گاجر تنور مین بریان کرکے پوست باہر یک اور گٹھلی اوسکے دور کرکے اور رات کو زیر آسمان رکھکر صبح قدری گلاب اور قند ملا کر کھاوین تقویت قلب و خفقان کے لیے فایدہ مند - اگر خفقان سوداوی ہو **علامت** فکر و وحشت و خوابہای بد **علاج** دواء المسک کھاوین **آخر** نرگس اور چنبیلی سونگھین **آخر** روغن سوسن و زنبق سینہ پر ملین - اگر حاجت تنقیہ کی ہو مثل مالیخولیا کرین **آخر** جو دوا دافع مالیخولیا ہی استعمال کرین **آخر** ماء الجبن و شیر بز و ماء الخیار فرداً فرداً پلاوین - اگر بسبب مشارکت معدہ کی ہو **علاج** گلقند و سکنجبین سے اصلاح معدہ کرین **آخر** جوارشہای گرم اور سرد حسب ضرورت دیوین اور حسب غلبہ خلط تنقیہ معدہ کا کرین - اگر بسبب شرکت عضو دیگر کے ہو **علاج** اوس عضو کا

کریں۔ اگر سبب کوئی بت صوم و استفراغ و نزف الدم کے ہو علاج غذا جید الکیموس
کھلائیں اور شربت لیموں و تخم و حمام عمل میں لاویں **خمیرہ صندل** واسطہ خفقان حار و
تقویت قلب و دیگر امراض کے مفید **صفت** برادہ صندل سات تولہ آٹھ ماشہ گلاب
یا پانی نیم آثار پختہ میں ایک رات دن تر کرکے جوش دیکر شیرہ نکالکر نیم آثار شکر سفید میں
قوام کریں **قرص کافور** خفقان حار اور شیری کی لئے مفید **صفت** کافور ۹ ماشہ
زعفران مغز تخم خیارین صندل سفید ہر یک یکتولہ مغز تخم کدو چھ ماشہ کوٹ کر چھانکر
شہد میں ملاکر اقراص بناویں **روغن شنبق** دوم میں گرم اول میں خشک ۔
لطیف و ملین و مقوی اعضا ۔ ڈیڑہ تولہ مسہل خلط مراری اور مدر بول ۔
طلا اسکا واسطہ رفع قشعریرہ اور سردی دماغ اور اعصاب اور اعضای تناسل کے مفید
بدل اسکا ہر حال میں روغن اریسا اور غیر اسہال میں روغن نرگس **ترکیب** مثل روغن گل

غشی یعنی بیہوشی ۔ **علاج** ہاتھہ پاؤں ملیں اور ناک میں **اکثر** عطریات
سونگھیں **اکثر** آب سرد اور گلاب زور سے منہہ پر چھڑکیں **اکثر** شاح و پاشویہ
عمل میں لاویں جب ہوش میں آوے علاج خفقان کا کریں ۔ اگر سبب درد
کے پیٹ میں درد کا ہو ... ۔ اگر سبب تناول زہر یا غلبہ حرارت کا ہو علاج
اوسکا کریں ۔

ضغطہ قلب یعنی مریض ایسا دریافت کری جو دل دبا ہوا باقی میں
پھر غشی خفیف لاحق ہوکر لعاب منہہ سے جاری ہو **علاج** استفراغ سودا کا کریں
اور تقویت قلب مفرح حار و تریاق کبیر سے کریں ۔

تقشر قلب یعنی بیمار ایسا محسوس کری کہ اوسکے دل کو چھیلتی ہیں **علاج**
مسہل بارد سے تنقیہ صفرا کریں مفرح وغیرہ دیا اور غذای جید استعمال کریں

غشی

ضغطہ قلب

تقشر قلب

۵ قذف قلب یعنی دل سینہ سی باہر جاتا ہی علاج بعد فصد باسلیق مثل علاج تقشر قلب ۔

۶ احتوای رطوبت بر قلب یعنی دل پانی مین شناوری کرتا معلوم ہو علاج مسہل گرم و حب ایارج سی تنقیہ کرین اعنبر یا کچہہ زعفران گلسرخ اور مانند اسکے ضماد حارہ دل پر لگاوین آخر مریض کو غصہ مین لاوین یکبارہ جرعہ دوالمسک حار

۷ جذب القلب یعنی دل اندر جاتا معلوم ہو علاج رنگ مریض سے غلبہ خلط دریافت کرکے استفراغ خلط غالب عمل مین لاوین ۔

علاج امراض قلب مع فوائد ۱ واسطے خفقان [illegible] مروارید ناسفتہ عطر سوختہ ہیرہ سائیدہ مشک خالص [illegible] ہر یک یکماشہ مرجان مصلایہ کردہ ورق نقرہ [illegible] [illegible] یکماشہ [illegible] کرین ایکماشہ ہر روز شربت سیب سے کہاوین اسیطرح ایک ہفتہ کہاوین جو ہر روز ہفتہ ماشہ ہوگا ۲ معجون نقرہ مقوی قلب و معدہ و جمیع اعضا و نشاط دوا افقا و غشی صندل زرد یاقوت [illegible] ناسفتہ مشک خالص [illegible] ہر یک سا ٹہی چار ماشہ ورق طلا سوا تولہ شہد دو تولہ و شہد آب سیب شیرین آب انار شیرین نبات سفید ہر یک یکپاؤ گلاب عرق بیدمشک عرق گاؤزبان ہر یک نیم آثار قوام تیار کرین ۔ اگر عوض ورق طلا کے ورق نقرہ ڈالیجاوین تو معجون نقرہ ہوجائیگے ۔

فصل دہم مین علاج امراض پستان مرقوم ہے

اورام پستان

۱۔ اورام پستان اگر ورم دموی ہو علاج بعد فصد و زلوے اسپغول بہیدانہ کا لعاب جیبن دو تولہ پانی آدھ سیر میں پکا کر طلا کریں - اگر بسبب انجماد شیر ہو علامت سرخی اور درد اور سختی اور انتفاخ پستان علاج پارچہ گلاب و سرکہ میں تر کرکے پستان پر رکھیں آخر آرد جو و باقلا و مغاث آب گشنیز سبز و آب خرفہ سبز و زردی تخم مرغ میں ضماد کریں آخر وقت انتہا اور سکون درد کے محللات عمل میں لاویں - اگر مادہ جمع ہو منضجات استعمال کریں یعنی تخم ریحان شیر گاو میں پکا کر باندھیں آخر قیروطی تخم کتان بعد نضج کی منفجر کریں جب عضو پیپ سے پاک ہو مرہم مندمل استعمال کریں - اگر بسبب کثرت شیر کے بغیر ورم و تمدد کی ہو علاج نطول بابونہ استعمال کریں آخر حرام مغز شراب میں پکا کر ضماد کریں - اگر بسبب کوفتگی پستان کے لاحق ہو علاج ماش و دانہ سوین باریک کرکے پانی سرد میں ملا کر ضماد کریں قیروطی تخم کتان اکلیل الملک بابونہ تخم کتان ہر یک ششماشہ پانی بالکر چھانکر سوم و روغن گل ہر یک دو تولہ اوسمیں ملا کر جوشدیں جو پانی جلکر روغن باقی رہے نطول بابونہ گل بنفشہ گل خطمی بابونہ حلبہ ہر یک یکتولہ روغن زرد پنجتولہ پانی دو سیر میں جوشیدیں جب حصہ سیوم سوختہ ہو چھانکر نطول کریں -

پستان خورد ہوں

۲۔ پستان خورد ہوں - علاج ضماد طین قیمولیا طلای کندر طلای انار ضماد شوکران استعمال کریں آخر افیون و نان سرکہ میں ملا کر ضماد کریں ضماد طین قیمولیا سفیدہ ارزیر بزرالبنج قیمولیا عفص جملہ برابر سرکہ میں پیسکر ضماد کریں طلای کندر روغ سوختہ کندر آرد جو ہر ایک برابر باریک کرکے سرکہ میں ملا کر ہر مہینے میں تین بار طلا کریں طلای انار پستان کو بزرگ اور محکم کرے

کری صفتہ برگ بارہ گل و پوست انار بقدر درکار باریک کرکے ایک رات دن پانیمین ترکرکے جوش دیکر چھانکر چہارم حصہ اوسکے روغن تلخ ملا کر ا بالین جو پانی جلکر روغن باقی رہی تھوڑی پستانپر ملین - ضماد شحوم پیہہ گاومیش و پیہ فیل بلا برپگہلا کر خوب ملا وین - اور ہر روز تھوڑی نیمگرم کرکے ملین -

۳ سختی و تمدد پستانمین پیدا ہون جیسی ہنگام بلوغ مین ہوتا ہی - روغن بنفشہ و زردہ بیضہ مرغ طلا کرین بعد ازین موم روغن زیت مین ملا کر زہرہ گاو اضافہ کرکے طلا کرین عند الحاجت قطران اضافہ کرین اخر درد سر کہ رکھین اخر برگ مازو کوٹ کر ضماد کرین اخر تلئین سی کیلئی استعمال مرطبات و شحوم کا مفید ہے -

۴ پستان اندازہ سی زیادہ نہون اور بمقدار مطلوبہ رہین - اسفیداج وطین قیمولیا ہر یک سات ماشہ آب برگ اجواین یا طبیخ تخم اجواین مین ملا کر قدری روغن مصطکی اضافہ کرکے طلا کرین اور ہر مہینے مین ہنگام طلا کے خرقہ کتان آب مازو مین ترکرکے سرد کرین اور پستان کو اوس سے پوشیدہ رکہین حمام کم کرین اخر گل تازہ یعنی طین حرا پنجتولہ شوکران سات ماشہ سرکہ مین ملا کر تین روز طلا کرین اخر طین شاموس اقاقیا و اسفیداج جملہ برابر باریک کرکے آب اجواین مین طلا کرین اخر پھٹکری و روغن زیت ہاون سنگین مین ڈالکر پیسین جو قدرے سرب اوسمین سودہ ہو اور متواتر طلا کرتے رہین اخر کرم کنجاہی جو برسات مین ہوتی ہیں پیس عدد نمک آدہ سیر ظرف مین جو ایک جان ہو جائین پس چکنے مٹی اوسمین ملاوین اور سات روز تک متواتر ضماد کرین پستان درست کرتا ہے اخر سنگ مقناطیس اسگند زیرہ سفید مساوی کوٹ کپڑچھانکر آب شستہ برنج ساٹھی مین ملا کر

[illegible] ترکیب [illegible] یہ ہے کہ اول چند سوزن پستان پر لگائیں جو قدرے
[illegible] باندھیں اور شبانہ روز میں تین بار دوا
[illegible] اور سونے کے وقت مگر سوزن لگانا ایکبار کافی ہے ۳ نسخہ
[illegible] میں پیکر تین شبانہ روز لیپ کرتا رہے ملین آخر پوست انار شیرین
یک تار روغن [illegible] تار نیم آثار ملاکر جوش دین جو روغن باقی رہے چھانکر
[illegible] بسبب [illegible] سست شدہ بھی اسسے سخت ہوتا ہے آخر خون حیض جو اول
[illegible] اور وہ بھی پستانوں سے زیادہ نہیں ہوتی -

فصل یازدهم مین معالجہ امراض معدہ کا مرقوم ہے

۱ وجع معدہ یعنی درد معدہ - اگر بسبب [illegible] معدہ کی ہو علاج تحریر ہوگا
اگر بسبب [illegible] ہو علامت تمدد [illegible] اور [illegible] علاج شیرہ
بادیان [illegible] تخم کشوث [illegible] پانی میں تیار کرکے گلقند دو تولہ ملا کر
[illegible] دیوین آخر [illegible] یکتولہ ہمراہ [illegible] بادیان نیم گرم کے پلاوین
[illegible] تحلیل ریاح معدہ و درد [illegible] معدہ اور [illegible] رطوبات کے مفید
[illegible] علاج ۲ قراقر و نفخ معدہ کا ۳ جشا یعنی ڈکار کا اور وہ
ایک [illegible] راہ دہن کے خارج ہوتی ہے ۴ تثاوب کا یعنی جمہائی
اور وہ کہلنا منہہ کا ہے ۵ تمطی یعنے انگڑائی کا اور وہ کہنچنا تمام اعضا کا ہے
اگر درد معدہ بسبب فساد غذا کی ہو علاج آب و نمک سے قی کر کر قی کریں پھر
گلقند و سکنجبین سادہ ہر یک یکتولہ ملاکر ہمراہ گلاب چار تولہ کے دیوین غذا اسکے
[illegible] - اسیطرح ہے علاج ۶ قی اور ہیضہ کا - اگر ابتدا میں [illegible]

ازالہ درد نہو سنا مکی پنجا شہ تربد سفید مجوف خراشیدہ سہ ماشہ باریک کرکے
دو تولہ گلقند مین ملاکر ہمراہ عرق بادیان نیمگرم کے دیوین اخر روغن بیدانجیر یکتولہ
عرق بادیان نیم پاؤ مین پلاوین اور قدرے نیمگرم ضماد کرین اخر نمک سبوس گندم
ہر یک چار تولہ کے پارچہ مین پوٹلی باندہکر گرم کرکے ٹکور کرین اخر برگ شبت سے
ٹکور کرین واضح رہے کہ اگر ہیضہ بسبب ہوائے وبائی کے ہو۔ علامت اوسکی
یہہ ہے مریض نہایت مضطرب اور تشنگی زیادہ اور ضیق نفس لاحق ہو روز اول
نہایت روز چہارم مین ہلاک کری اور بعد مرنے کے رنگ چہرہ و چشم سیاہ ہوجاوے اور
تشنج عظیم ہوجائے اور آنکہین بیٹہہ جاوین اور ہاتہہ پاؤن سرد ہوجاوین
تدبیر حفظ از وبا یہہ ہے کہ جب علامات وبا ظاہر ہون ۱ تخفیف بدن
ساتہہ فصد و اسہال و قی و تقلیل غذا و استعمال مجففات کی کرین مگر مسہل قوی
نہ دیوین مانند ہلیلہ و مغز فلوس کے استعمال کرین ۲ تعدیل و تطییب ہوائے
مسکن کرین ۳ تقویت روح کرین ۴ غذا کمتر او بتدریج دیوین ۵ لحوم
و الیان و فواکہ رطبہ و دیگر اغذیہ مرطب سریع العفونت نہ کہاوین ۶ آش
لحم کہاوین ساتہہ ترشی کے پکاکر بطور کباب کے کہاوین ۷ گوشت چوچہ مرغ
و دیگر طیور قلیل الحرارت کہاوین ۸ شوربا و شراب نہ کہاوین مگر شراب کہانے
کی لیئے اجازت ہے ۹ سرکہ و سماق و زرشک انار دانہ و آب لیمو و آب غورہ
و آب انار ترش و دیگر حموضات غذا مین ملاوین ۱۰ اچار ہای سرکہ خصوصاً اچار
پیاز کہانا اختیار کرین ۱۱ دال مونگ کہاوین ۱۲ حمام نکرین ۱۳ ترشی زیادہ
افراط نکرین ۱۴ آب دوغ یا دوغ جو او سمین اصلا نمک نہو دیوین ۱۵ شیر بیاہ
نہ کہاوین ۱۶ جب تشنگی ہو پانی زیادہ پیوین ۱۷ سکون و جمعیت اختیار کرین

۱۸ جماع و ریاضت متعبہ سے پرہیز رکھیں ۱۹ وہم و وسواس نکریں اور شادمان رہیں
۲۰ رب حماض و شربت انار و لیمو و غورہ و دیگر ربوب فواکہ قابضہ حامضہ کھلاویں ۲۱
سرکہ سونگھیں ۲۲ اغذیہ کثیر الحرارت و غلیظ کثیر الرطوبت نکھاویں ۲۳ گل ارمنی و طین مختوم
۲۴ حلتیت کہانا بلغمی مزاج کیلئے نافع تر ہے ۲۵ قرص کافور و دواء المسک و یاقوتیہا
و دیگر معاجین مقویہ کھلاویں ۲۶ زہرہ مہرہ پیسا جدوار ناجیل و ریائی و پیاز
دیویں ۲۷ حب اسطہ تقویت دل و دافع سموم و ازالہ ضرر ہوای سمی و بائی و صلاح
اخلاط فاسدہ بدن سفید صعقتہ زہرہ مہرہ خطائی یاقوت رمانی مروارید کہربا گل ارمنی
مغسول درونج عقربی حب بلسان شقاقل ہمن سرخ و سفید حب الغار طباشیر داروچینی
از ہر یک چار و نیم ماشہ زعفران دو ماشہ دو سرخ عنبر اشہب مشک خالص ورق طلا
ورق نقرہ ہر یک شش سرخ جواہر کو سنگ سماق پر گلاب میں کہرل کرکے دو دن تک کو آب صمغ
میں حل کرکے اور مشک و زعفران کو گلاب میں پیسکر عنبر اشہب کو روغن بلسان
دو ماشہ دو سرخ میں حل کرکے باقی کو کوٹ چہانکر باہم ملاکر گولیاں بوزن چار جو بناکر
ہر روز یک عدد گولیاں ہمراہ گلاب چار تولہ کے نگل جاوی ۲۸ زعفران جدوار مشک
ہر سہ برابر گلاب میں پیسکر بقدر مونگ حبوب بناویں دو حب ہمراہ گلاب دیویں
۲۹ صبر دو تولہ مر زعفران ہر یک یکتولہ سفوف بناویں خوراک چار و نیم سرخ ہمراہ
چار تولہ شراب ممزوج باب ہر روز ۳۰ صبر و زعفران و مر بوزن برابر سفوف بناکر
ست و نیم ماشہ دیویں ۳۱ بقول حکیم علی گیلانی علیہ الرحمہ صبر پلادیں اور بخور کریں
اور چہڑکیں ۳۲ عطریات کا پینا چہڑکنا سونگھنا مفید ہے ۳۳ زہر مہرہ جدوار یک یک یا
نیم نیم ماشہ گلاب میں پیسکر ہمراہ گلاب و آب سرد ہر یک چہار تولہ سکنجبین دو تولہ مخلوط
کرکے ہر روز پلاتے رہیں ۳۴ پارچہ پوشیدنی و چاندنی و فرش خانہ و چادر رنگ

پلنگ کو صندل سے رنگین کرین ۳۵ اگر وبا اسباب سماوی سے ہو مکانہاے مسقف مین بود و باش اختیار کرین اور پانی و شاخ درخت لیمو و بید سادہ و سیب و ناشپاتی و گلہا خوشبو و عطریات گہرین لخلخہ از گلاب و بید مشک و عرق بید سادہ و عرق نیلوفر و سرکہ و حلتیت چہرکین اور عود و عنبر و عود و کندر و سندروس و زعفران واذخر و اشنہ و مشک طرفا و آس و چوب سرو و کافور و صندل و گل سرخ کے دہونی دیوین اور روغن گاؤ و روغن بادام بافراط بدن پر لین اگر شدت گرما ہو فوارون اور ٹٹی ہای خس و جوانسہ مکان سرد رکہین اور صندل و کافور کا گلاب و گلاب مین سینہ پر ضماد کرین ۳۶ اگر وبا اسباب ارضی سے ہو خانہای بلند و صحرا مین رہنا چاہیئے اور بود و باش صحرا کے ہر دو اسباب مین بہتر ہے دیگر تدابیر حسب نمبرہ ۳ عمل مین لاوین علامتین اسباب سماوی و ارضی کے مطولات مین ملاحظہ فرماوین علاج حسب غثیان و قے اگر ظاہر ہو حبس مین کوشش کرین آبِ حصرم گلاب و شربت انار پلاوین عطریات سونگہاوین اطراف باندہین آبِ حصرم شربت انار ترش شربت لیمو ہر یک دو تولہ چٹاوین اور پنجتولہ گلاب دیوین بسوفت قے یا اسہال شروع ہون آب گلاب ہر یک چہار تولہ سکنجبین شربت انار شیرین ہر یک دو تولہ ملاکر پلاوین - اگر استلاء غذا ہو شربت انار موقوف کرکے بجاے پانیکے عرق عنب الثعلب ڈالین - اگر قے یا اسہال بافراط ہون اور تشنگی کثیر اور افراط کرب اور احساس سوزش معدہ اور دیگر علامات وفور حرارت موجود ہون زہر مہرہ خطائی و قرص کافور ہر یک یکیک یا نیم نیم ماشہ گلاب مین پیسکر ہمراہ شیرہ صندل سفید چہار ماشہ شیرہ کشنیز خشک پنجماشہ شیرہ زرشک ماشہ گلاب وآب سرد ہر یک چہار تولہ شربت لیمو شربت انار ترش ہر یک دو تولہ پلاوین

اور گلاب سی نفرت ہو بجای اوسکے عرق بیدمشک و کیوڑہ ڈالین کبھی اسمین گل
ارمنی ایکماشہ زیادہ کرتے ہین - اگر قے ہو تو تھوڑے قدری بتدریج دوا پلادین - اگر
علامات حرارت کم ہون زنجبیل دریائی پیپیتا جدوار ہریک نیم ماشہ ترکیب مذکورہ
مین اضافہ کرین اور بعض اسہال کے لئی شیرہ حب الآس سہ ماشہ بڑہادین -
شربت وہ فالسہ افشردہ لیمو و آلو ایسے حبس قے و تسکین حرارت کے مفید - بہنگام غشی کے
دہان آلو بخارا منہ مین رکہین - دفع کرب کے واسطے صندل سفید گلاب مین گہسکر
پارچہ اوسمین ترکرکے سینہ اور شکم پر رکہین جب خشک ہو تجدید عمل کرین اسطرح
چند بار پارچہ رکہین اور تمام پیکر پہ تہ پاو پر ملین عطر گل یا خس و مانند اسکے سونگہین
بہنگام تشنگی آب سرد یا گلاب یا عرق کیوڑہ یا عرق بیدمشک ملاکر یا آب آہن تاب
و نقرہ تاب و طلا تاب پیوین مگر نہایت خنک ہو - اگر اسکا عدا ہو بجای پانی کے عرق
[illegible] دیوین - آب سرد پینے سے ہرگز منع نکرین بلکہ اکثر آب سرد بدن پر ڈالنی یا غسل
[illegible] شدت حرارت [illegible] ت ہوتی ہے - اگر دوا [illegible] معدہ
مین نہ رہے اور قے ہو تو [illegible] سماق صندل سفید زرور و طباشیر کشنیز ہریک سہ ماشہ
گلاب سے تولہ مین پیسکر سہ ماشہ اضافہ کرکے معدہ اور فم معدہ پر ضماد کرین اور
بعد نصف گہڑی کے دوا تناول فرمادین یہ ضماد واسطے کرب معدی و فواق کے بہی مفید
ہی - دفع قی و اسہال کے لئی - زہر مہرہ طباشیر سماق زرور و صندل سفید انار
دانہ خشک بقدر یکیک یا نیم ماشہ پیسکر شربت انار ترش یا شیرین دو
تولہ مین ملاکر چٹادین اور پنجتولہ گلاب اوپر سی تناول کرین کبھی جدوار نیم ماشہ
اسمین بڑہادین اور بصورت افراط ضعف ورق نقرہ و ورق طلا زیادہ کرین
اگر حرارت غالب ہو اور اسہال نہو تو شیرہ آلو بخارا ہفتدانہ آب تمر ہندی مکمولہ

یکتولہ شیرہ زرشک سہ ماشہ آب گلاب ہر یک چہار تولہ شربت لیمو دو تولہ دیوین قی اور غثیان کے لئی بہی مفید ہے — اگر ہمراہ قی و اسہال کے درد و نفخ شکم و علت تشنگی ہو جدوار ناجبیل دریائی پپیتا ہر یک یک یا نیم ماشہ گلاب پنجتولہ دیوین واسطے حبس اسہال کے یہہ دوا دیوین خس ہیلگری اندر جو شیرین گل دہاوہ ہر یک یکماشہ سکو پیسکر ہمراہ آب سرد یا اور یہ مناسب ہے کہ نگلجائی — اگر شدت درد و نفخ کے ہو ہرگز بند نکرین اذیت نفخ و فواق سے ہلاک ہو جاتا ہے — احتباس بول کے لئی گل ٹیسو ہشت تولہ آب دہ اثار مین جوش کرین جب حصہ سیوم سوختہ ہو صاف کر کے زیر ناف نطول کرین اور ثفل اسکا باندہین آخر گل کسنب سودہ بجزات مین ملاکر زیر ناف ضماد کرین — تشنج و سردی دست و پاکے لئی نمک پیسکر روغن کنجد یا ننند اسکے مین ملاکر مالش کرین — واسطے درد شکم و نفخ کے گلاب یا عرق بید مشک یا نمک و سبوس گندم سے تکور کرین آخر بادیان پنجماشہ انیسون پودینہ ہر یک چہار ماشہ تخم کشوث دریارچہ بستہ ہفتماشہ انجیر زرد مرقباد یان نہ تولہ گلاب پنجتولہ مین جوش دیکر ملکر چھانکر گلقند دو تولہ اسمین ملاکر چھانکر سکنجبین دو تولہ ملاکر دیوین آخر حلتیت نیم ماشہ تا یکماشہ گھلہا ہی — پینہ واسطے سمیت ہیضہ کی تریاق ہے — پوست نیب دو تولہ پانی بارہ تولہ مین جوش دین جب آٹہہ تولہ باقی رہی دیوین آخر تخم لیمو و ترنج گلاب مین پیسکر پلادین آخر آب پیاز شراب یا گلاب مین دیوین — بقول صاحب ذخیرہ علیہ الرحمہ جب تمدد و تشنج و جلد شکم اور سردی دست و پا اور بیخوابی و بیہوشی سے ظاہر ہو تا ہم کشیری ذہکین جب طبیعت باصلاح ہو کر اشتہا پیدا کری چند دانہ مویز منقی و انار یا آب دال مونگ کہلا دین بعد ازان جو دال مونگ قیق بعد ازان کہچری ہو

نرم بعد چندی نان روا باداِل مونگ کہلاوین اور بتدریج غذاہای معتاد اختیار کرین

علاج ہیضہ وبائی بطور دیگر ۔ ہیضہ صفراوی کے لئے شربت انار شیرین و سکنجبین و شربت غورہ و شربت لیمو و زرشک و تمر ہندی و آلو بخارا و افشردہ لیمو و تمر ہندی عمدہ خطائی و طباشیر گل بہی دیوین ۔ اگر اندیشہ تخمہ کا نہو پانی شورہ یا برف سی سرد کرکے پلاوین ۔ ہیضہ بلغمی مین نارجیل دریائی و جدوار و پپیتا و آب پودینہ و سکنجبین و گلاب و عرق کیوڑہ ۔ نسخہ نارجیل دریائی گلاب مین پیسکر ہمراہ گلقند ۔ نہار عرق کیوڑہ و عرق گاؤزبان و سکنجبین و شربت لیمو جسوقت حرارت زیادہ ہو تو بجای گلقند موقوف کرین اور تخم ترنج و تخم لیمو گلاب و عرق کیوڑہ مین اضافہ کرین اور آثار درد و ازال تسکین طبیعت کے لئے گلاب کے تکور کرین ۔ اگر بسبب سوء مزاج و حبس طبیعت پیدا ہو روغن بید انجیر گلاب مین دیوین ۔ بحالت تشنج وغیرہ اطراف نمک و دیگر روغنہای گرم سی ملین ۔ کثرت تہوع مین احتیاط کرین ۔ اگر صاحب ہیضہ کو بعد قی کے غشی ہوکر دو بند ہون علاج بہوش کیلئے اور ریا چشو اور مشمومات عمل مین لاوین ۔ نسخہ نارجیل دریائی و عود صلیب و جدوار بغش بقدر نیم ماشہ گلاب دو تولہ مین گہسکر حلق مین ٹپکاوین ۔ نسخہ تریاق فاروق و پپیتا بقدر یکماشہ گلاب دو تولہ مین گہسکر دیوین ۔ نسخہ دوائی قرنفل کہلاوین ۔ نسخہ سیب جو دس عدد ای قرنفل تیار ہوتی ہے کہلاوین اگر سیب مذکور پیسکر طفل مبتلای قی کو دین موزون مفید ہے ۔ بضرورت مسہل حار سی تنقیہ کرین ۔ اگر ہیضہ مین طعام مستحیل بصفرا ہوا ور سن و مزاج و دیگر عوارض بھی مقتضی ہون علاج بعد قی کے سکنجبین و شربت انار دیوین ۔ اگر درد معدہ بسبب خلط حار لازم کے ہو علاج شیرہ آلو بخارا بجدانہ شیرہ زرشک بجاشہ عرق بادیان عرق مکو ہر یک

ہر یک شش تولہ مین تیار کرکے سکنجبین بزوری ہر یک ڈیڑھ تولہ ملاکر دیوین آخر مسہل بارد دیوین آخر
گلاب گرم مین ایک چمچہ تر کرکے تکمید کرین **جوارش کمونی** واسطہ برودت معدہ و تبخیر
و جشاء حامض و فتح تیلہ کے مفید **صفت** زیرہ کرمانی مربر پنجاہ ماشہ فلفل سیاہ
پندرہ ماشہ برگ سداب سایہ مین خشک کیا ہوا زنجبیل ہر یک بیس ماشہ بورہ ارمنی
پنجاہ ماشہ کوٹ کر چہانکر عسل سفید چند **دوای قرنفل** واسطہ ہیضہ و وجع فواد
و تقویت معدہ کی مفید **صفت** قرنفل سیب مین ایسا گہساوین جو قدری سر
قرنفل باہر رہے چند روز ایسا ہی کرکے استعمال کرین —

۷ **ورم معدہ** اگر ورم حار ہو **علامت** تپ و تشنگی و قی و التہاب معدہ و درد
معدہ خصوصاً وقت دبانے کے اور ورم ظاہر ہو **علاج** فصد باسلیق کرین شیرہ
عنب الثعلب شیرہ تخم کاسنی ہر یک ہفت ماشہ عرق بادیان عرق مکو ہر یک شش
تولہ شربت بنفشہ دو تولہ خاکشی ہفت ماشہ دیوین — اگر حرارت زیادہ ہو تبرید
دین ساتھ تقلیل غذا کرین اغذیہ باردہ مستعملہ سرسام کہلاوین بضرورت تنقیہ مسہل
باردہ استعمال کرین مگر مسہل قوی اور قی ممنوع ہے ضمادہ و طلیہ و مشروبات مین
خاصۃ ادویہ محللہ مین اس مرض بلکہ جملہ اعضاء رئیسہ کے لئے ادویہ قابضہ و عطریہ کا
استعمال ازبس ضرور ہے تاکہ اختلال قوت عضو نہوے ابتدای ورم مین صندل
گل سرخ رسوت پوست کدو ہر یک ہشت ماشہ گلاب و آب کدو سبز و آب کشنیز
سبز مین معدہ پر ضماد کرین بعد تین روز کے آرد جو تخم خطمی زردہ ہر یک ہشت ماشہ
آب کاسنی سبز و گلاب مین بعد ازان برگ حلبہ خطمی زردہ و آرد جو سنبل الطیب
ہر یک ہشت ماشہ کا ضماد کرین بعد تنقیہ کے آب کاسنی سبز مروق و آب مکو سبز
مروق [illegible] اسی طرح استعمال کرین کہ دونون کو سات سات تولہ لیکر [illegible]

یا شربت بزوری دو تولہ خالص سات ماشہ دیوین - ورم حشا مین سکنجبین استعمال نکرین - اگر ورم تحلیل نہوا اور جمع ہو جاوئی اور تپ و درد شدت کری بزرگ و تخم خطمی و تخم مرو ہر یک ساڑھی تین ماشہ باریک کرکے شیر زہر کے ساتھ کھلاوین تاکہ نضج پاوی اور بحالت نضج جو تپ و درد ساکن ہوتا ہے شیلہ و پانی نیم گرم پیوین اور شکم ہاتھ سے دباوین جو منفجر ہو - علامت انفجار - خون اور پیپ اسہال و قی مین برآمد ہو وقت ماء العسل یا ماء الشکر یا آش جو پیوین جس وقت شکم پیپ سے پاک ہوا دویہ مدملہ مثل دم الاخوین و کندر و گل ارمنی و گلنار سفوف کرکے دیوین - اگر مادہ بارد ہو مسہل حار سے تنقیہ کرین بعد ازان تریاق اربعہ و تریاق مثرودیطوس پیوین جسقدر شیرہ تخم مرہ نبات یا گلقند کے پلاوین جسقدر آب یا سینی سبز مروق آب کو سبز مروق یا آب بادیان سبز مروق ہمراہ گلقند کے دیوین جسقدر روغن گل و سرکہ معدہ پر طلین جسقدر روغن بید انجیر و روغن یاسمین سے مالش کرین جسقدر ضماد زعفران و ضماد صبر استعمال کرین - غذا آب یخنی بحالت غلبہ گرسنگی چند دانہ سویز منقی یا انڈے کی پہیری سونگھ - اسیطرح ہے علاج ورم عضلات معدہ کا - ماء الشعیر مطبوخ اسکو آب کاسنی سبز مروق کہتے ہین - واسطے تفتیح سدہ و تنقیہ مسالک کے مادہ عفنہ سے اور تپہای صفراوی و دموی و مرکبہ کے نافع صدفتہ برگ کاسنی سبز کو پارچہ سے صاف کرکے کوٹ کر پانی نچوڑین اور ظرف قلعی دار مین ڈالکر آتش خفیف پر رکھین جو مثل وعدہ کے پھٹ جاوئی صاف کرکے استعمال کرین ماء عنب الثعلب الرطب واسطے حمیات کے جو بسبب ورم جگر و معدہ کے ہو دو دیگر انواع تپ مرکبہ کے مفید ہے ترکیب اسکے مثل ماء الہندبا کی ہے - ماء الشعیر یعنی آش جو منفتح نضاملہ و مستفرغ سواد محرقہ و منقی معدہ و مسہل النفعند تمام

ورم عضلات معدہ

تمام بدن مین و مسکن عطش و لذیذ و معتدل الغذا اور بارد ہے ۔ اخلاط فاسد و نفخ معدہ
مین غلبہ پیدا نہین کرتا ۔ معدہ کو سست نہین کرتا ۔ مضر حشای بارد اور نفاخ ہے
مصلح اوسکا گلقند ہی **صفت** جو مقشر ایکحصہ آب صاف دس حصہ مین ملاکر ظرف مس
قلعی دار مین ڈالکر آتش ملایم پر جوش دین اور اثنای جوش مین بدلین بہتر یہہ ہے کہ
سات پانی بدلکر ملکر چہانکر گلاب و عرق کیوڑہ ہریک دو تولہ شربت انار یا نبات تین
تولہ ملاکر دیوین ۔ اگر بجای آب ہفتم کے آب گوشت ڈالین تا ماء الشعیر ملحم ہوگا ۔
تریاق اربعہ اسکو تریاق صغیر بھی کہتی ہین ۔ آخر دوم مین گرم و خشک ہے ۔
دو برس تک قوت اوسمین رہتی ہے ۔ بعد چہل روز کے استعمال کرنا چاہیی ۔
محلل ریاح غلیظہ و مصلح عظیم حال جگر و طحال و مفتح سدہ و دافع صرع و خفقان و
قولنج و امراض باردہ و مدر فضول جو بسبب ورم کے ہو اور واسطہ تسہیل ولادت
و اخراج جنین مردہ اور سم مار و عقرب و عنکبوت و جمیع جانوران گزندہ زہردار
و سموم مشروبہ کے مفید ۔ مورث صداع و دمعہ ۔ مصلح اسکا شیرہ تخم خرفہ مقشر
صفت حب الغار جنطیانا رومی مر صاف زراوند طویل مساوی الوزن کوٹ کر
چہانکر روغن گاو سی چرب کر کے شہد مصفی چند ادویہ مین ملاکر معجون بناوین ۔
بعضی عوض مر صاف کی قسط تلخ اور عوض زراوند طویل کے مدحرج ڈالتی ہین ۔
اور بعضی ایک جزو زعفران اسمین اضافہ کرتی ہین خوراک تین ماشہ سے
چار ماشہ **ضماد زعفران** آرام صلابت معدہ و جگر کے لیی مفید **صفت** زعفران
صبر ہریک یکتولہ افسنتین سنبل الطیب ہریک نیم تولہ باریک کر کے آب گرم مین
ضماد کرین **ضماد صبر** ورم سوداوی کے لیی نافع **صفت** سنبل الطیب تخم کتان
صبر مغز حب قرطم مقل چربی مرغ مغز ساق گاو روغن گل و موم سرخ مین مرہم بنا کر

شہوت کلبی

ضماد کرین ۔ شہوت کلبی ۔ یعنی مریض مانند کتے کے ماکولات پر حریص ہو
اور باوجود کثرت کہانے کے سیر نہو ۔ اگر سبب اسکا سوء مزاج بارد ہے جو فم معدہ کو ضعیف
کرے علاج جوارش مسیکی و جوارش کمونی و جوارش عود دیوین آخر مصطکی
کباشہ انیسون اجوائن زیرہ مرکب و مانند جابین اخر ضماد و نقل لگائین ۔ اگر
سبب جمع ہونے اخلاط حامض کے معدہ مین ہو علامت ترشی ہن و جشای علاج
بعد قی و استعمال مسہل کریم و حب ایارج کے مثل علاج سوء مزاج بارد کے کرین اخر
شراب شیرین نہار پیوین اخر شیان جو بقیہ اخلاط حامضہ سے احتراز کرین ۔ اگر سبب
زیادہ گرنے سودا کے فم معدہ مین ہو علامت قے شدید معدہ جو بعد کہانے
طعام کے رفع ہوجاوے تشنج معدہ و جشای ترش علاج فصد باسلیق اور تنقیہ سودا
استعمال ہلیلہ یا بعد ازان تقویت معدہ ہی ۔ اگر سبب گرم کے ہو علاج تبدیل مزاج
گرم ۔ اگر سبب تحلیل اخلاط بدن یا استفراغ کثیر یا جوع طویل کے ہو علاج اغذیہ غلیظہ
مثل ہریسہ و کلہ پاچہ و گوشت کا و چند مرتبہ دن بہر مین تہوڑا تہوڑا کہاوین اور آب
سرد و جائی سرد مین بیٹہین ضماد و نقل سنبل الطیب تجویز ہوا گل سرخ
و نقل صاف ہی اجزا برابر پیسکر فم معدہ پر لیپ کرین ۔

شہوت بقری

۲ ۔ شہوت بقری یعنی گائے کی سی بہوک بنزدیک فم معدہ ۔ یہہ مرض اکثر مسافروں کو
لاحق ہوتی ہی جو سخت سردی مین سفر کرین علامت لاغری بدن و عدم اشتہا
و احیاناً غشی ۔ اگر برودت مفرط فم معدہ کو لاحق ہو کر باعث مرض ہو علاج بحالت
غشی علاج غشی اور بحالت افاقہ نان گلاب یا پانی مین تر کرکے دیوین اخر غذا سے
سریع الہضم کہلاوین اخر تدابیر سوء مزاج بارد مندرجہ شہوت کلبی عمل مین
لاوین ۔ اگر سبب بلغم لزج کی ہو مثل علاج شہوت کلبی بلغمی کے کرین ضماد

ضماد گلسرخ استعمال کرین — اگر بسبب ضعف معدہ یا حرارت جمیع بدن کے ہو علامت تشنگی و قبض طبیعت اگر بھوک کے وقت کھانا نملی تشنگی ہو جاتا علاج وقت فاقہ کے شیرہ زرشک بجاشندہ عرق کیوڑہ گلاب ہر یک چہار تولہ شربت انار شیرین سکنجبین ہر یک یکنیم تولہ پیوین آخر بوقت گرسنگے جلد تر کھانا کہاوین جیسے نان آب انار وسیب مین ترکرکے غذا کرین ضماد گلسرخ صندل الطیب سعد [illegible] گلسرخ مساوی گلاب مین ملا کر فم معدہ پر ضماد کرین —

۱۱ شہوت گل و انگشت و گچ و ماشا آن — علاج مثل علاج شہوت کلبی جو بسبب [illegible] حامض کے ہو آخر [illegible] استعمال چہچہ مرغ بریان کا —

۱۲ عطش مفرط — اگر بسبب [illegible] کے معدہ [illegible]

پانی پینے سے تشنگی نہ جاوی [illegible] تیز تر ہو اسکو عطش کاذب کہتی ہین علاج اب [illegible] سے قی کرین سکنجبین وشہد و مانند اسکی مقطعات و ملطفات بلغم کا استعمال کرین بعد تنقیہ مواد بلغم سے احتراز کرین [illegible] چاہیے تنقیہ کرین — اگر بسبب حرارت معدہ کے ہو جیسی تپ مین ہو تا ہے اور سبب خشکی معدہ و تناول چیزہا سے گرم و شیرین و تیز کے ہو علاج شیرہ خرفہ شیرہ مغز تخم کدو شیرین لعاب اسبغول و مانند اسکے ہمراہ سکنجبین کے دیوین — اگر بسبب گرمی صدر و ریہ وقلب کے ہو علامت ہوا سرد زیادہ تر پانے سی تسکین بخشتی بخلاف عطش معدہ کی جو پانی سے زیادہ تسکین ہو تی ہے علاج خمیرہ صندل بجاشندہ ہمراہ شیرہ تخم خرفہ سیاہ سکہ باشندہ عرق بادیان عرق کسو ہر یک شش تولہ شربت نیلوفر دو تولہ دین آخر خیار و کدو و نیلوفر تو تمبین حسنہ صندل گلاب مین سینہ و دل پر ضماد کرین — اگر بسبب غذا ری

قلیلا ولزج کے حادث ہو جیسے کہانے مچہلی سے تشنگی پیدا ہوتی ہے **علاج** مقطعات
وملطفات بلغم مانند سکنجبین کے پانی نیمگرم کے ساتھ پیوین - اگر بعد پینے شراب کے
تشنگی لاحق ہو **علاج** آب برف پیوین **آخر** شیرہ تخم خشک پنجماشہ پانی مین
نکالکر سکنجبین شربت انار ترش ہر یک یکنیم تولہ دین - اگر تشنگی بعد زیادتی سہل
کے حادث ہو **علاج** ستو جو ونان خشک آب انار یا آب غورہ مین تر کرکے
کہاوین **آخر** تدہین روغن سے کرین -

قی و تہوع و غثیان -

۱۳ **قی** یعنی واسطے اوچسنے کی جو جوف معدہ مین ہے ایک حرکت پیدا ہوتی ہے
۱۴ **تہوع** یعنی آبکای - یہہ ایک حرکت مثل قے کی ہے مگر کسی چیز کو دفع نہین
کرتے ۱۵ **غثیان** یعنی متلی یہہ تقاضای معدہ بلا حرکت ہی - اگر سبب انکا
بلغم یا سودا ہو **علامت** شوری یا ترشی ہر اء وقلت تشنگی **علاج** نمک وآب
نیمگرم و تخم ترب و عسل سے غذیہ سے مکرر قی کرین بعد ازان مصطکی پوست ترنج ہر یک
یکماشہ پیسکر گلقند ۲ تولہ مین دیوین **آخر** ضماد عود لگاوین **آخر** جوارش
کمونی و دوا المسک کہاوین - بحالت قبض شیاف سے طبیعت ملایم کرین -
اگر سبب صفرا کے ہو **علامت** تلخی دہن وتشنگی وخشکی زبان وقی صفراوی
علاج آب نیمگرم و سکنجبین سے مکرر قے کرین **آخر** سماق در شک ہر یک پنجماشہ پیسکر
سکنجبین شربت انار ہر یک یکتولہ مین دیوین **آخر** ضماد طباشیر و صندل بارد
کرین - قی اگر سبب گرنے مادہ کے جگر و طحال و مرارہ سے ہو **علامت** یہہ ہو کہ غثیان
ہمیشہ نہوون بلکہ بعد قی کے تا انصباب مادہ دیگر کے معدہ پر ساکن رہین **علاج** تنقیہ
وتقویت اوس عضو اور معدہ کی ہے - اگر سبب فساد غذا کے قی ہو **علاج** اسکا
ورد معدہ مین تحریر ہوا ضماد عود مصطکی سنبل الطیب عود پوست ترنج

ہر ایک ۳ ماشہ سرکہ و گلاب میں معدہ پر لیپ کریں ضماد و طلا باشیر واسطے تسکین صفراوی اور صبر ایلوا کہ نافع صفحہ سماق صندل سفید زرد و رد طباشیر ہر ایک ۳ ماشہ سرکہ و گلاب میں معدہ پر ضماد کریں۔

۱۷ قی الدم یعنی قی میں خون آوی علاج مثل نفث الدم کے ہی۔

فی الدم

۱۸ خون منعقد ہو گر پسی معدہ میں گر کے بسبب سردی معدہ کے منجمد ہو علامت غشی مع عرق سرد و لرزہ علاج پودینہ تخم شبت ہر ایک تولہ پانی ایک سیر میں پکا کر چھانکر سکنجبین سہ تولہ ملا کر پلاویں اور بکر رقے کریں پھر ہر روز خسیرہ چھوا انصر میں شیر یا مرغ گوشت کہلا ویں۔ اسیطرح ہے علاج شیر دودہ کا جو معدہ میں جم جاوے

خون منعقد ہو گر پسی معدہ میں یا دودہ منجمد ہو

۱۹ فواق یعنے ہچکی۔ اگر بسبب امتلا کے بسبب قی کے ہو علاج قی کا کریں اگر بسبب سوء مزاج بارد معدہ کی یا ریاح معدہ کی ہو علاج جوارش کمونی اگر گرم ہو تو قرص عطش یا ٹھنڈا سرکہ پیویں آخر غصہ کریں آخر بہوکا ور پیاس پر صبر کریں آخر جھینک لاوین وغیرہ شناوین۔ اگر بسبب کہانے اشیای تیز و حریف کے ہو علاج اشیای بارد کہاویں۔ اگر بسبب استفراغات کثیرہ یا بعد حمیات حادہ کے ہو۔ یہ بہت بری نشانی ہے ہو وقوعہ معدہ روغن بادام کہلاویں اگر بسبب ورم جگر کے ہو علاج ورم کا کریں۔

فواق

۲۰ نقصان شہوۃ یعنی کمی اشتہا۔ اگر بسبب جمع ہونے بلغم یا صفرا کے ہو معدہ میں علاج انکا مانند علاج قی کے ہی۔ اگر بسبب سوء مزاج حار بلا مادہ کے ہو علامت جشای دخانی تشنگی غرہ رہنا غذیہ حادہ سی۔ اگر بسبب سوء مزاج بارد بلا مادہ کے ہو علامت ضعف ہضم و جشای ترش و تلیین طبیعت علاج انکا سوای تنقیہ کے مثل علاج شہوت بلغمی و صفراوی کے ہے آخر جوارش مصطکی و جوارش عود و جوارش آملہ کہلا دین آخر ۔۔۔ دوای تنہا سے

نقصان شہوۃ

اسہال کریں ۔ ادویہ مقوی معدہ سونف ہونی چاہیئے ۔ اگر سبب کثرت سوداء کے
تخمہ معدہ پر ہو علامت بھوک نہ ہو مگر جسوقت کھانا کھاویں ہضم ہو جاوی اور ترشی آ جاوے
ترشی قابض ہے بھوک ہو اسمیں طحال بزرگ ہوتی ہے علاج تنقیہ سالک طحال
کے لیے سکنجبین بزوری دیں جسکے بعد تھوڑا انجیر دیکر کھلاویں جو کہ منقی ہے
سے قی کریں جسکے باقی علاج اسکا مانند سدہ طحال کے ہے ۔ اگر سبب امتلائی بدن کے
بخارات سے ہو علاج تقلیل غذا اور کثرت حرکت وریاضت کے کریں ۔ اگر سبب ضعف
اور سدہ جگر کے ہو علاج استسقا کا کریں ۔ **جوارش آملہ** مقوی معدہ و دل و
مشتہی و مسکن حرارت جگر و دافع اسہال صفراوی و مصلح معدہ **صفتہ** شیر آملہ
منقی بچیس تولہ طباشیر سفید ساق منقی گل سرخ زرشک منقی بادرنجبویہ پوست ترنج
بستہ ہر یک سات ماشہ کشنیز خشک مقشر تخم خرفہ مقشر ہر یک نہ ماشہ مروارید
ناسفتہ تین ماشہ عنبر اشہب ورق طلا ورق نقرہ ہر یک ڈیڑھ ماشہ نبات سفید آب بہ
شیرین ہر یک بقدر معجون ۔ **دوای سفرجلی** مقوی معدہ **صفتہ** تر بہی پر آرد
جو کا ضماد کر کے کپڑا اوس پر لپیٹ کر تنور گرم میں رکھیں جب آرد سرخ ہو جاوے
تو بریان سمجھیں تیار ہے ۔ **دوای تفاحی** بمنافع اینضا **صفتہ** ترکیب اسکی
مثل دوای سفرجلی کے ہے ۔ تفاح سیب کو کہتے ہیں ۔

سفوف تخم ترب ۔ تخم حب جید تخم ترب تخم شبت نمک ہر یک یک تولہ پیسیں اسکو
چہار تولہ سکنجبین عسلی چار تولہ ملا کر دیویں ۔

ضعف ہضم یعنی غذا معدہ میں دیر سے ہضم ہو **علامت** تمدد و ثقل اور زیادتی
دیر تک بوی طعام ڈکار میں آوے ۔ **سوء ہضم** یعنی بخوبی ہضم نہ ہو بلکہ بعضی
بکیفیات ردیہ ہو جاوے **علامت** بدبوی آروغ و براز و غثیان و سوزش معدہ

۲۳ **تخمہ** یعنی معدہ غذا مین اصلا تصرف نکرے اور ہضم نہو **علاج** ہرسہ کا مثل علاج - نقصان شہوت سوء مزاج بلوی وغیرہ وادی کے ہی - اگر سبب امراض کا [illegible] فساد غذا ہو **علاج** تنقیہ کرین - اگر سبب ضعف جرم معدہ کی ہو علامت بعد قی کشیر کے سلوث ہو **علاج** اطریفل صغیر و جوارش جالینوس و دوای تر نفل و دوای سیب اور مانند اسکے تقویت معدہ کے لیے دیوین -

۲۴ **انقلاب معدہ** - یعنی طعام بعد ہضم معدی کے قی ہو **فرق** اسمین اور ایلاؤس مین یہہ ہے کہ ایلاؤس مین جو قی ہوکر نکلتا ہے مانند براز کے متعفن ہوتا ہے **علاج** سفوف طین مختوم سات ماشہ روغن گاو مین چرب کرکے ہمراہ لعاب بہیدانہ سہ ماشہ لعاب اسپغول چہار ماشہ عرق گاوزبان عرق عنب الثعلب ہریک شش تولہ شربت [illegible] دو تولہ بارتنگ مقشر ہفت ماشہ دیوین باقی علاج اسکا مثل علاج سحج کے ہے جو آگے تحریر ہوگا -

سفوف طین واسطے اسہال صفراوی مزمن و معوی کے نافع **صفت** گلنار تخم حماض بریان صمغ عربی گل ارمنی طباشیر ہریک یکتولہ کہربا [illegible] مسلم تخم ریحان مسلم تخم مرو مسلم ہر ایک یکتولہ ملا کر سفوف بناوین [illegible] روغن گل سے چرب کرین خوراک ساڑہے وس ماشہ -

۲۵ **کرب قلق معدہ** - علامت غمگینی و بیقراری و غثیان - اگر سبب مادہ حار کے ہو **علاج** آب نیمگرم یک آثار بجہت سکنجبین دو چار تولہ کے مکرر قے کرائین [illegible] قرص طباشیر پنجماشہ ہمراہ شیر خشک پنجماشہ پانی مین بناکر شربت انار [illegible] ہر یک یکتولہ ملاکر دیوین یا **خشخاش** مع پوست کدو اور بعد نضج کے مسہل [illegible] کرین - اگر سبب مادہ بارد کے ہو **علاج** آب نیمگرم و نمک سے مکرر قے کرائین بعد مسہل حار کے جوارشہای گرم ہمراہ سکنجبین عسلی کے دین روغن مصطگی

معدہ پر طلی کریں قرص طباشیر واسطے ذیابیطس کے مفید صفت تخم خرفہ گل سرخ
گل ارمنی گلنار طباشیر سب مساوی باہیں قرص بناویں بعضی تخم کاہو اسمیں اضافہ کرتے
ہیں ضماد پوست کدو۔ گل سرخ صندل پوست کدو ہر یک سہ ماشہ کافور ایک
ماشہ گلاب میں فم معدہ پر لیپ کریں۔ روغن مصطکی مقوی معدہ صفت۔
مصطکی چار تولہ روغن کنجد بارہ تولہ پانی چوبیس تولہ ملا کر جوش دیویں۔ جو پانی جلکر روغن
باقی رہے۔ بہتر یہ ہے کہ مصطکی کو باریک کر کے روغن میں ملا کر جوش دیں تا کہ
مصطکی گداختہ ہو جائے۔

۲۶ اختلاج معدہ۔ یعنی پھرکنا معدہ کا۔ علامت بحالت لاحق ہونے
اختلاج کے فم معدہ یا تمام اجزای معدہ کی خفقان و غشی ہو۔ اگر بسبب جمع ہونی ریاح
بارد و حار کے معدہ میں یا دوسرے عضو سے گری یا بسبب خلط لذاع کی ہو علاج
اسکا مثل کرب معدہ کی ہے۔ اگر بسبب کرم کے ہو علاج حقنہ کریں اور بعد قتل
کے خارج کریں۔ اختلاج معدہ

۲۷ حرقت معدہ۔ یعنی سوزش معدہ۔ اگر بسبب تناول غذای غلیظ خام کے ہو حرقت معدہ
علامت۔ بعد کھانا طعام غلیظ بہنگام ہضم غذا کے حادث ہو اور [illegible] معدہ میں
تسکین ہو علاج تخم ترب نمک ہر یک یکتولہ عسل چار تولہ پانی ایکسیر ملا کر
قی کریں غذا سبک کھاویں بعد ازاں مسہل حار و مقویات معدہ استعمال کریں
اگر بسبب گرنے سودا کے طحال سے فم معدہ پر ہو علامت نہار حادث ہو اور بعد
کھانی طعام کے ساکن ہو علاج فصد سلیم دست چپ سے کریں آخر اطریفل
مربی آملہ مربے دیوین آخر ضماد مقوی معدہ استعمال کریں۔

۲۸ التہاب مفرط معدہ ۲۹ تشنگی ۳۰ قی صفراوی ۳۱ اسہال

التہاب مفرط معدہ و تشنگی قی صفراوی اسہال صفراوی

صفراوی – علاج – خمیر آرد جو اوس مدت تک بھگوئین جو ترش ہو جاوی بعد ازان
دوغ مین حل کرکے بعد ایک رات کے دو تولہ ساڑھی سات ماشہ آب لیمو سے سینک کر کہلاوین

وجع فواد

۳۲ وجع فواد – یعنی درد فم معدہ – جس وقت حادث ہو شدت درد و غشی و سردی
ہاتھ پاؤن کے ہوتی ہے – اگر بسبب گرمی کے ہو علامت – تشنگی و خشکی دہن
و ڈکار دخانی – علاج – شیرہ زرشک پنجماشہ گلاب و عرق گاؤزبان ہریک پنجتولہ
سکنجبین شربت لیمو ہریک یکتولہ دیوین آخر دوغ برف مین سرد کرکے پلاوین
اگر بسبب گرنے صفرا کے ہو جیسے وقت گرسنگی اور درد شدید کے اتفاق ہوتا ہے
علامت زردی زبان و تلخی دہان مع علامات مذکورہ علاج فصد باسلیق و تبرید
مذکورہ عمل مین لاوین آخر تمر ہندی و انار دانہ وغیرہ کہاوین آخر ضماد سماق
لگاوین روغن گل ملین – اگر مرگ مہلت دیوی ساتھ سکنجبین و آب گرم مسہل
ادویہ کے تنقیہ کرین – اگر درد بارد و ریحی ہو علاج جوارشات گرم و مسہل دیوین
آخر معدہ کا بے مالش کرین آخر ادرک و شکر کا سفوف کرکے ہمراہ شیر
ہر صبح و شام کہاوین آخر تمر انقل آورد سیب و درد دا تر نقل دیوین ضماد
سماق – صندل سفید سماق گلسرخ طباشیر جملہ برابر گلاب در لعاب اسبغول
فم معدہ پر لیپ کرین –

ضماد سماق برائے فم معدہ

علاج مسافرانہ امراض معدہ –

۱ حب تنگار – واسطے درد شکم و معدہ و گرانی و گرسنگی کے مفید صنعت
سہاگہ دو تولہ اجواین ڈہائی تولہ فلفل سیاہ بارہ تولہ صبر سقوطری سوا تولہ
کو نمک شیرہ درخت گہیکوار مین بقدر نخود گولیان بناوین تحلیل باد و مواد کی لیئے
دو تین حب در رفع قبض کے لئے زیادہ دیوین – مداومت اسکے باد معلق اور
گرانی شکم دور کرتی ہے ۲ سفوف نانخواہ واسطے باد و درد معدہ

سفوف نانخواہ

وسپیرز و تقویت ہضم و رفع زحیر و بخارات کے سفید صفت۔ نانخواہ تخم کرفس بابونہ جملہ
ہر ایک برابر شکر سفید بحصہ اودیہ۔ خوراک سہ ماشہ کے ضماد۔ دافع درد معدہ صفت
زنجبیل خاکستر بیخ دارچینی عسل معدہ پر لگاویں کے عرق دافع درد معدہ و [illegible] صفت
[illegible] تولہ [illegible] چار [illegible] نعل چار تولہ عرق عنب الثعلب آب و گلاب
چار آثار عرق تیار کریں۔ خوراک دو یا تین تولہ کے [illegible] دافع درد معدہ صفت
[illegible] پانی [illegible] کریں کے دوا۔ دافع فواق ہر قسم صفت۔ کلونجی
سہ ماشہ باریک کرکے ایکتولہ مکھن میں ملا کر کھلاویں اور کچھ عرصہ توقف کرکے کھانا کھلاویں
اخر [illegible] پست [illegible] ایکتولہ کاسنی ایکتولہ پانی میں [illegible] حب
نبات سفید ایکتولہ مکھن ۲ تولہ ملا کر کھلاویں اخر [illegible] سیاہ [illegible] آب
میں [illegible] اخر [illegible] شیر دختر میں ملا کر ناک میں دو تین قطرہ ڈالیں
اخر [illegible] گندم [illegible] اخر فلفل گرد تنہا یا مع [illegible]
کے جلا کر دھواں اسکا کھلاویں اخر خاکستر [illegible] ماشہ [illegible] پانی میں
ملا کر پیویں اخر [illegible] زنجبیل سوختہ پانی میں ملا کر [illegible] صبر کرکے تھوڑا سا پانی
اور تھوڑی بھنگ ملا کر چھانکر پلاویں اخر اگر بعد تناول طعام [illegible] فواق [illegible]
ہو قے کریں کے سفوف دافع قے صفراوی صفت۔ انار ترش زرشک [illegible]
سماق [illegible] پوست بیرون پستہ ہر یک [illegible] تولہ طباشیر سفید گل سرخ [illegible] خشک
ہر یک یکتولہ کوٹ کر چھانکر سات ماشہ [illegible] آب [illegible]
انار [illegible] شربت [illegible] کے سفوف دافع قے بلغمی و سوداوی صفت۔ گل سرخ [illegible]
تولہ زرشک [illegible] ایکتولہ [illegible] ماشہ [illegible] پوست بیرون پستہ [illegible] عود [illegible]
الطیب [illegible] زنجبیل [illegible] ہر یک [illegible] ماشہ کوٹ کر چھانکر [illegible]

تولاشہ ہمراہ سکنجبین سفرجلی کے دیوین ۔ دوا۔ واقع قی بلغمی صفقتہ۔ بابرنگ
فلفلین زنجبیل نمک سیاہ جملہ برابر میںگیر شہد مین ملاکر کہلاوین خنتسر عود ہندے
تاکیسروار جینی طالیسفر الایچی پوست ہلیلہ زنجبیل جملہ برابر کوٹ کر چہانکر شہد مین
ملاکر کہلاوین خنتسر مصطگے کندر ہریک پنجماشہ عود خام سات ماشہ انار دانہ سوا
تولہ قرنفل جوزبوا البسا قاقلہ سعد کوفی پودینہ ہریک چارماشہ پوست ترنج فرنجمشک
ہریک دو ماشہ گلسرخ چہہ ماشہ سنبل آملہ ہریک پنجماشہ۔ خوراک سائرہ من ماشہ

فصل دوازدہم مین معالجہ امراض جگر کا مندرج ہے

۱۔ ضعف جگر۔ علامت۔ قلت اشتہا و فساد رنگ و اسہال شبیہ بغسالہ گوشت و درد ضلع آخرین از جانب ایمن۔ اکثر یہ بسبب برودت و رطوبت کے ہوتے ہی علاج مثل استسقا۔

۲۔ سدہ جگر۔ اگر بسبب اخلاط غلیظ لزجہ کے ہو علامت ثقل جگر بدون درد اور تپ کے اگر جانب مقعر کے ہو براز رطب ہو علاج مسہل جاراور حقنہ حار عمل مین لاوین۔ اگر حرارت و تشنگی ہو آب کاسنی سبز مروق تخم بولہ شربت بنار سکنجبین ہریک یکتولہ دین خنتسر ملطفات کا مثل افسنتین و ریوند کے اسپغول کاسنی سبز مین ضماد کرین اگر سدہ مع اسہال ہو استعمال قوالضبات کرین آب کاسنی ہمراہ شیرہ مغز تخم کدو ورب بہی یا شربت بہی کی دیوین علاج سدہ ماساریقا کا بہی اسیطرح ہے۔ اگر جانب محدب جگر کے ہو بول اندک اور رقیق ہووی علاج مدرات مانند تخم کرفس و انیسون و بادیان و بیخکاسنی ہمراہ سکنجبین بزوری و شربت دینار کے خنتسر شراب جلوسی مجتنب ہین اگر گرمی بہی ہو شیرہ تخم

خیارین و تخم کاسنی و تخم خربوزہ و تخم کشوث ادرشل ... کی ہمراہ سکنجبین کے پلاوین
آخر قرص زرشک یا قرص ورد پنجماشہ ہمراہ آب کاسنی سبز مروق ... سکنجبین بزوری
دو تولہ پلاوین قرص زرشک — واسطے ورم معدہ و جگر و تپ ہای بلغمی و استسقا کی مفید
صفت زرشک منقی شش ماشہ تخم کاسنی تخم خرفہ تخم خیارین ہر یک تین ماشہ
گل سرخ پنجماشہ ریوند چینی سنبل الطیب ہر یک یکماشہ کوٹ کر چھانکر لعاب اسبغول
مین اقراص تیار کرین قرص ورد واسطے جگر و حمیات صفراوی و بلغمی کے لئے نافع
صفت گل سرخ سات ماشہ عصارہ غافث طباشیر رب السوس ہر یک [illegible]
کوٹ کر چھانکر پانی مین اقراص بناوین ۔

ع نفخہ جگر ۔ علاج مثل نفخ معدہ آخر [illegible] بہ [illegible] استعمال کرین
آخر شراب صرف بگرم پلاوین ۔

ع ورم جگر اگر حار ہو علامت تپ تشنگی و سوزش و درد جگر و ثقل علاج اول
فصد باسلیق یا ہفت اندام [illegible] کرین بعد ازان اگر ورم مقعر جگر ہو تو
قراقر و قی و قبض طبیعت مع علامات مذکورہ کی علاج مثل علاج ورم معدہ ۔ اگر ورم محدب
جگر ہو علامت سعال و ضیق النفس و احتباس بول اور جانب راست زیر ضلع آخر کے
[illegible] ورم محسوس ہو علاج ادویہ مدرہ استعمال کرین آخر مثل علاج
[illegible] جلد کی حل مین [illegible] آخر آب اتارین ہمراہ سکنجبین کے پلاوین اگر ورم
جمع ہو جاوی علاج ورم معدہ مین تحریر ہوا ۔ [illegible] تخم کاسنی صندل سفید
و آب عنب الثعلب ہر یک [illegible] ماشہ آب عنب الثعلب سبز و روغن گل و [illegible]
سرکہ مین ضماد کرین اور بوقت تزاید اکلیل الملک و افسنتین و زعفران ہر یک چھ ماشہ
زیادہ کرین اور بوقت انتہا صندل موقوف کرین اور بوقت انحطاط افسنتین و زعفران

نفخہ جگر

ورم جگر

وزعفران وعود اور مانند اسکے پر اکتفا کرین فائدے ۱ اس مرض مین قبض طبیعت نکرین ۲ کثرت اسہال بھی مہلک ہے ۳ ادویہ رادعہ کے ساتھہ ادویہ ملطفہ و مفتحہ ملاوین تاکہ مادہ متحجر نہو جائے ۴ ادویہ محللہ کے ساتھہ ادویہ قابضہ عطریہ کا استعمال کرین تاکہ قوت عضو تحلیل نہو ۵ کثرت تبرید نکرین استسقا ہوجاتا ہے ۶ کثرت تسخین جائز نہین ذبول ہوتا ہے ۷ جملہ قواعد شربہ واضمدہ مین ملحوظ رکھنی چاہیے ۸ ہلیلجات وسقمونیا استعمال مین نلاوین ۹ قواعد مذکورہ پر اگر طبیب نظر نرکھیگا مریض ہلاک ہوجائیگا۔

۵ **حصات جگر** یعنی سنگ جگر مین پیدا ہو **علامت** ہمیشہ ثقل گری اور درد وچبھن بغیر ورم کی اور صلابت جگر مین معلوم ہو اور فصد کرین تو خون مین ریگ آوی **علاج** مثل حصات گردہ ومثانہ کی کرین۔

۶ **سوء القنیہ** مقدمہ استسقا کا ہے **علاج** اسکا علاج استسقائی خفیف عمل مین لاوین

۷ **استسقا** لحمی۔ زقی۔ طبلی ہوتا ہی **علامت لحمی** کی پھولنا جمیع اعضا کا **علامت زقی**۔ ثقل وبزرگی شکم اور درخشیدگی پوست شکم اور مانند مشک پر آب کے شکم معلوم ہو جب ہاتھہ شکم پر مارین یا ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر ہون آواز پانی کی آوے **علامت طبلی** بزرگی شکم بلا ثقل [illegible] آ [illegible] گی ناف ہاتھہ شکم پر مارنے سے آواز طبل کی آوی **علاج** غذا کم کھاوین اور آب یخنی پر اکتفا کرین بضرورت قوی کھچڑی مونگ قدر قلیل دین پیاس مین پانی عرق عنب الثعلب یا پانی لوہی کا بجھا ہوا تھوڑا تھوڑا پیوین ورم تلوں سات ماشہ ہمراہ شیرہ عنب الثعلب سات ماشہ شیرہ تخم کشوث تین ماشہ عرق مکو مین تیار کرکے شربت دینار دو تولہ یا گلقند شربت بزوری ہر ایک ایک تولہ ملا کر دیوین **حب** شیرہ شتر ہمراہ مصری باشد

یا شربت دینار کے پلاوین آخر وبعد الورد ہمراہ شیر شتر کے کہلاوین آخر بطریق
نوبل استعمال شیر شتر کا کراوین آخر سفوف غافث بعد ہضم طعام ہمراہ شیر
شتر کی دیوین آخر تریاق فاروق بقدر نخود کے کہلاوین آخر گوشت موش
صحرای خشک پیکر سات ماشہ دیوین نافع استسقا ئی لحمی ہے آخر ضماد سنبل الطیب
لگاوین - اگر استسقا مع حرارت ہو علاج قرص زرشک و کلکلانج بارد ہمراہ آب کاسنی
سبز مروق و آب عنب الثعلب سبز مروق شربت بزوری یا سکنجبین بزوری دیوین
گر عنب الثعلب سیاہ نہو - اگر استسقا مع اسہال ہو علاج آب بارتنگ سبز مروق
ورب بہہ شیرین و بارتنگ دیوین اگر امراض مذکورہ مین حاجت تنقیہ کی ہو مسہل
گرم بعد ازان تدبیر مذکورہ عمل مین لاوین - اگر استسقا طبلی حار ہو یا زقی مادہ حار
تنقیہ ادویہ قلیل الحرارت سے کرین بعد ازان کلکلانج وقرص زرشک ہمراہ آب کاسنی
سبز مروق کے دین - طبلی مین تبرید جگر نافع ہے - زقی مین شکم زیر ناف سے
پاک کرکے رطوبت نکالتی ہین مگر یہہ عمل خطرناک ہے - جدوار نفش آب عنب الثعلب
مین پیسکر طلا کرین واسطے تہیج و استسقا کے مفید ہے - ریاضت معتدلہ اور سواری
کشتی اور بیٹہنا دہوپ مین اور لیٹنا اور دفن ہونا ریت مین اور سفر کوہستان مفید
ہی - پشت بآفتاب بیٹہنا اور پانی چشمہ گرم اور آب دریای شور سے غسل کرنا مثل
دفن ریت کے فایدہ بخش ہے اگر نمک چند روز پانے مین رکہین بجای آب دریای شور
کے ہوتا ہے - پشک بز و سرگین گاو و بورق و سرکہ ضماد کرین واسطے ہر قسم
استسقا کی مفید - ضماد مرہم اکبر نافع ہے - استسقا مین پانی چاہیے کہ چند غذا کے
تناول کرین - غذا ششم حصہ حال صحت سے دین - نان واسطے مستسقے کی ادویہ
و بادیان ڈالکر تیار کرین اور ہمراہ شوربای گوشت کی دیوین مربان خشک مفید ہے

مفید ہے۔ اگر شیر شتر بجای آب و غذا کی وین نافع ہے۔ پودینہ و سکنجبین مانع تجبن شیر کا معدہ مین ہے گاہ گاہ ہمراہ شیر و پیتی رہین۔ جملہ اقسام استسقا مین بعد تنقیہ کے قرص زرشک اور مانند اسکے واسطہ تقویت کی اور قرص مازریون مدبر اور مثل اسکے واسطے ادرار کے استعمال کرین۔ اور طبلی مین بعد تنقیہ کے تحلیل ریاح مین کوشش کرین بادیان و سداب و مثل اسکے سے اشیا کا حمول کرین۔ جو دوا اسمین استعمال کیجاوے نہایت باریک ہو۔ اگر تعریق کی حاجت ہو بورہ ارمنی و روغن بابونہ کی مالش کرین۔ بیٹھنا حمام یا ریگ و تنور فاتر مین بخوبی عرق لاتا ہے۔ اگر سرکہ ایک حصہ اور پانی سو حصہ ملاکر جوش دین جب تیسرا حصہ باقی ہے بجای آب مریض کو پلاوین مفید ہے

معجون دبید الورد۔ دافع صداع بارد و دوی طنین و ضعف معدہ و جگر و انواع استسقا و نافع الجزہ و مفتح سدہ جگر و محلل سایر اورام و دبیلات و صلابات۔ حار درجہ اولی مین صفتہ سنبل الطیب مصطکی زعفران طباشیر دارچینی اذخر اسارون قسط شیرین غافث تخم کشوث فوہ لک مغسول منقی تخم کاسنی تخم کرفس تخم بادیان طویل حب بلسان عود غرقی قرنفل دانہ ہیل از ہر یک ساڑھے تین ماشہ ورق گل سرخ برابر سب کوٹ کرچھانکر شہد سفید سہ چند اوویہ مین قوام بناوین شربت دینار طبیعت کو نرم کرے حمیات عفونت دور کرے سدہ کھولی سوء القنیہ استسقا و ذات الجنب و درد شکم و جگر و رحم و مثانہ کو مفید اور ادرار بول کری صفتہ تخم کاسنی غنچہ گل سرخ ہر یک ۲ تولہ پوست بیخ کاسنی ۹ تولہ گل نیلوفر گاوزبان ہر یک پینتیس ۳۵ ماشہ تخم کشوث دریلیبتہ سوا آٹھہ تولہ سبکو پانی مین جوش دین جو گلجاوے صاف کرکے قند سفید یک آثار مین قوام کرین اور آگ سے اوتار کر ریوند چینی سودہ تین تولہ چار ماشہ ملاکر ہلاوین جو خوب مخلوط ہوجاوے

طریق استعمال شیر شتر چار تولہ شیر شتر پینا شروع کرکے تین روز تک
اسی قدر وزن پر اکتفا کریں بعد ازان ہر روز ایک تولہ بڑھا کر آدھ سیر بغایت ایک
سیر تک پہونچاویں۔ دینا چالیس روز تک کم و زیادہ بتجربہ اطبا ہے جس وقت
دودھ دوہا جاوے فوراً اوسی وقت پلاویں۔ ایام استعمال شیر شتر میں غذا اگر ترک کرین
بلکہ ایک وقت غذا ایک وقت شیر شتر دیویں۔ اور جب تک مرض مستحکم ہو استعمال
شیر شتر جاری رکھیں۔ بول شتر بھی اسی طرح پلایا جاتا ہے **سفوف غافث** گل سرخ
تخم کاسنی سفید بیخ کرفس تخم شبت خشک غاریقون نرم سفید عصارہ غافث ہر ایک یکماشہ ریوند
چینی سنا مکی ہلیلہ کابلی ہر ایک دو ماشہ کوٹ کر چھانکر سفوف بناویں۔ جملہ ایک خوراک ہے
ضماد سنبل الطیب عنب الثعلب ایکتولہ مغز فلوس نو ماشہ سنبل الطیب جوش دیکر
آب عنب الثعلب میں پیسکر ضماد کریں **کلکلانج بارد** واسطہ استسقای حار کے
سفید صفقہ مازریون جو سات روز سرکہ میں تر کرکے خشک کیا ہو غاریقون
پوست ہلیلہ زرد ہر ایک پنجماشہ عصارہ افسنتین تین ماشہ تخم سوسن گل سرخ تخم
کاسنی مغز تخم خربزہ رب السوس یکماشہ ترنجبین فلوس خیارشنبر فانیذ ہر ایک
پندرہ ماشہ۔ سب اجزای آخر کو آب نیمگرم میں حل کرکے صاف کرکے قوام بنا کر ادویہ باقی
دیگر باریک کرکے اوسمین ملاویں **خوراک** سات ماشہ سے چودہ ماشہ تک۔
کلکلانج حار واسطہ استسقای بارد کی نافع **صفقہ**۔ مازریون مدبر غاریقون
پوست ہلیلہ زرد سکبینج ہر ایک پنجماشہ ایرسا تین ماشہ ریوند چینی عصارہ غافث سنبل الطیب
انیسون ہر ایک دو ماشہ کوٹ کر چھانکر شہد میں ملا کر معجون بناویں **خوراک**
ساڑھے دس ماشہ سے چودہ ماشہ تک **شربت بزوری** واسطہ حمیات اور جگر
اور معدہ اور طحال و دیگر امراض کے مفید **صفقہ** تخم کاسنی بیخ کاسنی تخم خیارین

تخم خربوزہ خارخسک ہریک دو تولہ نیمکوفتہ رات کو پانی مین تر کرکے صبح ابالکر چہانکر شکر
سفید ایک سیر مین قوام کرین سکنجبین بزوری واسطے سدہ جگر و سپرز و پتہ ہای
مرکبہ کے مفید اور بول روان کرے صفت تخم کاسنی بادیان تخم کرفس ہر یکدو تولہ
سنبل الطیب پنجتولہ دس ماشہ نیمکوفتہ کرکے پانی ڈیڑہ سیر اور سرکہ پنجتولہ دس ماشہ
مین ایکشبانہ روز تر کرکے ابالکر ملکر چہانکر شکر سفید مین قوام بناوین طریق استعمال
و ترکیب و قدر شربت آب بارتنگ سبز مروق کا مثل عنب الثعلب سبز کی ہے
طریق اندفان مریض دراز لیٹی اور ریگ گرم سے اوسکو ڈہکین جب ریگ
سرد ہو تبدیل کرین یعنی سرد دور کرکے ریگ گرم ڈالین مرہم اکبر واسطے استسقاء
طبلی اور تلیین و تحلیل اورام صلبہ جگر و خصیہ وغیرہ کے مفید ہے حلبہ تخم کتان آرد جو
گل خطمی ہریک ساڑہی دس ماشہ کوٹ کر چہانکر آب شلغم یا آب کلم مین جوش دین
جب قریب پکنی کے ہو خیارشنبر ساڑہی سترہ ماشہ آب گرم مین حل کرکے اضافہ
کرکے پکاوین جو غلیظ ہو پس از آن روغن گل یا روغن کنجد یا روغن زیت یا روغن
بیدانجیر ملاوین —

علاج مسافرانہ امراض جگر —

۱ حب واقع ضعف جگر ہے آملہ مقشر فلفل دراز پوست بلیلہ پوست ہلیلہ
زرد فلفل سیاہ زنجبیل ہریک یکتولہ برادہ آہن دو تولہ جغرات گاو یک و نیم آثار
سب دوائیون کو کوٹ کر چہانکر جغرات مین ملاکر کڑاہے آہنی مین جوش دین اور دستہ
آہنی سے حرکت دین جب غلیظ ہو چالیس گولیان بناکر ایک گولی ہر روز صبح کو
ہمراہ پانی یا سکنگاو کے کہلاوین متواتر چالیس روز تک غذا نان گندم بی نمک
با روغن بسیار آخر سفوف برادہ آہن چار تولہ فلفل سیاہ دانہ الایچی کلان
بقیمت یک فلوس اور نوہ چون کو مٹی کے کورہ ظرف مین آگ پر رکہین

جب زنگ ... جیر سوہ ... ادویہ کوٹ کر چھانکر ملادین اور آگ پر سی اوتار کر پیسکر چودہ
پوریتی بناکر ایک ہمراہ آب ملا ورزک کے دیوین ۔ دوا دافع استسقاء منڈوہ
... جوتا ہے پیسکر آب برگ کچنال مین ملاکر نان بی نمک پکاوین اور
... کہلاوین ... پانی کے طبیخ کچنال یا عرق کچنال پلاوین اور غذا
... پانیمین ڈالکر کہلاوین اور غسل اور وضو اور آبدست اوسی پانی سے کرین
... استعمال دو ہفتہ مین صحت ہوگی اخر کچلہ فلفل سیاہ کالی زیری
کوٹ کر چہانکر آب رخت کسوندی تازہ مین خوب کہرل کرکے بقدر مرچ سیاہ گولیان
بناکر ایک گولی ہر روز کہلاوین بادی اور ترشی سی پرہیز کرین ۔

فصل سیزدہم مین علاج امراض مرارہ وطحال مرقوم ہے ۔

۱ یرقان اصفر یعنی آنکہہ اور تمام بدن زرد ہوجائے علاج قرص زرشک ہمراہ
... عرق ... آب عنب الثعلب مروق ہر یک پنجتولہ شربت بزوری
... دیوین اخر تنقیہ صفرا کرین اخر گوشت موش صحرائی کو
خشک کرکے اور پیسکر کہلاوین اخر خراطین خشک پیسکر دیوین اخر
کہانا اور دیکہنا جوہے کا مفید ہے اخر برگ حنا نیمکوفتہ یکتولہ رات کو پانیمین تر کرکے
صبح ... صاف اوسکا لیکر پلاوین ایکہفتہ استعمال کرین اخر تسعیط عصارہ چقندر
دافع زردی چشم ہے اخر سپوس نخود چار تولہ رات کو پانیمین تر کرکے صبح آب زلال
اوسکا لیکر نبات سفید دو تولہ ملاکر دیوین ۔

۲ ورم طحال یعنی تلی ۔ اگر ورم حار ہو اندک مدت مین صلب ہوجاتی ہے
علاج فصد باسلیق یا اسیلم دست چپ سی اور تنقیہ سودا کرین بعد ازان

فصل ۱۳ علاج امراض مرارہ وطحال
یرقان اصفر
ورم طحال

آب کاسنی سبز مروق و آب عنب الثعلب سبز مروق ہمراہ سکنجبین شربت بزوری
دیوین آخر ماء الجبن پلاوین آخر قرص کبیر یا تریاق کبیر ہمراہ شیر شتر کی دیوین
آخر بست عدد انجیر کا سرکہ مین اچار بنا کر ایک انجیر ہر روز بوقت صبح کی کھاوین
آخر پیاز ہمراہ سرکہ کے دیوین آخر لگانا پیاز عنصل کا اکتالیس روز بقول بعضے
دافع ورم طحال ہے — اگر ورم کے ساتھ حرارت ہو شیرہ تخم خرفہ تین ماشہ شیرہ
پوست کدو سات ماشہ سکنجبین دو تولہ دیوین آخر عرق گندک یک سرخ سے تا
چار سرخ پانی مین پلاوین تحلیل صلابت طحال و زیادتی اشتہا کے لیے مفید ہے آخر
دوای سنگار استعمال کرین آخر نوشادر بریانی دو ماشہ ہمراہ آب ترب کے پلاوین آخر
کندہ و ترب مساوی کوٹ کر گرم کر کے طحال پر ضماد کرین آخر پانی پینا اور طعام
کھانا ظرف چوب گز مین نافع آخر روناس ہمراہ سکنجبین کے کھاوین آخر تعریق حمام
مین مفید ہے آخر عصا چوب انگور لگاوین — اگر ورم طحال جمع ہو کر متقیح ہو علامت
درد شدید نخس طحال اور درد بدن مین آوے اور کبھی اسہال و قی مین بھی درد ہوتا ہے
علاج تخم کشوث و بادیان و تخم کاسنی و تخم خیارین اور مانند اسکے دیگر
ہمراہ شیر شتر و شیر خر کے دیوین یا ماء العسل پیوین — اشق او سعوس ... پانی
جو شکر کی ضماد کرین آخر حب دافع صلابت طحال ہے ص جو کہار و بسباسہ
و چیتہ و زرد چوب و فلفل و زنجبیل جملہ برابر کوٹ کر شیرہ کہیکوار مین بقدر کنار
جنگلی کے گولیان بنا کر ایک گولی ہر روز کہلاوین قرص کبیر واسطے اوجاع و ورم
و تفتیح سدہ طحال کے مفید ص پوست بیخ کبر اشق ہر یک چار ماشہ زراوند طویل
دو ماشہ فنجنگشت فلفل ہر ایک شش ماشہ اشق کو سرکہ مین حل کر کے باقی ادویہ
کوٹ کر چہانکر اوس مین ملا کر اقراص بناوین و دوا سنگار [illegible]

بریان کیتو اکوٹ کر چہانا بقدر ایک شیشہ کے ہر روز کہلاوین ضماد چوب انگور عنب الثعلب آردجو مقل چوب انگور خشک وخنہ بابونہ اکلیل الملک اشق چوب چبا دو ہر ایک شش ماشہ آب برگ جہاؤ و آب عنب الثعلب بقدر حاجت سرکہ شش ماشہ مین پیسکر نیم گرم ضماد کرین۔

۳ سدہ طحال اگر سدہ اوس مجرا مین ہے کہ اوسمین سے مرہ سودا جگر سے سپرز مین جاتا ہے تو یرقان سیاہ و دیگر امراض سوداوی پیدا ہونگی اگر اوس مجرا مین ہے جواوسمین کو سودا سپرز سے معدہ پر گرتا ہے تو موجب بطلان شہوت واضعاف ورم ہوگا علامت عام پایا جانا اونی کا طحال مین بلا آثار ورم نفخہ طحال علامت نرمی ورم اور تمدد زیر پہلو چپ اور روبانی سے گرہا اور قراقر زیر پہلو چپ اور آثار روح کا علاج مثل علاج نفخہ و سدہ جگر کے کرین مگر فرق علاج جگر و طحال مین باعتبار قوت وضعف کے ہی کس واسطے کہ حتی المقدور جگر مین استعمال سرکہ تند و دیگر ادویہ حادہ کا نہین کرتے۔

۴ سنگ طحال۔ علامت۔ درد نخس طحال مین پیدا ہو اور ریگ فصد و بول وخون بواسیر مین خارج ہو اور جگر و گردہ و مثانہ مین خلل ہو علاج مثل علاج سنگ گردہ و مثانہ کی ہے اختر انجیر ہمراہ سرکہ کی کہلاوین۔

۵ یرقان اسود۔ یعنی رنگ بدن کا سیاہ ہو جائے علاج فصد اسلیم دست چپ سے کرین اختر آب کاسنی سبز مروق ہمراہ سکنجبین بزوری و شربت دینار کی دین اختر تنقیہ سودا اور ماء الجبن استعمال کرین اختر دیگر تدابیر سدہ جگر عمل مین لاوین۔ اگر بسبب ضعف طحال کے ہو۔ علامت۔ قی و اسہال سودا و سقوط اشتہا و کدورت چشم۔ اگر ضعف بسبب رطوبت و برودت کے ہو علاج

سدہ و نفخۂ طحال

ف سنگ طحال

ف یرقان اسود

علاج شیرہ تخم کشوث شیرہ انیسون ہر یک ۔ ماشہ شربت بزوری و گلقند ہر یک
دو تولہ دیوین آخر قرص گل و قرص کہربا اور مثل اسکے مقویات اطفال ہمراہ شیرہ
مذکورہ کی دیوین آخر ضماد افسنتین لگاوین ضماد افسنتین ورق گل سرخ
فوفل افسنتین مصطگی ہر یک پنجماشہ باریک کر کے آب عنب الثعلب سبز ملا کے
پنجماشہ اضافہ کر کے ضماد کرین ۔

فصل چہاردہم مین علاج امراض امعا تحریر ہے

۱ اسہال یا تناولات سے ہوتے ہین یا اعضا سے ۔ اگر تناولات سے ہون
وہ یا بسبب غذا کی ہین جو تغیر اشتہا یا زیادہ اشتہا سی کہائی جاوی یا بسبب غذای
سریع الاستحالہ کی ہو جو جلد فاسد ہو جاوی یا بسبب غذای کریہ الطعم یا بسبب
غذای نفاخ کی ہو علاج تدابیر تخمہ ۔ اگر زیادتی اسہال سے اسعاف شدید
ہون علاج سحج کا کرین ۔ اگر اعضا سی ہو یا عضو واحد سی یا جمیع اعضا سے
اسہال عضو یا چند عضو سی ہون جیسے نزلات دماغ سی معدہ اور امعا مین گرے
علامت بعد خواب طویل کبھی حادث ہون اور علامات نزلہ و فساد مزاج دماغ ظاہر
ہون علاج بحسب غلبہ خلط تنقیہ دماغ کرین اور تدابیر نزلہ عمل مین لاوین اور
خواب بہ پشت کرین ۔ اگر معدہ سی ہون اونکو ذرب و خلفہ کہتی ہین علامت
کبھی اسہال زیادہ اور کبھی کم ہون اور کبھی ہضم ہو کبھی فاسد علاج جوارش مصطگی
و جوارش عود اور مثل اسکی ہمراہ شیرہ بادیان ہفت ماشہ شیرہ زیرہ سیاہ و شیرہ
دانہ ہیل ہر یک ۔ ماشہ عرق گاؤزبان عرق عنب الثعلب ہر یک شش تولہ رب
بہ شیرین یک تولہ یا سنگ پنجماشہ ملا دین آخر ضمادات جو دفع قی کی لیے مفید ہین

اسہال

نکالیں پھر روغن مصطگی معدہ پر ملیں - اگر تدابیر مذکورہ سے ازالہ مرض نہ ہو اور
غثیان وکثرت لعاب بھی لاحق ہو علاج قے کریں اور مسہل حار بعد نضج عمل
میں لاویں - اگر سبب گرنے صفرا کے معدہ پر ہو علامت بعد حمیات صفراوی
اور تناول اشیای حارہ کی ہو اور اسہال صفراوی بعد التہاب و تشنگی و زردی
[illegible] مفید علاج اولا تنقیہ صفرا کا ساتھ مسہل بارد بالمبلہات و شربت [illegible]
کریں بعد ازان قرص طباشیر قابض کھلاویں بعد ضماد صندل زرعود ہر یک
شش ماشہ گلاب میں پیسکر جگر و معدہ پر ضماد کریں - اگر سبب گرنے سودا کے
معدہ پر ہو علامت گرسنگی و حرقت فم معدہ و ترشی ہیں اور کھانے طعام
یا روغن پینے سے ساکن ہو علاج فصد باسلیق کریں بعد مسہل سودا دیویں اگر
اور چیز حارہ قابضہ سے طحال پر ٹکور کریں بعد کپڑہ گرم کر کے اور دلک
کریں بعد مسہل انصباب سودا کے حریرہ شکر و بادام و روغن زرد کھلاویں
اگر سبب قرحہ و بثرہ معدی کے ہو علامت منہ میں بثرات پیدا ہوں بعد
کھانے کے درد معدہ و قے و براز صدیدی علاج قے [illegible] طباشیر قابض کھلاویں
بعد تخم بریان روغن بادام سے چرب کر کے دیویں - اگر سبب ضعف و
جگر کے ہو علاج اسکا تحریر ہوا قرص طباشیر قابض باسطہ خلفہ و صدیدی
و حبس اسہال کے مفید صمغ ورق گل سرخ پنجماشہ تخم حماض بریان چہار ماشہ
طباشیر چہار ماشہ نشاستہ صمغ عربی ہر یک سہ ماشہ گلاب میں قرص بناویں
خوراک سہ ماشہ تا شش ماشہ -

اسہال دوری - یہ ایک قسم خلفہ کا ہے یعنی فضول ایک
عضو میں جمع ہو کر دور معین دفع ہو - اگر ایک دو روز درمیان وقفہ کر دفع ہو

اسہال دوری

ہو سبب اسکا صفرا ہے — اگر ہر روز دفع ہو سبب اسکا بلغم ہے — اگر ہر روز چہارم دفع
ہو سبب اسکا سودا ہے — اگر دورہ معین نہو اور درد ہمیشہ رہے اور وقت احتباس
مین زیادہ ہو سبب اسکا خون ہے — اور رنگ براز کا بھی دلالت اوپر غلبہ خلط کے
کرتا ہے **علاج** بحسب غلبہ خلط تنقیہ کرین اور جس عضو مین مادہ جمع ہوتا
ہو تقویت اس عضو کی کرین **اکثر** دوای ہندی پلاوین اگر نقل بوت(?)
سنگدان مرغ ہر یک یکتولہ کوٹ کر چہانکر کہلاوین اسیطرح اگر تین روز متواتر کہلا
جاوی واسطہ دفع ضرب کے مفید ہے — اگر مریض متحمل نہو خوراک یکروزہ تین روز
مین دیوین اور یہی نو روز تک کرین — اگر اسہال جگری ہون **علامت**
بخلاف معدی کی کیلوس بخوبی ہضم اور نقصان فعل معدہ مین نہو — اگر اسہال
معدی نہین اور جگری رات مین آتی ہین — اگر اسہال سودی ہون اسکو
دوسنطاریای کبدی کہتی ہین **علامت** تقدم ہزال اور احتباس اوس
خون کا جو سیلان اوسکا استادہ ہوا و خون ملا ہوا نجاست مین نہو یعنی مثل
سحج کے نہو **علاج** چند روز غذا نکہاوین اور تاوقتیکہ مریض ضعیف نہو بند نکرین
اور فصد باسلیق باریک کہولین اور خون اندک اندک لیوین اور ہاتہہ و پانوو
پستان و خصیتین کو باندہین بعد ازان علاج نفث الدم کا کرین اور ضماد جو آگے(?)
اسہال صفراوی کے لکہا گیا جگر پر رکہین — اگر اسہال صفراوی اور سدیدی
ہون **علامت** اسہال متواتر نہون اور صفرا نجاست مین نہو اور پیچ و درد
نہو جب معدہ خالی ہو اسہال زیادہ ہون **علاج** بند نکرین اور تسکین جگر اور دوات
سی جو بہت قابض نہون مثل شیرہ صندل و شیرہ عناب و شیرہ خشخاش
ہمراہ سکنجبین و شربت انار کے کرین — اسہال غسالی یعنی مانند دہوون گوشت کے

سبب ضعف جگر کے ہوتی ہے اور کبھی سبب سدہ جگر کے ہوتی ہے اور کبھی
بسبب انفجار ورم جگر کے ہوتی ہے علاج اسکا لکھا گیا ۔ اگر امعا میں ہو تو علامت
غلظت ثقل اور آنا آنتوں سے آب ہے اور تشنگی ہو علامت تشنگی اور پیچش کے
ورد امعا سحج کی ہوتی ہے علاج اسکا رقیق معاجین کرکے ۔ شدید کبھی خلط
خراشندہ یا صفرا ہوتا ہے جو امعا کے نیچے اور بعض اوقات دو روز میں توجہ پیدا کرتا ہے
علامت صفرا خلط باریک زرد ہو اور خارج ہوا ورد شدت ہوتا ہو
اسکی تدبیر وہ ہے جو اسہال میں واقع ہو اور نیز اسکا ضراط ہو نیز اخراج
ہو گرم مزاج ہو اگر زیادہ ہو علامت ورد شدید حوالی ناف
میں اور ضراط ہو تو علاج اگر زیادہ ہو غلاظت میں ہو تنقیہ صفرا حقنہ
بادسی کریں اگر امعا میں قاطعیت ہو بل بعد میں اگر قوت قوی ہو فصد باسلیق
کریں اور بحالت گرسنہ ماء شدید کے استعمال غذا مفید ہے اور بعد
تنقیہ تقویت امعا قرص طباشیر یا شربت انار کریں انار و سیب کھاویں
اور پیٹ مقو معدہ و امعا ہے اور مقوی معاجین بحسب حاجت عمل میں لاویں
اور غذا ماء الحم دیں پس جس وقت مادہ کرنے
سے باز رہے علاج سحج کا تمہاری لعاب بہی ہمراہ شربت بنفشہ اور دودھ
کے ہمراہ سحج کریں ۔ اگر گرسنہ بلغم سے ہو تو ایک مہینے میں قرحہ
پیدا کرتا ہے علامت کثرت ریاح اور درد ملایم اور ساتھ ضراط امعا کے بلغم
خارج ہو علاج استفراغ بلغم و منع انصباب
کریں علاج سحج جوارشہا مقلیا اسکے کریں ۔ اگر کرنے
سے ۔ اور ساتھ ضراط امعا کے خارج ہوں یہ مہلک ہے

علاج استفراغ سودا اور منع انصباب اور تقویت طحال کرین بعدازان سفوف طین
ہمراہ ادویہ لعابیہ مثل لعاب بہیدانہ و لعاب ریشہ خطمی و شربت بنفشہ و چار تخم کے کہلاوین
اور ترشی سے پرہیز کرین - اگر ثفل خشک ہو علامت قبض طبیعت و براز خشک علاج
مثل قولنج سدی - اگر بسبب سحج کی نہو اوسکو زلق الامعا کہتے ہین اگر سبب اسکا
رطوبت مزلقہ ہو جو بسبب اوسکے ثفل امعا مین قرار نکرے علامت خروج رطوبت
یا ثفل قلیل الہضم و معدہ آفت سے خالی ہو علاج مسہل حار و حب ایارج
بعدازان سفوف و اقراص قابضہ سفوف مقلیا نا دیوین - زلق الامعا اگر بسبب
قرحہ و بثرہ کی ہو جو امعا مین حادث ہو جب غذا وہان تک پہونچے جلد مندفع
ہو علامت ساتھہ ثفل غیر منہضم کے صدید رقیق ہو اور جسوقت طعام
معدہ سے امعا مین جاوے درد محسوس ہو علاج فصد کرین چار تخم روغن
بادام سے چرب کرین اور دیوین یا خشخاش ... نشاستہ کتیرا بریان اور
اسکے ہمراہ لعاب بہیدانہ یا لعاب ریشہ خطمی یا شربت گلاب و دیگر عرقیات دین
چار تخم مسلم روغن بادام سے چرب کرکے کہلاوین غذا سویق جو اور چاول اور
اور روغن بادام کرین - اگر بسبب کثرت صفرا کے ہو جو لذع اوسکا جو کچہ امعا مین
ہو دفع کرے علاج قی کرین اور ہلیلہ زرد و شربت ورد مکرر سے تنقیہ صفرا
کرین اور پہر سے آب سرد تناول کرین جو معین اسہال ہے بعدازان قرص طباشیر
قابض و مثل اسکی دیوین - خون بسبب انفتاح عروق مسارقا کے ہو علامت
کوئی علامت اسہال کبدی و بواسیر او سحج کی نہو علاج فصد باسلیق
قابضات ہمراہ ادویہ مغریہ کے استعمال کرین ... جو امعا مین بعد انفجار دم
یا آلتصیل ... غذا ایسے دیوین اگر گرمی ہو آش جو مناسب ہے بعدازان ادویہ ...

انفع ثابت لوہ کہلاویں یا شیر آہن تاب دیویں - اسہال اگر تمام بدن سے
ہوں یا زہر ہائے قتالہ سے علامت التہاب تپ دق و بدبوئی براز و خلاف الوان
وسودیت براز و معدہ و جگر و احشا مین کچھہ آفت ہو - یہہ قسم تپ دق کیطرح لاعلاج
ہی - اگر بسبب اجتماع اخلاط فاسدہ کے عروق و اعضا مین ہو علامت اختلاف الوان
براز لیکن مریض کو بعد اسہال کے تسکین کے و راحت معلوم ہو علاج اسہال کو بند نکرین
اسیطرح اسہال بحرانی کو یعنی جو بروز بحران حادث ہو بند نکرین - فایدہ کہانا
پانی اور آب گوشت کا صاحبان اسہال کو مضر ہے مگر ہربار لاچاری تہوڑا تہوڑا آب
آہن تاب یا عرق بادیان یا عرق عنب الثعلب دیوین - شوربا کبوتر یا دراج ہمراہ چاول
قابض کے کہلاوین - پنیر کہنہ پانی سے دہو کر خشک کرکے بریان کرکے ماڑہی چار ماشہ
شربت انار کے ساتھہ دیوین - سونا صاحب اسہال کے لئی مفید ہی - حمام بلکہ
ہوتی ہوا اور اسی سی اسہال بند ہوتی ہین - شاخون کا لگانا قریب چار ساعت کے
شکم مریض پر مفید ہے - شیرہ تخم خرفہ سیاہ سات ماشہ عرق کیوڑہ و گلاب و عرق گاؤزبان
ہریک چار تولہ شربت سیب ترش شربت صندل یا شربت انار ترش ہریک دو تولہ
بارتنگ پنج ماشہ دیوین - اگر خوف مغص ہو اسپغول سات ماشہ روغن بادام سے
چرب کرکے اضافہ کرین - ضماد زردہ لگاوین - غذا اشیہ گرم جو بریان سے تیار کرین
اور جسوقت حرارت کم ہو تو بعض قسم کی استعمال کرین - اگر مادہ بارد ہو قرص ... دوا
مشاق حل ہوناوین - خرما بریان خصوص ہمراہ افیون کے کہلانا صاحب اسہال کے
دوامی ہندی جسکو دہنیا یا چکسا بہی کہتی ہین - نزدیک اور اسہال الاخیش
کے لئی مفید صفت سفوف گجراتی سوپہ ہندی پپلگری کشنیز خشک زنجبیل مصطگی
صندل سفید کشول ہریک ماشہ پانی آدہ سیر پختہ مین رات کو تر کرکے صبح کو جوش

جوش کریں جب چار تولہ باقی رہے ملکر چہانکر پلا دین اور نقل اسکا پانی پاؤ سیر تخم ہ
مین بالکر چہانکر بوقت شام پلا دین ۔ مزاج گرم مین موتہہ زنجبیل نہ ڈالین ۔
ضماد اقاقیا واسطے حبس اسہال صفراوی مقوی اور تقویت معدہ و ہضم
کے سفید **صفت** گل ارمنی صندل سفید زرور و اقاقیا ہر یک چہار ماشہ کوٹ کر
چہانکر آب سرد مین ضماد کرین **سفوف مقلیاثا** بو اسیرو اسہال کہنہ و
ترحرو ضعف معدہ کی لیئی مفید **صفت** زیرہ کرمانی مدبر ساڑہی بائیس ماشہ
بزر کتان تخم گندنا ہلیلہ سیاہ بروغن بیت بریان کردہ ہر یک نہ ماشہ مصطگی ساڑہی
چار ماشہ سبکو کوٹ کر چہانکر تخم ترہ تیزک ساڑہی سات تولہ مسلم اوسمین ملا دین
خوراک سات ماشہ ہمراہ آب سرد **ضماد زرورد** ۔ حابس اسہال **صفت**
زرورد صندل سفید ہر یک شش ماشہ سنبل الطیب زعفران ہر یک یکماشہ گلاب
مین پیسکر کپڑا اوسمین ترکر کے جگر و امعا و معدہ پر رکہین **قرص عود** دافع
دہیضہ **صفت** عود خام چودہ ماشہ مصطگی کباب قرنفل سنبل الطیب ہر یک
ساڑہے تین تولہ کوٹ کر چہانکر پانی مین قرص بنا دین **خوراک** سات ماشہ
دوای سماق حابس اسہال **صفت** سماق گزمازج زیرہ انیسون بریان اقاقیا
سنبل الطیب زرورد حب الآس کندر بریان مساوی الوزن کوٹ کر تیار کرین
خوراک ساڑہے دس ماشہ ہمراہ شربت سیب ۔
۳ زحیر یعنی پیچش ۔ یہ حرکت امعای مستقیم کی دفع فضلہ کے لیئی ہوتی
ہی مگر دفع نہین ہوتا اور تہوڑے تہوڑے رطوبت شبیہ آب بینی کے خارج
ہوتی ہے اور کبہی ساتہہ اوسکے بسبب تر وسکے خون مختلط ہوتا ہے ۔ سبب اسکا
صفرا یا بلغم یا لحم ہے جو امعا مین گرے **علامت** ہر واحد کے خروج ہر ودہ

سوزش مقعد کے ساتھہ علاج لعاب بہیدانہ تین ماشہ لعاب ریشہ خطمی چار ماشہ عرقیات
مین نکالکر شربت بنفشہ دو تولہ چار تخم سات ماشہ ملاکر دیوین آخر سفوف طین
تین ماشہ روغن گل دو ماشہ روغن بادام سے چرب کرکے ہمراہ تربوزہ کے دیوین آخر تخم
ریحان ریشہ خطمی تخم شبت چہار ماشہ تک ہمراہ آب سرد صبح و شام دیوین آخر
[illegible] روغن گل یا روغن بادام میں ملاکر زیرناف طلا کرین - اگر تدابیر
مذکورہ سے ازالہ مرض نہو علاج سے تنقیہ صفراوی و بلغمی کا کرین آخر تین دانہ
تخم قلونجی [illegible] تخم خارج [illegible]
لعاب ریشہ خطمی [illegible] تولہ اوسمین ملاکر چہانکر روغن
بادام دو ماشہ [illegible] اس مین اکثر مرض ہوتا ہے حقنہ کرنا بہی
اس مرض مین نافع ہی آخر [illegible] تخم [illegible] ماشہ گلاب عرق عنب الثعلب ہر یک
شش تولہ مین ابالکر شربت بنفشہ دو تولہ ملاکر پلاوین واسطے تفتیح سدہ کے
[illegible] آخر [illegible] - اگر سبب [illegible] عارضی [illegible]
کی ہو علاج قولنج [illegible] روز غذا نہ کہاوین - اگر سبب سردی کے
کی ہو جو مقعد کو پہونچی ہو علاج روغن گل زردی تخم مرغ و روغن بابونہ
نیمگرم سے مالش کرین اور خشت گرم پر بٹہاوین -

مغص یعنی مروڑہ - یہہ درد ہوتا ہے - اگر سبب ریح غلیظ کی ہو
علامت قراقر و نفخ و تمدد شکم بہی ثقل اور اخراج ریاح سے نفع پانا علاج
شیرہ بادیان ہفت ماشہ شیرہ زیرہ سیاہ شیرہ تخم کشوث ہر یک [illegible] ماشہ
عرقیات مین نکالکر گلقند دو تولہ اوسمین ملاکر چہانکر دیوین اور روغن بابونہ شکم پر
ملین اگر حاجت تنقیہ کی ہو بعد نضج مسہل حار سے کرین - اگر سبب مادہ صفراوی

صفراوی یا بلغم خام کے ہو **علامت صفرا** - درد با سوزش و تشنگی و زردی براز
و سوزش مقعد و قلت گرانی رودہ **علامت بلغم** نکلنا بلغم کا براز مین اور
کاٹنا مقعد کا ہنگام خروج اور تشنگی بہ نسبت صفرا کے کم اور گرانی زیادہ
علاج زحیر صفراوی و بلغمی کا کرین - اگر بسبب بلغم خام غلیظ کے ہو **علامت**
کثرت ثقل لزوم درد یکجا اور یکایک خارج ہونا بلغم لزج کا براز مین اور سرد ہونا
موضع درد کا **علاج** بعد مسہل جاہیے جوارشہای گرم کہلاوین - اگر بسبب ریاح
کی ہو **علاج** قولنج ریحی کا کرین - اگر بسبب کرم امعا کے ہو **علامت** احساس
حرکت کرم بحالت گرسنگی اور سیلان لعاب دہن اور پیسنا دانتون کا خواب
مین اور کبھی خارج ہونا کرم کا براز مین **علاج** چند روز شیر و نبات پلاوین
بعد ازان دوای برنگ کہلاوین جو کرم مردہ ہوکر خارج ہون - علاج و علامات
دیگر اقسام اس مرض کے مطولات مین ملاحظہ فرماوین **دوای برنگ** برنگ
کابلی سرخس و درمنہ ترکی کمیلہ ترمس حب النیل قسط تلخ ترید سفید نمک ہندی
جملہ برابر کوٹ کر چہاپین -

قولنج - یہہ مرض امعا کی ہے جو درد عظیم اور مانع خروج براز ہو - فرق
اسمین اور درد گردہ مین یہہ ہے کہ درد گردہ جایگاہ گردہ پر مائل بطرف قطن ہوتا ہے
اور قولنج بہت سخت اور مائل طرف ناف کے اور پیش شکم اور غیرہ تر ہوتا ہے
اور اپنی جگہ سے تجاوز کرتا ہے - اگر بسبب بلغم غلیظ کی ہو **علاج** روغن بیدانجیر
یکتولہ گلاب چہار تولہ مین ملا کر پلاوین **حقنہ** سنا کی نیماشہ ترید سفید مجوف
خراشیدہ سہ ماشہ پیسکر گلقند دو تولہ مین ملا کر ہمراہ گلاب و عرق مکو ہر یک چہار تولہ
کے دیوین **حقنہ** سفر جلے مسہل اور مانند اسکے کہلاوین خصوص حب مقل قولنج

کے ساتھہ غثیان ہو **نسخہ** مصطگے رومی ہمراہ آب گرم کے دیوین **نسخہ**
تریاق اربعہ اور تریاق کبیر کہلادین اگر قولنج قوی ہو تو لاحقنہ پہر مسہل گرم عمل مین
لاوین اسی طرح ہی علاج قولنج ریحی کا مگر جو اسمین ادویات ویحا دین کاسر ریاح
ہون **نسخہ** بر شعثا واسطہ تسکین درد شدید کے مفید ہے - تکمید و آبزن نقصان
کرتا ہے کیونکہ ضعیف ہو - بعد ازالہ مرض کے دو روز غذا مین فقط یخنی پر اکتفا
کرین - پانی سرد نہ پیوین - اسی طرح ہی علاج قولنج کا جو بسبب احتباس ثفل یا بلغم
کے ہو **نسخہ** قرص سیاہ رنگ پیر کو دو ثلثین جو در ماندہ ہو پہر زیچ کر کے
پکا کر مصالح ڈالکر کہلاوین **نسخہ** شوربای ہدہد اور گوشت و سکا اور خراطین
خشک اور ہر ایک مفید ہے ہمراہ آب عسل کے کہلاوین **نسخہ** استخوان جو براز
سگ مین سے ملتی ہے کہلاوین اور ران جانب درد پر لگاوین **نسخہ** جرم امعای
سگ کہلاوین - اگر بسبب تشنج یا لی امعا یعنی وجہ ہر یا بسبب زوال امعا کیس انثیین
مین ہو **علامت** بعد حرکت شدید کے حادث ہو **علاج** بپشت یا شکم سینا
تا گشتہ نکلکر چند قدم چلکر شکم کو اعلی سے بجانب اسفل ملین - اگر بسبب ورم کے ہو
علامت تپ و ضربان و ثقل ہو یہ قولنج باہستگی لاحق ہوتا ہی **علاج** فصد
کرین اور بعد نضج مسہل بارد دیوین اور حقنہ کرین اور روغن گل و سرکہ مین
پارچہ تر کر کے موضع ورم پر رکھین اور روغن بنفشہ و بابونہ نیمگرم ملین -
سفرجلی مسہل دافع قولنج و مقوی معدہ و مشتہی **صفت** بہ اصفہانی
پختہ تازہ از پوست و دانہ پاک شدہ نیم آثار خل خمر یک آثار مین جوش دین بعد ازان
کوٹ کر نچوڑین اور شہد یک آثار مین ملاکر قوام کرین اور زنجبیل و دار فلفل و دار چینی ہر
یک ہفت ماشہ الایچی خورد و کلان زعفران ہر یک دو و نیم ماشہ مصطگی ہفدہ و نیم ماشہ

ماشہ سقمونیا سسی پنجماشہ تربد پاؤکم نہ تولہ کوٹ کر چہانکر ملاوین خوراک بست و دو ماشہ

۶ ایلاوس یہہ ایک قسم قولنج کا ہمین ثفل منہہ سے خارج ہوتا ہی علاج مثل قولنج سدی کے کرین اخیر شراب صرف گرم کرکے تہوڑی تہوڑی تناول کرین ۷ حصر یعنی قبض شکم بی درد و یا باد رد علاج مثل قولنج آخر گل بنفشہ انجیر زرد مویز منقی اصل السوس ہر یک یکجز و پانی مین ابالکر ملکر چہانکر مغز فلوس و روغن بادام اضافہ کرکے دو ہفتہ تک پلاوین اگر کوئی مانع نہو تربد و بسفایج زیادہ کرین۔

علاج مسافرانہ امراض امعا۔ ۱ واضح رہی کہ عربستان مین مرض اسہال نہایت کثرت سسی ہوتا ہے اور پیچش و معض بہت ستاتا ہی ظاہر معلوم ہوتا ہے جو جہاز مین پانی کے قلت رہتی ہے اور تعفن ملتا ہے اور عربستان مین پانی نہایت سرد و لذیذ ملتا آتا ہے حجاج دل کہولکر پیتے ہین اور کثرت پانی سے بدہضمی ہوکر اسہال وغیرہ لاحق ہو جاتے ہین پس حجاج کو لازم ہے جو پانے ہو باحتیاط استعمال کرین۔

۲ حب اسہال خونی و بلغمی و پیچش کے لئی مفید صفت کہیل ہان و انبدرس ہر یک پنجماشہ باریک کرکے قند کہنہ پنجماشہ مین ملاکر بقدر کنار دشتی حبوب بناوین ایک حب صبح ایک دوپہر ایک شب ہمراہ آب خالص کے کہلاوین ۳ حب آفیخ صفت آندر جو شیرین گل وتاوہ تخ جلہ بجا بر قند کہنہ مین بقدر کنار دشتی حبوب بناوین ایک حب بوقت صبح دیوین ۴ حب واقع اسہال صفت افیون و چونہ پان ہر دو برابر پانے مین ملاکر بقدر مونگ گولیان بناوین ایک صبح ایک شام ہمراہ قدرے عدس کے کہلاوین ۵ حب واقع اسہال ہر قسم صفت کتہہ سفید دو ماشہ کافور قیصوری چار سرخ افیون مصری یکماشہ تخ کیلہ

خشخاش سہ و نیم ماشہ کوٹ کر چھانکر بقدر نخود گولیان بنادین ایک حب ہر روز ہمراہ آب برنج سا ٹہی کے جو چار گہڑی پانی مین تر کیا ہو دیوین غذا کہچڑی مونگ ہمراہ روغن گاؤ بسیار اور بصورت گرمی شیر و برنج کہلاوین ۲ سفوف دافع پیچش و اسہال صفتہ ہلیلہ زنگی کو کنار مساوی الوزن روغنگاؤ مین بریان کر کے نبات سفید برابر اونکی ملاکر چہہ ماشہ صبح چہہ ماشہ شام پانی کے ساتہہ کہلاوین ۳ دوا دافع اسہال صفتہ موچرس تخم خشخاش انب کہنہ ہر یک چار ماشہ افیون یکماشہ ... گوند ... ہر ایک چار ماشہ کوٹ کر چھانکر ایک ماشہ سی تین ماشہ تک ہمراہ ... جو برنج ساٹہی سیمین ترکئی ہون دیوین ۴ اخر دافع اسہال بالغ ... جو بھی ہون صفتہ گردسماق اجوائن سونٹہہ زیرہ سیاہ مہر ... ہر یک ... دانہ بریان حب الآس جملہ برابر کوٹ کر چھانکر نبات برابر ادویہ ملاکر ... ماشہ ہمراہ آب کی دیوین ۵ دوا قاتل کرم - صفتہ جس قدر منقی ... ہی تخم ... اوسی قدر ... دانہ برنگ کے ملفوف کر کے صبح نکلی ... شخص کلان کے ... منقی تک اجازت ہی چند روز متواتر ایسا کرین ۶ اخر ... قند سیاہ مین ملاکر کہلاوین -

فصل پانزدہم مین علاج امراض مقعد تحریر ہے

۱ بواسیر یعنی زیادتی افواہ عروق مقعد علامت مقعد مین درد و ثقل و ... ہو - اگر خونی ہے خون بواسیر بلا اختلاط قطرہ قطرہ پہلی یا پیچہے براز کے خارج ہو علاج تاوقتیکہ اندیشہ ضعف کثیر نہو خون بند کرنا چاہیے بعد ازان علاج نفث الدم کا کرین آخر ... گلی ... حکمہ مین ملفوف کر کے

فصل ۱۵ علاج امراض مقعد

تریسکے کہاوین واسطے اسہال خون بواسیر کے نافع ہے۔ آخر۔ واقع کرنا مفصل ترقوہ
کا واسطے سیلان بواسیر کی فایدہ بخش ہے آخر حب سندروس ہوین آخر انجبار دیوین
قابض خون ہی قابض طبیعت نہیں۔ اگر مسّے کی بواسیر اذیت دیوین فصد باسلیق
فصد صافن یا فصد مابض یا حجامت مابین ورکین کرین۔ اور دویہ مفتحہ مانند سرگین
کبوتر اور قنہ و مرارہ گاو آب پیاز مین مالش کرین۔ بہتر ہے کہ بعد فصد باسلیق کے
جونک لگائین آخر سعوط گلاب مین پیسکر ضماد کرین آخر بہنگ پانی
مین پیسکر باندہین آخر بہنگ دودہ مین بالکر بخار اوسکا لیوین آخر روغن
زرد ملنا مسہ بواسیر دور کرتا ہی آخر مرہم سفید آب کافوری لگائین۔ اگر
حاجت تنقیہ کی ہو تنقیہ سودا کا مسہل و آب الجبن سے کرین بعد ازان اطریفل
صغیر و حب مقل دین اور طبیعت کو ملایم رکہین اصلاح طحال و جگر کے کرین۔
اگر تدابیر مذکورہ مفید نہون قطع کرین اگر بوقت قطع کے نہو دوا تیز مثل دہنک
ویک لگائین بعد ازان مرہم گوشت آور استعمال کرین۔ یا برگ کرنب پانی مین
ابالکر موم و روغن زرد مین ملاکر لگائین۔ تمام مسے یکبارگی ساقط نکرین۔ اگر
بعد قطع یا بعد استعمال دوای تیز بواسیر متقرح ہوجائے مدملات لگائین۔
زرنیخ یا پوست انار و مقل کے مسقط واندہ ہی بڑا ہے ایسی ہے کچلا و تخم
بکاین۔ اگر مسے بواسیر کی اندرون مقعد ہون تحاجم سے باہر نکالین آخر
سعینج و نطرون مرارہ گاو مین ملاکر ضماد کرین جب مسے باہر آوین دوا کے
سم الفار لگاوین حب سندروس پوست بیضہ مرغ سوختہ سندروس
سطح ہیں ہر ایک پنجاشہ نوشادر پنج سیخ کوٹ کر چہانکر مانند فندق گولیان
بناکر پانچ چہ حب ہر روز کہلاوین مرہم سفید اب کافوری واسطے

تسکین درد بواسیر اور شقاق مقعد اور سوختگی آتش کے سفید صفت سوم سفید سازج چار ماشہ کو روغن گل ساڑھی بائیس ماشہ مین گلا کر سفیداب و مردار سنگ ہر یک ساڑھی چار ماشہ پیسکر اوسمین ملاکر مرہم تیار کرین اور اگر سسی اوتار کر سفیدہ تخم مرغ یکعدد کافور دو ماشہ اضافہ کرین **حب مقل** دافع بواسیر و ریح بواسیر **صفت** پوست ہلیلہ زرد پوست ہلیلہ کابلی ہلیلہ سیاہ مقل ارزق ہر یک پنج ماشہ تربد سفید و سشش ماشہ سکبینج پنجماشہ صندل دو ماشہ مقل و سکبینج آب گندنا مین جس قدر کہ دوسری دوائین کوٹ کر چھانکر اوسمین ملاکر حبوب بنا دین ۔ **دیگ** ویک **مسقط** دانہ ہاے بواسیر اور نیز گوشت زائدہ ہر قسم و دیگر تا **صفت** سیاب نوشادر سجی ہر یک آدہ سیر زنگار دو ایک آب نادیدہ ہر یک پاو گندہ زرنیخ زرد ہر یک تین پاو سب اجزا کو سرکہ مین پیسین تاکہ سیماب کشتہ ہو جائے پس خشک کر کے دوسرے اجزا آب دمین پیسکر دیگ مین مسعد کر کے کہین مرہم گوہان **اشتر** واسطہ اندمال قرحہ بواسیر کے جو بعد قطع کے لاحق ہوا اور واسطہ شقاق مقعد کے سفید **صفت** کوہان شتر مغز ساق گاو خطمی کتیرا چربی بط پیہ مرغ پیہ مرغابی زردہ بیضہ مرغ روغن بنفشہ مرہم بنا دین **دوا سم الفار** سم الفار کوٹ کر شیر خرمین جوش دیکر تین روز اوسی دودہ مین رکہین پہر نکالکر بعد نصف دانہ مسے بواسیر پر ایک مرتبہ شب کو لگا دین تین ہفتے ایک مہینہ مین چند دنمین خارج ہو باریک کرتی ہی مگر ایام استعمال دوا مین مزاج کرنے چاہیے ۔

۲ **ریح بواسیر** یعنی ریاح غلیظہ تہیگاہ و حوالی ناف و گردہ مین بہری **علاج** تنقیہ سودا بطریق مندرجہ مالیخولیا **اخر** جوارش کمونی اور مانند اسکے ہمراہ

ریح بواسیر

ہمراہ مدرات اور حب مقل اور اطریفل صغیر کہلاوین -

۳ **ناصور مقعد** - یعنی قرحہ خبیثہ طرف امعای مستقیم کی اور اوس سے صدید خارج ہو - اگر کمرا نہو دباوین تاکہ جو کچھ اوسمین ہے خارج ہوجاے **علاج** مثل ناصور چشم -

۴ **اورام مقعد** - اگر حار ہو **علاج** فصد باسلیق و فصد صافن و ماٰبض و حجامت قطن کرین اور مسہل یا حقنہ سے تنقیہ کرین مرہم سفیداب کے مالش کرین **آخر** سفیدی تخم مرغ و روغن گل ظرف از زیر یا سیر مین خوب پھینٹکر پر ضماد کرین - اگر دیرینہ ہو مرہم دخلیون لگاوین - اگر علامات سے دریافت ہو کہ مادہ جمع ہوتا ہی پہلے نضج سے چاک کرین تاکہ ناصور نہوجاے مرہم سفیداب کافوری اور مرہم کو ہان شتر بھی مفید ہے - طبیع کو نرم رکھین - آب سرد و حموضات اور اشیای قابضہ سے پرہیز کرین **مرہم دخلیون** واسطے نضج ورم و تسکین درد ہاے گرم و اورام حارہ و تحلیل خنازیر و صلابات و سلعہ و تعقد عصب ریاح و تحجر کے مفید **صفت** روغن زیت کہنہ تیس یا چالیس ماشہ مرداسنگ بیس ماشہ تخم خطمی اسپغول مسلم تخم مرو حلبہ تخم کتان ہر یک پنج یا شش ماشہ ہمہ تخمہارا ت کو تر کرکے صبح لعاب غلیظ اونکا نکالکر مرداسنگ باریک کرکے روغن زیت مین ملاکر آتش نرم پر رکھین اور ہلاوین جب مرداسنگ بستہ نہو دے پھر جب روغن سیاہ ہوجاے آگ سے اوتار کر لعاب مذکور اوسمین ڈالکر جوش دیکر گاڑہا کرکے اوتار کر خوب ہلا کر مرہم بناوین -

۵ **استرخای مقعد** - علامت خروج براز و ریاح بلا ارادہ **علاج** مسہل حارہ و معاجین حارہ دیوین **آخر** روغن بابونہ و نرگس ملین [illegible]

سنبل الطیب قسط دیہ و جوز السرو و ثمرہ الطرفا اسکا جوشاندہ تیار کر کے پانی مین ابال کر مریض کو اوسمین بٹھاویں ۔

ے خارش مقعد ۔ اگر بسبب ... کے یا بسبب ... کے ہو علاج اسکا تحریر ہوا اگر بسبب اخلاط مراری یا بورقی کے ہو علاج تنقیہ کرین اور پھندیں ورکین لگاوین آخر سرکہ روغن گل ملا کر مقعد پر ملین ۔

ے شقاق مقعد یعنی خشکی سر مقعد مین حادث ہو مانند شقاق دست و پا اگر بسبب حرارت مقعد کے ہو علامت غلبہ حرارت و یبوست ہی علاج مرہم ابیض طلا کرین آخر روغن گل سفیدہ و مرداسنگ و اقلیمیای نقرہ و نشاستہ و غبار الرحی و کتیرا و لعاب اسبغول و خطمی و بہیدانہ و پیہ بط و موم سفید بطریق مرہم بنا کر بطور فرزجہ استعمال کرین آخر شوربای چرب کہلاوین ۔ اگر بہ حرارت بسبب صفرا یا خون سوختہ کی ہو علامت سوزش و گرمی مقعد علاج مطبوخ ہلیلہ و مطبوخ خیار شنبر سے تنقیہ کرین آخر شربت بنفشہ و نیلوفر و گلاب پلاوین آخر شیرہ تخم خرفہ و قند و اسبغول دیوین آخر مرہم و قیروطی مذکورہ لگاوین ۔ اگر بسبب ورم گرم مقعد کی ہو علامت وجع و ورم علاج ورم مقعد کا کرین ۔ اگر بوقت خارج ہونی ثفل خشک غلیظ کی لاحق ہو علامت ظاہر ہے علاج بعد قطع سبب کے واسطہ ازالہ شقاق کے استعمال مراہم مناسب ہے ۔ اگر بسبب بواسیر ہو علاج بواسیر کا کرین اگر بسبب ... ہونی رکھا ہی مقعد کی خون سی ہو علامت سیلان خون شقاق سے علاج فصد کرین اقراص قابضہ کہلاوین آخر عفص آس و گلنار و پوست انار و مازو و سیخ و جوز السرو و ثمرہ الطرفا پانی مین ابال کر جوشاندہ کر کے مریض کو اوسمین بٹھاوین ۔

اخضر صدف سوختہ و قشار کندر و غبار آسیا و سرمہ باریک کرکے شقاق پر ڈالیں۔ آب نہایت سرد و اشیا نہایت ترش اور قابض سے پرہیز رکھیں۔ ہر صبح شربت بنفشہ لعاب بہیدانہ پیویں اور غذا ملین کہائیں **مرہم ابیض** سفیدہ رصاص ایکتولہ موم ایک تولہ روغن گل یا روغن کنجد دو تولہ موم کو روغن مین گلا دین اور سفیدہ کو اوس مین پیسکر تہوڑا تہوڑا موم و روغن گداختہ ملاکر کوٹین جو سرد ہو پہر ایسا ہی کرین جو سب باہم مخلوط ہو جائے۔

خروج مقعد اگر بسبب ورم کے ہو **علامت اور علاج** ورم کا تحریر ہو لیا۔ طریق داخل کرنے مقعد کا یہ ہے گل بنفشہ و خطمی و بابونہ و برگ کرنب و شلغم و تخم کتان پانی مین ابالکر مریض کو اوسمین بٹہاوین اور روغن شبت و بابونہ و موم سے قیروطی بناکر مقعد پر ملین جو نرم ہو کر اندر ہو جائے بعد ازان شاہ بلوط برگ مورد مازو گلنار تخم گل سرخ سی استنجا کرکے ثفل اسکا کوٹ کر مقعد پر باندہین اگر مزاج سرد ہو دارچینی شاہ بلوط مرزنجوش مازو سنبل و آہن رات کو شراب کہنہ مین ترکرین اور صبح کو بہا کر مریض کو اوسمین بٹہاوین اور روغن خستہ زردالو و شفتالو ملین۔ اگر بسبب غلبہ رطوبت کے عضلہ ممسک مقعد کا استرخا ہو کر مقعد کو سنبہال نسکے **علامت** بخلاف ورم کے مقعد بآسانی خارج ہو اور بآسانی داخل **علاج** زرگلنار تمام مقعد پر پہٹکری سفیدہ ارزیز گلنار مازو کوہی سرمہ پوست انار صدف سوختہ اقاقیا لحیۃ التیس مانند غبار کے پیسکر چہڑک کر پٹی سے محکم باندہین بطبیخ جو ورم مین تحریر ہوا اوسمین بٹہائین اور روغن قسط و بابونہ مین فرفیون و جند بیدستر حل کرکے مقعد پر ملین اور نیز اسی سے حقنہ کرین۔ اگر مقعد خارج شدہ پر زخم پیدا ہو تخم گل سرخ مرداسنگ و سماق و مر باریک کرکے مقعد پر چہڑک کر اندر کرین اور روغن شفتالو ہمیشہ ملتی رہین

۹ قروح مقعد - علاج ادویہ قوی التجفیف استعمال کرین یعنی سرب
سوختہ شستہ و مرداسنگ ، جست سماق و اطراف اسپن باریک کرکے جراحت
پر ڈالین اگر درد شدید ہو تخدیر کے لیے افیون کے مالش کرین نسخہ مرہم اسود مفید ہے

قروح مقعد

علاج مسافرانہ امراض مقعد

علاج مسافرانہ امراض مقعد

۱ حب دافع بواسیر بادی و
خونی صفحہ آندر جو شیرین دو تولہ کوٹ کر چھانکر پانی مین ملاکر برابر کنار
دشتی کے گولیان بنادین - دو حب ہمراہ آب سرد بوقت خواب کہلادین نسخہ
پوست ریٹھہ ریسوت مساوی کوٹ کر پانی مین بقدر کنار دشتی حبوب بناکر ایک
حب نہار ہمراہ آب سرد نگلجاوین اور مٹا کہچری مونگ ہمراہ روغن بسیار کہاوین
نسخہ کہلیہ جلاکر دہونی لیوین درد بواسیر دور ہوتا ہی اور خون بند کرتا ہے
نسخہ ساگ یا تخم بتہوہ در روغن زیتون بریان کرکے کہلاوین نافع قبض بواسیر ہے
نسخہ بلیلہ بلیلہ ما بین کلان تخم نکا برنج بلہ برابر کوٹ کر چھانکر ہمقدار اوسکے شکر تری ملاکر
ایک کف دست نہار دیوین بواسیر خونی و بادی کو مفید ہے نسخہ پوست تخم ترسنہ
کوٹ کر بقدر نخود گولیان بناکر تین روز نہایت دس روز دیوین خون بواسیر کو
بند کرتا ہے نسخہ استخوان زاغ سے دہونی دیوین دافع بواسیر و حابس خون
ہی نسخہ تیخ سنا کی آب لیموں مین پیسکر بواسیر پر ملین مسے بواسیر کو
دور کرتا ہی نسخہ شورہ نرم گرم دانہ ہای بواسیر پر ضماد کرکے ایک ساعت
مقعد کو آتش ملایم پر رکھین چند روز کے مداومت مین دانہ ہای بواسیر پژمردہ
ہو کر گرجاتے ہین نسخہ برگ ہبل کو پانی مین ایک جوش دیکر اوسکے پانی سے
آبدست کرین اور برگہای مذکورہ کو مثل ساگ پکاکر ہمراہ خشکہ کے دیوین اسہال
سعوزہ خون کو بند کرتا ہے نسخہ برگ درخت اسپ بزرلکر ماتند نہاکو کے

کے حقہ میں ہوں واقع بواسیر خونی و بادی ہے اختر کا ئی باندھنے کے مقعد پر باندھیں گرمی و درد کو دور کرتا ہے۔

۲ دافع ریح و خون بواسیر صفتہ سنبل الطیب قرنفل مصطگی جوزبوا ہر یک یکتولہ خبث الحدید مدبر مقل گلنار طراثیث جفت بلوط ہر یک دو تولہ تخم گندنا تین تولہ ہلیلہ سیاہ آملہ حب الآس ہر یک چار تولہ۔ ہلیلہ و تخم گندنا کو روغن زیت میں بالکر اور مقل کو آب برگ سرو میں حل کر کے ادویہ دیگر اوسمیں ملا کر حبوب بناویں۔ خوراک ۳ ماشہ با آب گرم۔

۳ دافع ناسور مقعد صفتہ ریش نارجیل سوختہ روغن کنجد میں ملا کر گرم کر کے لگاویں اختر آب گندنای سبز دو تولہ روغن کنجد یکتولہ باہم ملا کر جوش دیں جو روغن باقی رہی لگاویں

۴ اورام حار مقعد کی لیئی مفید صفتہ برگ بنفشہ تازہ کوٹ کر تابہ آہنی پر گرم کر کے مسکہ یا روغن گل میں ملا کر ضماد کریں ۵ دافع شقاق مقعد صفتہ برگ حنا و موم سفید و روغن گل سے مرہم بنا کر استعمال کریں ۶ واسطہ خروج و درد مقعد کی مفید صفتہ عنب الثعلب عدس مقشر ہر یک تین تولہ گل سرخ دو تولہ کوٹ کر چھانکر آب کشنیز تازہ میں پکا کر زردہ تخم مرغ و روغن گل ملا کر مرہم بناویں اختر دافع خروج مقعد و رمی صفتہ عدس مقشر قشور رمان جفت بلوط جوز السرو ہر یک یکتولہ آب آہن میں خوب جوش دیکر روغن گل ضماد کر کے ضماد کریں اختر دافع خروج مقعد قسم صفتہ سپستان روغن میں جلا کر حل کر کے مقعد مسترخیہ پر طلا کریں اختر مریض بوقت رفع حاجت کی بول اپنا ظرف میں لیوی اور اوس بول سے آب دست کری بعد ازاں آب پاک سے استنجا کریں اختر پوست غربال کہنہ جلا کر اندک مقعد

مستخرجہ بیروز الیبن **نسخہ** تخم گل ہندی کوٹ کر چہانکر مقعد مستخرجہ پر چہڑکی لنگوٹہ باندہین ۔ **دافع** قروح مقعد صفصقۃ افیون زعفران ہر یک تین سرخ مردہ سنگ ساڑہی چار ماشہ سفیدہ آب ازبیرہوبی دو ماشہ روغن گل ساڑہی سترہ ماشہ ضماد کرین ۔

فصل ۱۶ علاج امراض گردہ و مثانہ

فصل شانزدہم مین علاج امراض گردہ و مثانہ مندرج ہی

ہزال گردہ

۱ **ہزال گردہ** یعنی لاغری گردہ ۔ یہہ بسبب سوء مزاج گرم کے ہوتا ہے یا بسبب کثرت جماع کے یا بسبب کثرت استفراغ کی **علامت** سفیدی و کثرت بول و درد پشت و لاغری بدن و کمی شہوت باہ **علاج** ترک سبب کرین تا حبیل و فندق و مغز چلغوزہ و بادام شہد مین معجون بناکر دیوین **نسخہ** دیگر و نان گندم ہمراہ چربی بط و مرغ گرم گردہ کے کہلا دین ۔ اگر حرارت ہو تو بسبب باردہ سی مثل خشخاش و مغز کدو و پنبہ دانہ کے تقویت کرین ۔

۲ **ضعف گردہ** ۔ **علامت** بول مانند غسالہ گوشت ۔ پہلا درجہ جگر مین ہوتا ہی جو غذا جگر مین ہضم ہوی ہو ورنہ بول ہی ہوگا ۔ اور درد پشت بوقت کروٹ لینی کے اور کمی شہوت باہ ۔ اگر بسبب ہزال کے ہو **علاج** تحریر ہوا اگر بسبب سوء مزاج کی ہو تبدیل مزاج کرین ۔ اگر مادی ہو تنقیہ کرین ۔ اگر بسبب تعب سفر کے ہو **علاج** تعب سے احتراز کرین بعد ازان تقویت گردہ بجوز مذکورہ سے کرین اور ادویہ قابضہ گردہ پر ضماد کرین **نسخہ** روغن گل و سرکہ **نسخہ** دودہ بکرے کا پلاوین غذا دودہ چاول اور کلہ پاچہ ہمراہ چربی گردہ اسپلو ہست **علاج** **ضعف گردہ** کا جو بسبب کثرت جماع یا بسبب کثرت

کثرت استعمال مدرات یا بسبب صدمہ کی لاحق ہو آخر یہی اور زعرور کہلاوین ۔
وجع کلیہ ۔ اگر بسبب باج کے ہو **علامت** تمدد بلا ثقل و انتقال درد **علاج**
شیرہ بادیان سات ماشہ شیرہ انیسون شیرہ تخم کشوث ہریک تین ماشہ اور مثل اسکے
مدرات سی جو شدید الحرارت نہو ہمراہ گلقند و شربت بزوری ہریک یکتولہ یا شربت
دینار دو تولہ **آخر** روغن گل و روغن بابونہ ملین **آخر** گل ٹیسو و گل کسنب دیگر
مدرات پانی مین ابالکر چہانکر نطول کرین اور ثفل اوسکا باندہین **آخر** نمک و
سبوس گندم و دہہ گاو زان سے ٹکور کرین **آخر** نان آرد ماش موضع درد پر
باندہین **آخر** ضماد زردہ تخم مرغ استعمال کرین اگر بسبب سنگ کے ہو **علامت**
تمدد اور گرانی پشت مین اور چوب مثل سوزن کے ہو قارورہ تمام شب کو ظرف
سفید مین اگر جمع کیا جاوے تو قارورہ مین ریگ سرخ یا زرد ظاہر ہو **علاج**
حجر الیہود سائیدہ سنگ سرماہی سائیدہ ہریک یکماشہ صمغ آلو سائیدہ یا صمغ
عربی سائیدہ ہریک نیم ماشہ ہمراہ شیرہ تخم خربوزہ شیرہ خار خسک ہریک ہفت
ماشہ یافے مین ملاکر شربت آلو بالو یا شربت بزوری دو تولہ ملاکر دیوین **آخر**
سفوف حجر الیہود یا معجون حجر الیہود کہلاوین **آخر** کہانا املوک کا بالخاصیت
دافع حصات ہی **آخر** تیتر بہوری جو بوٹی مشہور ہے چہہ ماشہ رات کو پانی مین
تر کرکے مصری ملاکر پلاوین **آخر** کرم شب تاب بریدہ کردہ خشک یکعدد
ہمراہ آب جلتیت چار و نیم تولہ تین روز متواتر پلاوین واسطے اخراج سنگ اور حصاۃ
بول کے مفید **آخر** کہانا مار پیچین کا واسطے سنگ گردہ و مثانہ کے مفید **آخر**
نطول گل ٹیسو استعمال کرین اور ثفل اوسکا باندہین اگر تدابیر مذکورہ سے ازالہ
مرض نہو تو قی اور فصد و مسہل کرین ادویہ مفتتہ حصات ہمراہ صمغ آلو اور ناشتہ

اسکے دیوین ایسی ہے ادویہ مقوی ضرور مثل سلیخہ و سنبل الطیب - اگر درد شدید ہو تو
دوا جسکو بالخاصیت مسکن درد کہی مانند تخم کرفس و تخم شبت کی یا دہ دوا جو بسبب تخدیر
کے تسکین کرے - تا الکرین یا ہمیشہ آبزن کرتے رہین **نسخہ** دوای بیا مقعد مفید
ہے - اگر بسبب ورم گرم کے ہو **علاج** فصد باسلیق جانب ورم کرین لعاب اسپغول
لعاب بہیدانہ شیرہ عناب او مثل اسکی شربت بنفشہ ملا کر دیوین **نسخہ** ضماد
آرد جو املتاس **نسخہ** روغن گل و روغن بنفشہ موم کی مالش کرین - اگر جراحت
متقیہ کی ہو سبیل بارد دیوین **نسخہ** آب کاسنی سبز مروق آب عنب الثعلب
سبز مروق پلاوین - اگر مادہ ارادہ نضج کری تخم کتان تخم خطمی حلبہ او مثل اسکے
پانیمین پکا کر چھانکر پلاوین اور انہین ادویات کو روغن کنجد مین پیکر ضماد کرین اور
پانیمین پکا کر نطول کیا کرین اگر نضج پاوے او نضج کے سرگین کبوتر و غبار آسیا
و آرد کرسنہ ضماد مین اضافہ کرین **نسخہ** انجیر آب العسل مین پکا وین جب
گلجاوے ضماد کرین - جسوقت منفجر ہو اور پیپ براہ بول خارج ہو تخم خیارین
و تخم خربوزہ خار خسک شربت بزوری پلاوین **نسخہ** خشخاش ہمراہ شیر خر
کے کہلاوین عضو کو پیپ سے پاک کرتا ہے بعد ازان سفوف ملحمہ چار ماشہ ہمراہ
مدرات کے دیوین - اگر بسبب ضعف گردہ کی ہو **علاج** اسکا تحریر ہوا - اگر بسبب
قروح گردہ کے ہو **علامت** درد قطن خروج خون و مدہ و بدبوی بول **علاج**
فصد اور قے کرین **نسخہ** قرص کہربا و قرص گلنار و قرص کافور او مثل اسکے ہمراہ
ادویہ مغریہ مانند نشاستہ صمغ عربی کتیرا کے ساتھ لعاب اسپغول لعاب بہیدانہ
شیرہ تخم خیارین و شربت بزوری و دیگر مدرات کے کہلاوین - اگر باندھنے
ہمیانی سے درد گردہ شدید پیدا ہوتا ہے - قے اکثر امراض گردہ مین مفید ہے

ضماد زردہ تخم مرغ واسطے درد گردہ اور سوزش کے مفید صفت زردہ تخم مرغ
کو ظرف مس مین ڈالکر آگ پر رکھکر زردچوب پیسکر اوسمین ملاکر قدری پانی ڈالکر آگ
پر دستہ کے ساتھ خوب ملین تاکہ مثل مرہم کے غلیظ ہو ضماد کرین اور برگ پان اوسپر
باندھکر پارچہ موٹی سے مستحکم باندہین سفوف حجر الیہود سنگ گردہ و مثانہ کو پارہ
پارہ کرکے خارج کرے صفت کلتھی پندرہ ماشہ تخم خربوزہ تخم خیارین تخم کدو شیرین
ہریک ساڑہی چار ماشہ سیسالیوس دو ماشہ صمغ عربی نشاستہ کتیرا ہریک تین ماشہ
حجر الیہود چھہ ماشہ قند سفید اٹھاسی ماشہ کوٹ کر چھانکر سفوف بناوین خوراک
سات ماشہ ہمراہ آب نخود سیاہ معجون حجر الیہود بمنافع مذکور صفت مغز
تخم کدو مغز تخم خیارین مغز تخم خربوزہ حب کاکنج ہریک پنجماشہ حجر الیہود صلایہ
شدہ پنجاہ ماشہ عسل سہ وزن مین معجون بناوین خوراک سات ماشے سے
سات ماشے سے دس ماشہ تک نطول گل ٹیسو واسطے اخراج سنگ گردہ و
مثانہ اور تسکین درد ہر دو کے مفید صفت گل ٹیسو گل سنب تخم خربوزہ
تخم خیارین خار خسک ہریک ۵ تولہ پانی مین ابالکر چھانکر نطول کرین اور ثفل اسکا
پیسکر نیمگرم باندہین دوای بیاقند مفتت حصات گردہ و مثانہ صفت
ابتدای پیدایش انگورین نر کوہی چہار سالہ کو ذبح خون اول و آخر اوسکا
گرادین اور خون میانہ اوسکا لیوین جب منجمد ہو کارد سی پارہ پارہ کر کے
چہلنی کے نیچی دہوپ مین اسطرح خشک کرین جو غبار سی محفوظ رہے خوراک
ڈیڑہ تولہ ہمراہ آب ترب یا آب کرفس سفوف ملحمہ واسطے التحام قرحہ گردہ
کے بعد پاک ہونے ریم کے مفید صفت تخم خشخاش تخم کتان کاکنج نشاستہ
گل ارمنی کوٹ کر چھانکر سفوف بناوین خوراک چار ماشہ ہمراہ مدرات

قرص کاکنج واسطہ قروح کلیہ و مثانہ و بول الدم کے نافع صفت مغز تخم خیارین
حب کاکنج مغز بادام شیرین مقشر رب السوس نشاستہ صمغ عربی دم الاخوین کتیرا
کندر تخم کرفس ہر یک چہ ماشہ افیون یکماشہ کوٹ کر چھانکر باہمین ملاکر قرص بنادین۔
خوراک ساڑہی تین ماشہ سے ساڑہے چار ماشہ تک۔

فس جرب گردہ

۵ جرب گردہ یعنی بثور یا انفجار بثور سے گردہ مین خارش پیدا ہوتی
ہے اکثر اون ماکولات سے ہوتا ہے جو خون کو گرم یا صفرا و بلغم کو پیدا کرین علامات
اگر بثور ظاہر گردہ پر ہین تو درد شدید ہمیشہ رہیگا۔ اگر باطن گردہ مین ہو تو مجاری
بول مین بوقت نکلنے بول کے درد و سوزش زیادہ ہو کر پہر ساکن ہو۔ اگر درد
و خارش و غدغہ و ثقل گردہ اور اطراف سرد ہون اور پوست باریک مخلوط
با ریم اندک اور خون ہمراہ بول کے آوے نشان انفجار بثور ہے قلت و کثرت درد
کی کمی و بیشی بثور و اتساع قروح پر منحصر ہے علاج بآتسلیق جانب مرض یا
پچھنے موضع گردہ پر لگادین مسہل بارد اور قی اور حقنہ کراوین۔ اگر قی سہل
ہو تو ہر سہ روز قی ہی کراین۔ بعد ازان تبرید و ترطیب مزاج کرین آخر
بنادق البزور پیکر گل ارمنی مین ملاکر ہمراہ مدرات کے دیوین آب آہن تاب
پلادین بنادق البزور حرقت بول و قرحہ گردہ و مثانہ و عسر بول کے لیے مفید
صفت مغز تخم خربوزہ دس ماشہ مغز تخم خیار پنجماشہ مغز تخم کدو بزر البنج خرفہ
تخم خطمی مغز بادام مقشر کتیرا نشاستہ رب السوس خشخاش صمغ گل ارمنی
تخم کرفس ہر یک دو ماشہ گولیان بنادین خوراک ساڑہی سس ماشہ۔

فس ذیابیطس

۵ ذیابیطس یعنے مریض ہمیشہ تشنہ رہے اور جب پانی پیوے بعد تہوڑی
دیر کے بلا تغیر بلا ارادہ خارج ہو۔ اگر سوء مزاج حار گردہ مین ہو علاج قرص

قرص کافور اور قرص ذیابیطس اور قرص گلنار اور قرص طباشیر ہمراہ شربت انار قابض شیریں
دیویں نسخہ آب القرع و ماء الخیار پلاویں نسخہ پانی سرد پیسکر سرکہ
نسخہ آب انار ترش و لعاب اسبغول و آب آلو بخارا دیویں نسخہ حیوانات غلیظ
ترش خصوصاً گوسفند کے برف میں سرد کرکے پلاویں نسخہ ضماد صندل اور کافور
نسخہ پانی سرد میں غوطہ ماریں جو بدن سرد ہو جاوے نسخہ تین عدد
بیضہ مرغ ایک رات دن سرکہ میں تر کرکے دیویں ۔ اگر سوء مزاج بارد تمام بدن
یا خاص گردہ پر غالب ہو بسبب برد شدید یا کثرت پینے آب سرد وغیرہ کی علامات
آثار حرارت کم تشنگی بہ نسبت اول قسم کے کم ہو اگرچہ تشنگی ذیابیطس بارد جو مخصوص
فقط گردہ میں تشنگی بہ نسبت سوء مزاج بارد تمام بدن کے زیادہ ہوتی ہے لیکن
تاہم بہ نسبت ذیابیطس حار کے کم ہوتی ہے علاج واسطے تسخین گردہ کی مثرودیطوس
و دیگر معاجین حارہ کھلاویں نسخہ روغن قسط و ثعلب و سعد و جند بیدستر
و عاقرقرحا باہم ملاکر یا دیگر روغنہای مقوی گردہ پر ملیں معجون ماسک البول دیویں
بضرورت تنقیہ تخم ترب و شہد یا نیم جوش کرکے پلا کر قے کراویں حقنہ ادویہ ملینہ
سے کریں ۔ غذا گوشت چڑیوں کا اور قلیہ خشک گوشت طیور سی مناسب ہے
اگر مرض مزمن ہو علامت بول برعکس ہجوم گرمی اور چھوٹی گردے مرجاوی
علاج گلو خشک نرم پیسکر شکر تری ملا کر ہر روز نہار دو وقت سے کھلاویں
قرص ذیابیطس طباشیر رب السوس ہر یک پنجماشہ تخم خرفہ تخم کاہو ہر
یک ماشہ تخم حماض گشنیز خشک صندل سفید گل ارمنی گلنار سماق صمغ عربی ہر یک
سہ ماشہ کافور چہار سرخ کوٹ کر چھانکر آب خرفہ یا کاہو میں اقراص بناویں
خوراک چہار و نیم ماشہ ضماد صندل صندل سفید گلنار اقاقیا

قرص خون [illegible] معجون ماسک البول شاو کرین سبز مین کشنیز وآب گلاب جو آرد
سعد شاہ بلوط کندر جلنار برابر کوٹ کر چھانکر شہد مین ملاوین خوراک نہ ماشہ -

ید قروح مثانہ - علامت - درد مثانہ وعسر سوزش وبدبوی بول وخروج مدہ وقشور یا نہ سبب وہس علاج مانند قروح گردہ اخیر زردچوب وآملہ کوٹ کر حب بنا کر دین یا اخیر شیاف ابیض ہمراہ شیر شتر کے ٹپکاوین اخیر پچکاری [illegible] آہستہ ڈالین اگر جرک بہت ہو تو آب سلق یا آب آلسک ٹپکاوین اور نیز تناول کرین غذیہ رقیقہ مالعہ وجماع سے پرہیز کرین شیاف ابیض مع آسلحہ جمیع امراض حارہ چشم اور تحلیل مع ردع اورام کے مفید صفتہ نشاستہ یکتولہ سفیدہ کاشغری صمغ عربی کتیرا ہر یک سلسہ تولہ کوٹ کر چھانکر لعاب اسپغول یا سفیدہ تخم مرغ مین ملاکر شیاف بناوین -

ف قروح مثانہ

یہ جرب مثانہ - علامت درد شدید مع خارش سوزش بدبو بول خروج رسوب نخالی ومدہ علاج مانند جرب گردہ اخیر لعاب بہیدانہ ولعاب اسپغول وشیر خر وبزر کدو سفند وروغن بادام ملاوین اور نیز پچکاری کرین غذا [illegible] ونخود چرب وہریسہ مرغ وبیضہ نیمبرشت وشکر وشیر برنج کشک گندم وروغن بادام -

ف جرب مثانہ

یو درد مثانہ - علاج مثل درد گردہ - اگر بسبب حصات کی ہو علامت درد وثقل مثانہ وخارش بیخ قضیب اور ریگ جو خارج ہو رنگ اسکا سیاہ وخاکستری وسفید ہوتا ہے اور مریض ہمیشہ ہاتھ ذکر پر ملے اور بول بدشواری آوی اور جس وقت بول سے فارغ ہوین پھر تقاضای بول ہو علاج مثل حصات کلیہ اخیر روغن عقرب ٹپکاوین اخیر تریاق کبیر اور شرودیطوس کھلاوین اگر سنگ مثانہ خارج نہو شق کرکے نکالین مگر سن دو سالگے مین شق کرنا چاہیے

ف درد مثانہ

چاہیئے تا بعد ازین خطرناک ہے **آخر** انگشتری آہن تا مہینہ رکہنا اور پہرنا موزہ کا جو اوسمین بنہائے آہنی لگی ہون بقول جالینوس منفعت حصات ہی ور پہر پیدا نہین ہوتا اگر سوء مزاج گرم کثرت تناول مدرات و چیزہای گرم سی مثانہ مین پیدا ہو **علامت** تشنگی و حرقت و درد مثانہ و بول زرد و سوزان **علاج** شیرہ تخم خرفہ شیرہ تخم خیار شیرہ تخم کدو شیرین شیرہ تخم کاہو شیرہ تخم کاسنی شربت بنفشہ و شربت خشخاش پلاوین **آخر** بنادق الزور ہمراہ تبرید مذکور کے دیوین **آخر** آب کدو و سکنجبین پلاوین **آخر** صندل و چہالیہ و آرد جو آب کاسنی و عنب الثعلب مین ضماد کرین **آخر** روغن بنفشہ و روغن کدو و روغن نیلوفر مین اور پچکاری کرین **آخر** گل بنفشہ و نیلوفر و گل خیرو و عنب الثعلب پانیمین ابالکر آبزن کرین غذا قلیہ پالک و قلیہ خیار و گوشت مرغ با آب انار و زردہ تخم مرغ — اگر سوء مزاج بارد بسبب تناول اکا غذیہا ہوای بارد کی واقع ہو **علامت** تقدم سبب و بول سفید **علاج** تخم بادیان تخم کرفس مع دینہ انیسون تخم گندنہ و سداب پانیمین جوش دیکر ملکر چہانکر شربت دینار ملاکر پلاوین **آخر** سداب و شبت و برنجاسف و پودینہ مین قدری چند بیدستر و حلتیت ملاکر ضماد کرین **آخر** بابونہ و قیصوم و قیصوم و بنفشہ و اکلیل و مرزنجوش پانیمین ابالکر آبزن کرین غذا نخود آب و کبوتر بچہ روغن **عقرب** سنگ مثانہ کو پارہ پارہ کرکے خارج کرے **آخر** ریوند چینی سعد کوفی جنطیانا رومی پوست بیخ کبر ہر یک ڈھائی تولہ چہہ سیر کوٹ کر چہانکر مین ڈالکر روغن بادام تلخ آدہ سیر ملاکر ایک ہفتہ دہوپ مین رکہین بعد ازان بیس عدد عقرب زندہ اوس شیشہ مین ڈالکر منہ شیشہ کا بند کرکے ایک ہفتہ دہوپ مین رکہین — دو قطرہ اسکی احلیل مین ٹپکا دین۔

۹ ورم مثانہ - اگر حار ہو علامت درد شدید و انتفاخ عانہ و احتباس
بول و حرارت و تپ گرم رہنا علاج مثل ورم گردہ مگر امراض مثانہ میں ادویات
تو ہی استعمال کریں اور شیاف بارد و قابضہ کا ضماد کریں خصوصاً آبزن آرد جو وغیرہ و طبیخ
کاسنی عمل میں لاویں اور بعد چند روز کے ضماد مرہم لگاویں آخر شیر شتر
پلاویں - اگر مادہ بلغم رطب سے ہو علامت ثقل مثانہ و بول بدشواری آوے
اور ساتھ اس میں ضعف ظاہر ہو علاج قی کریں اور حقنہ حاد عمل میں لاویں
آخر بابونہ مرزنجوش و نمام و برگ سداب پانی میں ابالکر مریض کو اوسمیں بٹھاویں اور
شربت بزوری گرم و دیگر مدرات ماء العسل و خیارشنبر پلاویں اگر بول بدشواری
آوے تو تخم کرفس و مغز تخم خربوزہ و رب السوس و قند سفید سفوف بنا کر ہر روز
چار ماشہ ہمراہ سکنجبین و آب گرم کے دیویں آخر ادویہ و روغنہای محللہ مثلی
قضیب میں ٹپکاویں غذا مرغ بریان و کباب بزغالہ نخود - اگر ورم صلب مثانہ
میں پیدا ہو علامت ثقل و براز بدشواری آوے اور تقدم اسباب موجبہ ورم
ورم مخصوص ہو علاج تخم خیارین و بادیان و انیسون پرسیاوشان و مغز تخم کدو
و روغن بادام پلاویں بلکہ آخر آب کرنب و آب نخود پلاویں آخر بابونہ اکلیل الملک
تخم کتان حلبہ تخم خطمی مغز خشکانہ پرسیاوشان پانی میں ابالکر آبزن کریں اور انہیں
دوائیوں سے نطول کریں آخر روغن نار و روغن زنبق و پیہ بط عانہ پر ملیں
آخر بابونہ تخم کتان اشق مقل کو مغز ساق گاو روغن قسط روغن زیت میں
ملا کر ضماد کریں بصورت نرم ہونی ورم اور پہونچنے کسی مانع کے استعمال ادویہ محللہ
ملینہ اور کرنا فصد باسلیق یا صافن کا نافع ہے آبزن آرد جو ورم گرم مثانہ کے
لیے مفید صعفعتہ آرد جو بنفشہ خطمی پانی میں ابالکر جب سیوم حصہ اوسکا

اوسکا جلیبا لے صاف کرکے اوسمین بیٹھین اور ثفل اوسکا پیڑو عانہ پر رکھین
قیروطی کاسنی بنافع مذکور **صفتہ** آب کاسنی سبز آب عنب الثعلب
سوم درروغن گل و روغن بنفشہ مین بناکر استعمال کرین **ضماد** **مسیح** بنافع
مذکور **صفتہ** نان میدہ و کنجد بمقدار مساوی کوٹ کر شیر تازہ و روغن بنفشہ
و روغن بابونہ مین ملا کر ضماد کرین **شربت بزوری حار** سدہ اور جگر کے
لیے مفید **صفتہ** پوست بیخ کاسنی پونی نو تولہ تخم کاسنے پوست بیخ بادیان
ہریک پونی چھہ تولہ تخم کرفس و بیخ کرفس ہریک دو تولہ گیارہ ماشہ تخم کشوث در
پارچہ بستہ ساڑہے سترہ ماشہ پانی مین ابالکر چھانکر آدہ سیر قند مین قوام کرین
۱۳ **جمود دم در مثانہ** یعنی جگر یا گردہ سے خون گر کے مثانہ مین جم جاوے
یا بسبب ضربہ یا سقطہ کے رگ بزرگ مثانہ کی پھٹ جاوے اور خون منجمد ہو
علامت کرب و غشی و برد اطراف عرق سرد **علاج** خاک چھیری انجیر
ہمراہ سکنجبین عنصلی کے دیوین **اخر** ہر و سلجغات کھلاوین **اخر**
بابونہ اکلیل الملک و مثل اسکے پانی مین ابالکر ضماد کرین اور اوسمین بیٹھین **اخر**
پنیر مایہ گوشت اطلیلین پکاوین **اخر** دیگر ادویہ سندرجہ حصات گردہ استعمال
کرین — اگر فائدہ نہو شق کرکے خون منجمد خارج کرین **سکنجبین عنصلی**
واسطے سختی جگر و سپرز اور سدہ اور قطع اخلاط غلیظ دفع سعال و ضیق النفس
کے مفید **صفتہ** پیاز عنصل پاؤ سیر کارد چوبی سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کرکے
سرکہ کہنہ ڈہائی سیر مین آتش ملایم پر جوش دین جب پیاز گل جاوے صاف کرکے
نی آدہ سیر کہ تین پاؤ قند ملا کر قوام بناوین —
۱۴ **ریح مثانہ** — **علامت** — تمدد بلا ثقل **علاج** روغنہای گرم و خوشبو کی مالش

کریں آخر سبوس گندم و نمک سے تکمیر کریں آخر ادویہ حارہ سے نطول کریں

۱۲ **حبس و احتباس بول** ۔ اگر بسبب حصات یا ورم یا ریح کی ہو **علاج**
مثل ورم مثانہ ۔ اگر بسبب انجماد خون کے ہو **علاج** مثل جمود دم در مثانہ ۔ اگر بسبب
غلظہ لزج کی ہو جو بڑی بوڑہون میں حادث ہو **علامت** تقدم تخمہ اور کہانا اطعمہ
غلیظہ کا اور ثقل عانہ **علاج** ہر رات تو پیشل انیسون و تخم کرفس دو دو تولہ تخم شلغم
صحرائی ہر یک سات ماشہ پانی میں بالکر چہانکر شربت بزوری دو تولہ ملاکر پلا دین
اور نیم گرم پانیون کو پانی میں بالکر چہانکر مریض کو اوس میں بٹہا دین آخر روغنہا
گرم مانند روغن شبت کے ملیں اور حقنہ میں ٹپکا دین ۔ اگر بسبب غلظ کی ہو جو
مثانہ پر گری **علامت** سوزش و زردی بول **علاج** مثل حرقت بول کے
جو بسبب حدت و بورقیت بول کے ہو ۔ اگر بسبب روکنی بول کے ہو جو قصداً یا بسبب
خواب طویل یا بباعث اشغال ضروری کی ہوا ہو **علاج** آخر ادویہ مدرہ مرخیہ
سے نطول کریں آخر مثانہ کو ہاتھ سے دبائیں آخر روغن بلسان و روغن گل
اور مانند اسکی ملیں آخر چوہہ تنہا یکماشہ برگ پان میں رکھ حبس بول کے لیے کہلائیں
آخر شورہ قلمی و خردل ہر یک گیارہ ماشہ کوٹ کر چہانکر کہلا دین حبس بول کے لیے
مفید آخر ورق نیل پانی میں پیسکر عانہ پر لیپ کریں آخر تخم قرطم کسنب
دہی میں پیسکر عانہ پر ملیں آخر شاخ زعفران سوراخ قضیب میں رکھیں
آخر تپش زندہ سوراخ ذکر میں رکھیں آخر شورہ و کافور احلیل میں رکھیں
اور زیر ناف طلا کریں آخر چرک گاومیش ناف پر ملیں ادویہ مذکورۃ الصدر
دافع بول ہیں آخر بچہ کبوتر ذبح کرکے خون اوسکا ذکر پر ٹپکا دین اور شکم اوسکا
گرم گرم ذکر پر باندہیں محرک قوت مثانہ ہے ۔

تقطیر بول

۱۳ تقطیر بول - یہ درمیان احتباس و استرسال کے حالت ہے - اگر بسبب
احتباس بول کے ہو علاج مثل احتباس بول - اگر بسبب اخلاط حارہ کے ہو -
علامت زردی و سوزش بول مع علامات غلبہ صفرا علاج مانند حرقت بول
جو بسبب بردی مزاج مثانہ و استرخای عضلہ کے ہو علاج مثل سلسل البول بارد
اخر معاجین گرم کھلاوین -

حرقت بول

۱۴ حرقت بول یعنی سوزش بول - اگر بسبب حدت و بورقیت بول کے
ہو علامت حرارت مزاج و رنگینی بول و عدم خروج مدہ و قشور علاج بنادق البزور
ہمراہ لعاب اسپغول مسلم یکتولہ عرقیات مین نکالکر شربت بنفشہ دو تولہ ملاکر پلاوین
اخر اشیای مالحہ حامضہ حریفہ سے احتراز کرین اخر پچکاری شیاف ابیض
اور کافور و شیر بزرو یا شیر خر یا شیر دختر سے کرین اخر کشنیز خشک گل نیلوفر
صندل سفید آملہ مقشر ہر یک پنجماشہ رات کو پانی مین ترکرکے صبح ملکرچھانکر شربت
نیلوفر دو تولہ ملاکر پلاوین اخر تنہ درخت کیلہ قدرے گلے مین شق کرکے رات
کو اسطرح اوسمین ظرف کہین جو پانی اوسکا اوس ظرف مین جمع ہو
اوس پانیکو پلاوین اگر بسبب قرحہ کی ہو علاج فصد باسلیق و مسہل کرین
تخم خیارین شیرہ خار خسک شیرہ تخم خربزہ ہر یک ہفت ماشہ عرقیات مین بنا کر
شربت بزوری دو تولہ ملاکر دیوین اور جب قرحہ پیپ سے پاک ہو ہمراہ تبرید کے
قرص گلنار پنجماشہ یا قرص کہربا یا قرص شب اور مانند اسکے دیوین جو قرحہ
اخر پوست بیخ فالسہ یکدام ریزہ ریزہ کرکے رات کو پانی مین ترکرکے صبح قدرے
ملکرچھانکر پلاوین حرقت بول و سوزاک کی لیئے مفید ہے اخر گیرو یکدام دال نخود
مع پوست یکدام رات کو ڈیڈھ پاو پانی مین ترکرکے صبح گھوٹکر پلاوین اور بورقیت

اخر دیوین مذکور کے ہمراہ تبرید قلعی کشتہ سفوف ہمراہ شیرگاو لسی لگتے اخر
دیوین سفوف زرد چوبہ اخر دیوین مذکور کے ہمراہ تبرید قلعی کشتہ سفوف
پلادین ملکر چھانکر صبح تر کرکے پانی مین رات کو ہر ایک دو ماشہ کتیرا عربی صمغ اخر
سلاجیت گلو دست کیکر نورستہ برگ اخر سوزاک ہے نافع حرقت مثانہ و
امرالغفل پچکاری اور پھٹکری پچکاری اخر مفید سوزاک کے جدید واسطے
کرین ماء الجبن دیوین ۔ اگر سبب جرب کلیہ اور مثانہ کی ہو علاج تحریر ہوا ۔
قرص شب بول الدم و قروح کلیہ و بواسیر کیلئے مفید صفت شاخ گوزن سوختہ
قرص بناوین خرفہ آب ملکر چھانکر کوٹ مساوی تخم خرفہ گلنار اقاقیا آرمنی گیرو بہتر سے
صفت نافع سوزاک کے قدیم و جدید انزال کشتہ قلعی سفوف بناوین
سفوف پھانکر کوٹ ماشہ ہر ایک خورد الایچی دانہ تباشیر کبابچینی کشتہ قلعی
سفوف دو ماشہ سوم نیم ماشہ دوم ایک ماشہ اول روز خوراک بناوین
مساوی مقشر آملہ چوب زرد صفت بول مجاری کہنہ قرحہ نافع زرد چوب
سات ماشہ سے خوراک بناوین سفوف ملاکر برابر وزن شکر سفید پھٹکری کشتہ
سوزاک قدیم و جدید قرحہ نافع پھٹکری پچکاری پانی کے ہمراہ تک ایک تولہ
صفت پھٹکری ایک تولہ نیلا تھوتھا چھ ماشہ دونون کو خوب بریان کرکے سواسیر
پانی مین حل کرکے شیشہ مین ڈالکر چار گھڑی خوب ہلادین جو حل ہو جاوے اسمین سے
ہر روز پانچ چھ بار پچکاری کرین اگر دو دو دوائیونکو ملاکر پچکاری کرین تو انسب ہے
پچکاری اطریفل نافع قرحہ و حرقت بول صفت ہلیلہ بلیلہ آملہ ہموزن
کوٹ کر رات کو پانی مین تر کرکے صبح ملاکر بدون جوش کے پچکاری کرین ۔
۱۵ سلسل البول یعنے بول بے ارادہ خارج ہو ۔ اگر بسبب سردی مثانہ کے

سلسل البول

علامت - سفیدی قارورہ با حرقت **علاج** کندر مصطگی ہر یک یکماشہ باریک کرکے گلقند ایک تولہ یا اطریفل صغیر مین ملا کر کہلاوین **اخستر** کہانا اور یہ چارہ قابضہ کا نفع بخش ہے **اخستر** معجون فلاسفہ دیوین **اخستر** مشک جند بیدستر روغن بابونہ و روغن نرگس و مانند اسکے مین ملا کر مثانہ پر ضماد کرین **اخستر** معجون کلکلانج کہلاوین - اگر بسبب حرارت کے ہو **علامت** گرمی مزاج و رنگینی قارورہ **علاج** مثل ذیابیطس **معجون فلاسفہ** مقوی ہاضمہ و مشتہی دافع بلغم و نسیان و سلسل البول و درد پشت و درد گردہ و اوجاع مفاصل اور منی و باہ کو زیادہ کرے اور دانتونکو سخت کرے اور دل کو قوت بخشے و نشاط لاوے اور رنگ رو اچہا کرے اور بوی دہن خوش کرے ضعیفون کو موافق ہو **صفت** زنجبیل فلفل دار فلفل دارچینی آملہ مقشر ہلیلہ سیاہ شیطرج ہندی زراوند مدحرج خصیۃ الثعلب مغز چلغوزہ بیخ بابونہ ناجیل ہر یک دو ماشہ تخم بابونہ پنجماشہ مویز منقی تیس ماشہ کوٹ کر چہانکر شہد دوچند یا سہ چند مین معجون بناوین **خوراک** نیم تولہ سے ڈیڑہ تولہ تک -

۱۶ **بول الدم** یعنی خون راہ بول سے خارج ہو **علاج** مثل نفث الدم **اخستر** کعب پر حجامت کرین **اخستر** چاکسو بہت یکدانہ باریک کرکے ہمراہ برادہ صندل سفید یکتولہ رات کو پانیمین تر کرکے صبح ملکر چہانکر دیوین **اخستر** چار دانہ نرملی کے پانیمین پیسکر دہی مین ملا کر پیالہ چینی مین ڈالکر کپڑا منہہ پر باندہکر رات کو رکہکر صبحکو کہلاوین اور ایکہفتہ متواتر ایسا ہی کرین -

۱۷ **بول الفراش** یعنی خواب مین بچہونی پر بول کرے - یہ مرض اکثر لڑکونکو ہوتی ہے - علاج - مثل سلسل البول کے جو بسبب سردی مثانہ و استرخای

عضلہ کے ہو آخر اگر خواب سے بیدار کرکے بول کراوین آخر رات کو
طعام و آب نہ دیوین آخر اشیاے سرد و تر سے اجتناب رکھین آخر شنگ
و زیتون روغن سوسن روغن بابونہ ملا کر عانہ پر ملین آخر گلقند عسلی پودینہ
آخر قلیہ خشکہ کہلاوین آخر زیرہ کند حب الآس ہر یک سیاہ مرچ بائیس ماشہ
باریک کرکے شہد سوا تیرہ تولہ مین ملا کر سات ماشہ ہر روز کہلاوین — اگر یہہ مرض
جب لڑکا بالغ ہوتا ہے از خود زائل ہو جاتی ہے **فائدہ** اگر بول مین ریت
ہو علامت تولد حصات کی ہے — پینا آب چشمہ آہن یا آب آہن تاب کا مقوی
مثانہ ہے — استعمال حموضات کا مثانہ کی لیے نہایت مضر ہے — اثناے غذا
مین پانی پینا مانع حدوث سنگ مثانہ ہے — بند کہنی بول سے سنگ مثانہ
پیدا ہوتا ہے — جماع طویل بے انزال مورث آفت مجاری بول ہے — بول کا
بعد جماع کے سلسل البول و بول الفراش پیدا کرتا ہے —

علاج مسافرانہ امراض گردہ و مثانہ — ہزال گردہ کی لیے
ذوالرنجبین مندرجہ نقصان باہ کہلاوین آخر کلیجی گندم و نخود و لوبیا
و باقلا پانیین بالکل ملا کر چہا کر روغن لبوب مندرجہ علاج ہذا و روغن حب القرطم
و حبۃ الخضرا و کنجد و مغز ساق شتر او سین ملا کر نیم گرم حقنہ کرین آخر تخم مرغ نیم برشت
کہلاوین **ضعف گردہ** کی لیے — لبوب کبیر مندرجہ نقصان باہ دیوین —
آخر لبوب صغیر — مقوی گردہ و مثانہ اور منی زیادہ کرے **صفت** حب الخضرا
مغز گردگان مغز بادام مغز چلغوزہ مغز حب الزلم فندق پستہ نارجیل مغز حب القلقل
خشخاش سفید تودری سرخ و سفید کنجد مقشر تخم جرجیر تخم پیاز تخم شلغم تخم گزر
بہمن سرخ و سفید ترفد زنجبیل دار فلفل ...

خولنجان تخم کاہو مساوی کوٹ کر چھانکر شہد چند اودویہ مین معجون بناوین خوراک
سات ماشہ ۳ درد گردہ کیواسطے۔ بابونہ شبت تخم خطمی برگ کرنب پانیمین ابالکر
چھانکر نیمگرم آبزن کرین ۴ جرب گردہ۔ شیاف ابیض روغن بادام مین
حل کرکی احلیلین ٹپکاوین ضماد آب چشمہ شور و گوگرد مین بیٹھین ۵ [illegible]
چھالیہ سوختہ یکعدد تختہ کاغذ سوختہ یکعدد خرمہرہ زرد سوختہ ہفت عدد صدف
سوختہ کتھہ پاپڑیا سنگ جراحت زرورد ہریک شش ماشہ الایچی کلان دو عدد
کوٹ کر چھانکر دو ماشہ ہر روز کہلاوین غذا نان خمیری ہمراہ دال مونگ ۶ روغن زرد
اور سچای پانی کے آب خارخسک یا عرق خارخسک یا شیرہ خارخسک یا خارخسک
پانیمین ترکر کے اوسکا پانی لیکر پلاوین ۷ قروح گردہ۔ مغز بادام شیرین
مقشر پنجعدد مغز حب صنوبر دوازدہ عدد مغز تخم خیارین باوزن کسی پنجعدد
زعفران قدری کوٹکر چھانکر بوقت صبح کی دیوین اگر گرمی زیادہ ہو مغز حب
صنوبر کے جگہ مغز تخم خیار زیادہ کرین۔ اگر درد شدید ہو یہ دوا دیوین بفضلہ
تعالی فورا درد جاتا رہیگا صح تخم خرفہ مقشر تخم کاہو انیون بزرالبنج مکہ سات
تین ماشہ مغز تخم خیار سات ماشہ گولیان بناوین ۸ حصات گردہ مغز تخم
خربوزہ حب القلت زجاج ابیض سوختہ دوقوہ مساوی کوٹ کر چھانکر ساڑھے
تین ماشہ ہمراہ آب خسک یا آب ترب کے دیوین ضماد مغز تخم خربوزہ نانخواہ
تخم کرفس ہیرہ سفید تخم ترب مغز بادام تلخ مساوی کوٹ کر ہر روز ساڑھے سات
ماشہ ہمراہ مطبوخ پرسیاوشان کے دیوین غذا نخوداب ۹ درد مثانہ بارد
حقنہ عسلی اطریفل صغیر یا تریاق کبیر و مویز و انجیر کہلاوین ضماد روغن سوسن
روغن نرگس روغن زیتون مثانہ پر ملین ضماد آب نیمگرم مثانہ پر ڈالین ۱۰ احتباس البول

صندل خطای گلاب مین پیسکر پلاوین آخر تخم تر بندی سفشر پانیین پیسکر ناف
اور حوالی ناف پر ضماد کرین ۔ بول الدم کو نپل ڈاک پانیین تر کرکے صبح پانی
اوسکا پلادین ۔ سلسل البول ۔ سو شہد چار ماشہ باریک کرکے بطور سفوف
کہلاوین ۔ علاج بول در فراش ۔ بلوط و کندر مساوی کوٹ کر روغن زیتون مین
ملین سلسل البول اور ادرار منی و مذی کے لئے بھی مفید ہے ۔ سوزاک کا نسخہ
کباب چینی الایچی کلان اصل السوس ہر یک بیست ماشہ جو کہار شورہ قلمی ہر یک چار ماشہ
تخم کشنیز زیرہ سفید برگ حنا آملہ منقی ہر یک دہ ماشہ جو کوب کرکے بقدر بیست ماشہ پوٹلی بنا کر ایک
پوٹلی مین بیست ماشہ نبات سفید ملا کر پاؤ ایک پانی مین رات کو تر کرکے صبح ملکر چہانکر پلاوین آخر
بیخ کیلہ پوست بیخ بانسہ شیرین تخم خبازی ہر یک یکتولہ بہت باریک پیسکر
ہمراہ شیرہ اصل السوس یکتولہ کی صبح پلاوین آخر دال نخود مع پوست گیرہ ہر یک
یکتولہ رات کو ڈیڑہ پاؤ پانی مین تر کرکے صبح گہونٹکر چہانکر دین سواتر تین روز
ایسا ہی کرین ہنگام تشنگی لسی شیر گاو ۔ قرصہ سوزاک کو نپل درخت بر
در سایہ خشک کردہ باریک سائیدہ و شکر خام مساوی الوزن ہمراہ لسی شیر گاو
صبح کیوقت علی التواتر سات روز کہلاوین ۔

فصل ہفدہم مین علاج امراض اعضای تناسل کا مندرج ہے

نقصان باہ ۔ اگر بسبب استرخای تعصیب اور سردی اعصاب کے ہو علامت
کثرت و رقت منی اور سہولت خروج منی بلا انتشار ۔ اگر تعصیب سو مین کچہ
ہوا در لاغر و سست ہو علاج مانند فالج آخر بسبب سیاہ ور فلاسفہ و مانند اسکے
ذکر مین آخر اطلیہ مائیہ کی مالش کرین آخر اشیای خوشبو دار سونگہین ۔

اگر متقاص نہوا اور لاغر ہو علاج پذیر نہین - اگر استرخا بسبب ضعف بدن و ترک جماع
کی ہو **علاج** قلت منی تحریر ہوا **آخر** جوب ادویہ و طلیہ و معاجین وغیرہ
نافعہ استعمال کرین **آخر** جوہ مہندی نیم ماشہ برگ پانمین کھلاوین واسطے تقویت
گردہ و دیگر امراض باردہ کے مفید ہے **آخر** سواد و تولہ روغن مہندی متواتر
اکتالیس روز ناشتا کھلاوین اور ایام استعمال مین جماع نکرین - اگر نقصان باہ بسبب
قلت منی کے ہو **علامت** قلت خروج منی - اگر قلت منی بسبب ضعف بدن
یا کمی غذا کی ہو **علاج** غذا جید مانند گوشتہای فربہ مرغ و نارجیل ہمراہ
شکر کے اور حلوا نشاستہ و بادام و پستہ و مثل اسکے اور زردی بیضہ نیمبرشت
کھلاوین **آخر** شراب پلاوین **آخر** ترک جماع کرین **آخر** عیش مین
رہین - یا بسبب برودت آلات منی کے ہو **علامت** انجماد و عسر خروج منی
اور نفع پانا اشیای حارہ سے **علاج** معاجین گرم مقوی باہ و لبوب کبیر
و زنجبیل پروردہ و دواء البصل کھلاوین - یا بسبب حرارت آلات منی کے ہو
علامت غلظت منی و سرعت انزال اور نفع پانا سرد چیزون سے **علاج** آبہای
باردہ استعمال کرین یا بسبب یبوست آلات منی کے ہو **علامت** غلظت
منی اور نفع پانا اشیای مرطبہ سے **علاج** مرطبات اور دواء الترنجبین کو استعمال کرین
یا بسبب رطوبت آلات منی کے ہو **علامت** منی رقیق **علاج** اشیای یابسہ
مثل زیرہ و دارچینی کے دیوین **آخر** اطریفل صغیر و معجون بزوری و مانند اسکے
کھلاوین - یا بسبب برودت و رطوبت کے ہو یہ قسم اکثر واقع ہوتا ہے بہ نسبت
برودت و یبوست اور حرارت و یبوست کے **علاج** اسکا مرکب علاج مفردات
سے کرین - اور حرارت مع رطوبت سبب اس مرض کا نہین ہوتا - اگر نقصان

باہ بسبب سکون اور جا بی رہنے تنبع منی کے ہو جیسی افیونی و بنگی کا حال ہوتا ہے
علامت کثرت وجود و غلظت منی علاج معجون زرعونی و معجون بزرور
و دیگر معاجین و دوا آءالمسک و سفوف عنبر کہلاوین حسنہ روغن عاقرقرحا استعمال
کرین ۔ اگر بسبب ترک جماع کی ہو علاج اغذیہ باہیہ مانند شیر و شکر و ماہی تازہ
و زردہ تخم مرغ و کلہ و ہریسہ کہلاوین حسنہ وہ حکایات جو رغبت جماع کی پیدا
کرین سناوین حسنہ جماع حیوانات دکہاوین اگر بسبب سوء وہمیہ کے ہو
علاج ازالۂ وہم کرین ۔ اگر بسبب ضعف قلب کے ہو علاج مثل خفقان ۔ اگر
بسبب ضعف دماغ کے ہو علاج تقویت دماغ کرین ۔ اگر بسبب ضعف جگر یا
معدہ یا گردہ کی ہو علاج تقویت ہر واحد کی کرین ۔ اگر بسبب قلت ریاح کے
ہو علامت سلامتی اعضاء و قلت نفخ و کثرت منی علاج ادویہ و اغذیہ باہیہ
نفاخہ کہلاوین مثل پیاز و نخود و گندنا و انگور و باقلا و پستہ و گوشت برہ و مرغابی
و کبوتر بچہ و انجیر و شیر وغیرہ آگاہی تقویت باہ کے لیے دواسی زیادہ غذا فائدہ بخش
ہے ۔ بدہضمی اور کثرت تناول آب اور کثرت استفراغات و تجففات منی
او مجففات سلج اور اشیای ترش اور مخدرات اور تبرید کثیر باہ کی واسطے مضر
ہے لبوب کبیر گردہ کو گرم کرے اور قوت بخشی اور منی و باہ زیادہ کرے
اور دل و دماغ کو قوت دیوے اعصاب کو محکم کرے صفت مغز پستہ مغز
بادام مغز فندق مغز حبۃ الخضرا مغز گردگان مغز چلغوزہ مغز حب الزلم ماہی روبیان
خولنجان شقاقل بہمنین تودرین زنجبیل کنجد مقشر دارچینی ہر یک سات ماشہ
ستر ماشہ سنبل الطیب سعد کوفی قرنفل کبابہ چینی حب القلقل تخم گزر تخم ترب
تخم شلغم تخم پیاز تخم اسپست تخم ہلیون لسان العصافیر درونج عقربی زرنباد

زرنباد ہر یک ساڑھی دس ماشہ جوزبوا بسباسہ دوالہ دارفلفل ہر یک سات ماشہ
خصیة الثعلب الخبیر تازہ مغز سر گنجشک خشخاش ہر یک پینتیس ماشہ قضیب گاؤ
سودہ سورنجان بوزیدان پودینہ خشک ہر یک چودہ ماشہ مایۂ شتر اعرابی زعفران
مصطگی ہر یک ساڑھی تیرہ ماشہ عود خام نہ ماشہ ورق طلا تیس عدد ورق نقرہ
پنجاہ عدد عنبر اشہب ساڑھے چار ماشہ مشک خالص سوا دو ماشہ کوٹ کر چھانکر
عسل سفید سہ وزن ادویہ مین بطریق مقرر معجون بناوین **روغن مینڈھی**
مقوی باہ **صفت** مینڈھی مع برگ و بیخ و گل لیکر قدرے پانی اوس پر چھڑک کر
کوٹ کر بیس سیر شیرہ نکالکر روغن کنجد پنج سیر اوسمین ملا کر جوشدین جو شیرہ جلکر
روغن باقی رہے **خوراک** سوا دو تولہ **چوہ مینڈھی** تقویت باہ و دیگر امراض
باردہ کے لئی مفید **صفت آن** مینڈھی کو پانی مین اسطرح تر کرین جو نم ہو جاوے
بعد ازان ساتھہ روغن یاسمین و دیگر روغنہای خوشبو کی مینڈھی کو ایسا ملین
جو بہت چرب ہو پس بطور چوہ کے کشید کرین **دوا بصل** مولد منی اور
منعظ ہے **صفت** آب پیاز یکپاو عسل سفید نیم آثار ممزوج کر کے ابالکر قوام
بناوین **خوراک** نہ ماشہ **دوا الترنجبین** واسطے ضعف باہ کی جو بسبب
اوسکا حرارت ہو نافع اور منی زیادہ کرے **صفت** ترنجبین سفید صاف آٹھہ تولہ
نہ ماشہ شیر گاو تازہ ایکسیر مین جوشدین جو غلیظ ہو جائے **خوراک** دو تولہ
معجون منور بہی **صفت** تخم گذر تخم شلغم تخم پیاز تخم گندنا تخم حرمل تخم
مغز چلغوزہ مغز حب القلقل مغز حب الزلم بوزیدان ودج شیرین تودرین
لسان العصافیر شقاقل مصری بہمنین دارفلفل جلتیت قرفہ مساوی الوزن
کوٹ کر چھانکر شہد سفید و نبات سفید ہر دو سہ وزن ادویہ مین معجون بناوین

خوراک ساڑھے سات ماشہ ہمراہ شیر گاو **معجون زرعونی** واسطہ گرم کرنے کے
اور پیدا کرنے لزج و لذت منی کے سفید **صفت** فلفل دراز فلفل زنجبیل قرفہ دارچینی
قرنفل خولنجان ہر یک یکتولہ تودریین بہمنین بوزیدان لسان العصافیر قسط شیرین
سعد سنبل الطیب ہر یک سہ تولہ کوٹ کر چھانکر عسل سفید سہ وزن ادویہ معجون
بناویں خوراک سات ماشہ سے نو ماشہ تک **سفوف عنبر** مقوی باہ
صفت عنبر اشہب یکتولہ مصطگی موصلی سفید ثعلب مصری طباشیر ہر یک
چہار تولہ نبات سفید برابر ادویہ کوٹ کر چھانکر سفوف تیار کریں **خوراک**
چھ ماشہ سے یکتولہ **روغن عاقر قرحا** مقوی باہ **صفت** عاقر قرحا
دو تولہ پونے نو ماشہ نیمکوب کرکے آدھ سیر پانی میں جوش دیں تا کہ پانی ساڑھے
پنجتولہ باقی رہے چھانکر روغن کنجد یا روغن زیت ساڑھے پنجتولہ ملا کر جوش
دیں جو پانی جلکر روغن باقی رہے۔

۲ **سرعت انزال**۔ اگر بسبب ضعف قوت ماسکہ کے بواسطہ برودت
و رطوبت کی ہو **علامت** منی کثیر و رقیق بدون علامت حرارت کے
علاج قی و مسہل سے تنقیہ بلغم کریں عانہ اور خصیہ کو روغن قسط و روغن نرگس
اور مانند اسکے سے ملیں سفوفات عنبرہ کھلائیں۔ اگر بسبب حرارت کی ہو **علامت**
حدت و لزج منی بحالت خروج **علاج** مبردات کا استعمال کریں۔ اگر بسبب ضعف
اعضای رئیسہ کی ہو یہہ نقصان باہ میں بھی ہوتا ہے **علاج** اسکا تحریر ہوا۔

۳ در ورود منی و مذی و ودی۔ منی مشہور ہے **مذی** ایک رطوبت
ہے جو ابتدای شہوت میں جاری ہوتا کہ بسبب ملامست مجری کے بسہولت
منی خارج ہو اور مجری اسکا اور مجری منی کی ہے **ودی** رطوبت لزجہ جو قبل

سرعت انزال

در ورود منی و مذی و ودی

قبل از بول اوسکے رستہ مین جاری ہوتی ہے مجری اسکا اوپر مجری مذی
سیلان منی بسبب کثرت منی کی ہو **علامت** کثرت خروج منی ہیو
بحالت جماع **علاج** جماع زیادہ او تقلیل غذا کرین اور دوا مقلل منی کہلا
دو مقلل شیر ہے وہ تقلیل منی کرتی ہے - اگر بسبب حدت منی کے ہو علا
حدت و زردی منی و حرقت بول **علاج** اشیای باردہ رطبہ مانند نیلوفر
و عناب کے دیوین اخیر دوای باردہ مقللہ منی مثل گلنار تخم کاہو خرفہ اسپ
تخم و بیجکا سنی و کشنیز خشک و سفوف تخم بکنت کہلا دین - اگر بسبب
سردی مزاج اوعیہ منی و ضعف قوت ماسکہ کے ہو **علامت** رقت منی او
بغیر شہوت **علاج** دوای حار مقلل منی مانند پودینہ و سعد و گلنار و تخم سداب و شہد
و زیرہ و کلونجی و معجون کمونی کے کہلا دین - اگر بسبب ضعف گردہ کے ہو **علاج** تقویت
گردہ کرین - درور منی اگر بوقت تصور جماع کے ہو یا بسبب حکایات کی **علاج**
ترک سبب کرین اور تقویت قوت ماسکہ معاجین و اطلیہ سے کرین - اسیطرح
ہی علاج درور مذی و ودی کا **سفوف تخم فنجنگشت** واسطہ درور منی و
مذی کے مفید صفتہ اصل السوس ہفت ماشہ تخم کاہو دہ و نیم ماشہ گلنار چہار دہ
ماشہ گل سرخ تخم سداب تخم فنجنگشت ہریک ہفتدہ و نیم ماشہ کوٹ کر چہانکر
سفوف بنادین **خوراک** ساڑہے دس ماشہ -
۴ **کثرت احتلام** - اسباب اور علاج اسکا مثل درور منی کے ہی اخیر بارچہ
بستر پیشہ پر بانعین مگر ہمیشہ پر خواب نکرین اخیر برگ بید و نیلوفر او مانند اسکے
بستر پر بچہا کر خواب کرین -
۵ **غد یوطہ** یعنی جماع مین براز کری سبب اسکا استرخای اعصاب و تحلیل

رو حرم ۲ ۱ یہ مرض اکثر اوسکو لاحق ہوتی ہے جو مجامعت بکثرت اور لذت کثیر حاصل
علاج حالت خلا مین جماع کرین آخر تا وقتیکہ باز نکرلیوین مشغول
بن آخر گل ارمنی و مصطگی و کندر و گلنار اور مانند اسکے رب بہی و شربت
شیرین مین ملا کر کہلاوین اور انہین ادویہ سے شیاف بنا کر استعمال کرین آخر تقویت
دماغ کرین روغن ناردین و روغن ایہل و روغن بہی و مراہم قابضہ مقعد پر استعمال
آخر زن غیر مطبوعہ سے جماع کرین - غذا برنج بریان و قلایا بازبیرہ و کبک
مدرے روغن - اگر عورت کو یہہ مرض ہو یہی علاج ہے -

منی الدم - یعنی کبھی بجای منی کے خون آوے - سبب اسکا ضعف ہاضمہ خصیہ
کا ہے جو خون کو بالتمامہ سفید کر کے اوعیہ منی مین نہین پہنچتا علاج تقویت گردہ
و خصیے کرین آخر روغن مصطگی مین خصیہ و نو کہین اگر سبب حرارت کی ضعف ہو

کے فریسموس یعنی ذکر متواتر قایم رہے خواہ آرزوی مجامعت یا بلا آرزو کبھی
طول و عظم مین ذکر روز بروز بڑہتا جاوی یہ حالت اندیشناک ہے - اگر سبب
حرارت و غلبہ خون کے ہو علاج فصد و تقلیل غذا کرین آخر پشت و عانہ پر
پارچہ تر رکہین آخر ادویہ سرد مجفف منی کہلاوین - اگر سبب ریح و غلیظ کے
ہو علامت رنگ منی سپید اور قوام رقیق علاج مخرجات بلغم سے قی کرین
آخر حب نای یا دشکن مانند روغن سداب مانند اسکے پشت و عانہ پر ملین -

ورام خصیتین اگر حرارت سی ہو علامت سرخی رنگ و درد و
التہاب علاج فصد باسلیق از جانب سم بعد ازان حجامت یا حجامت قطن
یا جونک - لعاب بہیدانہ مین نشاستہ شیرہ عناب پنبہ دانہ شیرہ تخم کاہو مغز سا
اسکے شربت نیلوفر و قوابہ لگاوین آخر بعد نضج مسہل یا دیکہے سے تنقیہ کرین

اخر آرد جو عنب الثعلب سوت گل ارمنی صندل سفید ہریک شش ماشہ آب گشنیز
سبز مین ضماد کرین اخر سرکہ وگلاب لعاب اسبغول مین پارچہ تر کرکے رکہین
بعد ابتدا کی آرد نخود آرد باقلا ضماد مین ملاوین بعد ازان بابونہ اکلیل الملک صبر و زیرہ
مانند اسکے روغن گل و زردہ تخم مرغ مین ضماد کرین اخر گل ٹیسو پانی مین ابالکر
خصیہ پر باندہین اور اسکے پانی سے نطول کرین واسطہ ورم و تسکین درد و استرخاے خصیہ
کے مفید ہے اخر صبر شراب مین پکاکر ضماد کرین اخر بیضہ سنگ پشت
ضماد کرنا دافع ورم بارد خصیہ ہے اخر مغز بیدانجیر شیر گاو مین پکاکر ضماد کرین
اخر دست مخالف سی پشت ابہام پر رگ کہولین اخر جانب مخالف
درد کان مین سوراخ فراخ کرین اگر دونون طرف ورم ہو دونون طرف سوراخ
کرین اخر جانب موافق ورم قریب بند ہاتھ کے سمت ابہام سے داغ دینا
اگر ورم سوداوی ہو امخاخ و شحوم و صمغ شراب مین حل کرکے ضماد کرین ـ
اگر حاجت تنقیہ کی ہو حسب خلط غالب بعد نضج کی تنقیہ کرین ـ

۶ درد خصیتین اگر حار ہو علامت التہاب و گرمی خصیہ علاج تبرید
کرین اور آب کدوی سبز و آب گشنیز سبز و آب کاسنی سبز و آب عنب الثعلب
سبز اور مانند اسکے مبردات سی ضماد کرین بحالت شدت درد کی افیون و بحالت شدت حمی
کی کافور ضماد کرین ـ اگر بارد ہو علامت قلت درد علاج اصل السوس مقشر نیمکوفتہ
پنجماشہ پرسیاوشان سات ماشہ اور مانند اسکے پانی مین جوش دیکر گلقند دو تولہ
اوسمین ملاکر پلاوین اخر چربی بط و مرغ و روغن خروع و روغن بابونہ
اور مثل اسکے مالش کرین اگر ریاح سے ہو علامت انتقال درد و تمدد بلا ثقل
علاج بابونہ و اکلیل الملک پودینہ و مانند اسکے پانی مین ابالکر نطول کرین

اخیر جند بیدستر روغن سے بیضیوں پر ضماد کرین اخیر تلطول مندرجہ ورد گرده بھی عمل مین لاوین باج سوداوی مین ماء الجبن و تنقیہ سوداکرین اگر بسبب ضربہ یا سقطہ کے ہو علاج فصد کرین اور مرداو سمات غیر قابضہ مانند ضماد و فرو بنفشہ و کدو کے استعمال کرین

۱۰ تعظم خصیتین یعنی بڑہنا خصیونکا بلا ورم و نفخ کے بلکہ فربہ ہوجانے سے جیسا پستان بڑہتا ہو علاج ابتدا مین ادویہ سرد مخدرہ مانند بیخ شوکران و سیب و پوست خشخاش و کاکنج و سنگ اسیاد حکاکہ حجر المسن حکاکہ سرب آب کشنیز مین طلا کرین اخیر جو دوا مانع بڑہنے کے پستان ہے اسمین بھی مفید ہے بہ یہ مرض بصورت استحکام لاعلاج ہی۔

۱۱ ارتفاع خصیتین اگر خصیہ خود ہوکر کیس سے جانب بالا طرف جانکے باد علاج تلطول مندرجہ ورد گرده بھی استعمال کرین اخیر روغن بابونہ روغن سوسن ملین اخیر ادویہ گرم مثل حلتیت و حلبہ فرفیون ضماد کرین اخیر روغن فرفیون عنبرہ گاو نروانگوزہ و مرزنجوش و حلبہ و اکلیل الملک بابونہ مع العسل مین طلا کرین بعد حمام کے مجیذ برگ رکہکر خصیہ کو نیچے لاوین غذا مین ادویہ باہیہ ملاوین اسیطرح ہے علاج

۱۲ ارتفاع قضیب کا اور قضیب بالکل مرتفع ہوتا ہو جو ظاہر مین بالکل ظاہر نہین ہوتا

۱۳ صغر خصیہ کی لئی ارخا تسخین عمل مین لائین

۱۴ دوالی و صلابت صفن۔ یہ اکثر جانب چپ ہوتا ہی دوالی رگہای کیس خصیتین مین ظاہر ہون صلابت صفن سختی و درشتی جلد خصیہ علاج مثل دوالی یا ورم خصیہ کے کرین۔

۱۵ استرخای صفن بسبب حرارت یا رطوبت ہو کہ کیسہ بلند و سست ہو علاج ادویہ باردہ قابضہ مانند مازو و آس و گل۔

نفث بلوط و گزانج کے پانی میں آیا بار ... رسول اوسکا بار مین دو

ہٹیں اور کہ آب پوست انار مین بھیگکر ضماد کرین –

١٦ قروح ذکر و خصیہ حوالی آن علاج مرہم سفیدہ و مرہم زنگار

اور مانند اسکے مراہم مدملہ لگائین آخر صبر و مرداسنگ اقلیمیا مغسول شراب

مین بھیگکر ضماد کرین – اگر قرحہ کہنہ ہو مجففات قویہ مانند وقاق کندر و کاغذ سوختہ

مرہم ضماد یا بھیگکر ذرور کرین – اگر از قسم اکلہ ہو فلدفیون ملکرا دویہ مدملہ استعمال کرین

اگر قرحہ داخل قضیب ہو علاج اسکا حرقت البول مین تحریر ہوا –

١٧ حکہ قضیب و خصیہ علاج فصد کرین آخر اسبغول پیس کر لگائین آخر

سرکہ و آب کشنیز سبز مین ضماد کرین

تنقیہ سوا ...

آخر ذکر ... اگر مادہ غلیظ ہو ...

... استعمال

... انہین ... قضیب ... انثیین پر جونک

کرین – ١٨ اورام قضیب – علاج مثل اورام خصیہ

جونک کا نفس قضیب پر بٹھا ہی بضرورت قوی حوالی قضیب پر لگائین – اگر ورم حار

ہو علاج مدس گلنار ورق کلسنج پوست انار پانین یا ملکر کوٹ کر روغن گل

مین ملاکر ضماد کرین – اگر ورم بارد ہو علاج آرد جو خطمی شبنہ خرما روغن بابونہ

سرکہ مین ضماد کرین – ١٩ ثالیل قضیب – علاج مثل سائر ثالیل

آخر بورہ محرق و خاکستر چوب انگور طلا کرین –

٢٠ شقاق قضیب – علاج مثل شقاق مقعد – آخر مردہ سنگ سفیدہ

زردہ بیضہ مرغ و روغن گل مین طلا کرین – ٢١ سدہ مجری قضیب

اگر بسبب بثرہ کی ہو علامت سوزش و عسر خروج بول علاج فصد باسلیق

کرین اور لعاب بہیدانہ مقشر ہفت ماشہ

شیاف ابیض ہمراہ شیر دختر و

غلیظ کے ہو علامت عسر بول بلا

حرارت مادہ مثل ادیان تخم خربوزہ ہر یک شش ماشہ انیسون تخم کشوث

سہ ماشہ شربت بزوری دو تولہ کے دیوین آخر آدویہ ملطفہ مانند بابونہ و صعتر

و نحو ان کے پانی میں ڈالکر نطول کرین آخر روغن بابونہ روغن سوسن

۲۳ بندکشا دیعنی سوراخ قضیب کشادہ ہو علاج

اور پانی کے دیوین آخر فتیلہ کہ اُسکو سوراخ مین رکہیں

عفوص کو چہال ڈہاک چہال مولسری چہال

ببول مٹیہہ گوند ببول گوند ڈہاک گوند کوکنار نخود بریان

ہر ایک ستہ ماشہ

قضیب ٹیڑہی ہو علاج مثل تشنج آخر روغن نرگس و

روغن چنبیلی بط و مرغ و مغز ساق گاو ملین اور ہاتہ سے سیدہا کرکے باندہین

۲۴ تولول مجری قضیب علامت عسر خروج

بول بلا حرقت و بلا بلغم علاج صبر روغن گل مین ملاکر ٹپکاوین آخر سفیدہ

کو تحلیل کرکے ٹپکاوین اگر درد شدید ہو فصد صافن کرین بشرطیکہ مانع

نہو حجامت کرین — ۲۵ عاقوتا قضیب یا فم رحم مین قرحہ پیدا ہو اور اسمین

خشکی شدید ہو یہ مرض اندیشناک ہے علاج فصد باسلیق اور ترنجبین شیر

خشت و سنا مکی سے مسہل کرین — صندل اسفیداج و گل ارمنی و افیون آب

کاہو و کشنیز مین ملاکر آرد شعیر آب عنزہ ملاوین قضیب پر لگاوین

علاج مسافرانہ امراض اعضای تناسل ۱ نقصان باہ

پست تخم بکاین کنجد سیاہ ہر دو بوزن برابر قند سیاہ ہمچند او دیہ ملا کر ایک تولہ
ہر روز ہمراہ شیر گاو کی دیوین آخر — سلاجیت تین ماشہ کو نکر چہانکر شیر گاو
یک آثار مین جوش دیکر نبات سفید سی شیرین کرکے ہر صبح پلاوین آخر تخم شلغم
کوٹ کر سفید تخم مرغ مین ملا کر نیمبرشت کرکے قدری نمک اضافہ کرکے کہلا دین ہلیلہ سیاہ
تین عدد کرین آخر خشخاش مع صلی جوزبوا اسگند فلفلموبہ شونیز قرنفل عاقرقرحا
کوٹ کر چہانکر بمقدار کنار جنگلی حبوب بنا کر ایک گولی ہر روز صبح کہلاوین آخر
سحیقہ سپستان شیر گاو مین جوش دیکر نبات سفید ملا کر پلاوین آخر آب
پیاز و شہد ہر یک یک آثار قوام معجون کا بنا کر تودری سرخ و سفید و خصیۃ
الثعلب بہمن ... تخم ... سیاہ ... تخم ... تخم شلغم و تخم گندنا و تخم کہا ...
... صلی سفید و سیاہ از
... کا خورد ملا ... کہلاوین آخر خصیۃ ... بریان کر
روز کر ... حیقہ خصیۃ الثعلب شہد و آب بیضہ اکیان مین ملا کر
... شیر گاو مین جوش کی اور صاف کرکے نبات سفید
... بعضنگ عنگاو مین بریان کرکے شہد ملا کر کہاوین آخر
... مین ملا کر کہاوین آخر ورق طلا پنجعدد زردہ تخم
... ملا کر نیمگرم نہار منہ کہاوین آخر شکر سرخ و شہد
... اسگندہ سفید یکماشہ بارہ پہرکہرل کرکے سوی حشفہ
... صبح روغن زرد جو سو بار پانی مین دہوا ہو لگاوین
... عنبر اشہب عطر گلاب ہر یک ... ماشہ ملا کر ...

نسخہ عاقرقرحا خراطین شنگرف ہر یک شش ماشہ پیسکر شیر اک مین ملا کر پارچہ
پر طلا کرکے ذکر حشفہ و سیون چھوڑ کر باندہ مین اسیطرح تین روز تجدید عمل کرین اگر
سوزش ثبورات مین زیادہ ہو اور مریض متحمل نہوسکے روغن گاو شستہ لگادین جلوق
ومناہم کی ایسی نافع ہے نسخہ سہاگہ تبلیہ گندک آملسار شنگرف تری پیسکر پانی مین
ذکر پر ملین نسخہ مغز چنبہ انساسیدہ زردہ بیضہ مرغ مین طلا کرین نسخہ
سنکہ سپید شنگرف ہر یک دو ماشہ پیسکر زردہ بیضہ مرغ یکعدد مین کہرل کرکے
... ... گولیان بناکر ایک گولی لعاب دہن مین کہسکر بالای ذکر طلا کرکے
... اگر زخم ہو روغن گاو ملحمہ بلجیہ لگاوین نسخہ مغز چہگا و مغز ... ہینگ
ہر یک ... عدد ... نرگس جوک ہر یک دو عدد بیخ کنیر سفید دو تولہ ...
ماشہ ... مغز بہلاوہ پنجعدد تبلیہ کہلہ ہر یک دو ماشہ مرچ شش ماشہ
... تولہ ... عدد خایہ خروس ... عدد
... مین جوش

...
دین تا کہ دودہ جذب ہو اور روغن باقی رہے اوس ...
... کر ... کرکے دیگر اودویہ پارچہ پر کرکے
... جسقدر مغز نکلے ہموزن اوسکی چربی خو...
چربی نہنگ اور بقدری مشک خالص اوسمین ملا کر ...
ذکر پر لیپ کرکے پان باندہین متواتر ایک ہفتہ کرین
... طلاو ... جلوق و ... سستی
... انزال گل مولسری خشک کو ...
ملا کر سفوف بناوین خوراک تین ماشہ نسخہ

دال نخود خام افیون ہر یک یکتولہ بھنگ پنجتولہ گل کنیر سفید بیست و ہشت عدد سفوف
بناکر بقدر دو سرخ یا کم و زیادہ ہمراہ شیر گرم کے کہلاوین آخر بیخ تلسی سیاہ
برگ پان مین کہلاوین آخر شنگرف و مصطگی و عاقرقرحا و جوزبوا افیون از ہر یک سات ماشہ
بیخ یا شست کوٹ کر چہانکر شہد مین بیس گولیان بناوین ایک گولی بوقت عشا
کہاکر اوپر سے بیڑہ پان کہاوین آخر دانہ تمر ہندی چار روز پانی مین تر کرکے
مغز کرین اور وہ وچندا وسکے قند ملا کر کوٹ کر بقدر نخود گولیان بناکر دو
گولیان کہلاوین آخر آرد عدس خون گنجشک مین جو بوقت ہیجان پکڑی
گولیان بناکر بوقت حاجت ایک گولی روغن کنجد مین حل کرکے ذکر و ناف
پر ملین بعد تین گہڑی کے جماع کرین آخر مغز تخم کچلہ یکتولہ دہتورہ نہ تولہ
نشیشہ گل حکمت مین روغن بناوین ضرورتا ذکر و ناف پر ملین اور مجامعت کرین
آخر شیر بیخ و برگ دہتورہ [illegible] کرین بعد خشک ہونیکے جماع کرین
آخر چوتری چار ماشہ چابکر لعاب اوسکا ذکر پر ملین آخر انگوزہ قدرے
ہتیلیون پر ملکر جماع کرین مقوی منعظ و ممسک و ملذذ ہے آخر تکس [illegible]
بریان کرکے ہتیلیون پر ملکر جماع کرین ممسک منعظ و ملذذ ہے ۔

۳ جریان منی و مذی و ودی ۔ سبوس اسپغول چہ ماشہ ہمراہ آب
سرد ہر روز کہلاوین آخر کتا سیک و نیم پاو پختہ پانی مین چار گھڑی تر کرکے
ملکر چہانکر دال ماش سیاہ یک اثار پختہ اسمین تر کرکے اور بدستور مقرر اوسکو
تر کرکے سایہ مین خشک کرکے باریک کرین اور روغن اسکے شکر تری ملا کر بقدر
چار تولہ صبح ہمراہ شیر گاو یا بکری کے دیوین ترشی و اشیاء گرم سے پرہیز کرین
آخر گل ملتانی سفید چار تولہ آب لیمون کاغذی دہ عدد مین کہرل کرکے

کوزہ گلی مین ڈالکر یا جلد شتی جار آثار پختہ مین سوختہ کرین اور ایک ماشہ ہمراہ نقوع گل
منڈہ کے دیوین **اخر** چربی گردہ بزگرم دو تین تولہ یا زیادہ ہمراہ نان کے کہلاوین
واسطے اوسکے جو بعد بول کے بسبب ضعف گردہ کی تین یا چار قطرہ منی کے آوین مفید ہے
اخر تخم لوبیا مقشر خشک ہر ایک ہموزن کوٹ کر یا بہین جوش کرکے صاف
کرین اور تہوڑا شہد سپید زرد چوب ملاکر نہار پلاوین ہر نوع پر سو کی یا پیشاب نافع **اخر**
لوبیا بار جوش زرد چوب مین کہرل کرکے خشک کرین اور قدرے اسمین شکر و
شہد ملاکر چند روز نہار مریض کو کہلاوین بہت نافع ہیگا **اخر** تخم وہتورہ بریان
ایک تولہ باریک ترکرین اور تین تولہ شکر تری ملاوین قدری ہر روز نہار کہلاوین **اخر**
خوش تر پیالہ مین قدری بیج کہار و شہد ملاکر نہار پلاوین **اخر** شہد انج بریان
شہد مین کہلاوین **اخر** خاص واسطے رفع مذی و ودی کے بسبب جوہر بولا
عاقرقرحا دارچینی قرنفل سپند کنجد سیاہ اوان ہر ایک ہشت ماشہ کوٹ کر
چہانکر شہد مین گولیان بناوین تین روز تک ایک گولی روز ہمراہ شیر گاو
روز چہارم ایک تولہ صبح ایک تولہ اختتام تمام گولیون کے کہلاوین **اخر**
گل خشک سا ئیدہ مین شکر تری ملاکر نہار دو کف ہر روز کہلاوین **اخر** تخم بہیا
تخم بلبل ہر ایک سہ ماشہ تالمکہانہ گوکہرو اندر جو شیرین ہر ایک ششماشہ لسوڑہ
و چہار ماشہ شکر تری ہموزن سفوف بنا کر ایک تولہ ہمراہ آب سرد کی کہلاوین
ورم انثیین وقضیب گل بنفشہ گل خطمی از ہر یک پنجماشہ خار خسک
قیصوم از ہر یک دو ماشہ بابونہ اکلیل الملک از ہر یک چہار ماشہ برگ خیلو فرنگیم ماشہ
آب کاسنی تازہ مین ضماد کرین واسطے تحلیل اورام حارہ انثیین وقضیب کے جو درد
و سوزش کے ساتھہ ہو مفید **اخر** برگ کلم اور سیر انجیر زرد دہ عدد حلبہ ابنو

بابونہ موویز منقی از ہریک پینتیس ماشہ پانی میں پکا کر روغن ملا کر ضماد کریں و اسطے اورام
باردہ انثیین کے نافع ہے **آخر** قیصوم اکلیل الملک بابونہ از ہریک ہفت ماشہ گل بنفشہ
گل خطمی از ہریک چہار ماشہ گل سرخ دو نیم ماشہ کوٹ کر چھانکر لعاب السی یا لعاب مرو
میں ضماد کریں ورم و سختی خصیہ کے لئے ہے۔

۵ **تعظم خصیتین** - تازہ سبز پھٹکری از ہریک پونے دو ماشہ سفیداب
قلعی طین قیمولیا از ہریک سات ماشہ شہد و روغن گل میں ضماد کریں **آخر** موم زرد
چربی مرغ چربی گردہ بز از ہریک پینتیس ماشہ زردہ تخم مرغ یکعدد مصطگی پونی دو ماشہ
سب کو پگھلا کر مویز منقی پینتیس ماشہ ملا کر ادویہ باریک کر کے ضماد کریں۔

۶ **خارش خصیہ** - برگ بھنگ یکپاؤ پانی تین سیر میں جوش دیں جب
دو سیر رہے خصیہ کو اوسکے ساتھ دھو کر ثفل اوپر باندھیں ورم خصیہ کے لئے بھی نافع
ہے **آخر** شیاف مامیثا اقاقیا از ہریک چودہ ماشہ نوشادر چہار سرخ اشنان
سات ماشہ زعفران دو جو روغن گل و سرکہ میں طلا کریں۔

۷ **ارتفاع خصیتین** خصیہ کا اوپر کو مرتفع ہونا بسبب برودت شدید مزاج و
ضعف خصیہ کی گیا ہو برگ زیتون برگ سرو اشق مقل ازرق مویز منقی
نرم کوٹ کر ماء العسل میں ملا کر روغن گاؤ روغن شبت روغن قسط ضماد کر کے ضماد کریں

۸ **اعوجاج قضیب** - مرمکی سات ماشہ زعفران ساڑھے تین ماشہ
قسط تلخ زراوند فرفیون از ہریک ساڑھے دس ماشہ علک الانباط زفت رومی
سیعہ سائلہ از ہریک ساڑھے سترہ ماشہ - زفت کو روغن گل یا روغن کنجد یا روغن
نرگس میں پگھلاویں - مر و زعفران کو شراب میں حل کر کے باقی ادویہ کوٹ کر
چھانکر ملا کر ادویہ دستہ کے ساتھ مثل مرہم بنا کر ضماد کریں - بعد تنقیہ کے

اگر غذا تلخ ہو سبب ... انشا کے ہو تو عنبہ خشخاش پوست تخم خرفہ ہر یک ۵ ماشہ پیاز
نرگس و نیم ... ماشہ وزن ہر ایک نیم ماشہ وارچینی کباب ... دو سرخ جوز بوا کیماشہ
افیون مصری چہ سرخ کوٹ کر ... گولیاں ... میں بنا کر گنبد کی طرح کر کے ترمیں
بنا کر خشک کریں اور وقت ... میں ... کریں منعظ اور محکم
کننده اعصاب بھی ہے۔
۵ جند کوشاد ۔ موچرس سپاری چھالیہ ہر یک دو ماشہ ہلیلہ سیاہ خشت کہنہ
مصطگی ہر یک کماشہ کوٹ کر چہانکر زردی بیضہ مرغ نیمبرشت میں ملا کر کہلا دیں خشخاش
... تین ماشہ ہمراہ آب یا شیر کے کہلا دیں خشخاش تالمکہانہ سیہ لکڑی تخم
انگن ... ہر یک پنجتولہ مصری سیاہ بیخ سفید سیاہ بیخ سفید سرخ ثعلب
مصری ۵ تولہ شقاقل مصری دو دام ... نباتہ زنجبیل موچرس جوزبوا
دارچینی یک ... دار فلفل نیم دام شیر ... یک ... شہد خالص ... یا
نبات سفید ... سجون بنا دیں خوراک ... نیز مقوی باہ ہے
۶ کثرت احتلام شناخت ... تولہ ... تولہ الائچی کلاں دارچینی
جوزبوا ہر یک پنجتولہ تخم خشخاش ... معجون بنا دیں
تیز واقع جریان منی ہے ۔ اگر بسبب ضعف قوت ... و
ہندی جوز ... نارنج گلنار ... سفید ... آب
برگ ... گلاب میں ... کریں اور ملیں ۔
۱۱ مسمنات و مطولات و ملذذات و منعظات و مضرات
۱ منعظات ۔ قرا ملین خشک مغز ... چوک یا آبار ... خشک
ایک ... و چو بادآورد ... شیشہ گل ... حکمت میں ... بحالا کر ... ملیں خشخاش ... بیل

تا جبتک تازہ جسمین پانی ہوا گرمیہو بجای پانی کے شیر تازہ گرم کرکے اُسمین ڈال کر خشک کرکے پیسکر ڈکر پڑ پلا کرین آخر زوکرکو ملکر سرخ کرکے شیر میش کشندہ و بدبو دار او سپر طلین آخر اول طلین پھر روغن سوسن پیکر جذب کرین ۲ آب گرم سے قطع کرین پھر زفت طلا کرین صفت دہن دوسرا جو چھوٹا زہفت ۔۔۔ روغن زنبق شیشہ مین ڈالکر ایک دن رات سرگین گوسفند مین دفن کرین تیار ہے اور مقوی باہ بھی طلا ہے آخر آب کرفس سے پکر دھو دین آخر روغن گو سفند سے ملکر جذب کرین اور خر اطین پانچوک خشک روغن سوسن مین پیکر طلین آخر جونک چربی ماہی مین ملاکر طلین چند روز ڈالکر آب گرم کے ساتھ ملکر سحیقہ اندر جو شیر گاو مین ملاکر طلا کرین آخر خر اطین جونک ہر ۔۔۔ خشک کردہ سائیدہ شیر میش مین ملاکر طلا کرین —

۲ مطولات بتجربہ جوانی اور نمو کی یہ مطلب حاصل نہین ہوتا ۔ سر شفت سفید کانٹی کلان اسپند قسط تلخ اسگند مساوی کوٹکر چھانکر پانیمین تضیب پر طلین اور اوپر پارچہ باندھین اور سطبر بھی کرتا ہے آخر وزنج و مرچ جنگلی ہر یک پنجتولہ سائیدہ و چربی شیر و قرنفل جنگلی ہر یک ہفت تولہ تخم ترب و تخم گندنہ ہر یک چہار تولہ بطریق پچہ کرین اور زاگ سرخ و شنگرف و استخوان ماہی سوختہ و مازو و سرمہ و شیطرج ہر یک یکتولہ خراطین ہفت تولہ افیون و بیر بہوٹی وزن ہر دو دو تولہ باریک کرکے چوہ مین ملاکر قدرے طلا کرین بسانیع مسعد جانی آخر حقیقہ خر اطین چربی ماہی مین ملاکر طلین آخر ۔۔۔ روغن تلخ مین ملاکر گرم کرکے طلا کرین ۳ ملذذات کا فون جسیمہ

یعنی بهیڈ کی

عاقرقرحا قرنفل سہاگہ دانہ الائچی خورد ہر یک دو ماشہ شہد میں حبوب بنا کر حب پہلے
[illegible] برطلا کریں تیز سنبل زن **اخر** موچ ترکی عاقرقرحا برابر باریک
[illegible] شہد میں ملا کر قضیب پر ملیں اور بعد ایک گہنٹہ کے باریک پارچہ کی ساتھ
پونچھ کر جماع کریں مقوی و ممسک بھی ہے **اخر** تخم انجرہ چربی شیر ببر یکجا کر
کر ملکر مجامعت کریں بمنافع صدر **اخر** خصیہ گربہ سیاہ چربی بز سرخ روغنین
بریان کریں جب سوختہ ہو جاوے اور روغن رہ جاوے اوسکو قضیب پر طلا کر کے جماع کریں
منعظات گرخولنجان خصیۃ الثعلب عنبر اشہب ہر یک دو ماشہ قرنفل
مصطگی مشک یکیک ماشہ زنجبیل ابرک [illegible] تین ماشہ کوٹ کر چہانکر بقدر قند گولیاں
[illegible] میں ایک گولی ہر روز [illegible] شراب یا شیر گاؤ تازہ یا آب ترہ تیزک یا آب تخم
خاص کہاویں **اخر** قرنفل فلفل سفید کبابہ چینی قرنفل عود ہندی از ہر یک ماشہ
زعفران نیم ماشہ [illegible] دو ماشہ ازفلفل [illegible] ماسفتہ گل بابونہ یکیک ماشہ کوٹ کر چہانکر
قند میں قوام کر کے بقدر نخود گولیاں بنا کر ایک ماشہ ہر روز کہلاویں **اخر** تخم
سیاہ سقنقور ہفت ماشہ دار چینی قرنفل جوزبوا البسباسہ چند سو ختنی ہر یک
پنجماشہ کوٹ کر چہانکر شہد میں معجون بنا کر ساڑہے دس ماشہ ہر روز کہاویں
منزلات زن سہاگہ کافور یکیک ماشہ شہد شش ماشہ باہم پیسکر بقدر
نخود گولیاں بنا کر سوکی خشفہ کے طلا کر کے مجامعت کریں **اخر** سیماب دو
دو ماشہ کافور سہاگہ ہر یک ساڑہے تین ماشہ پانی یا شراب میں صلایہ کر کے
قضیب پر طلا کریں بعد خشک ہونیکے مجامعت کریں **اخر** شہد کافور
سیماب پیسکر قضیب پر طلا کر کے بعد دو تین ساعت کے جماع کریں **اخر**
کافور شہد قند پیسکر آب برگ تمر ہندی میں حل کر کے ذکر پر طلا کریں بعد

بعد دو گھڑے کی مجامعت کرین ـ

فصل ہجدہم مین علاج امراض زنان مرقوم ہے ـ

۱ ورم رحم ۲ شقاق رحم ۳ نفخ رحم ـ ورم رحم اگر حار ہو علامت
تپ تیز و سیاہی زبان و ضربان اگر درد سر خاصۃً تارک اور عانہ مین ہے ورم مقدم
رحم مین ہوگی اگر درد قطن و پشت مین ہے ورم موخر رحم ہے درد خاصرتین بصورت
ورم ہر دو جانب رحم اکثر درد شدید جانب ران میل کرتا ہے اگر عسر البول ہے ورم
مقدم رحم مائل یا عالی ہے اگر عسر البراز ہے ورم موخر رحم مائل با سفل ہے اور تواتر
نفس و نبض و فساد معدہ و دماغ علاج فصد باسلیق و صافن و تبرید و منضج و
مسہل مندرجہ سلم عمل مین لاوین آخر ابتدا مین آرد جو باقلا نخود و
بنفشہ آب کشنیز و کاسنی سبز مین ملاکر قدری کافور اضافہ کرکے عانہ و ناف پر ضماد
کرین آخر لعاب روغن و عصارہ سرد رحم پر ٹپکاوین آخر حمول جدوا
استعمال کرین آخر شیرہ خرفہ و شربت بنفشہ آب بہ و آب انار منجوش سے روغن
بادام و قند و لعابین و مانند اسکے کہلاوین آب سرد نہ پیوین ـ بصورت قبض گلقند
و عناب سپستان و آلو بخارا جوش کرکے ملکر چہانکر مغز فلوس و شیر خشت و تیل
ملکر چہانکر روغن بادام ملاکر پلاوین ـ یا آب کاسنی و عنب الثعلب و شربت
بنفشہ و مغز فلوس دیوین ـ اگر ورم تحلیل نہو اور ارادہ جمع کرے علامت
شدت عوارض علاج لعاب حلبہ و تخم کتان وغیرہ نیم گرم سے حقنہ کرین آخر
بابونہ و حلبہ و تخم کتان و خطمی و بنفشہ و آرد باقلا جوشاندہ انجیر مین
ضماد کرین آخر آب گرم مین بیٹہین جو نضج پاکر منفجر ہو بعد ازان

دو [illegible] حب [illegible] و تخم خیارین و تخم کاسنی و دیگر مدرات خفیفہ طبیخ
اگر پیشاب [illegible] ایک سوا [illegible] وقت مرہم [illegible] لگاویں - اگر ورم [illegible] سوء مزاج
[illegible] نقص [illegible] علاج مثل [illegible] و [illegible] حقنہ کریں اگر ورم
[illegible] علامت آئینہ ورم [illegible] پیدا ہو [illegible] سوختہ
ثقل [illegible] اور سلسلہ [illegible] ثقیلہ [illegible] اور صلابت اور ورم گردن رحم میں صلابت
مانند [illegible] میں [illegible] اگر ایک جانب رحم کے ورم ہے ایکطرف مضطرب اگر دونون
طرف [illegible] مضطرب اور ایک جانب میلان رحم کا اور درد کمتر علاج فصد
باسلیق [illegible] اسہال سودا و ماء الجبن مطبوخ افتیمون و گلقند عمل میں لاویں حقنہ
مرہم خنازیر [illegible] باسلیقون و مقل و پیہ مغز و روغن نرگس و سوسن شبت و
بابونہ و [illegible] و حمول و فرزجہ کی استعمال کریں حقنہ شبت و
کرنب و اکلیل الملک [illegible] بنفشہ و بابونہ و مرزنجوش پانی میں جوش کرکے اوسمیں بٹھاویں
حقنہ بابونہ و [illegible] کرنب و حلبہ و اشق و میعہ و مقل لعاب اسغول و کتان و
روغن و موم میں ورم [illegible] کریں - شقاق رحم - علامت لزوم وجع
اور زیادتی درد کی ہنگام جماع اور دبانے سے اور بو [illegible] دخول حشفہ خون آلود و
علاج مثل شقاق مقعد - حقنہ مرہم شمع و مرہم سفیداب کافوری لگاویں
حقنہ مرہم باسلیقون میں چربی بط و مرغ و روغن بنفشہ لگاویں
زرقہ روغن بنفشہ [illegible] گاو میں لگاویں - نفخ رحم - علامت
[illegible] میں ورم [illegible] نفخ [illegible] درد [illegible] سعدہ اور قراقر اور ضربان
اور انتقال درد [illegible] اور آواز طبل کے وی علاج [illegible] جاتے
تنقیہ بدن کریں حقنہ [illegible] دیگر جوارش [illegible] تخمین [illegible] و تلطیف

تو لطیف و کبر ارباح کی واسطہ کہلاوین آخر روغن سداب و شبت زیر ناف
پشت پر ملین آخر اجواین زیرہ برنجاسف بادیان تخم کرفس سداب پودینہ مرزنجوش
شبت بابونہ بطور حقنہ و فرزجہ و ضماد و تکمید و آبزن کے استعمال کرین آخر تدابیر
استسقائے طبلے عمل مین لاوین — **حمول جدوار** محلل ورم رحم **صفت** جدوار
اسود عنب الثعلب گل ارمنی رسوت صندلین آب عنب الثعلب سبز و آب کاسنی
سبز مین پیسکر ساتھ پارچہ کے رکھین **مرہم زعفران** واقع ورم صلب و صلابت
رحم **صفت** کندر بابونہ زعفران زردی بیضہ مرغ ہریک ۲ ماشہ موم سفید روغن
گل مغز ساق گاو چربی گردہ بز ہریک یکتولہ مرہم بناکر شیرہ عنب الثعلب سبز کی ساتھ
استعمال کرین **ضماد شیرمیش** بمنافع صدر **صفت** شیرمیش شیر شتر
روغن بید انجیر ہریک آدہ آثار ملاکر پکاوین جب منعقد ہوں زنجبیل یا نخواہ ہریک
یکتولہ کوٹ کر چہانکر اوسمین ملاکر زیر ناف ضماد کرین **مرہم شحوم** واسطہ تسکین وقت
رحم کے **صفت** چربی بط و مرغ و مغز ساق گاو و روغن بنفشہ و موم سفید مرہم بناکر
استعمال کرین — **کثرت طمث** یعنی زیادتی حیض کے — یا ایام حیض
مین خون بکثرت آوے — یا بعد گذرنے ایام کے سیلان باقی رہے — یا غیر ایام کے
خون آوے — انواع اسکے چند ہین اور معالجات ہر نوع کی علیحدہ مطولات مین ملاحظہ
فرماوین مختصراً علاج مرقوم ہوتا ہی **علاج** مانند بواسیر خونے آخر گندک
آملہ سار چہار و نیم ماشہ نرم پیسکر ایک ہفتہ متواتر ہمراہ شیر گاو کی کہلاوین آخر
ضماد حنظل یا نا لگائین آخر تو نبری لاگ کے زیر پستان لگاوین آخر پستان کو
باندہین آخر آملہ مقشر یا دیان ہریک تینماشہ رات کو پانی مین تر کرکے صبح ملکر چہانکر
شکر سفید ایک تولہ ملاکر دیوین آخر شیرہ برگ بانسہ یا شیرہ بیخ خرفہ مین

ہمیشہ عصارہ برنج ملا کر پلاوین **آخسر** برگ مرم وندی گنجد سیاہ پیسکر کہلاوین **نمبر**
تخم ڈاک عصارہ برنج کی ساتھ پلاوین واقع اسہال فرزین ہی ہے ۔ سب ادویات مصد
عابس طمث ہین **آخسر** **اجزای ضماد حنظیا تا** حنظیا تا و برگ حناسادی کوٹ کر پانی مین
ملا کر ادث وست و پا پر ضماد کر سکے ایک گہنٹہ دہوپ مین بیٹہین ۔

ف سیلان رطوبت فرج ۔ **علاج** ۔ حمول مازو استعمال کرین ۔ اگر بسبب غلبہ
ایک خلط کی اخلاط اربعہ سی ہو **طریق دریافت غلبہ خلط** ۔ پنبہ تو فرج مین رکہکر
نکالکر دہوپ مین خشک کرکے کی رنگ سی غلبہ خلط معلوم کرین **علاج** **بحسب غلبہ خلط**
تنقیہ کرین **آخسر** تخم دسیاہ و فربیون و حب السلاطین و اذخر وایرسا پانی مین یا الکر
ابارچ فیقرا ملا کر رحم مین حقنہ کرین بشرطیکہ حرارت نہو ۔ اگر حرارت ہو شیرہ تخمہای مدر
سے تنقیہ رحم کرین بشرطیکہ ۔ جب بدن ورحم پاک ہوجائی فرزجہ ہا اور حقنہ ہا مقوی رحم
استعمال کرین **آخسر** اسہ ترشیدہ مقشر و سنگ جراحت مکائن و صندل سفید ہر یک
تولہ نبات سفید نہ تولہ سفوف بنا کر ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ پانی کے کہاوین
آخسر کہربا و گل سرخی ہر یک یکتولہ پیسکر نیم ماشہ صبح اور نیم ماشہ شام زردہ تخم مرغ
نیم برشت مین کہلاوین **آخسر** بقول ہندیان اللہ بچی و ترنج پیسکر شراب مین ملا کر
پلاوین **آخسر** نبات نو دخت ڈاک سایہ مین خشک کر کے شکر تری ملا کر کہلاوین
سفیق فرج بہی ہے حمول مازو ۔ مازو سبز تخم عافس ہریک ہفت ماشہ جبت الصید
ہر یک مہ ماشہ و نیم ماشہ کوٹ کر چہانکر جفت بلوط ملا کر پانی مین با الکر صاف
کرکے پارچہ اوسمین تر کرکے اور یہ کوفتہ اوسپر ڈالکر فرج مین رکہین ۔

ئ سیلان منی ۔ **فرق** رطوبت اور منی مین یہہ ہے
جو منی مین بخلاف رطوبت کے سفیدی رنگ و غلظ قوام و

معفونت ہوتی ہے علاج شل رورمنی مردان آخر تخم تمر ہندی کو ایک رات دن
پانی مین ترکرکے مقشر کرین اور پھر اوسی پانی مین ترکرکے خشک کرین دو تولہ اور
مغز تخم بکائن چہہ ماشہ صندل سفید تین ماشہ نبات سفید بوفی تین تولہ سفوف بنا کر
کہلاوین بمقدار مناسب نیز سیلان رطوبت کی لئے نافع ہی آخر دال ماش مقشر
تخم تمر ہندی ہریک چودہ ماشہ گل دہاوہ گل ببول صمغ ببول وسنبل سنگہارہ کمرکس
موچرس سپاری گل سنڈی شقاقل مصری ستاور تالمکہانہ بیخ بنہہ گجراتی ہریک
چہہ ماشہ شکر سفید ہموزن ادویہ سفوف بنا کر یک کف دست ہمراہ شیر گاو دیا آب سرد
کے کہاوین ۔ احتباس نفاس ۔ علاج پرسیاوشان مشکطرامشیع پوست
املتاس قند سیاہ کہنہ پانی مین ابالکر چہانکر دیوین آخر دیگر مدرات پلاوین ۔ اگر
حاجت ہو فصد اور پچہنہ بر ورساق پر لگائین ۔
۔ احتباس طمث ۔ اگر بسبب قلت خون کے ہو علامت لاغری و ضعف
وزردی بدن وکثرت استفراغات خصوص استفراغ خون علاج غذا جید الکیموس
اور مقوی ومولد خون کہلاوین آخر زردہ بیضہ مرغ نیمبرشت اور گوشت و
شوربای مرغ فربہ اور گوشت گوسفند جوان اور شیر وشیرینی کہلاوین آخر حمام
مرطب کرین آخر مشغول بعیش وعشرت ہین ۔ اگر بسبب غلظت یا غلبہ
اخلاط غلیظہ کے خون غلیظ ہو جائے علامت سپیدی وسستی بدن وکسل
وکہاو خواب گران وزیادتی بول وبلغمیت براز بسبب قصور ہضم معدہ اگر کبھی
تو خون رقیق آوی علاج تنقیہ اخلاط غلیظہ کی لیئے ایارج وغیرہ سے اسہال کرین
ترقیق وسہولت جریان خون کے واسطے یہ دوا دینا انسب تخم کرفس مشکطرامشیع بادیان
جوش کرکے یا شہد یا قند مین معجون بنا کر کہلاوین آخر شبت ومغز تخم خوش

پودینه و سداب و بابونه و اکلیل الملک وغیرہ سے آبزن کرین اخ سنبل الطیب
و دارچینی و سلیخه و حب بلسان و عود بلسان و جوزبوا و الایچی خورد و قسط سے تکمید کرین اخ
بعد ترقیق خون کے دو روز پہلے ایام حیض کے فصد صافن و بابض و حجامت ساقین کرین
اگر بسبب یبوست منی کہائی رحم کی ہو یا بسبب حرارت مجففہ کے ہوگا علامت
التہاب و خشکی رحم علاج شیرہ تخم خرفہ پلاوین اخ شیر خشت و سماق و نبات
و مغز تخم کدو و خبازی و بادیان عسل و زردہ تخم مرغ مین فرزجہ کرین - یا بند ہونا
بسبب سردی کثیف کے ہوگا علامت سپیدی رنگ و سردی رگہا و تفاوت نبض
علاج ادویہ مسخن و ملطف استعمال کرین اخ جاوشیر و سکبینج و حلتیت و فوہ
الصبغ و مشک و اندراشیع و پودینه و برگ سداب ہر یک ہفتماشہ ترمس مقشر و نیم
... اقراص بنا کر طبیخ ابہل کے ساتھ کہلاوین - یا بسبب خلط کثیف
کے ہوگا علامت نخس فرج و رحم و لاغری بدن علامت و علاج مثل ورم رحم
اگر بسبب ... کی وہان زائد گوشت ... بند ہوکر سو جب احتباس ہو علامت تقدم قرحہ
علاج ادویہ ... کے لئے مداومت فصد و منقیات و ریاضت کے کہین
اگر بسبب زلق کے ہو علامت فم رحم پر ایک شئی پیدا ہو جو مانع جماع و ادرار
حیض ہو اور قریب ایام کی تمدد و درد سخت پیدا ہو علاج مثل زلق - اگر بسبب
فربہی کے ہو علاج مہزلات کا استعمال کرین اخ قریب ایام کی فصد
صافن کرین اخ تنہا حرکت و حمام کرین اخ ادویہ و شربہ مدرہ کہلاوین اخ
بادیان رومی و کلفت و کمونی اطریفل صغیر دیوین - اگر بسبب انحراف رحم کی ہو علاج
متعلق بہ عقربہ دیگر مدرات حیض اخیر فصل ہذا مین تحریر ہین -
۱ قروح و بثور رحم - علامت قرحہ لزوم درد آنا خون و ریم کا تنہا

قروح و بثور رحم

یا مرکب علامت جرّہ تابہا اور دیکھنے سے محسوس ہو علاج فصد باسلیق
اور بعد نضج مسہل بار بار کرین حقنہ قمقم پانی مین آبالکر مریض کو اوسمین بٹھاوین
حقنہ کندر انزروت دم الاخوین جوز السرو آب بارتنگ مین ملاکر پارچہ اوسمین
تر کرکے رکھین ۔ اگر قرحہ فم رحم مین ہو ادویہ مذکورہ سے حقنہ کرین حقنہ قرص
کہربا کھلاوین ۔ اگر قرحہ سبب خنازیر ہو اول روغن گل و روغن بنفشہ یا آب مکو
و ماء العسل سے حقنہ کرکے مرہم باسلیقون ہمراہ روغن گل کے حمول کرین ۔ اگر
مادہ تیز ہو آش جو سے حقنہ کرین گلنار حب الآس گل نارنج پیسکر روغن گل مین ملاکر
قرحہ یا حقنہ کرین شربت نارنج و سکنجبین شیرہ تخم خرفہ و آش جو پلاوین غذا آش جو
و شوربا و سماق ۔ اگر قرحہ کی ساتھہ درد شدید ہو افیون و زعفران شیر زنان مین
استعمال کرین فائدہ امراض رحم مین قرحہ و حقنہ بہت مسہل سے بہتر ہے مرہم باسلیقون
زفت راتینج مرکب سے و نیم تولہ قند چار ماشہ کوٹ کر چھانکر روغن بیضہ مین ملاکر مرہم
بناوین ۔ حکہ رحم یعنی مجامعت کثیر سے عورت سیر نہو علاج
فصد و تنقیہ سودا کرین حقنہ صندل و مامیثا عصارہ لحیۃ التیس کا ہو و خرفہ و
کشنیز سبز مین طلا کرین حقنہ روغن گل و بنفشہ لین حقنہ قرحہ نعناع زیرہ
صعتر برگ پودینہ پوست انار عدس مقشر پیسکر بورہ ارمنی یا شراب یا سرکہ
مین آبالکر صوف کے ساتھہ رکھین ۔ بواسیر رحم یعنی بوقت کہولنی منہ
رحم کے ایک شئی بلند مانند مسے مقعد کے اور نیز لمس سے معلوم ہو اور اوسکی
رطوبت دردی اور خون سیاہ آوی علاج مثل بواسیر مقعد حقنہ روغن
نرگس و روغن سوسن لین حقنہ ضماد اقلیمیا لگاوین صفحتہ اقلیمیای فضہ مردار
سنگ سیاہی موم و روغن کتان مین مرہم بناکر ضماد کرین ۔

کثرت اسقاط

۱۲۵ کثرت اسقاط - یعنی عورت حاملہ ہو کر رہ نہ سکے - اگر بسبب عوارض خارجی مثل حرکات عنیفہ و غضب کے ہو ترک سبب کریں - اگر بہ نیسبب رطوبت رحم کے ہو علاج قادت قی کی کریں اور بعد نضج مسہل گرم و حب ایارج سے تنقیہ کریں بعدہ دواء المسک حار و دیگر معاجین گرم کہلاویں اکثر روغنہای گرم سے حقنہ کریں اگر بسبب احتباس طمث کی ہو کیونکہ اسوجہ کہ باعث احتباس کے غذا بچہ کو نہیں پہونچتی اور ساقط ہوتا ہے علاج مثل احتباس طمث - اگر بسبب لاغری حاملہ کے ہو کہ لیے کہ اوسکے غذا سے کچہہ باقی نہیں رہتا جو غذا بچہ کے ہو علاج حمام بعد غذا کے کریں اکثر ہریسہ و روغن و شکر و شوربای چوچہ مرغ فربہ کہلائیں - اگر بسبب ریاح غلیظ کی ہو علامت قراقر و نفخ و انتفاخ عانہ علاج جوارش کمونی دیویں اکثر روغن سداب زنبق سے عانہ و قطن و فرج کو چرب اور حقنہ کریں اکثر شکر و نانخواہ کہلاویں اکثر بعد نضج مسہل گرم دیویں -

اسقاط

۱۲۶ اسقاط - یعنی حمل ساقط ہو علاج جرہ باتن بنجعد مطوس سہ ہفت عدد پوست اخروٹ و ڈوڈہ کپاس ہر یک دو تولہ پوست الماس یک تولہ پانی دہ آثار میں جوش دیں جب سیوم حصہ جلجائی صاف کرکے بجای آب و غذا کی پلادیں اور چوتہی دن گلتہی پانچ آثار لیکر پانی اوسکا دیویں اور دال گلتہی جو اوسمیں ہے باقی ہے بوقت شام کہلاویں روز ہفتم نان موٹہہ بقدر دو تولہ کے دیویں اور بجای پانی کے عرق منب الثعلب و عرق بادیان یا عرق گاؤزبان پلادیں اور بعد چند روز کے نان گندم و دال موٹہہ کہلائیں اور اکیسوین روز تہوڑا تہوڑا روغن زرد شروع کریں اور چالیس روز پرہیز تمام اشیا سے رکہین اشیای بارد و حرکات سخت سے اجتناب رکہین -

اختناق رحم

۱۲۷ اختناق رحم یعنی مرض مشابہ مرگی کی ہے مگر اسمین جہاگ منہہ سے نہیں آتا

آتا اور مریض جب ہوش مین آتا ہے بخلاف مصروع کے جو کچھ اوسپر گذرتا ہے بتاتا ہے

علاج بوقت حدوث مرض کے مثل غشی کرین اور بعد افاقہ کے چیزہای خوشبو اوس سے دور رکھین اور شیای بدبو مثل جندبیدستر و اہرن و پیاز کے سونگھین **آخر** عنبر و مشک و عطر روغن چنبیلی ملا کر فرج و رحم پر ملین **آخر** بعد نضج مسہل حار و حب ایارج دیوین **آخر** بقول و فواکہ و طعامہای باردہ سے پرہیز کرین

اگر بسبب احتباس طمث کی ہو **علاج** مثل احتباس طمث و نفاس **آخر** فرج و رحم کو روغن بابونہ سے ملین - اگر بسبب عدم مجامعت کے ہو مجامعت کرین اگر عورت باکرہ ہو **علاج** تزویج ہے -

۱۵ **عقر** یعنی عورت حاملہ نہو ۱۶ **عسر الحبل** یعنے بدشواری حاملہ ہو

اگر بسبب برودت رحم کے ہو **علامت** بدن اور رحم اور سرخ اور رقیق آنا خون حیض کا اور سفیدی رنگ اور سردی لمس **علاج** بعد نضج مسہل گرم و حب ایارج سے تنقیہ کرین **آخر** تریاق فاروق و دیگر جوارشات و معاجین گرم دیوین - **آخر** فرزجہ زعفران استعمال کرین آخر مشیا جوزبوا بعد طہر کے استعمال کر کے مجامعت کرین

اگر بسبب رطوبت رحم کی ہو **علامت** سیلان رطوبت دایم رحم سے اگر حاملہ ہو زیادہ تین ماہ سے نہ رکھ سکے **علاج** مثل سبب اول **آخر** قی کرین آخر سلیخہ و سک و سنبل الطیب و صعتر و اظفار الطیب و گل سرخ باہم پیس کر چھانکر حقنہ رحم کا کرین **آخر** انزروت و شحم حنظل و شبت و سماق و مرو زعفران و ... باریک کر کے شہد مین ملا کر پارچہ اوس مین تر کر کے فرزجہ کرین اگر بسبب حرارت رحم کے ہو **علامت** سیاہی و غلظت و حرارت خون حیض اور زیادتی ہوس جماع **علاج** شربت بنفشہ و نیلوفر و خشخاش و سیب و صندل و لیمو و فواکہ پلاوین **آخر**

زردہ بیضہ مرغ و چربی مرغ و بط روغن بنفشہ فرزجہ کرین تنقیہ صفرا کرین - اگر بسبب یبوست
رحم کے ہو علامت کمی حیض اور نحافت بدن او خشکی فرج علاج ترطیب مین
کوشش کرین آخر شیر تازہ و شربت بنفشہ و نیلوفر پلاوین آخر چربی بط و کمیان
و روغن بنفشہ و کدو و نیلوفر مثانہ و فرج مین آخر روغن گاو و شیر زنان و لعاب
بہیدانہ مجموعہ یا فرد اسکی کپڑا ترکرکے فرزجہ کرین - آخر اگر بسبب بند ہونی خون حیض کے
ہو علاج متعلق احتباس طمث - اگر بسبب باد غلیظ رحم کے ہو علامت
نفخ ما بین ناف و فرج ہنگام مجامعت آواز باد علاج مثل حم بارد آخر گلقند گلاب و
عرق بادیان پلاوین - آخر اگر بسبب انحراف رحم کی ہو علامت ہنگام مجامعت درد
رحم اور انگشت سی محسوس ہو علاج قابلہ سی ہاتہہ سیدہا کری اور بصورت
استلا لکون کے فصد صافن جانب مخالف سے کرین - اگر بسبب لاغری عورت کی
ہو علاج باقلا مقشر و مغز تخم کدو شیرین کو تکرا آشجو و آب انار شیرین و روغن
بادام مین پکاکر کہلاوین آخر تخم و سفید دودہ مین ترکرین جو جذب و خشک ہو
چہہ تولہ برنج و آشجو و گندم ہر یک سات ماشہ نان میدہ خشک تین تولہ سبکو
بیسکر دودہ مین حریرہ پکاکر قدری مصری ڈالکر کہلاوین اگر بسبب فربہی کے ہو
علاج فصد و استفراغ و ریاضت کرین آخر گرسنہ رکھین آخر اطریفل صغیر
و لک مغسول جوارش کمونی مین ملا کر دیوین آخر جماع اوکڑو بیٹہکر کرین - اگر
بسبب قصور آلت کی ہو علاج طلای علق قضیب پر ملین آخر قضیب
کو چیز سخت سے ملکر زفت رومی ہمراہ روغن یاسمین کے ملین آخر معظمات و
مطولات قضیب مندرجہ علاج مخصوص مردان عمل مین لاوین بہترین شکل مجامعت
کے یہ ہی کہ مرد اوپر عورت کے ہو اور عورت پشت پر لیٹی لیکن پہلے جماع سے

پستان وکنجران ملین اور سبز کرے دہن فرجکو ملین اور سبز کرسی مع ہن فرجکو
کہسین الغرض جب عورت مست ہو دخول کرین تاکہ منزل ہو **علامت مستی**
عورت کی یہہ ہے تغیر ہیئت چشمان ودم وراز وچسپیدگی برو — عورت کو چاہیے
کہ بعد جماع کے تہوڑا عرصہ اوسی ہیئت پر رہے اور زانو بہنچی **علامت منی**
سولد کی یہہ ہے کہ سفید ولزج وبراق ہو اور رنگس اوسپر بیٹہی اور بو اوسکی مانند
طلع ویاسمین کے ہو **علامت حمل** کے یہہ ہے کہ جماع کی بعد منی خارج نہو ودرمیان
ناف کے چہکی ورو ہو عورت جماع سی نفرت کرے حیض بند ہو اور مفصل باب نہم
کتاب ہذا مین ملاحظہ فرمائین — اگر منی دونون یعنی مرد وعورت کی باعث عقر ہو
اوسکا تدارک کرین **طریق شناخت منی مرد وعورت کے** — منی جدا جدا
پانی مین ڈالین جسکے منی تہ نشین ہو تری اوسمین نقصان نہی **اختبار بول** ہر دو کا علیحدہ
علیحدہ بیخ کاہو یا کدو یا مثل اسکے پر ڈالین جسکا بول اوسکو خشک کری وہ
نقصاندار ہے **اختبار** سات دانہ گندم یا جو یا باقلا کی ظرف گلین جداگانہ رکہکر
اوسپر بول کرین اور سات روز چہوڑین جسکے بول سے وہ اوگی صاحب اوسکا
بی نقصان ہے **اجزای فرزجہ زعفران** زعفران سنبل الطیب پہٹکری
عود ساج ہندی انزروت جملہ برابر چربی مرغ وزردی بیضہ مرغ مین ملاکر
فرزجہ کرین **شیاف جوزبوا** جوزبوا گرنانج پہٹکری بریان پوست انار
ہریک چار و نیم ماشہ کوٹ کر چہانکر پانی مین ملاکر شیاف کرین **طلای علق**
جونک وضفادع مساوی پیسکر روغن کنجد مین ملاکر ذکر کو پہلی تہہ سے بہت ملکر طلا کرین
۱۴ **رجا** — یہہ مرض مشابہ بحمل ہے — فرق اسمین اور حمل مین یہہ ہے جو رجا
مین شکم سخت تر حاملہ سے ہوتا ہے اور دست وپا مثل صاحب سوء القنیہ کے

بہولی ہوئی ہوتی ہین اور کثرت جشا و سوء الہضم و قراقر لاحق ہو اور پہلی حرکت
بچہ سے حرکت محسوس ہو - واضح رہے کہ حرکت پسر بعد تین ماہ اور حرکت دختر
بعد چار ماہ کی ہوتی ہے **علاج** بعد نضج مسہل حار و حب ایارج سے تنقیہ کرین آخر
معاجین گرم کاسر ریاح و تریاق اربعہ ہمراہ مدرات کی کہلاوین -

۱۸ **ثآلیل رحم** - **علامت** مثل بثور رحم **علاج** جوشاندہ افتیمون و حب ایارج سی تنقیہ کرین
آخر آبزن بطبیخ اکلیل الملک حلبہ تخم کتان بابونہ اکلیل بعد انقراع بول یا بالا بول
آبدست کرین **آخر** روغن سوسن و روغن بابونہ سفتا الوملین -

۱۹ **ناصور رحم** - یہہ وہ ہی جو اول رحم چالیس روز قرحہ پر گذر جاوین
علامت ہر وقت جاری رہنا زرد آب اور درد کا **علاج** مثل قرحہ مگر ادویات
منقیہ و مجففہ جو بہ نسبت علاج قرحہ کی قوی ہون استعمال کرین -

۲۰ **رتق** - یعنی ایک چیز زائد فم فرج پر یا مابین فرج و فم رحم یا فم رحم پر ہووے
اور مانع جماع و دخول ہو **علاج** دستکاری ہے -

۲۱ **نتو رحم** - یعنی نکلنا رحم کا - یا یہہ کہ سیدہا گری اور گردن رحم کی فرج سے باہر
ہو - یا منقلب ہو کر خارج ہو اور پہچانا اوسکا ظاہر ہو اوسکو **انقلاب الرحم**
بہی کہتی ہین **علامت** درد عانہ و مقعد و قطن و پشت اور گداز و رعشہ و خوف بلا
سبب **علاج** بعد تنقیہ مثانہ و امعا کے بصورت اول روغن گل یا روغن نبق
مین روغن خوشبو و غالیہ ملا کر چند قطرہ رحم پر ٹپکاوین اور بصورت دوم ادویہ
پیسکر ملین اور رحم کو درست کرین - بحالت غلبہ رطوبت ایارجات سے تنقیہ کرین
آخر مریضہ کو پہلو پر لٹا کر کرگاہ پر نیچے جانب ناف کے محجمہ بلا شرط لگاوین **آخر**
خوشبویات سونگہاوین **آخر** بدبو و عطسہ و حرکت سے بچین -

۲۲ سرطان رحم - علامت صلابت و حرارت و ضربان و درد تا حجاب سینہ اور کبھی درد چشم و شقیقہ و ضعف و لاغری خصوص ساتھ ہوا اور ورم شکم مانند صاحب استسقا۔ اگر مع جراحت کی ہو علامہ و کشش ران و زیر شکم و پشت مین درد شدید اور سیلان رطوبت بودار اور رطوبت سبز یا سرخ و سفید و سیاہ ہو

علاج لاعلاج مگر تخفیف کے لیے حلبہ و بابونہ و تخم کتان و برگ کرنب بسبب نطول کرین جراحت کی لیے کرنب و بنفشہ و برگ خطمی و تخم کتان آب ملکر مریضہ کو اوسمین بٹھاوین اشیاف ابیض و افیون و زعفران شیر زنان مین حل کر کے رحم مین حقنہ کرین تسکین درد کیواسطے نسخہ شربت وہ آب کشنیز سبز یا آب کاسنی سبز یا آب کاہو سبز تین ملین اور حقنہ رحم کرین۔

۲۳ دبیلہ رحم یعنی ورم گرم رحم پختہ ہوا ور منفجر نہو۔ اگر فم رحم مین ہو علاج چیرہ دیوین اگر قعر رحم مین ہو علاج تخم خربوزہ و تخم خیارین و تخم کاسنی و ناخواہ خشک آب ملکر چھانکر پلاوین حلبہ و تخم کتان و بابونہ و اکلیل الملک و خطمی و آرد جو و تخم مرو و آرد باقلا و بیخ خطمی آب گرم و آب انجیر و روغن کنجد مین ضماد کرین نسخہ

۲۴ مدرات حیض سحیقہ مجیبہ و الایچی شراب مین پلاوین - اخر ابہل و مانا سداب از ہر یک پچیس ماشہ مرمکی ساڑھے سترہ ماشہ سفوف بنا کر ساڑھی دس ماشہ ہر روز کھلاوین نیز مسقط ہے نسخہ پوست خیارشنبر یک و نیم تولہ باریک کر کے پانی مین ملکر چھانکر پلاوین نسخہ توبیای سرخ ساڑھی سترہ ماشہ بادیان سات ماشہ سداب ملی دو ماشہ اسارون ساڑھے تین ماشہ عسل بتیس ماشہ پانی مین ملکر چھانکر تین روز متواتر پلاوین نسخہ بلدیان تخم خربوزہ گاوزبان تخم ترنجبین حلبہ کوفتہ از ہر یک ہفت ماشہ رات کو تین پاؤ پانی مین تر کر کے صبح جوش دیکر

جب آدھ سیر پانی باقی رہے ملکر چھانکر دو تولہ نبات سفید ملاکر پلاوین **دیگر** مازو دو ماشہ آردجو نہ ماشہ باریک کرکے پشم و میں آلودہ کرکے رکھیں **دیگر** سداب و مرسافہ و ایلوا و بادیان تخم مرو مساوی زہرہ گاو میں فرزجہ کرین -

منزلات و ملذذات زن

۲۵ **ملذذات و منزلات زن** تلخہ ماہی رو ہو فلفل و بازروغن گاو مین ملاکر فرج مین طلاکرین **دیگر** گوشت ممتو خشک شہد یا روغن گاو میں عورت فرجین ملے **دیگر** زاک میعہ سائلہ مساوی پیسکر بقدر یک نیم برنج فرجین ملین **دیگر** تخم درخت گل زری چینبہ زعفران و درونج ہر سہ برابر پیسکر فرج مین طلاکرکے نزدیکی مرد کی کرے مرد شیفتہ عورت ہوگا **دیگر** پوست بیخ انار و پوست شاخ وبرگ و گل آن روغن شیرغف مین پکاکر قدری فرجین ملکر نزدیکی کرے -

مجففات و مضیقات فرج

۲۶ **مجففات و مضیقات فرج** - مازو چہار ماشہ عود سفید دو ماشہ حب الآس و تفاح اذخر و سک ہر یک ۳ ماشہ مشک نیم سرخ زعفران یکسرخ قرنفل عدد کوٹ کرچھانکر پوٹلی باندہکر فرجین رکھیں **دیگر** پھٹکری بانیمن جل کر پارچہ اوسمین تر کرکے سحیقہ سعد و بلیلہ و مازو سبی واسکو آلودہ کرکے فرج مین رکھی **دیگر** زہرہ خرگوش رکھیں **دیگر** صمغ ڈہاک پیسکر پوٹلی باندھکر رکھیں -

مبکرات و مطیبات فرج

۲۷ **مبکرات و مطیبات فرج** - پوست درخت بکاین خشک پیسکر بطور شیاف فرجین رکھیں **دیگر** مشک و عنبر و عود ہندی ہر یک یکماشہ پیسکر شراب مین جوش دیکر صاف کرکے پشم آلودہ کرکے رکھیں - مطیب ہے -

محبلات و مقویات رحم

۲۸ **محبلات و مقویات رحم** پنیر مایہ خرگوش یا زہرہ خرگوش یا سرگین خرگوش شہد مین ملاکر بعد حیض کے تین شب رکھیں اور یہہ مشہور ہے کہ ہم بستر ہوں **دیگر** اندر جو شیرین سپستان تخم شبت تخم جرجیر تخم پیاز ہر یک سات ماشہ

جوز بوا ساڑھے دس ماشہ مشک قدری پیسکر شہد مین ملا کر بعد طہر کے صوف سے
ساتھ تین گھنٹہ رکھکر نکالین اور ہم بستر ہون اخیر جوز بوا اگر نارجیل بھٹکری بریان
پوست انار ہر یک چار و نیم ماشہ باہمین شیاف بنا کر بعد طہر کے استعمال کرین اخیر
خصیہ خرگوش عورت قبل از حیض کھا کر اور حیض سے پاک ہو کر ہم بستر ہو اخیر
بیخ و تخم ترنج باہمین ہمراہ شیر گاو یکرنگ کے پلادین۔

مسقطات حمل و مانعات حمل

۲۶ مسقطات حمل و مانعات حمل۔ اشق و نوشادر ہر دو ساڑھے
دس ماشہ پیسکر پانی مین ملا کر حاملہ رکھی اور پاؤن بلند کرے اخیر خربق سیاہ
و بیخ حنظل و کندش ہم برابر کوٹ کر چھانکر زہرہ گاو مین حاملہ رکھے اخیر مازو
و حب الآس مساوی پیسکر آب گرم مین ملا کر پیشتر از جماع فرزجہ کرین اخیر تحقیق
حمل سے بالو کباب ل شتر بیرو الکر کہلادین اخیر سرمہ شاخ درخت نیم
آگ پر جلا کر پکر ریسہ کر روغن مین لیوین اخیر آب سرگین فیل مین قدری سرمہ
ملا کر پلادین اخیر گوشت سوسمار خشک ساڑھے تین ماشہ کھاوی مسقط ہے
اخیر سرگین گاو جوش کرکے نیم گرم پلادین۔

علاج امراض صفاق و ثرب و مراق

فصل نوزدہم مین علاج امراض صفاق و ثرب و مراق ہے

فتق یعنی بسبب پھٹنے صفاق یا اتساع مجرین کے جو اوپر خصیین کے کنج ران مین
ہے ایک جسم نفوذ کرے اور کیس انثیین مین آوے اوسکو قیلہ کہتے ہین۔ اگر نازل
ثرب ہو قیلۃ الثرب ہے اگر نازل امعا ہو قیلۃ المعا اگر ریاح مین محتبس ہو
فتق الاربیہ اگر وہ صفاق حوالی ناف مین شگافتہ ہو اور پوست شکم سالم
رہے یا ثرب ... اوسی جگہ سے نکلے ہو اوسکو فتق مراق البطن کہتے ہین

علاج جسم نازک شدہ کو ہاتھ سے رد کریں بعد ازاں کترۂ آہنی مخصوص سے اسکا باندھیں
اخیر ضماد قشار کندر لودو دیگر قابض و سدو استعمال کریں ۔ اگر نافذ ریاح ہو
قیلۃ الریح کہتے ہیں علامت قراقر او حبس ریاح ہوا و سپر کہیں جلد بہر جاوے
علاج جوارش کمونی و پودینہ اخیر دیگر محللہ ریاح استعمال کریں اخیر روغن بابونہ
و قسط و شبت ملیں اخیر اشیای بادی سے اجتناب کریں ۔ اگر رطوبت
آئی نازل ہو قیلۃ الماء اور کہتے ہیں علاج نشتر سے رطوبت نکالکر داغ
دیں یا مرہم سندملہ لگاویں بحالت عود مرض بکرر عمل کریں ضماد قشار کندر
واسطہ امساک فتق صفحۃ قشار کندر مصطگی جوز السرو غری السمک انزروت
جملہ برابر ۔ غری السمک کو خل خمر میں گلا کر دوسری دوائیں ملا کر ضماد کریں ۔

فصل بستم میں علاج امراض پشت اور اسکی اعضای متصلہ کا تحریر ہے

۱ تقصع یعنی زوال فقرات پشت جانب پیش ۲ حدبہ یعنی زوال فقرات
پشت جانب خلف ۳ التوا یعنی زوال فقرات بجانبین ۔ اگر سبب انکا
ورم حار ہو جو عضلات فقار میں لاحق ہو اور بسبب پہونچنے کے فقرات کو زایل کرے
علامت درد شدید و ثقل پشت و تپ حادہ و عظم نبض علاج فصد
باسلیق و مسہل بارد کریں اور مسہل دوم یا سیوم میں سنا مکی و سورنجان مصری
ملاویں اخیر لعاب حلبہ و تخم کتان و تخم خطمی و چربی مرغ و بط و مغز ساق گاو
و دیگر اقسام ملینہ کریں اخیر روغن گل بیگرم ملیں ۴ ریاح افرسہ یعنی زوال
فقرات بباعث ریاح علامت ۔ بعد درد پشت کی بدون تپ حادث ہو
علاج مسہل حار میں ملینات ہر یک ششماشہ سورنجان بجماشہ بوزیدان

یا بیشہ اضافہ کرکے دین بعد ازان حب سورنجان مثل حب ایارج کی کہلا دین
آخر فقرات کو روغن قسط و روغن خروع سے ملین ۔ موضع متقصع پر تونبر
آتشی لگاوین ۔ اگر بسبب رطوبت مزلقہ رقیقہ کے ہو **علاج** مثل فالج ۔ اگر
بسبب ضربہ و سقطہ کے ہو **علاج** حقنہ کرینا ور فقرات کو اونکی جگہ پر کرین
بعد ازان قسط و سنبل الطیب مر و سلیخہ بسیکر خل خمر مین ملا کر ضماد کرین **حب**
سورنجان واسطہ وجع مفاصل و عرق النساء و دیگر امراض کے نافع **صفتہ** سورنجان
مصری تربد سفید مجوف خراشیدہ ہر یک چار و نیم ماشہ صبر سقوطری ستہ ونیم ماشہ
حب النیل غاریقون نرم و سفید انیسون ہر یک دو ماشہ یا وکم سقل ازرق مصطگی
رومی ہر یک شش سرخ آب کرفس مین حبوب بناوین ۔ جملہ ایکخوراک ہے ۔
روغن خروع یعنی ارنڈ مسہل بلغم اور اعصاب کو رطوبت سے پاک
کرے **صفتہ** بید انجیر پاک کرکے بریان کرین اور کوٹ کر پانی مین جوش دیکر
کف اوسکے ظرف مین جمع کرین جب تمام کف لیجاوی اور آب زرد باقی رہے
کفہای مذکورہ کو ابالین جو روغن صاف باقی رہے ۔

۹ درد پشت

۹ درد پشت ۔ اگر بسبب سردی مزاج یا زیادتی بلغم کے ہو **علامت**
بتدریج حادث ہو اور ریاضت سے تسکین پاوے **علاج** مثل اوسکے ۔ اگر بلا مادہ
ہو **علاج** روغنہای گرم ملین ۔ اگر بسبب کثرت جماع کے ہو **علاج** روغنہای
حار ملین اور ترک سبب کرین ۔ اگر بسبب مشارکت گردہ کی ہو **علاج** تحریر ہوچکا
اگر بسبب امتلای رگ بزرگ کے ہو جو پشت پر واقع ہے **علامت** وجع
علامت غلبہ خون کے ابتدای فقرات پشت سے آخر تک ہو اور شدید تمام پشت
مین ہو **علاج** فصد باسلیق اور مسہل بار بار کرین ۔

۱۱۔ دردِ خاصرہ یعنی درد تہیگاہ ۔ علاج و اسباب اسکی مثل درد پشت کے ہین ۔

فصل بست و یکم مین علاج داء الفیل و دوالی و وجع مفاصل و نقرس و عرق النسا تحریر ہے

۱۔ دوالی یعنی رگ ساق و قدم کے واضح ہوجانے علامت رگین بزرگ گرد اگرد ساق کے ظاہر ہون علاج فصد باسلیق بعد ازان فصد عروق ممتلہ کے کرین اور ہاتھ سے ملکر تمام خون خارج کرکے تنقیہ سودا ساتھ مسہل و ایارجین کے کرین اور ترک ریاضت کرین اور اغذیہ مولدہ سودا سے محترز رہین ۔

۲۔ داء الفیل یعنی ساق و قدم مثل پای فیل کے بزرگ ہوجاین علاج مثل دوالی کے اگر بعد تنقیہ فصد باسلیق و حجامت ساق با اور جونک عمل مین لاوین اور ساق کو زانو تک عصابہ سے محکم باندہین ۔ اگر بسبب خلط بلغمی کے ہو علامت غلظ ساق بلا حرارت و کمودت کے علاج بعد نضج مسہل گرم و حب سورنجان سے تنقیہ کرین اور ہفتہ مین ایک مرتبہ قی کرین اور تقلیل غذا کرین اغذیہ غلیظہ اور بقول و فواکہ باردہ سے احتراز کرین نسخہ زنجبیل سفید بیخ ریشہ نیم ماشہ کندر یکماشہ ہیکل اطریفل صغیر کے تولہ مین ملاکر دیوین نسخہ طلای صبر لگاوین اجزای طلای صبر ۔ صبر سقوطری مر صاف اقاقیا پوست انار جملہ برابر کوٹ کر چھانکر سرکہ مین ملا کرین ۔

۳۔ وجع مفاصل یعنی جوڑون کا درد نقرس یعنی درد مخصوص کعب و انگشت ہای پا خصوصاً انگشت نر مین ۔ اگر مادہ خون سے ہو علامت سرخی و عظم قدم و شدت ضربان علاج فصد باسلیق جانب درد سے کرین اگر ہر دو جانب ہو ہر دو جانب فصد کرین بعد ازان تبرید اور بعد نضج مسہل دین جو اوسمین ہلیلجات اور سورنجان ہو نسخہ طلای سرد عمل مین لاوین نسخہ صندل سرخ و صندل سفید و ورق

وورق گل سرخ وسپاری چھالیہ وما میثا واقاقیا اور دیگر ادویہ رادعہ قابضہ سرد وآب کشنیز میں ضماد کریں۔ اگر درد شدید ہو افیون وزعفران وبیروج ودیگر ادویہ مخدرہ اضافہ کر کے ضماد کریں اور انتہا میں قدری قلیل خطمی وبنفشہ ودیگر ادویہ محللہ بعد ازاں اکلیل الملک وبابونہ اضافہ کریں۔ مگر ضماد بعد تنقیہ کے کرنا چاہیئے اگر مادہ قلیل ہو پہلے تنقیہ سے بھی ضماد کرنا جایز ہے۔ ورم صفراوی **علامت** درد شدید وسوزش

علاج مانند ورم دموی کے مگر اسمیں تبرید وتسکین زیادہ درکار ہے کدو وکاہو وکافور سرکہ وآب کشنیز سبز میں ضماد کریں **آخر** ادویہ باردہ جو قابضہ نہوں ضماد کریں اور محللہ کے حاجت نہیں **آخر** ضماد اسبغول لگاویں۔ اگر مادہ مرکب بلغم وصفرا سے ہو **علامت** سفیدی رنگ وقلت درد اور ڈہیلا پن ورم کا۔ اگر مرکب سودا وصفرا سے ہو **علامت** قلت درد اور خشونت وخشکی وسیاہی موضع وصلابت ورم **علاج** سورنجان شیرین مصطکی فوبیدان ہر یک یکماشہ پیسکر گلقند دو تولہ میں ملا کر ہمراہ شیرہ بادیان شیرہ تخم خیارین شیرہ خارخسک شیرہ تخم خربوزہ ہر یک ہفت ماشہ عرقیات میں نکالکر شربت بزوری دو تولہ ملا کر پلاویں **آخر** معجون سورنجان ہمراہ تبرید کو سکے دیویں **آخر** معجون عشبہ کہلاویں **آخر** اکلیل الملک وبابونہ وشبت وخطمی وصبر ولعاب حلبہ وتخم کتان اور دیگر ادویہ محللہ ملینہ ضماد کریں **آخر** روغن بیدانجیر وروغن حنا خاصۃً سورنجان تلخ وبیخ نے وجدوار خطائی ملا کر ملیں **آخر** ضماد صابون لگاویں۔ اگر مادہ کثیر ہو بعد نضج کے مسہل مرکب دیویں مگر لحاظ خلط غالب کا ضرور ہے۔ اگر مفاصل صلب ہوں یعنی حرکت نکرسکے بعد تنقیہ کے روغن کنجد وچربی بط ومرغ ولعاب حلبہ والسی سے مالش کریں **آخر**

باکفنا زردہ روغن کنجد مین جوش دیکر اور سیسہ مین رکھین **طلای نزرد** قدیم وہلی گوش کے لیے
مفید اور مبرد و مسکن درد ہی و ربعد فصد کے استعمال کرین **صفت** صندل سرخ صندل
سفید مامیثا گل ارمنی صموت سفیداب پوست ریندی تخم کاسنی طباشیر کافور
لعاب اسپغول مین مانند نزرکی بنادین **ضماد اسپغول** واسطہ اورام حارہ مفاصل
صفت اسپغول کو کنار سا وسمی لوزان کوٹ کر چھانکر پانی مین بھگا دین جو
ممزا ہو روغن گل مین ملا کر ضماد کرین اگر تسکین حرارت زیادہ چاہیے اسپغول
نا کوفتہ ملا دین **معجون سورنجان** واسطہ اوجاع مفاصل کے مفید **صفت**
اسارون زنجبیل و زیرہ کرمانی و دارفلفل ہریک ہفت ماشہ سنا مکی ہفتدہ و
نیم ماشہ سورنجان سفید ہجدہ ماشہ شہد سہ وزن ادویہ مین معجون بنادین -
خوراک پنج ماشہ سے ہفت ماشہ **معجون عشبہ** واسطہ آتشک و اخراج مواد
سوداویہ و بلغمیہ و وجع مفاصل کے مفید **صفت** - ہلیلہ زرد چہار دہ ماشہ ہلیلہ سیاہ ہلیلہ کابلی
بلیلہ ہشا ہترہ بسفایج فستقی تربد سفید مجوف خراشیدہ افتیمون ہریک ہفتدہ و نیم
ماشہ آملہ مقشر دہ و نیم ماشہ برگ سنامکی سی وپنج ماشہ عشبہ مغربی پنج تولہ کوٹ کر
چھانکر شہد سہ وزن ادویہ مین معجون بنادین **خوراک** ہفت ماشہ سے یکتولہ -
کبھی عوض عشبہ کی چوب چینی پاؤ آثار ڈالتی ہین مواد سوداوی کے لیے مفید تر
معجون عشبہ دیگر عشبہ مغربی شش تولہ بسفایج فستقی سہ تولہ بادیان
صندل سرخ ہریک یکتولہ عصارہ ریوند سہ ماشہ برگ سنامکی سہ تولہ سقمونیا
شش ماشہ شہد دوازدہ تولہ نبات سفید سہ پاؤ معجون بنادین **خوراک** پنجماشہ
سے یکتولہ **روغن حنا** واسطہ عرق النسا و اوجاع مفاصل کے مفید اور بالون
کو سیاہ کرے **صفت** برگ حنا نیم آثار پانی دو آثار مین جوش دین جب ایک آثار

پانی رہجائے چہانکر روغن کنجد نیم اثار ملاکر ابالین تاکہ پانی جلکر روغن باقی رہے ضماد
صابون — صابون وبرگ حنا مساوی پیسکر نیمگرم ضماد کرین -
۴۵ **دردورک** یعنی دردسرین **عرق النسا** یعنی درد مفصل سرین سے
ابتدا کرے اور طرف وحشی فخذ سے نزول کرکے انگشتہای پانک پہونچی **علاج**
مانند وجع مفاصل آخر عسل بلادر طلا کرین **آخر** شیر زقوم یا چند بید ہ سے تر
انجیر کے دودہ مین ضماد کرین تاکہ آبلہ پیدا ہوکر مواد خارج ہو اور مندمل ہونی نہ دیوین
اگر اس سے صحت نہو داغ دیوین — **علاج مسافرانہ امراض کو** [illegible]
۱ **وجع مفاصل** — سورنجان دو تولہ زیرہ کرمانی مدبر وبہ بیخ ہریک
ہفت ماشہ مرچ سیاہ سہ نیم ماشہ قند سفید سہ نیم تولہ سفوف بناوین **خوراک**
دو ونیم ماشہ **آخر** سورنجان شیرین دو تولہ پیپل وسونٹھہ وپوست شیطرج ہندی
ودابچہر وکلونجی ہریک سے ونیم ماشہ پوست ہلیلہ زرد وپوست ہلیلہ کابلی وبلیلہ ہریک
یکتولہ تخم کشوث ومصطکی ہریک ۳ تولہ و ۳ ماشہ گولیان بناوین **خوراک** ہفت ماشہ
ہمراہ آب گرم **آخر** چونہ وشہد ال مساوی پانیمین بقدر سونٹھہ گولیان بناوین -
خوراک دو تین حب ہمراہ شکر دیوین غذا نان گندم باشکر **آخر** چربی
روباہ گرم کرکے ملین **آخر** گوشت روباہ پکا کر باندہین -
۲ **وجع ورک ووجع رکبہ** میتہی اجواین وہالون وکالونجی ہرچہار سلم
مساوی ملاکر بقدر چہ ماشہ یاکم وزیادہ ہمراہ پانی کے کہلاوین -
۳ **عرق النسا** حرمل پوست سات ماشہ باریک کرکے رات کو متواتر بارہ شب
کہلاوین **آخر** برگ یاس یا گوگل کوٹ کر متواتر چند روز کہلاوین **آخر** پوست
بیخ بنکائین پانیمین آبالکر چہانکر قدری روغن بید انجیر ملاکر پلاوین **آخر**

و سنبھالو پانی مین ابالکر جہانکر قدرے کو کل تا کر پلاوین **اخر** شیطرج ہندی آب برگ مولی مین پیسکر لیپ کرین **اخر** مغز کلونجی شہد مین لیپ کرین **اخر** فلفلمویہ آب برگ مولی مین پیسکر لیپ کرین۔

فصل بست و دوم مین علاج الامراض غیر مختصہ اعضا کا تحریر ہوتا ہے اور مشتمل دو ضمن پر

ضمن اول مین علاج حمیات کا ہے

۱۔ **حمی یوم** یعنی یہہ تپ ایک روز مین زایل ہوتا ہے اور کبھی تین روز مین اور بقول جالینوس چہہ روز تک رہتا ہے اور حرارت متعلق بروح ہوتی ہے **علامت** تپ ملایم و نبض و قارورہ مین تغیر قلیل ہو۔

۲۔ **حمی غمی** یعنی غم سے تپ لاحق ہو **علامت** تقدم غم و حلقہ چشم و خشکی یا سفیدی چہرہ و ضعف و صغر نبض ناریت و حدت بول۔

۳۔ **حمی ہمی** یعنی ہم سے تپ ہو **علامت** مثل غمی مگر اسمین نبض نہایت قوی ہوتی ہے۔ ہم۔ ایک حال ہے جو حصول کار ممکن الحصول کے کوشش و مصروفیت مین بدرجہ غایت رجوع کیا جاوے۔

۴۔ **حمی فزعی** یعنی کثرت رونے سے تپ ہو **علامت** تقدم گریہ ساتھہ جملہ علامات غمی کے مگر اسمین خلاف نبض زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت غمی کے۔

۵۔ **حمی فکری** یعنی تپ کثرت فکر سے ہو **علامت** مثل غمی۔

۶۔ **حمی غضبی** یعنی تپ کثرت غصہ سے ہو **علامت** چہرہ بلکہ تمام بدن سرخ و پہولا ہوا اور انکہین سرخ اور نبض عظیم اور بول سرخ ہو اور کبھی باتہہ اور تمام بدن کانپتا ہے اور نبض شاہق و ممتلی و متواتر ہوتی ہے۔ اگر غصہ ساتہہ ہم و حزن کے

خوف کے ہو تو رنگ چہرہ کا زرد ہوتا ہے -

۷ حمی سہری یعنی بسبب کثرت بیداری کے تپ ہو علامت زردی چہرہ و حلقۂ چشم اور جھولنا پشت چشم کا اور انتفاخ بدن و تیرگی بول نبض صغیر

۸ حمی سباتی یعنی بسبب خواب طویل کے تپ ہو علامت تقدم سبب امتلاء نفس

۹ حمی تعبی یعنی کثرت تعب سے تپ پیدا ہو علامت تقدم تعب بدن خشکی چہرہ و سینہ خشک و نبض صغیر مائل بصلابت و رنگینی بول -

۱۰ حمی وجعی یعنی کثرت درد سے تپ ہو علامت حدوث تپ بعد درد سر یا گوش یا چشم یا دندان وغیرہ -

۱۱ حمی جوعی یعنی کثرت بھوک سے تپ ظاہر ہو علامت ضعف نبض صغیر مائل بانفصال

۱۲ حمی عطشی یعنی کثرت پیاس سے تپ ہو -

۱۳ حمی تخمی یعنی بدہضمی سے تپ ہو جاوے علامت فساد طعام معدہ اور آروغ دود ناک و دیگر اعراض تپ مطبقہ مانند سرخی چشم و درد او سرعت و عظم نبض اور تپ نہایت سخت اور بول اکثر سفید و کمتر رنگین - جب بوی آروغ مثل صحت کے ہو نشان زوال تپ ہے - اکثر یہہ تپ بات آٹھ پہر کے پھر آتی ہے -

۱۴ حمی فرحی یعنی خوشی مفرط سے تپ پیدا ہو علامت مانند غضبی مگر اسمین ہیئت آنکھونکی خلاف غضبی کے ہوتی ہے اور تواتر نبض کم ہوتا ہے -

۱۵ تپ جو بسبب پینے شراب کے ہو علامت ظاہر

۱۶ حمی کامی یعنی بسبب کام کے تپ ہو علامت ضعف دماغ و وجود زکام

۱۷ حمی نزلی یعنی بسبب نزلے کے تپ ہو علامت ضعف دماغ و وجود نزلہ

۱۸ حمی وبائی یعنی بسبب وبا کی تپ حادث ہو علامت کثرت وقوع اتراقش و

ف حمی سہری
ف حمی سباتی
ف حمی تعبی
ف حمی وجعی
ف حمی جوعی
ف حمی عطشی
ف حمی تخمی
ف حمی فرحی
ف حمی شرابی
ف حمی کامی
ف حمی نزلی
ف حمی وبائی

تشنگی و خشکی دہن اور عرق و براز متعفن ہو **وبا** ایک عفونت ہے جو ہوا مین لاحق ہو

۱۹ **حمی استفراغی** یعنی بعد استفراغ کی تپ ہو - یہہ استفراغ عام ہے خواہ خون ہو یا خلط دیگر ہو یا بعد مسہل و قی کے -

۲۰ **حمی سدی** یعنی بسبب سدہ کی تپ ہو - شناخت اسکی مشکل ہے کیونکہ مشابہ اسکے عفنہ ہوتی ہے اگر لرزہ ہمراہ ہو علامت انتقال بحمی عفنہ ہے **علامت** کوئی سبب ظاہری تپ کا نہ ہو اور نوبت طویل ہو آخر مین عرق آوے نبض متغیر و متمدد چہرہ سرخ و نفس متغیر

۲۱ **حمی اماسی** یعنی بسبب ورم اعضاء ظاہری کے تپ ہو جاوے - واضح ہو کہ ورم اعضای باطن سے حمی یوم حادث نہین ہوتا مگر حمی عفنہ ہو جاتا ہے جو اسکا ذکر آگے آئیگا - **علامت** حمی یوم ورمی یہہ ہے کہ اول بن ران یا بغل مین ایک گوشت ورم پیدا ہو اور پہر تپ آ جاوی اور چہرہ سرخ اور منتفخ ہو اور نبض سریع و عظیم مائل بصلابت اور قارورہ سفید

۲۲ **حمی حرارت آفتاب** یا آگ سے پیدا ہو **علامت** اگر آفتاب سے ہو تو بدن زیادہ گرم ہو باطن سے اور تشنگی کم اور نفس تھوڑا - اگر آگ یا حمام سے ہو تو تشنگی بہت اور عظم نفس ہے اور کبھی درد سر ہوتا ہی -

۲۳ **حمی** تناول ادویہ یا اغذیہ گرم سے پیدا ہو **علامت** اول کہانا دوا و غذا گرم کا اور شدت تشنگی و خشکی دہن و سرخی چشم و درد اور حرارت کثیر جانب جگر - اکثر درد سر

۲۴ **حمی** بسبب خمیر یا خلفہ کے پیدا ہو -

۲۵ **حمی عشقی** یعنی جب تپ ابتدا کرے عشق عادت ہے - اس حال میں نبض کا اختلاف ہوتا ہے

علاج تپہای مذکورۃ الصدر حسب قاعدہ کلیہ مسافرانہ

اگرچہ [illegible] قسم حمی یوم کی ہین لیکن براہ تصریح علیحدہ علیحدہ تحریر کی گئے ہیں اگر ان [illegible] طبیب کے طرف سے علاج مین غلطی ہو گی تو سوا حمی [illegible] کی تپ

تپ دق ہوجاتی ہے **علاج حمی نمبر ایک سے پانچ تک** ترک سبب کریں
اخیر مفرحات باردہ کھلائیں **اخیر** تبرید قلب کریں مگر ہمی و فکری میں زیادہ تر تقویت
دماغ چاہیے کس لیے کہ ہم و فکر متعلق بقوت نفسانی ہے اور معدن اس قوت کا دماغ ہے
خاص حمی غمی کے لیے ۔ صندل و لعاب اسبغول و گلاب و آب برگ خرفہ و آب
برگ بنفشہ مجموع یا فرداً قدرے کافور ملا کر سینہ پر طلا کریں **اخیر** عطر سر میں سونگھاویں
اخیر جب تپ ساکن ہو حمام معتدل الہوا میں لیجائیں اور بعد حمام کے روغن
بنفشہ یا روغن نیلوفر یا روغن مغز تخم کدو شیریں بدن پر ملیں غذا گوشت بزغالہ
و چوزہ مرغ خانگی و بیضہ نیم برشت یہہ غذا ہر پنج حمی مذکورہ میں دیجاوی **علاج**
حمی غضبی نمبر ۶ = و حمی فرحی نمبر ۱۲ - ہر دو کا علاج ایک ہے مگر غضبی
میں گفتگوی خوشامد آمیز سے غصہ فرو کریں اور فرحی میں وہ باتیں سنائیں
کہ جس سے سرور و فرحت حقیر و بی ثبات معلوم ہو **اخیر** صندل و گلاب و کافور
و بنفشہ و نیلوفر سونگھائیں اور سینہ پر طلا کریں **اخیر** گلاب سینہ و سر پر
ڈالیں **اخیر** شربت انارین پلاویں **اخیر** تدابیر خواب و عمل میں لاویں
غذا سرد کھلائیں **حمی سہری نمبر ۷** - میں تدابیر مندرجہ سہر عمل میں لاویں
جب تپ کم ہو حمام کریں اور آب گرم مکرر سر پر ڈالیں اور اوسمیں بیٹھیں **حمی**
سباتی نمبر ۸ میں حمام کریں آب نیم گرم بدن پر ڈالیں ریاضت معتدل
کریں **اخیر** سونے نہ دیویں **اخیر** سبوس گندم و تخم تربوز و قدری نمک
بدن پر ملیں **حمی تعبی نمبر ۹** میں آرام و حرکت و خواب کے لیے تدابیر کریں جب تپ
کم ہو آب نیم گرم سے حمام کریں اور بدن کو باہستگی ملیں جب حمام سے فارغ ہو
بدن کو پونچھ کر خشک کرکے اور روغن گل و بنفشہ و نیلوفر ملکر پھر حمام کریں

آخر شکر و گلاب پلاوین غذا یا یخچہ مزعفر و زردہ بیضہ نیمبرشت جماع سے احتراز
ہے حمی وجعی المبز۱ مین ازالہ مرض عضو یا دف و تسکین وجع مین کوشش کرین
کس لیے کہ یہہ تپ عارضی ہے بعد ازالہ درد کے تدابیر مذکورہ حمی تعبی عمل مین لاوین
حمی جوعی المبز۱ انین اول قدرے قدرے آشجو دکدو و اسپاناخ ہمراہ روغن بادام
کے کہلاوین جب یہہ ہضم ہو غذا ہای سرد و تر دیوین حمام کرین اور روغن مرطب کے
مالش کرین حمی عطشی المبز۱۲ مین آب سرد سے غرغرہ و مضمضہ کرین اور قدرے
تناول کرین آخر شیرہ آلو بخارا و شیرہ تخم خرفہ آب تمر ہندی و آب انارین و آب
خیار ترش آب امرود پلاوین آخر آب سرد سے غسل کرین غذا سرد و تر دیوین
حمی تخمی المبز۱۳ اگر طبیعت نرم ہو اور استفراغ مین طعام فاسد خارج ہو کچھ دوا
نکھوین صرف گھونٹ گھونٹ آب گرم پلاوین تاکہ معدہ طعام فاسد سے پاک ہو جب مرض
کم ہو حمام مین لیجا کر جلد تر نکالین بعد ازان تقویت معدہ کے لیے گلقند یا سکنجبین
سفرجلی یا سیب یا امرود کہلاوین آخر آب بہی ترش و آب سیب ترش و روغن گل
مین ملا کر آتش ملایم پر جوش دین جب پانی سوختہ ہو اور روغن مین پشم تر کر کے
نچوڑین جو روغن خارج ہو اور پشم کو گرم کر کے نیم معدہ پر رکھین - اگر استفراغ
مین کچھ نہ نکلے اور قوت ضعیف ہو سفوف حب الرمان و شربت لیمو و شربت غورہ
و دیگر ادویہ باردہ قابضہ دین غذا حصرمیہ ریباسیہ زرشکیہ سماقیہ کرین - اگر طبیعت مین
قبض ہو اور طعام معدہ مین ہو قے کرائین - اگر امعا یا قعر معدہ مین ہو مطبوخات
مسہلہ دیوین اگر امعا سافلہ مین ہو اگر اسمین حرارت و سوزش ہو تو عناب و
بنفشہ آشجو و روغن بنفشہ و چربی بط و مرغ خانگی سے حقنہ کرین اگر امعا مین
قراقر و باد ہو اسکے لیے حقنہ مین تخم کرفس بادیان و زیرہ و بورق ڈالین اور بعد

بعد تنقیہ کے حمام و ضمادات مقوی معدہ استعمال کرین اور ضماد نرم معدہ پر سخت گرم نکرین
اگر مزاج گرم ہو اور تخمہ غذای گرم سے ہوا ہو آب انارین و شیر خشت و ہلیلہ مربے سے
طبیعت نرم کرین - اگر مزاج سرد ہو اور تخمہ غذای سرد سے ہوا ہو حب الافاویہ و
معجون خبث سے تلئین کرین **حمی جو شراب سے ہو نمبر ۱۵** - شراب ترک
کر کے آب انارین و شربت غورہ سرد کر کے پلاوین آخر ادویات دافع خمار
استعمال کرین آخر ہاتھ و پاؤنکو ملین آخر جای معتدل مین خواب کرین - اگر
قاید ہو تو پہر اور روبرو سے پیدا ہو آب میوجات سے طبیعت نرم کرین آخر فصد
یا حجامت عمل مین لاوین - جب کم ہو حمام کرین اور آب نیم گرم سر پر ڈالین غذا
گوشت تیتر و بٹیر و چوزہ مرغ خانگی آب غورہ یا آب انار وانہ یا ... کے
وین - **حمی کامی نمبر ۱۶** - **حمی تزلی نمبر ۱۷** ...
کرو پہر حجامت کرین بعد ازان مطبوخ خفیف سے تلئین کرین ...
و ترلہ عمل مین لاوین آخر گوشت و شراب سے پرہیز ہو جب آرام ہو حمام کرین
اسمین نہایت احتیاط لازم ہے کیلئے کہ اس سے برسام ہو جاتا ہے **حمی وبائی**
نمبر ۱۸ علاج مثل تپ سوی آخر اشیای خوشبو سونگہاوین آخر
ہوا ہو امساک بارد و مفرح بارد کہلاوین **حمی استفراغی نمبر ۱۹** - اگر بسبب قے و اسہال
کے ہو حابسات کا استعمال کرین جیسا علاج قی و اسہال مین مذکور ہوا اگر کثرت قی و اسہال
سے ضعف ہو ماء اللحم و شراب تیق دیوین اگر بسبب کم نکلنے خون کے تپ ہو بروز
تمام فصد مین خون و فصد لیوین **حمی سددی نمبر ۲۰** اگر سدہ بسبب امتلاء کے
ہو فصد کرین اور بعد فصد کے دو جانب جسپ پیدا ہے تو پہر فصد کرین - اگر امتلا کثرت
ہو بعد فصد کے تلئین کرین اور پہر تفتیح سدہ کی لیے سکنجبین بزوری معتدل و

آشجو دیوین جب تپ کم ہو حمام کرین آب نیمگرم مین بیٹھین اور بدن پر ڈالین عرصہ
دراز تک احتر آرد جو و آرد باقلا و سبوس گندم و تخم خربزہ و بیخ سوسن و اشنان
بدن پر ملکر غسل کرین — اگر یہہ تپ بطور دورہ کی آوی چار گھنٹہ قبل از نوبت حمام
کرین بعدہ گرم کپڑے اوڑھکر سلائین جو پسینہ آجاوے باقی علاج اسکا مثل سونوخس کے
ہے جو آگے آئیگا — اگر یہہ بسبب غلظ اخلاط کی ہو مثل استلائی کے علاج کرین
مگر فصد نہ چاہیے احتر شراب افسنتین و طبیخ پوست و تخم و بیخ بادیان و پوست
بیخ کرفس و سکنجبین بزوری گرم پلاوین احتر حمام مین مالش زیادہ کرین غذا آشجو
ہمراہ قدری تخم بادیان یا آب نخود ہمراہ روغن بادام حمی اماسی نمبر ۲۱ اگر ورم
باطنی ہو فصد باسلیق کرین اگر بغلمین ہو فصد اکحل اگر پس گوش ہو فصد
سر رگ و علی ہذا القیاس سوائے اسکے عضو ماؤف فصد کرین پھر تلیین طبع و تقلیل غذا
کرین غذا اخون البخیر امانند گوشت کی نہ دیوین احتر شربت لیمو و شربت
سیب ترش و شربت انار و شربت ترنج و آب میوہ فردا یا مجموع پلاوین تاکہ دل
و فم معدہ و دماغ کو قوت ہو احتر آشجو و اسپغول ہمراہ شکر کے دیوین
حمی حرارت آفتاب یا آگ سی نمبر ۲۲ روغن گل و سرکہ برف مین
سرد کرکے سر پر ڈالین احتر صندل مع گلاب و آب کشنیز تر لخلخہ کرین
اور اسی مین پارچہ تر کرکے سینہ و سر پر رکھین احتر شربت بنفشہ و شربت
نیلوفر و شربت تخم و ریواج و بہی و ترنج فردا یا مجموع یا آب انار برف سے سرد کرکے
... روغن گل ... پلاوین جو تشنگی و درد سر دور ہو احتر گل بنفشہ و گل
نیلوفر و بابونہ و اوخر و شکوفہ بید یا نمین یا اکیلا صرف آب گرم سے پاشویہ کرین — غذا
آشجو سرد کردہ ہمراہ شکر یا الپست جو ہمراہ شکر — جب تپ کم ہو بلا لحاظ نزلہ و زکام

زکام حام کرین **احتر** آب نیمگرم سر پر ڈالین **احتر** گل بنفشہ و گل نیلوفر و
قدرے بابونہ پانیمین آبالکر چہانکر یا صرف آب نیمگرم مین بیٹہین بعد ازان بشرطیکہ
زکام نہو روغن بنفشہ و روغن نیلوفر سے سرکو چرب کرین **حمی تناول ادویہ و**
اغذیہ گرم سے نمبر ۲۳ اولاً شیرہ تخم خیارین و شیرہ تخم خربوزہ و شیرہ
تخم خرفہ و سکنجبین سادہ سے ادرار کرین پہر شیر خشت تمرہندی یا آب انارین و
شیر خشت سے تلئین کرین **احتر** صندل گلاب مین تسکین جگر کے لئے ضماد
کرین **احتر** جملہ تدابیر مصلح جگر عمل مین لاوین بعد تسکین تپ کے آش غورہ
وسماق و لیمو و نارنج کہلاوین **حمی بسبب قے حیر یا خلفہ نمبر ۲۴** تسکین حیرہ
و امساک خلفہ مین کوشش کرین اور بعد اوترنے تپ کے حام کرین **حمی**
نمبر ۲۵ علاج غشی مندرجہ امراض قلب کرین ـ بالحاظ حرارت اسہیر استعمال
مقویات کرنا چاہیئے ـ غذا ماء اللحم و بیضہ نیمبرشت ـ
۲۶ **مواظبیہ** یعنی تپ ہر روز ساتھہ لرزہ اور سرما کے آوی ـ مادہ اسکا بلغم
ہے جو خارج عروق متعفن ہو مانند دماغ و معدہ و جگر و صدر و امعاء و ماساریقا
و مانند این ـ یہہ اکثر اطفال و عورت و مخنثان و مرطوب مزاجان اور انکو جو بسیار
بلغم افزا کہا کر استفراغ نکرین حادث ہوتی ہے ـ اور وقت نوبت اسکا اکثر شب ہے
۲۷ **لثقہ** یعنی تپ بلا لرزہ و سرما شدت ہر روز کرے اور شدید نہو ـ مادہ
اسکا بلغم ہے جو داخل عروق متعفن ہو اسکو تپ لازمہ بلغمیہ بہی کہتے ہین
کسیقدر تپ دق سے اسکو مشابہت ہی فرق بینہما یہہ ہے کہ دق مین
شدید ہونا حرارت کا بعد کہانیکے اور نبض صلب و ممتد ہوتا ہے اور لثقہ مین
ہوتا اور نبض صغیر و لین ہوتی ہے ـ

۲۸ محرقہ بلغمی یعنی بلغم شور کثیر الحرارت رگہای نواحی معدہ وجگر و دل مین متعفن ہو علامات تپہای بلغمی ۱ ابتدامین قارورہ سفید و رقیق مانند پانی کے اور انتہامین سرخ و تیرہ ہو ۲ ابتدامین نبض ضعیف صغیر مختلف اخیرمین متواتر و شدید الاختلاف ہو ۳ تشنگی نہو مگر بلغم شور کے لیے تشنگی لازم ہے البتہ بہ نسبت صفرا کی کم ہوتی ہے ۴ اکثر ابتدامین غشی ہوتی ہے ۵ اشتہا نہو ۶ منہہ تر ہو تلخ نہو ۷ براز نرم و رقیق ہو ۸ قی و اسہال مین بلغم برامد ہو ۹ ابتدامین پسینہ کم اور اخیرمین بہت آوی ۱۰ بہ نسبت حمی صفراوی کے حرارت کم ہو ۱۱ مدت نوبت اکثر اٹھارہ گہنٹہ اور مدت آسایش چھہ گہنٹہ ہے بحالت آسایش اثر حرارت قدرے باقی رہے یہہ حال تپ منبلغ ہوتا ہے ۱۲ بلغم زجاجی مین ناقص شدید حامض مین برد شدید مالح مین ابتدا قشعریرہ ناقص ضعیف و برد شدید ۱۳ جب ہاتھہ بدن پر رکھین حرارت بڑہتی معلوم ہو یعنی اندر سے کوئی چیز گرم باہر کو آتی ہے -

۲۹ حمی نہاری یعنی وہ مین تپ آوی و رات کو نہو - یہ تپ بلغمی ہے -

۳۰ حمی لیلی یعنی بخلاف حالت نہاری کی ہو - تپ بلغمی ہے -

۳۱ غب لازمہ یعنی تپ ایک روز درمیان دیگر بے لرزہ و سرما کی شدت کرے - مادہ اسکا صفرا ہے جو داخل عروق متعفن ہو علامت عوارض اسکے غب خالص سے زیادہ اور محرقہ سے کم ہوتی ہین -

۳۲ محرقہ صفراوی مادہ اسکا صفرا یا ترکیب بلغم سے ہے جو داخل عروق نواحی جگر و دل مین متعفن ہو یہ اکثر بچون اور جوانون کو ہوتا ہے علامت تپ لازم ۱ باطن سوزان زیادہ ظاہر سے ۲ تشنگی کثیر ۳ ابتدامین سینہ

پسینہ نہ آوی قرب بحران وآخر مین پسینہ آوی ۵ سرفہ قلیل وقشعریرہ ۶ حرارت اللمس
زیادہ غب لازمہ سی ۷ زبان سیاہ یا زرد یا درشت ہو مگر سیاہ بد ہے ۸ اگر صفرا خالصی ہو تو اعراض ردیہ مانند سہر اختلاط عقل وقلق ودرد سر ورعاف وغور عیون و
کرب وسقوط اشتہا وافراط حرارت سینہ - بہت مشابہ مطبقہ کی ہوتی ہے فرق انمین
یہہ ہے کہ محرقہ بروز نوبت غب قوی تر ہوتی ہے بخلاف مطبقہ کی اور محرقہ مین رنگ
رو وچشم سرخ اور رگین پر ایسی نہین ہوتی جیسے مطبقہ مین ہوتی ہین اور تمدد
بدن وضیق النفس وربو محرقہ مین نہین ہوتا اور مطبقہ مین ہوتا ہے -

۳۳ **غب دائرہ** یعنی ایک روز درمیان دیکر ساتھہ لرزہ وسرد کے تپ شدت کرے
جب دو غب جمع ہون تو ہر روز تپ ہوگا مگر ایک روز کم ایک روز زیادہ - اگر
تین غب جمع ہونگی تو ایک روز ایک غب اور دوسرے روز دو غب اندر حالت
زیادتی اعراض کے ہوگی فرق اسمین اور محرقہ مین یہہ ہے ۱ اسمین حرارت و
لذع بہ نسبت محرقہ کم ہوتی ہے ۲ سیاہی زبان وکرب ودیگر علامات محرقہ اسمین
نہین ہوتے - مادہ اسکا صفرا ہی جو خارج عروق متعفن ہو -

۳۴ **غب خالصہ** ایک قسم غب دائرہ سے ہے - اور صرف مادہ صفرا سی ہوتا ہے
علامت ۱ شروع سرما پشت سے ہوکر لرزہ قوی ہو اور سوزن کیطرح چبھنا
محسوس ہو ۲ لرزہ جلد ساکن ہو ۳ بدن جلد گرم ہو ۴ گرمی اسمین جملہ
اقسام تپ سی سواے محرقہ کی سوزان تر ہو ۵ جب ہاتھہ بدن پر رکھین ہاتھہ کو
جلا دے اور کچھہ عرصہ ہاتھہ رکھنے سے گرمی اوس جگہہ کی کم ہو جاے ۶ بول ناری
ورقیق وبدبو با قدری قوام ۷ اکثر بروز اول یا سیوم بول مین نضج پیدا ہو ۸
ابتدا مین نبض صغیر وضعیف ومتفاوت اور پھر تھوڑے عرصہ مین عظیم وسریع

وہ متعفن ہو جاتی ٩ مدت نوبت چار گھنٹہ سے بارہ گھنٹہ تک ہے اگر ایسا نہو تو غب خالصہ نہیں ١٠ بعد اوترنے تپ کے پسینہ بہت آوے ١١ بحالت تپ اگر پانی پیا جاوے تو تری پوست پر ایسی ظاہر ہو کہ گویا پسینہ آئیگا ١٢ بیخوابی بیقراری و تشنگی کثیر و غشیان و قے و اسہال صفراوی مگر غب لازمہ سے کم ١٣ زبان و دہن خشک و تلخ ١٤ درد و گرانی سر مین نہو یا کمتر ہو ١٥ چند روز تک سرما قوی ہو اور پھر کم ہو جاتا ہے

ف غب غیر خالص

٣٥ **غب غیر خالص** از قسم غب دائرہ ہے - اور بعض صفرا و بلغم سے بلا امتیاز ہوتا ہے **علامت** مدت سرما و لرزہ زیادہ غب خالصہ سے ٢ اگر لرزہ نہو ٣ حرارت کم خالصہ سی ٤ وقت نوبت بی نظام و بی اعتبار ہو ٥ مدت نوبت بارہ گھنٹہ سے تیس گھنٹہ تک ٦ مدت آسایش اڑتالیس گھنٹہ تک ٧ تنفیح دیرین ٨ پسینہ خالصہ سے کم آوے ٩ کاہلی و کربت بیخوابی و ضعف معدہ و بیزرگی و ہان ١٠ بول غلیظ و رنگین کبھو کم رنگت سفید ١١ ابتدای نوبت مین نبض ضعیف و صغیر و متفاوت اور آخر مین مختلف -

ف شطر الغب

٣٦ **شطر الغب** - از قسم غب دائرہ ہے - اور صفرا و بلغم با امتیاز ہوتا ہے یعنی صفرا و بلغم علیحدہ علیحدہ متعفن ہو **علامت** خلط غالب پر نظر کیجاوے -

ف مطبقہ

٣٧ **مطبقہ** تپ ہوی جو خون خارج عروق متعفن ہو -

ف مطبقہ حقیقیہ

٣٨ **مطبقہ حقیقی** تپ ہوی جو خون داخل عروق متعفن ہو -

ف متناقضہ

٣٩ **متناقصہ** از قسم مطبقہ حقیقی - ابتدا مین نہایت سخت تپ ہوتا ہے پھر تدریج نرم ہوتا جاتا ہے -

ف متزاید

٤٠ **متزاید** قسم مطبقہ حقیقیہ - اسمین ہر ساعت قوت تپ کے زیادہ ہوتی جاتی ہے اور نہایت سخت و بد ہے -

۴۱ مشاویہ قسم مطبقہ حقیقے ہے جسمین حالت تپ کی اول و آخر مین مساوی رہتی ہے
علامت نمبر ۳۲ سی نمبر ۴۱ تک ۱ جسم گرم زیادہ ۲ قلق وکرب ۳
نبض سخت مختلف ۴ بول کدر وبدبو ۵ کبھی لرزہ ہو ۔

۴۲ سونوخس تپ دموی ہے جو خون گرم ہو بلا عفونت ۔ یہہ اکثر ادن یا ضت
کشندگان کو ہوتا ہے جو ترک ریاضت کرین ۔ سلم ومحرقہ وحصبہ وجدری سے
منتقل ہوجاتا ہے علامت سرخی چشم ودرد وانتفاخ وتمدد اوردہ اور خارش بینی
وابرو وموضع فصد وعظم نبض وسرخی وغلظ قارورہ اور پہلی تپ کے ثقل وکسل وتمدد بدن
اور تپ لازم بلا نافض وقشعریرہ اور گرمی کم محرقہ وغب سے اور پسینہ نہ آوے اور ہاتھہ بدن پر
رکھنے سے مانند حمام کے گرمی بدن پر محسوس ہو ۔ جملہ عوارض اسکے مطبقہ
سے خفیف ہوتی ہین ۔

۴۳ ربع دایرہ یعنی چوتہایا ۔ تپ سوداوی ۔ مادہ خارج عروق متعفن ۔ تپ
دو روز درمیان نہو بروز چہارم لرزہ سی آوے ۔

۴۴ ربع لازمہ تپ سوداوی ۔ مادہ داخل عروق متعفن ۔ تپ ہر وقت
رہے اور بروز چہارم ہی لرزہ کے شدت کرے ۔

۴۵ خمس تپ سوداوی ۔ بروز پنجم آوے ۴۶ سدس ۴۷ سبع
۴۸ ثمن ۴۹ تسع ۵۰ عشر تپہای سوداوی یعنی بروز ششم وہفتم
وہشتم ونہم ودہم تپ آوے ۔

۵۱ لیفوریا یعنی اندرون بدن کے گرمی سخت محسوس ہو اور باہر سردی ۔ اگر
بلغم سے ہو علامت بول خام ونبض بطی ومتفاوت ۔ اگر صفراسی ہو علامت
تپ لازم اور بطور غب کے شدت کرے اور جملہ آثار صفرا کی ظاہر ہون ۔

۵۲ **انفیالوس** یعنی خلاف حالت لیفوریا کے —

۵۳ **حمی غشیہ** یعنی تپ مین بیہوشی و ضعف ہو — دو قسم ہوتا ہے ۱۔ بد نفیر بلغم خام افزون ہوکر متعفن ہو ۲۔ صفرای رقیق متعفن ہو —

۵۴ **حمی دق** یہ تپ ہے جو حرارت غریبہ اعضای اصلی خصوصاً دل کو پہونچی اور رطوبت ثلاثہ کو فنا کرے اس تپ کے تین درجہ ہوتی ہین اور درجہ دوم تک علاج پذیر ہے — درجہ سیوم لاعلاج —

اول علاج تپہا از نمبر ۲۶ — تا نمبر ۳۰

بروز چہارم تبرید خفیف دیوین اگر مادہ غلیظ ہے بروز پنجم ادویہ قلیل الحرارت منضج قریب ... ات کو گرم پانی مین ترکرکے صبح ملکر چھانکر شربت بنفشہ دو تولہ خاکسی سات ماشہ ... ملا دین بعد تنضیج کے بروز مقررہ مسہل جو جدول مندرجہ فواید مین تحریر ہے مسہل گرم یا ادویہ شدید الحرارت کی نہ دیوین مسہل دوم یا سیوم مین ملانا ... ناریقون و تربد کا جایز ہے

دوم علاج تپہا از نمبر ۳۱ — تا نمبر ۳۴

شیرہ تخم کاہو تخم خشخاش شیرہ مغز تخم کدو شیرین ہر یک ہفت ماشہ عرقیات یا پانی مین نکالکر شربت نیلوفر دو تولہ خاکسی سات ماشہ ملا کر پلا دین اگر قوت ضعیف اور خفقان ہو عرق کیوڑہ و عرق بید مشک گلاب و عرق گاوزبان ہر یک سہ تولہ تبرید مذکور مین اضافہ کرین اگر بیقراری و اضطراب و خفقان ہو صندل سفید گلاب مین پیسکر پانی مین ترکرکے جگر و دل پر رکھین اگر درد سر اور سہر بسبب تصاعد ابخرہ کی ہو تدبیر صداع و سہر عمل مین لاوین اگر کھانسی ہو لعاب بہیدانہ سہ ماشہ تبرید مذکور مین اضافہ کرین اگر درد گلو ہو شیرہ عناب پنجدانہ داخل کرین اور نیز اس سے غرغرہ کرین بروز پنجم شیرہ تخم خیارین ہفت ماشہ اضافہ کرین اگر بروز پنجم نوبت پڑے تحریک نکرین اگر حاجت زیادہ تبرید کی ہو شیرہ تخم خرفہ سیاہ سہ ماشہ ملاوین بروز ہفتم

ہفتم شیرہ تخم خیارین موقوف کرکے شیرہ تخم کاسنی ہفت ماشہ ڈالین اگر حاجت ہو
بوقت شام لعاب بہیدانہ ماشہ عرقیات یا پانی مین نکالکر شربت نیلوفر یا شربت انار
دو تولہ خاکسی ہفت ماشہ ملاکر پلاوین معقول ترشی تخم خیارین شام کو دین اگر
زبان ولب خشک ہو لعاب اسپغول سے مضمضہ کرین اور اسپغول کے پوٹلی باندہکر پانی
مین ترکرکے لبون پر ملین - اگر مانع نہو شیرہ آلو بخارا بہیدانہ شیرہ [illegible]
سکنجبین دو تولہ پلاوین روز نوبت سکنجبین سے قی کرائین ہشتم [illegible]
پونچہین تاکہ مادہ براہ عرق دفع ہو چکے تپ شدید مین احتیاج منضج کی نہین ہے [illegible]
پس مسہل باردسے تنقیہ کرین بعد بحران کے قرص طباشیر ملین ہمراہ آب کا[illegible]
سبز مروق کے دیوین بعدہ معالجات تپ مرکب عمل مین لاوین سیوم
علاج نمبر ۳۵-۳۶ مثل تپ نائبہ صفراوی مگر رعایت خلط غالب کے
کرین چہارم علاج از نمبر ۳۷-تا نمبر ۴۲ [illegible] فصد ہفت اندام یا باسلیق کے
علاج تپ صفراوی کا کرین اور فصد مین اسقدر خون نکالین جو مریض کو غش ہو جائے
اسمین عرق لانا بہی مفید ہے پنجم علاج تپہا از نمبر ۴۳-تا نمبر ۵۰ حسب غلبہ
خلط مثل البلغم لیا عمل کرین پرہیز زیادہ نکرین ہفتم مثل تندرستون کے کہانا
کہاوین ہشتم غذا مائل بترطیب کہاوین ہشتم [illegible] روز نوبت کچہہ نہ کہاوین
تپ ربع لازمہ کی لیئی ہر حالمین فصد باسلیق یا صافن واجب ہے اور بعد نضج کے
تنقیہ کرین ششم علاج تپہا از نمبر ۵۱-تا نمبر ۵۲ قسم بلغمی [illegible]
روز تک طبیخ تخم ترب وسکنجبین سے قی کرین اور صبح دو تولہ گلقند [illegible]
بعد ازان سکنجبین پنج تولہ پیوین اگر سردی زیادہ ہو گلقند عسلی وسکنجبین عسلی
استعمال کرین پہر بعد سات روز کے مسہل مثل البلغم کے کرین [illegible]

صفراوی کا علاج مانند شطر الغب کے ہے **ہفتم علاج نمبر ۵۳** قسم بلغمی اسکا
علاج ہی مگر تین روز تک ماء العسل سادہ پلادین اور بحالت ضعف قوت آشجو
و نخود آب پلادین۔ قسم صفراوی مہلک ہے۔ جو بسبب بیخوابی و غم و ہم و استفراغ
کثیر کے ہو قابل علاج ہے۔ پس ہر لحظہ آشجو ہمراہ آب انارین کے دیوین **آخر** آب
خرفہ و تخم خیارین و شربت بہی و سیب و صندل و فواکہ خاصۃً برف مین سرد
کرکے پلادین **آخر** صندل گلاب مین پیسکر سینہ پر ضماد کرین **آخر** برگ بید پر
گلاب ڈالکر بستر پر بچھین **آخر** مکان کو خوشبو سے بسادین اگر قبض ہو
آب جو و آب کدو سرد کرکے سے حقنہ کرین۔ جب نوبت تپ کے قریب پہونچی
نان آب انار میخوش یا آب لیمون مین ترکرکے کھلادین تاکہ ترشی سے معدہ کو قوت
ہوکر مانع انصباب صفرا ہو۔ جب غش ہو اوسیطرح نان چیزون مذکورہ مین تر
کرکے حلق مین ٹپکاوین۔ اگر تپ شدید الحرارت ہو قرص کافور دیوین **آخر** مثل
محرقہ کی علاج کرین **ہشتم علاج نمبر ۵۴** قرص طباشیر ملین و قرص کافور ہمراہ
تبرید یا آب الخیار و ماء القرع کے دیوین۔ اگر حمی عفنہ سے مرکب ہو اور معدہ مریض کا
ضعیف ہو قرص مذکورہ ہمراہ شیر بز و شیر خر و شیر شتر کے دین اور اسہال بتدریج
کرین۔ اگر کھانسی ہو خمیرہ خشخاش وغیرہ مندرجہ تراکیب اقراص مذکورہ مین پلادین۔
ہر طرح سے تبرید و ترطیب کرین۔ ادویہ مرطبہ پانی مین جوش دیکر مریض کو اوسمین
بٹھادین جب باہر آوے روغن کدو مین تمام بدن اوسکا غرق کرین اور روغن بید کو
کان و ناک مین ٹپکاوین غذا شوربای گوشت بز و بارچہ و زردہ بیضہ نیمبرشت کرین
نمک کم ہو۔ مساکن بلند و مہب شمال و کنارہ آب پر مریض سکونت رکھے۔
اشیاء ابدہ و مالحہ و حریفہ و حارہ و گرسنگے و تشنگے و غم سے اجتناب کرین۔ فوائد

فواید متعلقہ حمیات

فواید متعلقہ حمیات - اول علامت انتقال حمی یوم بحمی دیگر
بوقت اوترنے تپ کے عرق نہ آوی اگر آوی تو اثر تپ کا بدن و رگوں مین باقی ہے اور
مدت انحطاط تپ کی دراز ہو اور بدبشوری اوترے اور درد سر زائل ہو لیکن اگر شراین
گرم ہون اور قدری حرارت بدن مین قایم رہے اور بعد تناول غذا کی تیز ہو جاوئے
اور نبض مستوی بانتظام مائل بصغر و صلابت ہو - علامت انتقال بدق ہے -
علی ہذا القیاس جس تپ کے علامتین پائی جاوین انتقال اسکا ساتہہ اوس تپ کے
سمجہنا چاہیئے **دوم علامت تعفن مادہ** اگر مریض شکوہ درد سر کا کرے
تعفن دماغ مین ہے - اگر ہمراہ تپ کے قی و درد معدہ ہو تعفن معدہ مین ہے - اگر
ساتہہ اسہال کے ہی احشا و معدہ و ماساریقا مین تعفن ہے - اگر ساتہہ ادرار کے
ہی تعفن جگر مین ہے - اگر ساتہہ کہانسی کے ہی تعفن صدر مین ہے - علی ہذا القیاس
سیوم کبہی دو غب مرکب ہوتے ہین اور مثل تپ بلغمی کے ہر روز آتی ہے
اسلیئے اعتماد کلی نوبت حمیات پر کرنا نچاہیئے بلکہ شدت عوارض دلیل ہے حدت
مادہ کی اور ضعف عوارض دلیل ہے برودت مادہ کی - اور کبہی ملک و فصل و سن
و مزاج و عادت و پہلے تدبیر دلیل ہوتی ہے **چہارم** اگر علاج غب خالص مین غلطی
واقع ہو ات دورہ یعنی ہر دو روزہ کبہی ہر روز و کبہی ایک ... مین تزاید ہوتی
ہی **پنجم** محرقہ مین جو بخار دماغ پر آتا ہے - اگر صفراوی ہو علامت بیخوابی و تشنگی
ہیں - اگر رطوبتی ہے ہو علامت تر ہونا منفذ ناک کا و گرانی سر و غفلت - اسمین
بخلاف صفراوی کے استعمال شیر و روغن گل و نیلوفر سر پر کرین جو موجب
سلام ہے **ششم** تپ صفراوی لازمہ خصوص محرقہ محتاج تبرید کی زیادہ تر ہین
بعد ازان تپ دموی بعد ازان بلغمی بعد ازان سوداوی **ہفتم** تپ ...

نہیں کی اس تپ میں اصفرا ہوتے ہیں مگر شربت نیلوفر نہیں ہوتا ہشتم تپ سوداوی
میں اکثر تبدیل طحال میں اور تغیر حال جگر میں ہوتا ہے جمیع انواع ربع میں پہلی کیول مفید
اور قیء بعد طعام و اول میں سینہ بھی ہوتا ہی پہر سیاہ و غلیظ ہو جاتا ہے - کمتر ہوتا لرزہ و بسر
یا بعض غدود سے پھوڑے کے نشان نفع ماء سرد کا ہی نہم بعض اوویہ بہروہ مثل
کافوری کے تپ قی یا تیج شکم پیدا کرتی ہے اسکے ہمراہ اوویہ مرطبہ کے کہلاویں اور
بعض اوویہ مثل بیشتر ان شراب گرمی پیدا کرتی ہے اسکو پانی میں ملا کر وقت ہضم
غذا کے دیویں - دق میں مرغیات مسمن سے اجتناب کہیں دہم تپ کے آنے تک بعد
غذا نہ کہانا چاہیے - تقلیل غذا جمیع تپ میں مفید ہے - ابتدای نوبت میں خواب نکرین
مثل بالا اسہال استعمال مسہلات سے پرہیز نہیں محترز رہیں - کہانا روغن کا سوا
روغن بادام کے باعث ازدیاد عفونت ہی - کہانا عدس کا بعد زوال حمیات کے
مانع نکس ہے - ہر ایک تپ میں جو بعد زوال ہو غذا سو توقف نکرین یازدہم
ذکر بحران - بحران لفظ یونانی ہے بمعنی غلبہ خصم برخصم و باصطلاح
اطبا جہاد طبیعت بہ مرض - بروز بحران مسہل و جمیع استفراغات ممنوع ہیں -
روز ہای بحران کو ایام الباحوریہ اور روز ہای خبر دہندہ بحران کو ایام الانذار
اور جو دن بین ایام باحوریہ و انذار کے ہوتی ہیں انکو ایام واقع الوسط
کہتے ہیں امراض مزمنہ میں بجاے دنون بحران کے ماہ و سال شمار ہوتے ہیں
مثلا ربع سوداوی و بلغمی میں ہفت ماہ - بحران تپ سوی محرقہ کا بروز
ہفتم ہوتا ہے - اگر اولا تپ پہلی دو پہر سے آوی اوسکو پہلا دن تپ کا سمجہنا
چاہیے اگر بعد دو پہر کے آوی وہ دن شمار میں نہیں آتا مثلا اگر تپ وقت صبح قبل
دو پہر بروز شنبہ کے آوی وہ دن شمار کیا جاتا ہے اگر بعد دو پہر شام کو ہو تو روز

روز یکشنبہ روز اول تپ کا شمار ہوتا ہے لیکن تپ نوبت میں ایسا نہیں ہے
رعایت روز بحران کے جمیع امراض میں جو مادہ تیز و گرم سے ہوں واجب ہے مگر
جب مادہ غالب ہو کر موجب حدوث آفت عظیم ہو جائے یا سات روز منقضی ہونے
تک قوت ساقط ہو جائے یا مرض سات روز تک مہلت نہ دیوے مانند قولنج کے اسی
وقت لحاظ بحران کا نکرنا چاہیے - اگر ایام مسہل میں نوبت تپ کے واقع ہو تو ایام
بحرانیہ جو قوی نہیں مثل روز نہم وغیرہ کے مسہل دیویں اور نیز روز نوبت
میں قبل از نوبت مسہل دیویں مثلاً اگر دو پہر کو ہو مسہل پہر رات باقی رہے
دینا چاہیے تاکہ عمل مسہل پہلے نوبت سے منقطع ہو جائے - اگر طبیب مناسب
جانے بعد نوبت کے مسہل دیویں - اگر بروز اول حدس لاحق ہو تب بروز
چہارم قوی ہو جاتا ہے اس صورت میں بحران بروز ہفتم ہوگا اگر تیسرے روز درد
سر ہو یا پانچویں روز تپ شدید ہو جاتا ہے اسمیں نویں یا گیارہویں روز بحران
ہوگا - تفصیل ایام الانذار چہارروز خبر دہندہ روز ہفتم کا - گیارہواں
خبر دہندہ چودہویں کا - سترہواں روز بیسویں کا - اکیسواں و چوبیسواں
خبر دہندہ ستائیس کا ہے - تفصیل ایام بحران و مسہل کہ جدول واضح ہوگے

جدول ایام بحران و مسہل و واقع فی الوسط

۱	بحران	۴	بحران
۲	خلاف	۵	واقع فی الوسط
۳	بحران	۶	بحران قوی

۷	بحران محمود	۲۶	مسہل
۸	مسہل بالاختلاف	۲۷	بحران
۹	بحران	۲۸	خلاسے
۱۰	مسہل بالاختلاف	۲۹	مسہل بلاخلاف
۱۱	بحران جید	۳۰	خلاسے
۱۲	مسہل بالاختلاف	۳۱	بحران
۱۳	بحران محمود	۳۲	مسہل بلاخلاف
۱۴	بحران جید	۳۳	مسہل بلاخلاف
۱۵	خلاسے	۳۴	بحران
۱۶	مسہل بالاختلاف	۳۵	مسہل
۱۷	بحران	۳۶	مسہل بلاخلاف
۱۸	بحران	۳۷	بحران
۱۹	مسہل بالاختلاف	۳۸	مسہل بلاخلاف
۲۰	بحران	۳۹	مسہل بلاخلاف
۲۱	بحران محمود	۴۰	بحران
۲۲	مسہل بلاخلاف		
۲۳	مسہل بلاخلاف		
۲۴	بحران		
۲۵	مسہل بلاخلاف		

سکنجبین سفرجلی واسطے تقویت معدہ و جگر حارہ و رفع غثیان و قی و اسہال
صفراوی اور قطع عرق کے سفید **صفت** آب بہہ شیرین و ترش ہر یک نیم آثار شکر
و قند ہر یک یکپاؤ قوام بناوین۔ اگر آب بہہ شیرین ترش مین بناوین قابض ہوگا
سفوف حب الرمان انار دانہ ترش بریان بست ماشہ گیرو یا کشنیز از ہر
یک چہار ماشہ گزنانخ خرنوب نبطی ہر یک دو ماشہ سماق گلنار ہر یک سہ ماشہ۔ کرویا و کشنیز
کو سرکہ مین تر کرکے خشک کرکے بریان کرکے مع دیگر ادویہ کوٹ کر چھانکر سفوف
بناوین **خوراک** ساڑھے دس ماشہ **شربت غورہ** واسطے حرارت و ضعف
معدہ اور گرمی صفرا کے معدہ مین اور دردہای گرم و رفع سموم و تسکین تشنگی و تقویت
احشا نافع **صفت** آب غورہ یک آثار جوش دین جب نصف رہے ایکشب رکھین
اور بروز دوم نہ ماشہ قرنفل ملاکر جوش دین جب برابر ہو سکے اوسمین آدہی آدہ سیر شکر
ملاکر قوام بناوین **شربت لیمو** مقوی معدہ و ہاضمہ و مشتہی و دافع خمار و قے
و صفرا **صفت** آب لیمو اٹھارہ تولہ نہ ماشہ قند سفید یک آثار بطریق مقرر شربت
بناوین **شربت انار شیرین** مقوی جگر و دل و دافع تشنگی **صفت**
آب انار شیرین دو آثار جوش دین جب نصف باقی رہے قند سفید یک آثار
ملاکر شربت تیار کرین **حب الافاویہ کثیر الصبر** واسطے مرہ سودا و بلغم متولدہ
کے معدہ مین مفید اور وہ غشی جو اوس سے پیدا ہو دور کری **صفت** قرفہ سلیخہ
قاقلہ اذخر حب بلسان قصب الذریرہ دارچینی ہر یک بست و پنج تولہ نیمکوب کرکے
آب باران یازدہ آثار مین جوش دین جو نصف باقی رہے بعد ازین صبر نیم آثار
لیکر آب مذکور کے ساتھہ تین مرتبہ سطح دھوئین جو اوسمین ثقل ناقص باقی
رہے پس دھوپ مین خشک کرکے زعفران مصطگی مر صاف ہر یک دو نیم تولہ

ملا کر پانی مین بقدر نخود گولیان بنادین خوراک تین ماشہ ہمراہ آب گرم **معجون انار**
قولنج ایک ساعت مین دور کرے **صفت** خولنجان قرفہ سداب زیرہ کرمانی زنجبیل
دار فلفل فلفل ہر یک پانچ ماشہ سقمونیا دو تولہ عسل نیم آثار **خوراک** چار و نیم ماشہ
سکنجبین بزوری معتدل مفتح سدہ جگر و سپرز و معدہ و مدر بول و دافع
تپہای مرکبہ **صفت** تخم کاسنی بادیان تخم کرفس ہر یک دو تولہ جملہ نیم کوفتہ پانی و دیڑھ
سیر و سرکہ پانچ تولہ مین ایک رات دن تر کرکے جوش دیکر قند سفید ایک سیر مین قوام کرین
شراب افسنتین تبرید جگر بصفت موصوف سات ماشہ افسنتین رومی ساڑھے ستره
سنبل ساڑھے تین ماشہ گل سرخ چار تولہ چھ ماشہ سب کو تین آثار پانی مین جوش دین جب
ایک آثار رہے ملا کر چھان لین **خوراک** بوقت صبح گیارہ تولہ ہمراہ شکر تین تولہ کے
سکنجبین بزوری گرم مفتح سدہ معدہ و جگر و مدر بول و منقی معدہ از فضول
و دافع استسقا **صفت** تخم کاسنی نیم کوفتہ تخم کشوث تخم کرفس بادیان انیسون
ہر یک ساڑھے ستره تولہ پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس ہر یک پینتیس ماشہ
پانی و سرکہ مین تر کرکے قند سفید ایک سیر مین قوام بنادین **شربت سیب**
مقوی قلب و معدہ و مفرح و دافع قی و اسہال **صفت** آب سیب دو آثار جوش دین
اور پھر نبات سفید ایک آثار ملا کر جوش دیکر بتا بنادین **شربت ترنج** واسطہ خفقان
گرم و امراض حارہ دل کے مفید **صفت** ترشی ترنج کو ایک ظرف پاک مین دھوئین
جو اثر ترشی کا ترنج مین رہے پس بمقابلہ ایک عدد ترنج کی قند سفید بیست و ہشت
تولہ ملا کر قوام بنادین **دواء المسک بارد** مقوی اعضاء رئیسہ و دافع حرارت
صفت مروارید ناسفتہ کہربا شمعی ہر یک چار و نیم ماشہ ابریشم مقرض طباشیر
سفید صندل سفید غنچہ گل سرخ مصطگی زرشک خشک سعد تخم کدو شیرین گل گاؤزبان

گل گاؤزبان و مشک تبتی عنبر اشہب ہر یک دو ماشہ یاو بالا آب سیب شیرین نو تولہ جلاب
دو نیم ماشہ قند سیاہ بست تولہ و دہ ماشہ معجون بناویں خوراک چہار و نیم ماشہ —
ماء الخیار — واسطے تپ و قئ سوی صفراوی و اخلاط محرقہ حارہ و سرفہ حارہ اور
ترطیب مزاج و رفع تشنگی کے مفید ہے اور بہ نسبت ماء القرع کے زیادہ مدر ہے اور
مستحیل بصفرا نہیں ہوتا اور مادہ تپ کا اوس سے خارج ہوتا ہے صنعۃ خیار تازہ
کو کاردہ سے چند جگہ زخمی کریں اور گل زرد یا آردجو بقدر یک انگشت اوسپر طلا کرکے
تنور میں اوسوقت رکھیں جو گرمی تنور کی کسیقدر کم ہو گئی ہو تا کہ بریان ہو جائے
اور صبح تنور سے نکالکر مٹی یا خمیر دور کرکے سر اوسکا کاٹ کر نچوڑ کر پانی نکالکر
صاف کرکے ہمراہ شربت نیلوفر و دیگر ادویہ مناسبہ کے دیویں اور آدہ سیر تک
پہونچاویں — بہتر یہ ہے کہ خیار کو اول خمیر آرد اور پارچہ میں لپیٹ کرکے بعد ازان
آردجو پانی سے طلا کرکے تنور میں رکھیں ماء الہندبا یا لیس یعنے چکیدہ کاسنی کے
واسطے دفع حمیات مرکبہ جو بلغمیت اوسمیں زیادہ ہو بہتر ہے آب برگ کاسنی
صنعۃ تخم کاسنی چار تولہ نیم کوب کرکے رات کو پانی میں تر کرکے دو گہڑی رات
باقی رہے صاف موٹی سے جو ہر چہار گوشہ اوسکے چار چوب سے باندھی ہوں مثل
ریتی چھنیاں سات بار ٹپکاویں کبھی بجای پانی کے عرق بادیان و عرق عنب الثعلب
ڈالتے ہیں شربت ورد مکرر واسطے حمیات صفراوی و تسکین تشنگی
اور تلیین طبیعت کی نافع صنعۃ عرق گل سرخ تازہ چار سیر ظرف میں ڈالکر
دو تار آب گرم اوسمیں ملاکر ایک رات دن رکہیں بعد ازان ملکر دیگ میں ڈالکر
جوش دیں تا کہ پورا رنگ پہول کا پانی میں آوے پس صاف کرکے چار سیر اور ورق
گل سرخ اوس پانی میں ملاکر جوش دیکر چہار کرکے اتار پانی میں دو سیر قند ملاکر قوام بناویں

قرص گل واسطے تپ ہای کہنہ ومرکبہ کے مفید صفت گل سرخ اصل السوس رب مقشر تریہ
چودہ ماشہ طباشیر سفید سنبل الطیب افسنتین رومی ہر ایک سات ماشہ ترنجبین خراسانی
ساڑہی دس ماشہ کو نکر چہانکر گلاب میں ملاکر اقراص بناوین خوراک تین ماشہ ہمراہ چکیدہ
کاسنی وشربت بزوری طریق پسینہ لانیکا فی تازہ وتر کو کوٹ کر نچوڑ کر سر
اور کف پای مریض مین طلا کرین اور بدن کو پارچہ ہای گرم مین رکہین عرق بہت آتا
ہی **آخر** آب گرم زیر پشت رکہین **آخر** پاشویہ کرین - مگر جسوقت عرق لانا منظور
ہو مریض کو کپڑے سی ڈہکین -

علاج مسافرانہ حمیات -

۱- **جمیع اقسام تپ** - کی لیئے نافع - اہل عرب کا تجربہ - نیز راقم نے مفید پایا -
صفت خاکسی ایک تولہ پانیمین ملاکر خوب ہلا کر رکہدیا آلہ نقرہ سے خوب بہش کیا پانی مذکور نکالکر پھر
ایسا ہی سات بار کرکے دو تولہ مصری ملاکر پلاوین **مصر** سے ایک قسم قند کا
بطور ہدیہ کے ہوکر آتی ہے اور مصری آتی ہے اور مکہ معظمہ اور نیز ہندوستان مین بھی
فروخت ہوتی ہے **آخر** نیز تپ لرزہ کی لیئے **صفت** تنفیر کرنیکے بعد افسنتین ہر
ایک تولہ زیرہ سفید برگ مغیلان ہر ایک شش ماشہ کو نکر پانیمین بقدر نخود گولیان
بناوین خوراک ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام متواتر تین روز دیوین **آخر**
زمین مین دوا شہوانگیز بری ہے بعد اترنے تپ کے ایک تی ہمراہ آب گرم ملا کر کے پہر ایک
ہمراہ آبکے پہلی کے گشتہ کے پہر ایک ہمراہ آبگرم کے یعنی دن مین تین ایک ملکین کھلا دیوین دوسرے
روز شربت بزوری پانیمین پلاوین جمیع حمیات بد دورہ اور لرزہ کے ساتھ
آتی مین ان کو دور کرتا ہی **آخر** کونین طباشیر ونبات سفید ہر ایک یکماشہ
پیسکر آٹھ پڑیہ بناکر ایک پڑیہ صبح ہمراہ آب .. وشربت بنفشہ کے ہمراہ روز دیوین
۲- **تپ بلغمی مرکب** خاکسی آدہ تولہ عرقیات مناسبہ یا پانی مین

مین روز اول ایک جوش روز دوم دو جوش اسیطرح سات روز تک ایک جوش بڑہا کر یعنی بروز ہفتم سات جوش ہون بدون صاف کرنیکے شربت بزوری دو تولہ یا شربت بنفشہ ملا کر ہر روز پلاوین اسیطرح ہفتہ دوم مین ایک ایک جوش ہر روز کم کرتے جاوین آخر حمیات مرکبہ و مزمنہ کیلئے مفید صفت۔ گلو سبز چھہ ماشہ سے ایکتولہ تک کا دستی ہارہ پارہ کرکے ظرف گلی مین ہمراہ پانی کے ترکرکے زیر آسمان رکہکر صبح آب زلال اوسکا لیکر ہمراہ اشربہ مناسبہ کے دیوین۔ کبھی ہمراہ اسکے قرص طباشیر و قرص زرشک بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی ست اسکا نکالکر قرص بنالکر دیتے ہین۔

۳ **تپ لرزہ**۔ ست گلو طباشیر سفید ہر یک یکتولہ پیسکر سفوف بناوین خوراک یکماشہ۔ اگر اسکو ہمراہ قرص طباشیر کے پیسکر یارات کو ترکرکے یا جوشاندہ دیکر دیوین نہایت مفید ہے۔

۴ **تپ صفراوی**۔ قرص طباشیر ملین یا قرص زرشک ہمراہ آب کاسنی سبز یا چکیدہ کاسنی شربت بزوری و خاکسی کے دیوین آخر گلقند و سکنجبین ہر یک و نیم تولہ یا شربت ورد او سکنجبین ملا کر دیوین۔ **قرص طباشیر ملین** واسطے تپ محرقہ و سرفہ و خشونت سینہ کے مفید اور دافع تشنگی و ملین طبع **صفت** طباشیر سفید چھ ماشہ ترنجبین خراسانی ساڑہے ۴ ماشہ مغز تخم کدو شیرین مغز تخم خیارین نشاستہ صمغ عربی کتیرا تخم خشخاش ہر یک ساڑہی ۳ ماشہ کو شکر چہ اگر لعاب اسپغول مین اقراص بناوین۔

۵ **تپ یومی**۔ پھٹکری بریشتہ یک سرخ تا ۳ ماشہ مین رکھکر چار گھڑی پہلی تپ چڑہنے کی ہمراہ آب گرم کے دیوین غذا کچھہ نہ کھاوین۔

۶ **تپ چہارمی**۔ مغز پلاس پاپڑہ یعنی پوست سرخ دور کردہ مغز

تخم خرفہ جو ہر ایک یکتولہ پیسکر قند سے قدرتی پانسے ملاکر نرم کریں بعدہ فلفل جیوب بنا کر ہر
روز ایک جیب کھلا دین ۔ نسخہ تخم عنکبوت قند سیاہ کہنہ مین ملا کر گولی بنا کر چار گھڑی
تپ سے پیشتر تپ کے دن دیوین ۔

ضمن دوم مین علاج اورام ہے

۱ فلغمونی یعنی ورم مادہ خون سے ہو علامت کہجاوٹ وٹیس وتپ و
سرخی رنگ ۔ علاج فصد کرین اور جونک لگا وین لعاب بہدانہ تین ماشہ شیرہ عناب
پنجدانہ عرقیات مین نکالکر شربت نیلوفر دو تولہ خاکسی سات ماشہ ملاکر پلا دین اور
تعدیل غذا کرین اور بعد نضج مسہل بارد سے تنقیہ کرین غذا اشیاء و دیگر اشیای بارد
سرد ۔ اول مین صندلین و چہالیہ و گل ارمنی و گلاب سرخ و عنب الثعلب و دیگر ادویات
آب کشنیز سبز و آب کاسنی سبز و آب عنب الثعلب سبز مین پیسکر ضماد کرین اخیر
مرہم سوت لگاوین ۔ اگر مادہ اعضای رئیسہ سے دفع ہو اور پس گوش و زیر بغل
و بن ران مین جمع ہو رادعات مناسب مین مرخیات محللہ مثل موم و روغن گل کے
ہمراہ تخفیفات کی استعمال کرین اور فصد کرین اور جونک لگاوین ۔ اگر درد شدید ہو رادعات
کا استعمال نکرین آرد جو و حلبہ و روغن بنفشہ باہم ملاکر پکاکر ضماد کرین جو ورم منضج ہو کر
دور ہو جاتی ہے ۔ اور سہ روزہ دوم مین ادویہ محللہ مرخیہ مثل تخم کتان بابونہ اکلیل الملک
آرد جو خطمی ہمراہ رادعات کی ملا دین ۔ اور انتہا مین محللات مساوی ہمراہ رادعات
کے لگاوین ۔ اور زمانہ انحطاط مین محللات صرف پر اکتفا کرین ۔ جب مادہ متحلل
نہو اور جمع ہو علامت درد شدید اور تپ علاج منضجات مانند السی و حلبہ و
انجیر و شہد کے ضماد کرین علامت نضج سکون درد و تپ اور دبانی سے دبے
علاج دوا یا آہن سے چاک کرین جب منفجر ہو اور کل مادہ خارج ہو مرہم

مرہم زرد یا مرہم خل لگائیں مرہم رسوت آورام حارہ کیلئی مفید صفت رسوت
یکتولہ موم سفید دو تولہ روغن گل روغن بنفشہ ہر یک چار تولہ اول موم در روغن گداختہ
ملاوین پہر رسوت پیسکر ملاوین مرہم زرد واسطہ پاک کرنے چرک و گوشت مردار
اوپر کرنے زخم عمیق کے مفید صفت انجبار و سنگ لاہری کتھہ سفید کمیلہ نیلہ تھوتہ
بریان مرداسنگ ہر یک پنجماشہ موم زرد ہفت ماشہ روغن کنجد چار تولہ بدستور مرہم
مرہم بنالکر چہہ بار پانی سے دہووین مرہم خل واسطہ پاک کرنے چرک و گوشت
مردار کے اور اندمال جراحات اور واسطہ قروح عفنہ اور سوختگی آتش کے مفید صفت
مرداسنگ ۵ ماشہ پیسکر موم سفید ۱۰ ماشہ روغن گل بیست ماشہ مین ملاکر قدرے
سرکہ ڈالکر مرہم بناوین ۔

۲ حمرہ ۔ بجای مہملہ یعنی ورم مادہ صفرا علامت سرخی یا چمک اور جلن
وتشنگی و بیقراری علاج سوای فصد مثل فلغمونی لیکن اسمین تبرید زیادہ کرین
اور فلغمونی مین تخفیف زیادہ ضماد قرع واسطہ حمرہ کے نافع صفت قرع و برگ
خرفہ کاہو مساوی کوٹ کر چہانکر لعاب اسبغول مین ضماد کرین ۔

۳ فلغمونی حمرہ یعنی ورم مرکب خون و صفرا سے ہو مگر خون اسمین غالب
ہوتا ہے اسیواسطہ لفظ فلغمونی پہلے ہے ۴ حمرہ فلغمونی یعنی ورم
مرکب صفرا و خون سے ہے لیکن صفرا غالب علاج ہر دو کا مرکب علاج ورم دموی
اور صفراوی سے کرین ۔

۵ زخمو یعنی ورم مادہ بلغم سے ملی ہوئی عضو کی ساتھہ علامات ورم
بغیر درد و حرارت کی خبب اور سفیدی اوسپر رکہیں نشان باقی اور دیر تک رہے
علاج بعد نضج مسہل حار و حب ایارج سے تنقیہ کرین ضماد

... مین پیسکر ضماد کرین ضماد و شبت دافع زخو صفقہ نمک خاکستر ترب ...
... و شبت سب برابر مساوی الوزن سرکہ مین پیسکر ضماد کرین —

سلعہ

... یعنی ورم باطنی جلد الگ ہوئی منفوسی — ہندی رسولی نام ہے علاج ...
... ضماد کرین و مرہم داخلیون ویکرادویہ محللہ لگاوین — اگر قریب ہو اور ...
... یا چاک کرکے بالتمامہ خارج کرین و مراہم مدملہ و ...
... استعمال کرین —

سرطان

سرطان یعنی ورم سوداوی داخل عضو اور دردناک — اگر پشت پر ہو مہلک ہے علاج
فصد ... جونک لگاوین بعد تنقیح مسہل ... تنقیہ سودا کرین طلا حکاکہ اسیا ...
... سفیدہ لگاوین — اگر متقرح ہو سفیدہ ارزیز توتیای مغسول روغن گل
مین طلا کرین ... سرطان ... سوختہ کرکے روغنین طلا کر
... طلا حکاکہ سنگ آسیا دافع و مانع زیادتی سرطان صفقہ حکاک
... سنگ آسیا آہن تیز کرین حکاکہ سب جملہ برابر قدرے روغن گل و آب
عنب الثعلب سبز و آب ... سبز مین طلا کرین طلا سفیدہ واسطے دفع سرطان
و محافظت تقرح کی سفید صفقہ سفیدہ ارزیز گل ارمنی عصارہ کاہو جملہ برابر
روغن زیت مین طلا کرین —

خنازیر

خنازیر یعنی ورم سوداوی داخل عضو ... گردن و بن رانین ہوتا ہے
علاج اول تنقیہ بلغم و سودا کرین بعد ازان بیخ سوسن پیسکر مرہم داخلیون
ملاکر ضماد کرین — اگر تحلیل نہو آرد جو ترمس ... کو دکان مین ضماد کرین تاکہ پختہ
ہوکر منفجر ہو بعد اسکے زنگار رکہین — اگر صحت نہو چاک کرکے نکالین ... ادویہ مدملہ لگاوین

صلابت

صلابت یعنی ورم سوداوی خارج عضو اور ظاہر ہو — اگر بعد ورم حار کے

کے ہوتا ہے **علاج** تنقیہ بلغم و سودا کریں آخر مرہم و خطمیون لگاویں **آخر**
چربی بط و مرغ و روباہ و مغز ساق گاو و اشق و مقل ازرق و لعاب اسپغول و روغن بابونہ ملیں

١٠ **غدد** یعنی ورم سوداوی کے ظاہر ہو **علاج** مثل صلابت **آخر** آرد جو سرب باندھیں —

١١ **استسقای زقی** یعنی ورم عام مائیت سے ہو ١٢ **قیلہ مائی** یعنی ورم تامی مائیت سے ہو **علاج** ہر دو کا تحریر ہوا —

١٣ **ریح** یعنی ریح ملا ہوا عضو سے لگا رہا ہو ١٤ **نفخہ** یعنی ریح مجتمع اور سخت ہو **علامت** مانند مشک پر ہوا او روبانے سے دب کر تھوڑی دیر میں اپنے حالت پر ہو جاوے **علاج** بعد نضج مسہل گرم **آخر** پھوکیان ورم پر لگاویں **آخر** روغن بابونہ و روغن نرگس ملیں **آخر** چادر سی گرم کر کے ٹکور کریں —

١٥ **دبیلہ** یعنی ورم بزرگ بی مرداء رنگ مثل جلد — اسمیں مواد خبیثہ جمع ہوتا ہی **علاج** تنقیہ کریں بعدہ مرہم و خطمیون و دیگر ادویہ محللہ ملینہ لگائیں **آخر** ضماد خطمی سے پختہ کر کے چاک کریں جو مواد ردیہ خارج ہو پھر ادویہ مدملہ استعمال کریں اجزای **ضماد خطمی** لعاب خطمی و السی تیہی و چربی گوزن و چربی مرغ و روغن گل مثل مرہم بنا کر ضماد کریں —

١٦ **دمل** — ابتدای خراج ہی — مادہ اسکا خون رطوبت فاسدہ سے ملا ہوا ہوتا ہے **علاج** مثل فلغمونی **آخر** برگ نیم پانی میں پکا کر اوسپر باندھیں و واسطہ تحلیل و نضج مادہ کی نافع **آخر** برگ نیم یا برگ سنبھالو کا بھپارا دیں **آخر** برگ عناب و برگ پیوش نیم گرم باندھیں **آخر** آرد جو دہی میں پکاویں اور قدری ریوند چینی اوسمیں ملا کر باندھیں پکانے ورم کے لیے مفید **آخر** تخم مرو تخم ریحان دودہ اور شہد میں ضماد کریں — اگر منفجر نہو برگ نیم و نمک پیکر اوسپر لگاویں یا آہن سے چاک کریں

۱۷ شرا یعنی پھنسیان لال باریک ساتھ خارش و بیقراری کے جو دفعتہ حادث ہوتی ہیں اگر دموی ہے **علامت** نہایت سرخ و گرم اور رونے میں شدت ہو **علاج** فصد کرین اور لعاب بہیدانہ مین شربت شیرہ عناب بہیدانہ شیرہ صندل پہا شہ ترقیات مین ملا کر شربت نیلوفر دو تولہ ملا کر دیوین اور بعد نضج مسہل دیوین بعد تنقیہ مغز کرین **ضماد** قرص کافور ہمراہ آب ذکر سے دیوین **ضماد** پھٹکری ماگیرو ہر ایک دو تولہ پیس کر بدن پر ملین **ضماد** عدس ہمراہ سرکہ کے دیوین **ضماد** آب تازہ گرم پر ڈالین **ضماد** روغن گل و سرکہ و گلاب کے مالش کرین اگر بلغمی ہو اسکو حبلة البری بنات اللیل کہتے ہین **علامت** سفیدی رنگ اور رات کے شدت **علاج** گلقند عسلی و سکنجبین ہر ایک یکتولہ ملا کر ہمراہ گلاب عرق عنب الثعلب چہرہ چیاپر تو کرکے دیوین **ضماد** حمام مین جاوین آرد جو تخم کرفس سرکہ مین ملین **ضماد** نمک و سپید بر پر ملین **ضماد** شکر و اجوائن کے دہونے لیوین **ضماد** تنقیہ بلغم کرین۔

۱۸ **نملہ** بثور صفراوی ساتھ حدت التہاب کے **علاج** تنقیہ صفرا کرین **ضماد** طلا ی نملہ لگاوین۔ اگر مادہ شدید الحرارت ہو طلا کے سرد کرین **ضماد** گل ارمنی و سوت کافور سفیدہ تخم مرغ مین طلا کرین **اجزای طلا** نملہ مامیثا صندل اقاقیا سوت طلا کرین آبکاسنی سبز و آب عنب الثعلب سبز مین طلا کرین۔

۱۹ **داحس** یعنی ورم گرم جو بیخ ناخن مین ہو **علامت** درد شدید اور ٹیس سخت اکثر ناخن ساقط ہوتا ہی سبب اسکا مادہ غلیظ ہے **علاج** فصد باسلیق اور جونک لگاوین مسہل دیوین اتھامین مازو سبز سرکہ مین طلا کرین **ضماد** اسپغول و سرکہ برف مین سرد کرکے طلا کرین اگر درد نہایت شدید ہو بیخ الینبوع افیون سرکہ مین طلا کرین اگر مرض تجاوز کرے سو غمن کہ بہت گرم کرکے اوسمین

ادسمین کہین اگر اس سے بہی تحلیل نہو تخم مرو تخم کتان و دیگر ادویہ منضجہ ضماد کرین بعد ازان چاک کرکے جو کچھہ اوسمین ہو خارج کرین اور ادویہ مدملہ لگائین ۔

۲۰ **نار فارسی** یعنی آتشک **علاج** شاہترہ چرایتہ صندل سرخ ہلیلہ سیاہ ہر یک ہفت ماشہ عناب پنجدانہ رات کو پانی مین تر کرکے صبح آب زلال اوسکا لیکر شہد دو تولہ ملاکر پیوین اور بعد چند روز کے فصد ہفت اندام یا باسلیق کرین اور بعد نضج کی تنقیہ صفرای سوداوی کا کرین **اخر** ماء الجبن و شیر بز پلاوین **اخر** آب شاہترہ سبز مروق جو مانند آب عنب الثعلب سبز کی دیا جاتا ہی دیوین **اخر** چوب چینی اور عشبہ بطریق مقرر استعمال کرین **اخر** سفوف عشبہ و مطبوخ برگ نیم کہلاوین

طریق استعمال چوب چینی ۔ اول لوازمات استعمال چوب چینی تحریر ہوتی ہین وہ یہہ ہے ۔ اول فصد و تنقیہ کرین ۲ ایک ہفتہ پہلی شروع چوب چینی سے عرقیات مناسبہ شرباً و غسلاً استعمال کرین ۳ استعمال پانیکا بہمہ جہت کم کرین ۴ کم کہانے تک کے عادت کرین ۵ گرم مزاج کی لیے خریف مین سرد مزاج کو ربیع مین استعمال چوب چینی مناسب ہے ۶ اثنای استعمال چوب چینی مین آب سرد و اشیای ترش اور بقول یعنی ساگ ترکاری اور لبنیات یعنی دودہ دہی اور میوجات تر اور نمک اور طعامہای غلیظ اور زیادہ کہانے اور جماع و حمام و حرکات سخت اور مانند اسکے جو منافی صحت ہو پرہیز کرین ۷ شیرینی زیادہ اور ادویات گرم بہت سی اجتناب کرین ۸ اگر عوارضات مثل بیچش وغیرہ کی لاحق ہون ادویات دافع اوس مرض کے ہمراہ آب چوب چینی یا دیگر عرقیات مناسبہ کے دیوین ۹ فرحت و خوشی مین مشغول رہین ۱۰ بعد کہانے چوب چینی کے چالیس روز تک پرہیز رکھین اور آہستہ آہستہ رجوع اپنی عادت پر کرین ۱۱ تمام سے اسی روز تک

بعقب میں ۱۲ ایام کہانے چوب چینی کی بدولت اور ابتدای شیوع خست ہے ۱۳ ایام
استعمال چوب چینی میں کپڑہ بدن پر نہ پہنین ۱۴ ایسی مکانین قیام رکھین کہ جسمین ہوا
جانا سب طرف سے بند کیا گیا ہو — **طریق استعمال یہہ ہے** چوب چینی گلابی
کم گرہ نرم قسم ساڑھے چار ماشہ کا روسی ریزہ ریزہ کرکے ظرف گلی یا ظرف مس قلعی دار
مین ڈالکر عرقیات مناسبہ گلاب و عرق کیوڑہ جو سب دو آثار پختہ ہوں ملاکر دو
پہر رات گذری تک ترکہین بعد ازان آتش ملایم پر پکا دین جو چہارم حصہ باقی رہے پہر
آہستہ آہستہ منہہ ظرف کا کہولین اور نیمتولہ صبح اور نیمتولہ شب کو ہمراہ قدری نبات
سفید کے بطریق قہوہ کے پیوین باقی بجای پانی کے صرف کرین — غذا نان گندم یا جو
ہمراہ قلیہ شوربا و کباب بے نمک اور پلاؤ بے نمک اور زردہ اور حلویات مناسبہ بروغن
بادام و پستہ و گوشت مرغ بچہ و برہ و دراج و دیگر غذا ہای لطیف و سبک اور پیاز بقدر
اصلاح گوشت **چوب چینی** استعمال ضروریات کی لیئے اسطرح تیار کرین — چوب چینی
پنجم تولہ ریزہ ریزہ کرکے دیگ مین ڈالکر دو آثار پانیمین بدستور سابق جوشدین تاکہ
نصف باقی رہے آگ موقوف کرکے منہہ ظرف کا آہستہ کہولین اور اسکو خرچ ضروریات
مین غسل و وضو و کہانا پکانے اور استنجا کرنیکے لادین اور اسمین ٹوپی و پاجامہ وغیرہ
کپڑے کو رنگ کرین — اور بعد تین روز کی چوب چینی دو تولہ یعنی خوراکی وہ استعمال
مین اسطرح زیادہ کیجاوی کہ خوراکین بروز چہارم سوای وزن اول کے ایک ماشہ اضافہ
یعنی ساڑہی پنجماشہ اور بروز پنجم سوای وزن اول و یکماشہ اضافہ کے دو ماشہ اضافہ
ہو یعنی ساڑہی سات ماشہ اور بروز ششم سوای وزن اول و اضافہ کے تین ماشہ
اضافہ یعنی ساڑہی دس ماشہ اور بروز ہفتم سوای وزن اول و اضافہ کے چار ماشہ یعنی ساڑہی
چودہ ماشہ علی ہذا القیاس جز وزن اضافہ یوم ماضیہ سی ایک ماشہ ہر روز چالیس روز تک

بڑہاتے جاوین - منجملہ خوراکی چوب چینی کے جو زبون و سیاہ ہوگئی ہو اوسکو استعمال نہین استعمال کرین - سرپوش دیگ کو وازگون کہکر خمیر سے ایسا مستحکم کرین جو بخار اوسکا باہر نجاوی اور پتہر سرپوش پر رکھین اور آتش نرم پر جوش دین - طریق معلوم کرنے مقدار پانیکا کہ جسقدر بعد طبخ رکھنا منظور ہو یہہ ہے کہ پانی اول اوسی قدر دیگ مین ڈالین جو جسقدر بعد طبخ کے رکہنا منظور ہو اور سرپوش مین سوراخ کرکے چوب باریک کو پارچہ سے لپیٹ کر براہ سوراخ دیگ مین ڈالین جسجگہ نم معلوم ہو نشان کرین اور پہر وزن پانیکا حسب مرقومہ صدر پورا کرین اور اثنای طبخ مین امتحان کرتے رہین جب نشان تک پانی پہونچی آگ سے اوتارین اور یہ احتیاط رہے کہ صبح تک طبخ ختم ہوجائی تاکہ وقت کہانیکے وہ پانی سرد نہوجای - سر دیگ کو ہر روز اسطرح کہولین جو بخار اوسکا خفیف سر اور دیگر اعضا کو لگی - اگر مرض ایک عضو خاص مین ہو اوس عضو کو چوب چینی کے بخار پر رکھین - بعد تین روز یا پانچ روز ہر ہفتہ کی تعریق کرتے رہین اور ہر روز بجز ان تعریق افضل ہے - طریق تعریق یہہ ہے - مریض کو کرسی بیدباف یا سوراخدار چوبی پر بٹہاوین اور اسطرح لحاف اوڑہاوین جو مانع تنفس نہو اور دیگ کو زیر کرسی کہکر بتدریج بخار مریض کو پہونچائین بعد ازان دیگ کو نکالکر ایک دو پیالہ آب چوب چینی کی پیوین اور پسینہ خشک کرکے لباس پہنین بعد انصرام استعمال چوب چینی کے عرق چوب چینی یا سفوف چوب چینی شروع کرین اگر چوب چینی نو میسر نہ آوی چوب چینی مستعملہ مین سے سیاہ و کہنہ دور کرکے عمل مین لاوین - بقول بعضے چوب چینی مستعملہ مین پاو آثار چوب چینی تازہ ملا کر وہ آثار عرق کہنجین اور نیم پاو یہہ عرق ہمراہ گلاب و عرق کیوڑہ و عرق گاوزبان و معجون چوب چینی کے دین - جرم چوب چینی سدہ اور ورم شکم مین نہایت مضر ہے - سفوف و معاجین

ساتھ ادویہ مناسبہ ہر مرض و مزاج کے ترکیب دیکر استعمال کرین - قدر خوراک بیخ چینی سفوف مین چند روز اول زیادہ ڈیڑہ ماشہ یا سوا دو ماشہ سے نہو اور بتدریج اضافہ کرکے ساڑہے چار ماشہ سے تجاوز نکرین اور مزاج معتدل مین تین ماشہ سے پونے سات ماشہ تک اور مزاج قوی مین ساڑہے چار ماشہ سے نو ماشہ تک استعمال کرین - معجون چوب چینی و مفرح بارد و دواء المسک بارد جسمین چوب چینی ملی ہوی ہو ہمراہ عرق مکو کے دین - **طریق استعمال عشبہ** مانند چوب چینی کے ہے مگر عشبہ مین نمک کہانا جائز ہے - منفعت عشبہ کی مثل چوب چینی کے ہی مگر امراض و امزجہ گرم مین مضر اور بعض امراض و امزجہ باردہ بلغمیہ و سوداویہ مین عشبہ بہ نسبت چوب چینی کی زیادہ مفید ہے مانند درد مفاصل و نقرس و درد اعضا - بخلاف چوب چینی کے عشبہ واسطے فالج و استرخا و لقوہ و رعشہ کی نافع ہے - بواسیر کیلئے نہایت مفید ہی - امزجہ حارہ سوداویہ مین زیان کار ہے - عشبہ اچہا وہ ہے جو باریک و نیم رنگ ہو اور جب توڑین غبار اوس سی ظاہر ہو اور مغز اوسکا سفید ہو - اگر آب عشبہ واسطے پینے کی مکتفے نہو اور عشبہ قلیل ہو مفل اوسکا جوش دیکر استعمال کرین - آب عشبہ ہرگز سرد نہ پیوین

سفوف عشبہ آتشک و وجع مفاصل کے لیئ مفید **صفت** عشبہ مغربی چار تولہ پوست ہلیلہ زرد سنائے مکی صندل سرخ ہر یک یکتولہ کوٹ کر چہانکر سات ماشہ ہر روز کہاوین **مطبوخ برگ نیم** بدون جوشش و ہر کے ازالہ آتشک کرتا ہے پرہیز اسمین کچہہ نہین خواہ قلیہ او خشکہ کہاوین **صفت** پوست درخت نیم پوست درخت کچنال بیخ حنظل پہلے ببول برگ و بیخ و پوست کتائی خورد قند سیاہ کہنہ ہر یک نیم پاؤ پانی تین آثار مین جوشدین جب چہارم حصہ باقی رہے صاف کرکے شیشہ مین ڈالکر پلاوین - یہ خوراک سات روز کی ہے -

۲۱ **عرق مدنی** یعنی نارو۔ اکثر ساق و ساعد مین ہوتا ہے۔ شبور پیدا ہوکر چاک
ہو اور اوس سے ایک رگ ظاہر ہو **علاج** فصد باسلیق و صافن جانب مخالف سے
اور تنقیہ سودا اور ماء الجبن کرین۔ ابتدای ظہور آبلہ مین ایلوہ روز اول پونے دو ماشہ
دوسرے روز ساڑہے تین ماشہ تیسری روز سوا پنجماشہ کھلاوین اور موضع ماؤف پر صبر
کا طلا کرین۔ جسوقت رگ ظاہر ہو پارچہ سرب وزنی یکتولہ اوس پر لپیٹین اور قطع رگ
سے احتراز رکھین اور آب گرم سے نطول کرین روغن نرگس و روغن بنفشہ ملین
آخر جاگستہ ساڑہی چہ ماشہ مرداسنگ ساڑہی سترہ ماشہ موم در روغن ملا کر ملین **آخر** پوست اندر جتہ مار یعنی
کینچلی قند سیاہ مین گولیان بنا کر دیوین اگر رگ ٹوٹ جائی اوسجگہہ کو طول مین چاک کر کر رگ باقیماندہ
خارج کرکے پنبہ کہنہ روغن گاو مین تر کرکے اوس پر رکہین تا کہ باقیماندہ کو کہا دین پہر مرہم مدملہ لگاوین

۲۲ **جرب** یعنی شبور خورد و باخارش و سوزش ۲۳ **حکہ** یعنی خارش بدون شبور
یہہ اکثر درمیان ہاتھہ و انگلیون کے ہوتی ہے۔ سبب جرب یا فساد خون با امتلا ہے
یا فساد خون بسبب ملنی صفرای محترقہ و سودای محترقہ یا بلغم مالح یا خون غذا دہندہ کے
سبب حکہ بخارات تیز دلذاع و اخلاط تیز قلیل المقدار جو زیر جلد محتبس ہو **علاج**
ہر دو مثل آتشک برعایت خلط **آخر** ضماد کبریت و طلای جرب لگاوین دافع جرب ہے
آخر تخم پنوار یکتولہ نیمکوب کرکے آدہ سیر دہی مین ملا کر ظرف گلی آب نارسیدہ مین
ڈالکر دو تین روز رکہین جو متعفن ہو بدن پر ملین جرب کے لئی مفید ہے اگر نیلہ تھوتھہ
اضافہ کرین اولی ہے **آخر** صبر بطریق مقرر کہلاوین دافع جرب ہے **آخر** حمام دافع
جرب ہے۔ حکہ بد ہونکو جو بلغم مالح سے ہو سرکہ و روغن گل ملین **آخر** روغن
کنجد و آب لیمو ملین۔ روغن کنجد اٹہتین تولہ سکنجبین نصف اوسکے ہر روز تین روز
تک پلاوین جرب و حکہ کی لئی مفید ہے **آخر** سفوف گندہک دیوین ضماد کبریتہ

کندش آملہ [illegible] پوست ہلیلہ [illegible] ہر ایک ایک تولہ باریک پیسکر تین حصہ کرین ایک
حصہ [illegible] چار تولہ روغن زرد مین ملاکر [illegible] مین ملین اور چار گھڑے دھوپ مین بیٹھکر حنا
[illegible] کرین طلا سیاہی حب السمنہ حنظل برگ حنا [illegible] اسگند
[illegible] سیماب کو [illegible] مین ماریں اور سب دیگر ادویہ
[illegible] مین ملاکرین طریق خورد خضاب یعنی الیوہ [illegible] چہار و نیم ماشہ
[illegible] آب خالص یا آب [illegible] مین ایک رات دن تر کرکے صاف کرکے متواتر تین
روز پلادین اور تین روز ناغہ اور پھر تین روز پلادین اور پھر تین روز ناغہ پھر تین روز
اسی طرح پلادین [illegible] نیم ماشہ [illegible] چہار و نیم ماشہ
[illegible] سفوف [illegible] آتشک اور آبلہ [illegible]
[illegible] ہلیلہ زرد چار ماشہ ہلیلہ کابلی سی ماشہ
ہلیلہ [illegible] ہر ایک یازدہ ماشہ ہلیلہ سیاہ آملہ ہر ایک [illegible] ماشہ شاہترہ [illegible] ماشہ
[illegible] ریوند چینی پنجاہ [illegible] سناء مکی سی ماشہ شکر سفید برابر ادویہ سفوف بناوین
خوراک نہ ماشہ [illegible]

۲۴ ثالیل یعنی مسے۔ علاج شونیز سرکہ مین یا نمک سرکہ مین ملین ثالیل [illegible] روغن گل [illegible] کی مالش کرین آخر بعد نضج کی استفراغ [illegible] کرین بعد ازان سبب افتیمون [illegible] اگر ازالہ نہو قطع کرین۔ [illegible] مین اگر گوشت زیادہ [illegible] سوزش پیدا ہو مرہم سفید اب لگائین اخیر [illegible] زنگار [illegible] صابون مین طلا کرین۔ — ثالیل

۲۵ قوبا یعنی داد۔ علاج مانند جرب کے ہی آخر روغن گندم و چرک [illegible] مین ملین آخر ضماد [illegible] صمغ [illegible] — قوبا

مالش کرین اخیر چربی بط و چربی ماکیان ملین اخیر [illegible] روغن بادام ملین اخیر طلای مشہور [illegible]
سعفہ اور طلای تنکار لگائین اخیر تخم سنبولہ و آملہ و لاکھ جملہ برابر پانی مین طلا کرین
لازم ہے کہ پہلی طلا سے داد پر جونک لگائین یا کسی چیز سے ہلدین جو خون فاسد وہان سے
خارج ہو روغن گندم دافع قوبا اور محلل و ملین اور سوزش و حرارت کے ساکن کرنی و اورام
صلبہ و حارہ کی لئی مفید - اسکے ترکیب چند طرح پر ہے مگر سہل تر یہہ ہے **صفتہ**
گندم پاک کردہ کو سندان نہایت گرم پر رکھکر اوسکو پتھر یا آہن گرم سے نرور دباوین
روغن نکلیگا - اسیطرح روغن جو تیار ہوتا ہی اور یہی اسکا فائدہ ہے -
طلای تنکار دافع داد صفتہ - سہاگہ تلیہ گندک شکر سفید جملہ برابر پانی مین طلا کرین
طلای تنکار دیگر بمنافع صدر صفتہ سہاگہ بریان مازو گندک چہاچھ مین کہہ
پاپڑہ ہر یک یکتولہ سیاہ [illegible] نیلہ تھوتھہ بریان ماشہ عرق لیمو مین گولیان
بنا دین - ایک گولی پانی مین گہسکر طلا کرین -
۲۶ **نفاطات** یعنی وہ آبلہ کہ اوسمین خون یا پانی رقیق ہو سبب اسکا غلیان
خون ہے **علاج** فصد باسلیق کرین لعاب بہدانہ [illegible] شیرہ عناب بنجدانہ عرق
شاہترہ عرق عنب الثعلب ہر یک پنجتولہ شربت نیلوفر دو تولہ پلاوین - [illegible]
[illegible] نقیہ کرین اخیر انار و عدس سرکہ مین پکا کر کھلاوین اخیر سوزنسی
آبلہ کو پاک کرکے صاف کرکے مرہم سفیداب لگاوین -
۲۷ **نفاخات** یعنی آبلہ پر ریح - اسمین اور نفاطات مین یہہ فرق ہے کہ وہ آبلہ
مائی اور یہہ ریحی ہے - **علاج** مرہم داخلیون لگائین اخیر روغن گندم [illegible]
سے مکور کرین -
۲۸ **چہاچہن** سرخ یا سیاہ عضو مین پیدا ہو اور جلد تو بر تو مانند [illegible]

منتشر ہو علاج صابون عراقی گلاب مین طلا کرین۔

علاج مسافرانہ اورام

۱۔ سلعہ۔ چونہ پان سجی لوٹا ہر دو مساوی الوزن پانی مین کہرل کر کے بتا پر سفید تخود و نیسان رسولی سے رکہین بعد تین چار روز کے منفجر ہوکر پانی نکلیگا اس وقت مرہم لگاوین اور تا صحت آب سرد تناول نکرین۔

۲۔ خنازیر جارو۔ رسوت دو تولہ مرصاف یکتولہ آب گشنیز سبز مین طلا کرین۔

۳۔ خنازیر و اورام صلبہ۔ تخم کتان تخم حلبہ تخم کرنب ضماد کرین۔

۴۔ خنازیر و غیرہ۔ سرگین گاو خشک بابونہ اشق خطمی ضماد کرین اخر سرطان نہری تازہ کوٹ کر تین روز متواتر ضماد کرین اور صبح و شام تجدید ضماد کرتے رہین اور بعد تین روز کے تا تورہ سیاہ نمک تلخ ہر دو برابر کوٹ کر ضماد متواتر تین روز کرین اور صبح و شام تجدید ضماد کرتے رہین جب پختہ ہو جائے او دیا منفجر کرین

۵۔ عرق مدنی۔ پیاز و صابون کو ریزہ ریزہ کر کے روغن کنجد مین جوشدین جب مانند مرہم کی ہو جائے افیون ملا کر اول بخار اسکا نار وا کو دیوین اور پہر اسکا ضماد حوالی رشتہ پر کرین۔

۶۔ خارش خشک و تر۔ سہاگہ فلفل سیاہ نیلہ تہوتہہ کہنہ گندک آملہ سار سیماب ہر یک یکماشہ کوٹ کر چہانکر روغن گل مین جو تین پانی سے دہلا ہو رات کو ملا کر رکہین اور صبح دہوپ مین ملکر بعد ایک پہر کی آب گرم سے غسل کرین اخر پہٹکری پانمین پکر تا تہو نر ملین اخر نیلہ تہوتہہ مرداسنگ سہاگہ تیلیہ گندک املہ سار مرچ سیاہ کتہہ ہر یک دو ماشہ باریک کی چہہ تولہ مسکہ مین ملا کر تین روز متواتر ملین اور ہر روز ایک پہر دہوپ مین بیٹہکر اگر خارش تر ہو آرد نخود ملکر آب سرد سے

علاج مسافرانہ اورام — سلعہ
خنازیر و غیرہ
عرق مدنی
خارش خشک و تر

اگر خشک ہو آرد نخود ملکر آب گرم سے غسل کرین —

۷ **آتشک** — مردا سنگ سکپور شنگرف ہریک چار ماشہ باریک کرکے مسکہ گاوین جو ایک سو ایکبار پانی مین دہوا ہو ملا کر متواتر تین روز طلا کرین **آخر** پہٹکری دو تولہ سنکہیہ یکتولہ دونونکو ریزہ ریزہ کرکے کوزہ گلیمین ڈالکر گل حکمت کرکے گڑہے مین دو آثار پاچلہ دشتی سے بہر کر دیوین جو سرخ ہو جائی بعد سرد ہونیکے دوا کو باریک کرین **خوراک** دو برنج سے ایک سرخ برگ پان ہمیصالح مین متواتر ایک ہفتہ بوقت صبح کہلاوین غذا دال ماش و نخود و آرد نخود و گندم با روغن بسیار و گوشت و چاول انبہ تیل ح پرہیز — دال و کدو و برنج و ترشے و بادی و جغرات و شیر سے ہے **آخر** فلفل سیاہ نوشادر ہریک ۳ و نیم ماشہ کوٹ کر چہانکر ہر روز آب تازہ دیوین — غذا نان گندم کم نمک با روغن **آخر** خرما پارچہ بیز کرکے بقدر کنار دشتی گولیان بناکر ہر گولیمین بقدر یک سرخ سکپور رکہکر اسطرح نگلی جو دندانکو نہ لگی بعد ازین میدہ گندم چار تولہ میدہ چوب چینی یکتولہ روغن گاو بقدر حاجت نبات سفید چار تولہ سے حلوا بناکر کہاوین چہل روز مداومت کرین غذا نان روغنی و کباب — پرہیز جغرات و ترشی و نمک و جماع سے ہے —

ضمن سیوم مین علاج امراض جلد ہے —

۱ **جذام** — ہندیمین کوڑہ — یہہ نہایت بد ہے — مجذوم سے بچنا چاہیے ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے — **سبب** انتشار غیر طبعی تمام بدن مین — خدر پیدا ہو مزاج و شکل اعضا کی متغیر ہو جائی اگر متقرح ہو — جب مستحکم ہو اعضا گرتی ہین لا علاج ہے **علامت** سرخی رنگ بدن اور باریک ہونا و گرنا بالونکا اور بیٹہنا آوازکا اور ہونا غدد و کا اعضا مین — **علاج** باسلیق و صافن و اسلیم سے خون کشید

[illegible] ونقیرہ [illegible] آتشک پلاوین بعد ازان نضیج اور کرکے
[illegible] تا الجبن سی تنقیہ کرین آخر تر جوان سرخ کا دو دہ پلاوین آخر
[illegible] الین آخر بعد تنقیہ کی حمام کرین اور بعد حمام کے روغن
[illegible] مین آخر روغن سرو گرم مین بٹہا مین آخر [illegible]
[illegible] آثار مریض کے بدن جواہو علامت صحت ہے ۔ اگر قوت ہوے
[illegible] افعی و گوشت افعی کہلاوین مگر ایک بالشت جانب سر اور ایک قدر جانب دم
افعی کو قطع کرکے [illegible] مین پکا کر دین آخر مار سیاہ غیر افعی یا سب زیق
کہلاوین ۔ ربیع و خریف مین مسہل قوی دین ۔ جس [illegible] حرارت [illegible]
تعلیل [illegible] حب [illegible] جذام [illegible]
[illegible] شنگرف [illegible]
[illegible] سیماب [illegible] ملا کر [illegible]
مین [illegible] ایک ماشہ ۔
[illegible] مسہل [illegible] ۔ اگر سوزن [illegible]
[illegible] علاج
[illegible] کہلاوین
اور بعد تنقیہ [illegible] تریاق فاروق دیوین آخر [illegible]
[illegible] سرخ و بورق [illegible] عاقرقرحا و شونیز
[illegible] مین آخر عسل بلادر و پنچال کبوتر
[illegible] آخر بادنجان کو پانی مین جوش کرین اور روغن
[illegible] مین [illegible] ۔ [illegible] حجامت سی [illegible] ہندی [illegible]

خبث الحدید آب بقم مین طلا کرین ۔ حب ابن حارس ۔ تپ بلغمی و درد بلغمی کو دور کرے بہق سفید و سیاہ کو تین خوراک مین زائل کرے صفت ہلیلہ زرد ہلیلہ سیاہ حب النیل زراوند سکبینج مقل شحم حنظل ہر یک نیم ماشہ خردل ص عتر فارسی شونیز زیرہ کرمانی نمک طبرزد علک رومی ہر یک یکماشہ ۔ مقل و سکبینج کو آب گندنا مین چار ماشہ روغن مین ڈالکر دھوپ مین رکھین اور باقی ادویہ کو شکر چہاندکر او سمین ملا کر فلفل کے برابر گولیان بنائین خوراک ہر صبح چہار و نیم ماشہ ۔ غذا زیرباج ۔

۳ بہق ابیض یعنی چھیپ علاج مثل برص ہے ہی آخر گلنار و بابچی پانے مین طلا کرین ۔

۴ بہق اسود یعنی سیاہ نشان جلد پر ہون اور ملتی ہے مانند سبوس کی اور جب بہت جلد ہو جب با دہ تر ہو برص اسود ہو جاتی علامت علاوہ ازین جلد جلد جدا ہون ۔ یہ مقدمہ جذام کا ہے ۔ علاج مثل جذام ہے آخر زرنیخ و زاج و کبریت آب ترب مین ملین ۔

۵ کلف یعنی چھائین ۔ یہہ داغ ہے جو منہہ پر بالن سیاہ ہو جاتی ۶ نمش یعنی قطعہای ستدیر جو ہند مین لہسن کہتی ہین ۷ برش یعنے کنہدک ۸ خال یعنی تل ۔ علاج انکا مانند جذام کے ہے آخر بورق و فلفل و تخم تربوز و ترمس و تخم ترب و دار چینی و قسط و بادام تلخ و خاک سیاہ و گیاہ دو ملیت مقل و حنا کا طلا کرین ۔ ابتدا مین ادویہ قابضہ مانند آب عصی گلاب و آرد عدس کے ادویہ مذکورہ مین ملا کر طلا کرین ۔ خال کو اول سوزن مار کر خون نکالکر بعد ادویہ مذکورہ طلا کرین ۔

۹ سبزی اور سیاہی جو بسبب مرنے خون کے نیچی جلد کے ہو علاج

برگ کرنب برگ ترب بادرنجبویہ واشق ضماد کرین ۔ سبزی جو بعد فصد کے ہوجاوے علاج خشکہ گرم او رنان گندم گرم اوسپر باندہین ۔ نشان جو بدن بعد زخم او رآبلہ کے ہو علاج مردا سنگ کو سفید کرکے روغن گل مین ضماد کرین آخر مردا سنگ وسفیدہ سرکہ و زہرہ گاو مین طلا کرین ۔ اگر کہہ بعد قرحہ کی باقی ہو علاج چربی بط مرہم خلیون مین ملاکر لگاوین ۔

ف کثرت عرق

۱۰ **کثرت عرق** ۔ اگر باوجود کثرت عرق کے قوت قوی ہو حبس نکرین اور استفراغ وتنقیہ بدن کرین ۔ اگر ضعف ہو سفیدہ کاشغری روغن گل مین ملین آخر دوا جابس عرق استعمال کرین ۔ اگر خون عرق مین آوے علاج فصد کرین لعاب بہدانہ مین اشنہ شیرہ عناب بہدانہ شربت نیلوفر دو تولہ پلاوین آخر قوابض بدن پر ملین آخر آب بقم یعنی پتنگ بدن پر ملین اگر حاجت ہو مسہل بار دو دیوین دوای حابس عرق واسطے بند کرنے پسینہ کے نافع **صفت** گل ارمنی مازو گلنار گلسرخ مردا سنگ جملہ برابر روغن گل ولعاب اسبغول مین ملاکر بدن پر ملین ۔

ف شقوق اطراف

۱۱ **شقوق اطراف** علاج جملہ تدابیر مندرجہ فصل ششم باب دوم عمل مین لاوین اگر بسبب خلط ردی کے ہو اول تنقیہ کرین بعد ازآن ترطیب بدن ساتھہ کہلانی شیرہا وروغنہا اور نیز مرطبات وقیروطیات کے کرین ۔

ف ترقیدگی پاشنہ

۱۲ **ترقیدگی پاشنہ** ۔ ہندمین بیائی ہے علاج مازو کتیرا باریک کرکے چربی بزگرم مین ملاکر پر کرین آخر قدری مردا سنگ کو سنگساق کا دہربی گاو وروغن بنفشہ مین ملاکر لگائین ۔

ف تشقق

۱۳ **تشقق** ۔ کنج دہن مین ہو علاج فصد او راسہال کرین آخر مازو سرکہ مین جوش دیکر مضمضہ کرین آخر سرمہ کو آب انار ترش وآب سماق مین طلا کرین

١٤ تشنج جلد سر ١٥ تقشر جلد - علاج ہر دو کا مانند شقوق اطراف ہے -

١٦ تقشر پا - ملاقات اشیای سخت سے ہو علاج حنا بلوط گلنار پوست انار جوز السرو و دیگر قوابض کوٹ کر چھانکر سرکہ مین ابالکر ضماد کرین -

١٧ ورد زیر قدم خصوص پاشنہ مین - علاج اگر پختہ ہوکر منفجر ہووے اور پیپ نکلا ہی تو دہن زخم کو آہستہ خواہ دوائی تیز سے فراخ کرین اور جب عضو پیپ سے پاک ہو حنا اور مازو سرکہ مین پیسکر باندہین آخر خاکستر بلوط جز بیمین لگا دین - اگر وہ منفجر نہو حلبہ و بنہ و دیگر ملینات اوسپر باندہین -

١٨ سحج جلد یعنی خراشیدگی جلد - اگر بسبب ملاقات اشیاء درشت یا بسبب سواری اسپ عریان یا تنگی موزہ اور مانند اسکے پوست بدن کا خراشیدہ ہو علاج فصد کرین آخر پارچہ گلاب مین تر کرکے اوسپر رکہین بعد ازان طلای مرداسنگ لگائین آخر روغن گل مین آخر گل سرخ اور آس پیسکر چہڑکین آخر مرہم سفیداب کافوری لگاوین آخر چرم کہنہ زیر موزہ جلاکر روغن گل مین ملاکر خراشیدگی موزہ پر لگاوین آخر کندوی سوختہ ملین - لعابات کو برف مین سرد کرکے روغن بنفشہ و قدری کافور ملاکر خراشیدگی کشیدگی ریسمان پر طلا کرین - اگر بسبب حدت پسینہ کی پوست حالبین و اطراف انثیین و عانہ خراشیدہ ہو ضماد کمیلا و طلای حکاکہ اسرب لگائین طلای مرداسنگ گل آرمنی مرداسنگ مساوی پیسکر گلاب و روغن گل مین طلا کرین -

ضماد کمیلہ - کمیلہ خاکستر برگ حنا باریک کرکے روغن حنا مین ملاکر ضماد کرین -

طلا حکاکہ اسرب - حکاکہ اسرب سفیدہ ارزیر مرداسنگ مساوی روغن حنا مین طلا کرین -

علاج مسافرانہ امراض جلد -

١ جذام سادہ پوست بلیلہ پوست ہلیلہ زرد ہر یک ٥ تولہ کشنیز خشک مقشر

[illegible] خورده [illegible] هر یک یکتوله [illegible]
[illegible] پوست [illegible] ساقی گیرو پوست تیواج
[illegible] بیج [illegible] تخم [illegible] هر یک یکتوله کوٹ کر چھان کر
[illegible] خوراک [illegible] آب [illegible] بوقت صبح متواتر چالیس روز
[illegible] گھی دال [illegible] کم [illegible] -

نسخه - [illegible] ایک سیر [illegible] اس طرح بیان کرین
[illegible] ہر ایک [illegible] کرکے [illegible] ملا کر سفوف بناوین
[illegible] دو ماشه [illegible] بوقت صبح تین روز بعد ازین ساڑھے تین
[illegible] روز [illegible] لیکن [illegible] دو ماشه سے زیادہ نہ دین
[illegible] شیطرج ہندی [illegible] ہر ایک چہار
ماشه [illegible] سفوف بناوین خوراک تین ماشه سے [illegible] ماشه تک - حموضات
و لیفیات سے پرہیز -

نسخه - بہق سفید ترنج [illegible] رب [illegible] دونون کو نہایت باریک کرکے بار دہم
[illegible] خوراک ساڑھے تین ماشه سے شروع کرکے ہر روز ایک ماشه زیادہ کرتے
جاوین جب اکیس ماشه کو پہونچے اسی وزن پر اکتفا کرکے پنجاہ روز تک متواتر [illegible]
خواہ اسکی گولیان بنا کر کھلاوین بفضل تعالی [illegible]
غذا - نان نخود ہمراہ دال نخود بسیار بار روغن بسیار - گندہ بغلی - [illegible]
[illegible] ہنکری ایکماشه مرداسنگ چار ماشه آب [illegible]
توتیا مرداسنگ [illegible] کھرل مین [illegible] پانی مین -

ضمن چہارم مین علاج بالون کی بیماریون کا -

برص

بہق سفید

گندہ بغلی

ضمن چہارم معالجہ امراض مو

۱ خزاز یعنی سبوسہ - اکثر سر مین لاحق ہوتا ہی - اگر تہوڑا ہو غسول آب چقندر سے
سر کو دہوئین و روغن بنفشہ و روغن کدو کی مالش کرین - اگر مرض کثیر ہو اول
بلغم و سودا کو پہر دوبیہ جالیہ سر مین ڈالین - غسول آب چقندر - آب چقندر
آرد نخود و خطمی سبوس گندم سرکہ مین ملاکر سر دہوئین -

۲ داء الثعلب یعنی بال گرجائین ۳ داء الحیہ یعنی بال و پوست دونو گرجائین
اکثر سر وابرو اور داڑہی مین ہوتا ہے - اگر بسبب احتراق بلغم کے ہو علامت سفیدی
موضع و فربہی بدن علاج بعد نضج استفراغ بلغم ساتہہ قی اور مسہل جار وحب ایارج
کے کرین پہر اس جگہ کو ساتہہ پارچہ سخت یا پیاز عنصل کے ملین ضماد لہسن و خردل
پیسکر ضماد کرین اگر مرض قوی ہو بجای مالش کے پچہنہ لگائین - اگر بسبب صفرا تیز کے
ہو علامت زردی رنگ و خشکی موضع علاج اسہال صفرا کرین اور کپڑا سرکہ
گرم مین تر کرکے ٹکور کرین اور روغن گل ملکر پہر گندک سرکہ تیز مین ملین - اگر سودا
محترق سی ہو علاج اسہال سودا کرین اور داء الحیہ مین ویسا ہی کرین اور لہسن و پیاز موضع
پر ملکر چرپی خرس و چربی شیر سرکہ مین ملین طلا ہی گندک لگائین - اگر خون غلیظ سی
ہو علامت سرخی رنگ و علامات خون علاج فصد و اسہال کرین اور
موضع کو پارچہ سخت سی ملکر پیاز عنصل و لہسن و خردل و شونیز لگائین طلا
گندک - گندک و فرفیون و خردل یکجا کرکے - اگر سبب بخار ہو علاج ایسا ہی کرین -

۴ انتشار شعر - اگر بسبب قلت غذا کے ہو جیسا کہ ناقہین مین ہوتا ہی علاج
غذا جید کہلاوین اور خواب کرین اور حمام عمل مین لاوین - روغن بنفشہ و نیلوفر ملین
اگر بسبب فراخی مسام کے ہو علاج طلیہ کہ ماز و اقاقیا و مگر ادویہ قابضہ جوشیدہ
ہو لگائین ... روغن قابضہ ... اگر بسبب ... کے ہو علاج

روغن بابونہ وغیرہ سے تدہین کریں اور ترطیب مزاج و ہمیشہ حمام کرتے رہیں - اگر بسبب رطوبت غلیظہ کے ہو جو مادہ شعر کو آنے نہ دیوے **علاج** کثرت حمام کریں اور طلای شیح لگاویں **روغن آملہ** - آس و آملہ و صنوبر جملہ برابر پانی میں جوش دیکر چھانکر ہمچند اوسکے روغن کنجد ملاکر جوش دیں جو پانی جلکر روغن باقی رہے -

طلای شیح برنجاسف شیح بادام تلخ جملہ برابر بادام کو جلاویں اور سب کو نورہ و زہرہ گاو سے طلا کریں -

۵ **صلع** یعنی بال سر کے زائل ہوں - اگر پیری میں ہو لا علاج ہے ورنہ علاج اسکا مانند انتشار شعر کے کریں -

۶ **شیب** یعنی بال سفید ہوں بسبب ضعف حرارت غریزی اور کثرت بلغم کے ہوتا ہے اسی طرح کہ پہلے چالیس سال سے سفید ہوں **علاج** تنقیہ بلغم قی و مسہل سے کریں اطریفل و آملہ مربی کہلاویں - اگر سفیدی بہت ہو خضاب کریں **خضاب** دو گہڑی میں بال سیاہ کرے صفت مازو چار تولہ سنگ آہنچ دو تولہ نوشادر ایکتولہ پہٹکری چہ ماشہ - مازو کو بہٹی میں بریان کریں جو سوختہ ہوکر سیاہ ہو جاوے پہر مع دیگر ادویہ پیسکر آہنی میں آب آملہ ملاکر دستہ آہنی سے خوب حل کریں - اول بالونکو آب آملہ سے دہو خضاب باندہیں پہر بعد دو گہڑی کے آب آملہ سے دہو ویں -

خضاب دیگر ورق نقرہ کو تیزاب فاروقی میں حل کرکے شانہ سر کے ساتھ بعد صفائی بالوں کے لگاویں -

خضاب دیگر - وسمہ ایکتولہ حنا دو ماشہ دونوں کو پانی میں خمیر کریں کہ جسمیں آملہ تر کیے ہوں اور دو گہڑی دہوپ میں رکہکر ملیں **فائدہ** ادویہ مقوی دماغ مانند قرنفل و مشک و لادن ضرور خضاب میں ملانی چاہیے تاکہ دماغ بسبب ادویہ خضاب کے ضعیف و مستعد نزلہ

ترلہ نہو ۔ ۵ تشقق شعر ۔ **علاج** روغن بنفشہ و روغن بادام شیرین و لعاب خطمی و لعاب السی ملین ۔ اگر زیادہ ہو فصد و اسہال سودا کرین ۔

علاج مسافرانہ امراض شعر ۔

روغن ۔ واسطہ درازی و سیاہی و منع تشقق و سقوط بالون کے مفید **صفت** تخم مورد پوست ہلیلہ مازو ہریک سی و پنجاشہ آٹھ نہہ تولہ یا وکم ۔ سبکو نیمکوب کرکے شراب چہار آثار مین ترکرکے جوشدین جو ڈیڑہ آثار باقی رہے چہانکر سعد کیسند مصطکی ہریک یک و نیم تولہ برگ حنا پرسیاوشان تخم کتان بوداده ہریک سی و پنجاشہ اوسمین اضافہ کرکے تین روز ترکہکر پہر جوشدین جو نیم آثار سوختہ ہوجائی چہانکر ہمچند اوسکے روغن کنجد ملاکر جوشدین جو روغن باقی رہے ۔

۲ **داالثعلب** خاکستر شونیز ۔ یا خاکستر غوک ۔ شیر میش مین طلا کرین **آخر** خاکستر دندان فیل و سوت ہاتہمین بعد خراشیدن جائ ماؤف کے طلا کرین ۔

ضمیمہ علاج قمل یعنی سپش ہے ۔

قمل ۔ ہندی جون ۔ صیبان یعنی انڈی جون کے ۔ اگر زیادہ ہو بعد نضج مسہل حار دین آب و نمک سی غسل کرین **آخر** طلای برگ دفلی لگاوین **آخر** کبھی سیماب آب ترب مین ملاکر سر مین ڈالین **آخر** ادویات مندرجہ قمل کرم استعمال کرین **آخر** حریر پہرنا بالخاصیت مفید ہے ۔ اگر بال بسبب سومت غذا کی بدبو پیدا کرین **علاج** تنقیہ معدہ و دماغ مسہل گرم و حب ایارج سی کرین **آخر** اطریفل صغیر کہلاوین **آخر** غسول نوشادر سی دہوئین اور بعد چند روز کے اشق و بلوط و جوز السرو کو روغن زیت و سرکہ مین ملاکر سر مین ڈالین **طلامی برگ دفلی** سونیز چربرگ دفلی قسط بادام تلخ جملہ برابر سرکہ مین طلا کرین ۔

غسول نوشادر — تخم گندم نوشادر مغز تخم خربوزہ بادام تلخ پانی مین ملا کر چھانکر
سر کو اس سے دھووین۔

ضمن ششم مین علاج بیماریہای ناخن۔

۱۔ **ناخن** مانند ابرک کے سفید و براق ہون۔ **علاج** بعد نضج تنقیہ سودا کرین
اطریفل افتیمون دیوین **اخیر** روغن بادام شیرین یا چربی مرغ ملین۔ پھر نوع [illegible]
مرطبات مفید ہے۔

۲۔ **برص اظفار** یعنی داغ سفید مانند برص کے ناخن پر ہو جائین **علاج**
تنقیہ رطوبت غلیظہ کا بعد نضج مسہل حار سے کرین بعد ازان صمغ پستہ و خاکستر
سم بز و بیخ سفید و زرنیخ و دبوسا تہ سرکہ کے لگاوین **آخر** عرق التسمک جو نافع ہے

۳۔ **جذام اظفار** یعنی غلظ و اجتماع ناخن **علاج** آب دہان و مغز ساق گاو و قیروطی
موم و روغن و چلیوان و شحم دجاج و بط برابر مثل سے ملین **اخیر** زرد بوزہ سفید ہے
جب ملایم ہون کاردسی چھیلین جو طبعی شکل پر ہو جائین۔ اگر تدابیر مذکورہ بعد تنقیہ
سودا و آب افتیمون کے عمل مین لاوین تو مفید تر ہے۔ ایسی ہے علاج ہے ۴۔ تشقق اظفار کا

۵۔ **قلع اظفار** — اگر بسبب یادنی رطوبت مسترخیہ کی ہو **علاج** مثل فالج ہے
اگر بسبب حدت خون کے ہو۔ علامت — درد شدید — علاج مانند داحس ہے اگر
خون زیر ناخن معتقن و منجمد ہو **علاج** انگشت زمین چند بار ناخن کو چوسین **آخر**
ضماد طین مہری لگاوین — **ضماد طین مہری** آرد باقلا طین مہری
زرنیخ پانی مین ضماد کرین۔

۶۔ **زردی ناخن** — تخم جرجیر سرکہ مین ناخن پر ضماد کرین۔

۷۔ **ناخن کوفتہ** — برگ آس برگ انار و آرد گندم روغن گل مین ضماد کرین

آخر تیلین پر زنگ کے ناخن پر لپیٹ کر چند روز اوسپر بول کرین۔

۵ **انتفاخ اصابع** یعنی بزرگ ہونا و خارش کرنا اونگلیون کا۔ **علاج** آب دریا سی دہووی **آخر** غسول سبوس گندم سے دہووین **آخر** انجیر کو شراب مین پکا کر ضماد کرین **غسول سبوس گندم**۔ سبوس گندم سلق انجیر کرنب شلغم عدس مقشر پانیمین جوش دیکر چھانکر اونگلیون کو اوس سے دہووین۔

ضمن ہشتم مین علاج تغیر رایحہ بغل و ارتبین و سوختگی اعضا

۱ تغیر رایحہ بغل و ارتبین و بدبوی عرق۔ **علاج** بعد نضج تنقیہ خلط متعفن اور تسکین اخلاط ساتھہ سکنجبین و تبرید کے کرین۔ ریاضت و تعب سے پرہیز کرین بغل کو آب گرم سے دہووین **آخر** دوای شب یمانی و طلای کافور عمل مین لاوین **آخر** مداومت حمام کرین **آخر** جماع اور کہانی ہینگ و لہسن و خردل سے بچاو رکھین۔ اگر زخم ہوجائے سرکہ و گلاب سی دہووین اور دوائی کو ر طلا کرین۔

دوای شب یمانی۔ شب یمانی برگ سوسن سنبل الطیب صندل مردارسنگ جملہ برابر پیسکر بغلمین مالش کرین۔

طلای کافور۔ کافور مرداسنگ برگ گل سرخ مساوی الوزن گلاب مین پیسکر طلا کرین۔

۲ آگ یا آب گرم یا روغن گرم سی عضو جل جاوی۔ **علاج** سفیدہ تخم مرغ و سیاہ دوات ملین **آخر** طلای گل ارمنی لگاوین۔ اگر آبلہ ہوجاین فصد کرین اور آبلہ کو سوزنسی چاک کرکے مرہم سفیداب کافوری لگاوین **آخر** آہک آب نادیدہ کو سات بار پانیمین خشک کرکے بقدر دو تولہ موم یکتولہ روغن گل چند تولہ مرہم بناکر لگاوین **آخر** مرہم رال لگاوین **آخر** رال کو روغن کنجد مین دو تین جوش دیکر آب سرد سی ملکر رہوکر لگاوین **آخر** خاکستر موزردہ تخم مرغ مین

ضماد کرین جو آب گرم سے جلا ہو مفید ہے **طلای گل ارمنی** گل ارمنی مفید کا شغری مرد اسنگ تا بلہ ساوی پیکر پانی اور سرکہ مین طلا کرین —

مرہم رال واسطے او تانے لحم صالح و دفع گوشت فاسد و جراحات مزمنہ عسر البرء و ت [illegible] آتشک ناسور و سوختگی آتش کے ہے **صفت مرہم** مفید کافور رال کتہہ [illegible] بھار و نیم ماشہ روغن گاو تازہ ہپنداہ و یہ ادویات با جدا کوٹ کر چھانکر [illegible] روغن کو ظرف آہنی مین گلاکر رال ملا کر دو تین جوش دیکر پھر کتہہ بعد [illegible] کافور ملا کر [illegible] —

۳ — آتش [illegible] آفتاب سے سوختہ ہو **علاج** مثل سوختگی آگ کی ہے **آخر** مرہم خل [illegible] —

۴ — جلد [illegible] سے جلجائی **علاج** حجامت باشد کرکے مرہم خل لگا دین —

علاج مسافرانہ امراض صدر —

۱ — سوختگی آتش — پوست درخت املی جلا کر روغن کنجد مین ملا کر طلا کرین **آخر** [illegible] باریک کرکے روغن [illegible] ملا کر طلا کرین **آخر** [illegible] روغن چنبیلی مین طلا کرین **آخر** تخم [illegible] گندم پانی مین حل کرکے ملین —

۲ — [illegible] آب گرم و روغن گرم و باروت — سفیدی بیضہ مرغ روغن مین ملا کرکے [illegible] باریک کرکے روغن کنجد گرم مین ملا کر گرم ہو گلجاوی [illegible] کرین —

۳ — سوختگی باروت — آب پیاز ملین اگر زخم ہو تو [illegible] پیاز کوٹ کر رکہین —

فصل بستم علاج جراحات مین —

۱ — جراحت یہ ہے تفرق اتصال جو گوشت مین حادث ہو **علاج** جراحت کے ایسی حفاظت کرین جو کوئی چیز اوسمین نہ پڑی اور ایسا باندہین کہ باہم متصل

ہو جائی اگر تہہ ہو سوزن و ریسمان سے سی دیوین — اگر جراحت پر دو تین روز گذری ہون سخت چیز سی چھیلکر خون جاری کر کے باندہین — اگر جراحت گہرا ہو زرور کندر استعمال کرین — اگر اوسمین چرک ہو زرور کندر شہد مین ملا کر لگاوین اخیر پنبہ کہنہ اوسمین رکھین اخیر مرہم لسان سگ لگائین — اگر ساتھہ جراحت کی ورم اور قطع عصب اور قطع عرق اور کسر عظم اور درد و فساد گوشت اور نزف الدم ہو اول علاج ان امراض کا اور پہر جراحت کا کرین علاج ورم کا آگے آویگا — ذرور کندر واسطہ پر کرنے جراحات کے **صفت** کندر وصبر و انزروت وزراوند دوم الاخوین جملہ برابر پیسکر چہڑکین —

مرہم لسان سگ واسطہ اندمال قروح کی بے نظیر **صفت** زبان کتے کی سایہ مین خشک کر کے جلاوین اور قدری روغن کنجد مین ملا کر چہہ آہنی مین ڈالکر داغ کرین اور پہر برگ نیم باریک کر کے اقراص بنا کر روغن کنجد مین ملا کر ظرف آہنی مین ڈالکر جلاوین اور اقراص نیم دور کر کے پہر خاکستر زبان سگ روغن مذکور مین ملا کر چوب نیم یا دستہ آہنی سے خوب مخلوط کر کے ظرف شیشہ مین رکہین

قطع عصب ۲ قطع عصب یعنی کٹنا پٹہہ کا **علاج** — ہوا و آب سرد و آب گرم سے پرہیز کرین اور دو تین روز اوس عضو کو روغن زیت نیمگرم مین غرق کرین جو حدوث ورم سے محفوظ رہے پہر روغن گل و روغن سوسن مین قدری فرفیون ملا کر ملین اگر روغن زیت ہو بہتر ہے — اگر تشنج ہو جائی پٹہہ کو کاٹ کر روغنین مذکور داغ دین —

قطع عرق ۳ قطع عرق یعنی رگ کٹی **علاج** پارچہ سرکہ و گلاب مین تر کر کے زخم پر رکہین جو خون بند ہو جائی اور گرد زخم کے مبردات قویہ طلا کرین دم الاخوین و پشم خرگوش باندہین اور سات روز پٹی نہ کہولین —

۴ کسر عظم یعنی ہڈی شکستہ ہو **علاج** ضماد عدس لگاوین **صفت**

عدس عفاص گل ارمنی اقاقیا جملہ برابر آب آس مین پیسکر ضماد کرین -

۵ الم یعنی درد - **علاج** افیون بزر البنج سے تسکین کرین -

۶ فساد گوشت **علاج** ضماد برگ کاسنی سبز لگاوین - یا آرد کے ساتھہ دو کرین **ضماد برگ کاسنی سبز** فساد و سیاہی گوشت کی لئی مفید **صفتہ** برگ کاسنی سبز برگ عنب الثعلب سبز خطمی روغن گاو یا روغن بنفشہ مین ضماد کرین -

۷ نزف الدم جراحات - **علاج** ذرور و ضماد استعمال کرین **صفتہ** صبر کندر دم الاخوین اقاقیا جملہ برابر پیسکر زخم پر چھڑکین -

۸ قروح - جمع قرحہ یعنی وہ زخم جو اوسمین پیپ ہو - جو چیز قرحہ سے نکلے اگر رقیق ہے صدید نام ہے اگر غلیظ ہے **وسخ** - اگر وہ چیز کم ہے **علاج** ترکر و شراب تا العسل سے قرحہ کو دہو وین اور پنبہ کہنہ روغن گل مین ترکرکی اوسمین رکہین اگر وہ زیادہ ہی **علاج** مراہم جالیہ و مراہم مندملہ لگاوین - اگر منہہ قرحہ کا تنگ ہو تو سیاتہہ فتیلہ کے مرہم اوسمین پہونچاوین -

۹ فشوک شوک و پیکان و مانند آن - اگر خار یا پیکان یا کنچ وغیرہ ہی **علاج** زنبور سے نکالکر کندرو پیسکر اوسمین ڈالین - اگر نہ نکلے طلای زراوند لگاوین - اگر بوقت نکالنے کے شراب افیون وغیرہ یا غشی مخدر دین روا ہی **طلای زراوند** زراوند اشق پیاز نرگس بیخ نی زرنب رومی علک البطم راتینج جملہ برابر کوٹ کر چہانکر شہد سفید مین طلا کرین -

۱۰ ناسور یعنی قرحہ کہنہ جو مندمل نہو اور ہمیشہ اوس سے رطوبت جاری رہے **علاج** پنبہ کہنہ شراب مین ترکرکے شیاف غرب مین ملاکر ناسور مین پر کرین اخیر بیخ سوسن یا شیمین لگاوین - ضرورتاً و مجبوراً ناسور کو چاک کرکی گوشت فاسد

ف الم

ف فساد گوشت

ف نزف الدم جراحات

ف قروح

ف شوک و پیکان

ف ناسور

نکالکر اُسمین یا دوائی اکالہ سے داغ کرین یا مرہم مدملہ لگاوین۔

علاج مسافرانہ امراض صدر۔

۱۔ روغن نافع قروح۔ لو دہ پٹھکڑے ہریک دو تولہ نیلہ تھوتھہ شبرمشاشہ برگ نیم یک پاؤ سبکو کوٹ کر قرص بناکر روغن کنجد یک آثار مین خوب بریان و سوختہ کرین پھر چھانکر رکھین اور پنبہ اسمین تر کرکے زخم پر رکھین۔

۲۔ روغن واسطہ پر کرنے زخم و آبلہ و دانہ و جراحت ہر قسم کے۔ شنجرف یکدام باریک کرکے۔ روغن سرشف مین خوب کہر لکرکے پارچہ پیز کرکے پھر اسیطرح چندبار عمل کرکے شیشہ مین رکھین اور پنبہ اسمین تر کرکے زخم پر رکھین اور چند قطرہ سوراخ زخم مین ڈالین

ضمن ہم علاج سقطہ و ضربہ مین

سقطہ۔ وہ ہے جو کوئی شخص کسی چیز پر گری۔ **ضربہ** جو دوسری چیز اوپر گرے **علاج** اگر تفرق اتصال و نزف الدم و مانند اسکے نہو فصد جانب مخالف سے اور پچھنہ لگاوین **آخر** مغاث گل ارمنی اقاقیا برگ سرو صبر ماش مقشر کوٹ کر چھانکر آب آس مین ضماد کرین۔ اگر بسبب ضربہ کے ورم گرم و تپ ہو بعد فصد کے مومیائی دو ماشہ ہمراہ آب گرم کے دیوین **آخر** ریوند چینی مجیٹھ پلین بتوم لک منقی ہمراہ آب نخود کی کہلاوین **آخر** گاوزبان ہمراہ شربت سیب و عناب عرق گاوزبان کے پلاوین **آخر** ضماد فوفل لگاوین **آخر** آرد نخود ماش عدس و رومی سفیدہ نیمبرشت غذا کرین **آخر** گوشت و شراب نکھاوین مگر بحالت ضعیف کیشوربا چوچہ مرغ ہمراہ ماش کے دیوین۔ اگر ضربہ و سقطہ سر پر پہونچی بعد فصد تنقیہ صفرا کرین سرکہ گلاب روغن گل سر پر ملین **آخر** طلای آس لگاوین اگر بسبب ضربہ کے نفث الدم ہو علاج نفث الدم کا کرین **ضماد فوفل**۔ فوفل برگ

گل سرخ عدس گشنیز گل ارمنی مامیثا صندل سفید جملہ برابر کوٹ کر چھانکر روغن گل میں ضماد کریں

طلای آس - ورق آس گلنار پوست انار مساوی سرکہ میں جوش دیں اور قدری مشک وغیرہ ملا کر طلا کریں -

صدمہ چابک

۲ - صدمہ چابک - علاج اعضای چابک زدہ کو ملیں اور پارچہ کتان گلاب و آب سرد میں تر کر کے رکھیں آخر مرہم سفیداب ملیں آخر پوست گوسفند جسوقت اوتارا جاوی گرم گرم موضع ضرب پر رکھیں -

کسر

۳ - کسر یعنی تفرق الاتصال جو استخوان میں ہو جائی - اگر استخوان پارہ پارہ ہو کر گوشت سے جدا ہو علاج اول اوس عضو کو ملائمت کھینچکر استخوان کو برابر کریں اور موضع کسر کو نیچی سے اوپر تک پٹی باندھیں اور دوسری پٹی اوپر سے نیچی تک اول پٹی پر اوسکے اوپر جبائر باندھیں پہر فصد و اسہال کریں شوربای مرغ پلادیں آخر گل ارمنی سات رتی چار ماشہ مومیائی پونے دو ماشہ ہمراہ شربت کے دیویں - تین روز پٹی نکہولیں اگر درد شدید و خارش ہو جائی پٹی کہولکر آب گرم اوس پر ڈالکر بعد ایک گہنٹہ کے گلاب سرکہ روغن گل میں پٹی تر کر کے باندھیں آخر ضماد عدس لگاویں آخر ہریسہ و تخم مرغ و دیگر اغذیہ لزجہ کہلاویں - اگر کسر کے ساتھہ ورم ہو صندل آب کشنیز سبز و آب کاسنی سبز اور طلای زرد طلا کریں - اگر خون اوس سے جاری ہو دم الاخوین کندر سپغول پیسکر یا نورہ صبر چہڑکیں - اگر درد ہمراہ ہو تسکین درد تدابیر مندرجہ جراحت سی کریں -

تعقد و صلابت

۴ - تعقد و صلابت جو بعد انجبار استخوان کے ہو - اگر تازہ ہو قطعہ سرب اوسپر رکہکر گدی اور پٹی مستحکم باندھیں - اگر کہنہ ہو چربیوں روغنوں مغزوں قیروطیوں سے ملایم کریں -

خلع

۵ - خلع یعنی جوڑ اپنی جگہہ سے ہٹ جاوی - علاج جوڑ کو ملائمت اوسکی جگہہ پر لاکر تسکین درد اور دفعہ ورم کے تدبیر کریں -

وثی یعنی جوڑ اپنی جگہ سے علیحدہ ہو مگر بخلاف خلع باہر نہ آوے [illegible]
جو استخوان و گوشت وغیرہ کو جو محیط مفصل تھی [illegible] مفصل اپنی جگہ سے [illegible]
ہووی **علاج** [illegible] کو آہستگی سے [illegible] ملاوی [illegible] اگر درم ہو
[illegible] ضماد [illegible] کرین [illegible] اگر [illegible]
زردہ **تخم مرغ** میں لگاوین — [illegible] افراط — [illegible]
واسطے [illegible] قطعہ و اندمال جراحات کے نافع **صفت** زردچوب [illegible] وچوب [illegible]
وصل السوس وابہل ہر یک دو تولہ نہ ماشہ شش مرغ ہمراہ دو دہ اوس [illegible]
جو نخود اوسمین بیان کرتے ہیں ملاکر باہمین خوب کہرل کرین بعد ازان [illegible]
ڈالکر پانی یکصد [illegible] تولہ ماشہ ملاکر جوش دین جب ثلث پانی باقی [illegible]
نقل اوسکا نکالکر دیگ کو [illegible] آگ پر رکہین اور نقل کو [illegible] اگر [illegible]
مین نخود [illegible] پہر روغن [illegible] دو تولہ [illegible] وصل کرکے آتش [illegible]
پانی جلکر روغن باقی رہے — اگر اسمین [illegible] سفتہ نیم ماشہ [illegible] دو
ماشہ وبار [illegible] اضافہ کرین درد مفاصل [illegible] کے لیے مفید ہوتا ہے —

باب نہم علاج بیماری ہای [illegible] و [illegible]

فصل اول [illegible] علاج سموم [illegible]

سم [illegible] **علاج** — [illegible]
[illegible] روغن [illegible] کریں بعد ازان [illegible] کا کہلاوین
[illegible] روغن [illegible] — ایک [illegible] — اگر [illegible]
علامت حرارت [illegible] تشنگی و خشکی دہن ہے **علاج** [illegible]

وشربت انار و دوغ تازہ و روغن بادام و صندل و گلاب و لعاب بہدانہ سبز ہندی اور مثل اسکے برف
مین سرد کرکے پلاوین آخر قرص کافور و مفرح بارد و شربت انجبار پلاوین آخر حوالی دل و جگر
پر اضمدہ باردہ لگاوین آخر گلاب و صندل سے پارچہ تر کرکے سینہ پر رکھیں — اگر زہر
سرد ہو علامت اسکی حسی اعضا و سردی بدن و عرق سرد و ثقل اعضا علاج
اسکا یہ ہے کہ قے کرا دین اور شراب کہنہ اور مثرودیطوس و تریاق فاروق و تریاق اربعہ و دواء المسک
حار و مفرح حار و پیاز و لہسن و زنجبیل و جنطیانا و حلتیت اور مثل اسکے دیوین آخر
قاعدہ بطریق مقرر دیوین — غذا اکثر دودہ مین پکا کر دیوین — جس عضو مین اثر زیادہ
معلوم ہو اصلاح اوسکے زیادہ مد نظر رہے مثلاً اگر اثر جگر مین ہے ادویہ مدرہ دیوین اگر معدہ
مین ہے مسہل نرم دیوین علی ہذالقیاس — شوربا ہی مرغ پلاوین — روغن بابونہ
و روغن نرگس و روغن گل اور مثل اسکے دل و جگر پر طلا کرین — طریق استعمال
مخاصہ — چار و نیم ماشہ نیکوب کرکے نیم پیالہ پانی مین جوش دین جب نصف باقی
رہے صاف کرین اور روغن زیت یا روغن گاو ہفت ماشہ اضافہ کرکے پلاوین —

فصل دوم مین علاج سموم مشروبہ و مفردہ — اور مشتمل ہے اوپر تین قاعدے کے

قاعدہ اول مین علاج کہانے سموم معدنیات کا —

سیماب — اگر زندہ کہاوین اکثر فوراً خارج ہوتا ہے اور نقصان نہین کرتا
اور سیماب مصعد و مقتول درد باطن و مروڑ و غشی شدید و گرانی زبان و ثقل معدہ
و حبس بول پیدا کرتا ہے علاج بورہ آب عسل مین ملا کر قے کرا دین اور اسی سے
حقنہ کرین — مردہ و نیم ماشہ آب عسل مین چند مرتبہ دیوین بعد ازان دودہ اور
لعاب تخم بالنگا و شیرہ اسپغول و رصر پلاوین آخر ادویہ اغذیہ مناسبہ سی تقویت دل

ولکین آخر جملہ تدابیر مندرجہ مرداسنگ سجگہ مفید ہین آخر بقول اہل ہند دست
کہانے پینے سے ضرر سیماب معدہ کا دور ہوتا ہے ۔ اگر سیماب شدہ کانین پڑجاوے
علامت ۔ تشنج و درد شدید و اختلاط عقل و ثقل قوی اور سن جانب مین اور کبھی
سکتہ و صرع ہوجاوے علاج ۔ میل صاص کانین پہراوین [illegible] سیماب [illegible]

فی مرداسنگ

۲ مرداسنگ ۔ علامت ۔ ورم و غدہ مستحکم بدن پر اور قولنج و خشکی [illegible]
زبان [illegible] معدہ و رودہ ظاہر ہو اور کبہی اطلاق اس [illegible] ہو تشنج [illegible]
ہوا پیدا کرے علاج ۔ انجیر و شبت و بورہ جوشیدہ سے [illegible] قے کراوین آخر [illegible]
مسہلہ و حقنہ ہای قویہ سے تلیین کرین آخر [illegible] سنبل ہفت ماشہ
شہد یا شراب مین ملا کر دیوین [illegible]
آخر حمام مین یا او [illegible] سے پسینہ لاوین آخر [illegible]
ہمراہ گوشت مرغ ۔ فرفیون تین ماشہ [illegible]
عرق آرندہ ہے ۔ تخم کرفس افستین مرجملہ برابر [illegible] کرفس یا شراب مین
اور ادرار بول کرتا ہے ۔

فی برادہ رصاص

۳ برادہ رصاص ۔ علامت مثل مرداسنگ ۔ علاج مانند مرداسنگ کے ہے ۔

فی اسفیداج

۴ اسفیداج ۔ علامت سفیدی زبان و سرفہ و فواق و خشونت و خشکی
حلق و زبان و درد معدہ و اختلاط عقل علاج انجیر [illegible] شہد مین یا شبت و بورہ
شراب و شہد ملا کر پلا کر مکرر قے کرا دین ۔ واسطہ اسہال کے سقمونیا ہفت سرخ
[illegible] شہد مین پلاوین حقنہ ہاے حادہ کرین ۔ اور ادرار کے لیے شربت افستین پلاوین
سونے نہ دیوین آخر شراب و مسکہ کہلاوین ۔

فی سم الفار

۵ سم الفار یعنی سنکہیا ۔ علامت ۔ قولنج و اختناق و خشکی دہن [illegible] علاج

مثل علاج زہر کرین اخیر شراب لیمونہ و ماء العسل و شوربای لعابیہ اور آب خطمی تخم و شیرہ

... اگر قے لاحق ہو تو علاج قے کا کرین اخیر سفوف طین

... روغن گاو شیر تازہ ملا کے دیوین ۔

ف شنگرف سماک

شنگرف سماک ۔ خونریزی مثل سیماب مقتول کے اسہال زیادہ

... علاج مثل سیماب اخیر شوربای چرب پلاوین ۔

ف برادہ و خبث آہن

برادہ و خبث آہن ۔ باعث درد شکم و سرفہ خشک ... علاج شیر تازہ

[illegible] ... اسہال آوین بعد ازان روغن گاو اور مکھن کھلاوین اخیر روغن گل

و روغن بنفشہ و روغن ... روغنہای مرطبہ سر کہ مین ملا کر ہمیشہ سر پر رکھین

اخیر ... کھلاوین جو آہن پراگندہ شدہ جمع ہو بہ سہل کرین ۔

اخیر ... تین ماشہ ہر روز کھلا کر شوربا ہمراہ روغن گاو کی دیوین

جو اسہال ... اخیر جبتک آہن معدہ مین ہی قے مفید تر ہے ۔

ف ہڑتال و چونہ

ہڑتال و چونہ ۔ علامت قے و جراحت امعاء و درد شدید شکم و خشکی دہن

و اسہال ... بول و سرفہ و برد اطراف و دیگر عوارض مانند سیماب مقتول

و آب ... زنگار کی ۔ آثار غبار چونہ کا حلق مین قایم مقام ... علاج

آب گرم و شربت ہمراہ روغن بادام و مسکہ و روغن گاو کے ملا کر و دیگر چند مرتبہ

قے کراوین بعدہ آش جو و آش گندم و برنج ہمراہ قدری تخم کتان و شہد کی پلاوین

اخیر آب خبازی و شہد ملا کر پہر شیر تازہ اور مسکہ اور لعابات اور شوربای چرب دین ۔

ف زنگار

زنگار ۔ علامت سوزش حلق و تپ و جراحت معدہ و سے

علاج مثل ہڑتال ہے ۔

ف زاج و شب یمانی

زاج و شب یمانی ۔ علامت سرفہ شدید کہ جس سے سل ہو جائے

علاج دودہ اور مکہن ہمراہ قند کے کہلاوین آخر آب کشنک جو وسفرجل ہمراہ روغن بادام کے دیوین آخر زردہ تخم مرغ فربہ اور قلیہ اسپاناخ غذا کرین۔ آب سرد اسکا کہانا خصوص نہار اور بعد حمام وجماع کے استسقا و فساد مزاج جگر پیدا کرتا ہے علاج دوا الکرکم و دوا اللک و شراب کہنہ و شراب دینار دیوین۔

قاعدہ دوم مین علاج کہانے سموم نباتیات کا۔

۱۔ بیش۔ تیز اور قاتل ہے۔ علامت ورم لب و زبان و تواتر نفس و غشی و دوار و صرع و سقوط قوت اگر زندہ رہی دق و سل مین مبتلا رہے علاج تخم شلغم سے قی کراوین پہر شراب و روغن بہت ملا کر چند بار قی کراوین اور طبیخ شاہ بلوط و دوا المسک سادہ ہے تین ماشہ یا مشک بوئی دو ماشہ حل کرکے کہلاوین آخر تریاق کبیر و مثرودیطوس و فادزہر حیوانی دیوین آخر پوست بیخ کبر روغن گاو کہلائین آخر جانور جسکو بیش موش کہتے ہین کثیر النفع ہے۔

۲۔ قرون سنبل۔ علامت۔ سیاہی بدن و بول الدم و اعراض سلم علاج آب یا روغن گاو یا روغن بنفشہ سے قی کرین بعد تنقیہ کافور ہمراہ گلاب اور قرص کافور ہمراہ روغن گاو اور آب خیار و لعاب بہدانہ و اسپغول و آب انار و شیرہ خرفہ و روغن بادام و روغن گل و آب تربوز و آب عنب الثعلب سب کو سرد کرکے دیوین صندل گلاب مین پیسکر سینہ و جگر پر لگادین۔

۳۔ فرفیون۔ علامت کرب شدید و لذع شکم و سوزش احشا و فواق و اسہال مفرط علاج قی کرین اور دودہ و مکہن و روغن گاو وغیرہ دیوین جو قطع اسہال ہو آخر حریرہ سبوس سرف مین سرد کرکے دیوین آخر پانی مین شہد بینا

آخر گلاب و آب انار گھونٹ گھونٹ پلاویں آخر شیب کھلاویں آخر جملہ تدابیر مندرجہ تورم سنبل عمل مین لاویں ۔

۱۲ شبرم ولا عیہ ۔ زیادہ مقدار سے کہانا ۔ موجب سر بول اندوہ و اتنج و اسہال مفرط علاج شیر تازہ اور مکہن و روغن و دوغ گاو و لسبست یب اور ربّ ابقض و اقرص قابض و دوغ ایتغ جام آبشہ پیتا ہے بعد رستہ ۔ دروست مین معتدل ہو کراوین ۔

۱۳ ۔ سقمونیا ۔ زیادہ مقدار ۔ باعث اسہال قے و تشنج ۔ علاج دوغ ۔ ربیب بہدانہ و شربت فواکہ و نادر ہڑاپ سیب دیوین ۔

۱۴ ۔ بلاور ۔ ہی یہ اوہ ۔ علامت آبلہ دہان و حلق و اندوہ و امراض حادہ و وسوسہ و فساد و عقل ۔ تمانشہ ۔ ہلاک ہے ۔ بعد نجات کی وسواس ہے ۔ علاج بروغن بخد و آب نیکر ۔ ہستی کرین بعدہ چیزہای ۔ و مانند شیر دوغ و آش جو کی بیوین آخر روغن بادام و بغشہ کدو و شوربای چرب کھلاوین ۔ آخر مغز بادام بہتر ہے اسکی ہی ہاوز ہر ہے ۔ تمسل اور دو بلاور اگر لگوے تو پہنچی ورم و قرحہ پیدا کرے اور کبہی پوست بدن شگافتہ ہو اور ہلاک کرے علاج فورم ۔ دوغ ہی و مسہود ین دوغ زیادہ ترش ہو سکے بہتر ہے مغز چار مغز و مغز بار جیل و ۔ سمند و کنی سیاہ نرم کوٹ کر ضماد کرین اور بعد چند گہنٹہ کے ضماد دور کرکے دوغ سے دہو دین اور تہوڑا عرصہ توقف کرکے پہر ضماد تازہ کرین آخر تمر ہندی کو پانی مین تر کرین جب ت اوسکے پانی آوی صاف کرین اور مغز نارجیل او سی پانی مین مانند صندل کے پیسکر طلا کرین آخر صندل سرخ و سفید طلا کرین آخر تسکین کا بعض نازاید جو بوقت خارج ہونے شکم کے لیا جاوے بدبو طین جب خشک ہو دو دغ سی دہو دین اگر بدن مبتلے اوستعد عفونت ہو اور عدم قوی ہو اور تدابیر مذکورہ زائل نہو

فصد اور مسہل کرین جو بدن پہنچنی سے محفوظ رہے - فصد ہر حالت مین مفید ہے اور ورم کو جلد تر دور کرتا ہے -

۷ حب السلاطین یعنی جمالگوٹہ - دودہ اور گھی پلا کرقے کراوین بعد ازان دوغ و دیگر اشیای باردہ قابضہ کہلاوین -

۸ ریوند چینی علامت - اسہال مفرط و اضطراب علاج قی کرین اور شیر تازہ و مکھن کہلاوین آخر رب بہ و سیب پوین آخر آب سرد سی غسل کرین اور سر پر ڈالین آخر تریاق کبیر و فاد زہر دیوین - اگر غشیان و غشی و حرارت ہو جاوی علاج شیر تازہ و دیکرقے کراوین بشیرہ خرفہ و شربت لیمو پلاوین -

۹ شراب نہار کہانا - درد سر و سواعد و خناق و اختلاط عقل اور کبہی تشنج پیدا کرتا ہے علاج فصد و قی و تلئین طبیعت کرین آخر قرص کافور اور دوغ ترش و آب فواکہ سے تبرید کرین -

۱۰ افیون - علامت سبات و گرفتگی زبان و غند و غنودگی چشم و خارش جلد و عرق سرد و فواق و ضیق النفس و تاریکی چشم اور منہہ سی بو آوی - سبات تام قاتل ہے - افیون روغن کنجد مین ملا کر کہانا لا علاج ہے علاج آب شبت و ترب و عسل و نمک سے قی کرین آخر فلوس مس پانیمین ابالکر مکس و سیمین ڈالکر دیویں قی بآسانی ہوتی ہے آخر حقنہ حادہ کرکے دودہ و روغن کہلاوین آخر کندر و نیل بید انجیر یکتولہ پانیمین پیسکر پلاوین دافع ضرر سمیت ہی اور قی بہی لاتا ہے آخر تریاق مثرودیطوس اگر نہ ملی حلتیت شراب کہنہ یا آب عسل مین جو جند بید ستر و دار چینی کو ملا کر سیمین ملائی ہو دیوین آخر تریاق اربعہ و جاوقر جاو جند بید ستر کہلاوین آخر جند بید ستر و فلفل و حلتیت و ابہل سم کو شکر بقدر بندق بوین آخر جند بید ستر سو گہلاوین آخر روغن سعط سر اور بدن پر ملین

۱۱ تنبیہ وفافل یعنی پیتورہ — اولاد و اور سرخی چشم و سبات و تاریکی چشم جب
زیادہ ہو اختلاط عقل پیدا ہے ساتھ پیاس مہلک ہے — علاج — مثل افیون کے
ہے — شوربا چوزہ مرغ کا کھلاویں —

۱۲ شنیز کا جرم یا وسمہ کہانا — موجب اسہال و قے سبات و سبات اور
تمام زہرون کی شنیز آدمی — آب شنیز ابالا بقدر ساڑھے گیارہ درم کے بسبب
ہے یعنی قاتل ہے — شنیز ہمراہ سات کے منہ سے نہیں — اگر زیادہ زہر کے کہا وین علم
کا ایسا ہی علاج وقے شیر بورہ مین روغن زیت یا روغن سوسن ملا کر دیکر قے
کرادین بعد قے شیرہ نیم برشت ہمراہ فلفل و نمک لی اور گوشت مرغ فربہ ہمراہ دار
فلفل کے دیوین اخیر شراب مثلث پلاوین —

۱۳ اسپغول ناکوفتہ — غم و بیقراری و تنگی نفس و سقوط قوت و نبض و خدر
و تمدد و غشی و سردی تمام بدن پیدا ہو علاج آب نیمگرم اور شہد یا طبیخ شبت و
بورہ سے قی کرا کے زردہ تخم مرغ اور شہد و ارکہلاوین اخیر زردہ بیضہ نیم برشت
ہمراہ فلفل و نمک کے دیوین اخیر شراب صرف یا ہمراہ تریاق کے دیوین اخیر
حلتیت اور شراب افسنتین پلاوین اخیر شیرہ خرفہ ہمراہ دیار خمک دیوین —
غذا شوربا چوزہ —

۱۴ کرات سیاہ — باعث خناق و قولنج و ضیق النفس و عرق سرد و نفخ معدہ
و شکم و مغص و فواق و غشی ہے اور چند قسم کے ہوتی ہے — سفید سکہ بو قا و زہر کھا
قسم ناقص مین ۱ سیاہ ۲ کبود ۳ طاؤسی ۴ سرخ — یہہ زہر ہے ۵
جو نواحی سوراخ ہوام کے ہوتے قریب ہے تمام ہی قوی کر زیست کے ہو علاج
آب ترب یا طبیخ ترب و بورہ یا نمک ہندی ملا کر دیکر یا نمک و سکنجبین یا آب

یا آب ترب و پودینہ و سکنجبین پلا کر قی کراوین اور بعد ازان شراب صرف یا آب کانجی یا خاکستر چوب انگور یا انجیر ہمراہ آب گرم و نمک و قدری سرکہ کی اور تریاق اربعہ و سنجرنیا و فلافلی و کمونی ہمراہ شراب یا آب سداب کے دیوین - صندل سفید گلاب مین سعدہ پر ضماد کرین - جدوار اور حقنہ ہاے حادہ مفید ہین -

قاعدہ سیوم مین علاج کہانی سموم حیوانیات کا -

۱- گوشت حربا - قی و درد شدید سر معدہ پیدا کری علاج کنجد و خرنوب و قند جملہ برابر روغن گاو مین ملا کر دیوین اخیر شیر تازہ پلاوین اخیر روغن ملین اور حمام

۲- بیضہ حربا - قاتل ہے علاج قی کرین روغن بونہ پلاین نمک گرم سر پر رکہین سکہ و جنطیانا کہلاوین -

۳- زہر بوزہ - علامت قی زرد و کبود و تلخی دہن و زردی چشم علاج روغن و آب گرم سی قے کرین بعد ازآن یہہ تریاق دیوین صفت حب الغار گل مختوم تخم سداب جملہ برابر مثل نصف جز نرم کوٹ کر شہد مین ملائین اور ساڑہے چار ماشہ کہلاوین

پہر علاج ہیضہ مین رجوع کرین -

۴- زہر افعی - علامت غشی متواتر بلکہ نجات و دشوار - علاج مسکہ گرم کردہ اور روغن کنجد کہلاوین عقب اوسکے آب گرم پلا کے قے کراوین فادزہر و تریاق کبیر و دوا المسک و مثرودیطوس دیوین - غذا ماء اللحم -

۵- عرق ذہاب - کرشک شدید و سرخی چہرہ و ورم و خناق و سیلان عرق بدبو ظاہر ہو - علاج قی کرین اور تریاق مختوم دیوین اخیر زراوند و نمک اندرانی ہر ایک چار ماشہ دو ماشہ ہمراہ آب گرم کے دیوین صفت تریاق مختوم گل مختوم

حب الغار برابر نرم گوشت کر شہد پیتا دو یہ مین ملا کر روغن گاؤ سے چرب کرین۔

٦ شیر فاسد۔ شہد و روغن کنجد و نمک و آب نیم گرم سے قی کرا کے جوارش مصطکی و جوارش عود ہمراہ شراب صرف کے دیوین۔

٧ شیر جو معدہ مین فاسد و ترش ہو۔ غشی و دوار و تپش معدہ پیدا کرے اور کبھی ہیضہ کر کے ہلاک کرتا ہے **علاج** آب عسل سے قی کر کے شراب صرف پلاوین **آخر** فلافلی یا گلاب و طلقندہ دیوین **آخر** روغن ناردین و بادام و مصطکی معدہ پر ملین۔

٨ شیر معدہ مین بستہ ہو۔ **علامت** غشی و عرق سرد و نافض۔ **علاج** سوا دو ماشہ پنیر مایہ کو سکنجبین مین دیوین **آخر** بقدر باقلا حلتیت ہمراہ آب پودینہ و سکنجبین کے دیوین **آخر** طبیخ تخم کرفس آب عسل مین پلاوین **آخر** آب شہد سے قی کراوین۔

فائدہ دودہ مین سے دہلی یا چہی پنیر مایہ اگر کہایا جاوے شیر کو معدہ مین بستہ کرتا ہے اگر شیر بستہ ہو اور پنیر مایہ دیا جاوے شیر گداختہ ہوتا ہے اور دودہ پکیر سونا نہ چاہیے کسلئے کہ رات کو دودہ پینا ممنوع ہے۔

٩ گاؤ کوہی کا جانب مسے کہانا۔ قے و درد پیدا کرے **علاج** روغن و آب گرم سے قی کرین اور پستہ و فندق و انجیر دیوین **آخر** تو دو ماشہ خیلز ہمراہ شراب مین پکا کر بعد قی کے پلاوین **آخر** تریاق فاروق و مثرودیطوس کہلاوین **غذا** آش گوشت برہ بلاادویہ حارہ۔

١٠ کباب گوشت بریان اگر گرم گرم بدون سرد کرنیکے ڈہکین جو بخار اوسکا خارج نہو حکم زہر کا رکہتا ہے۔ غشی و رجاۂ عقل کا اور ہیضہ پیدا کرے **علاج** آب نیم گرم و نمک سے قی کرا کے سکنجبین سفرجلی و بہیہ و شراب ہمراہ آب بہہ و سیب کے دیوین **آخر** دواء المسک کہلاوین **آخر** گل مختوم دیوین **آخر** خواب و حمام

کباب گوشت

دحمام نکرین اخیر علاج ہیضہ کا کرین ۔

فصل سیوم مین طرد ہوام یعنی دور کرنا حشرات کا درج ہے اور

مشتمل ہے اوپر دو فایدہ کے **فائدہ اول** مین تدبیر بالعموم دفع حشرات کی ہے ۔

۱ مساکن و منازل مین طاؤس و بط و خارپشت و گوزن و راسو رکھین جو حشرات ظاہر نہووین ۲ شیح و حلتیت و غار و خربق و پودینہ و درمنہ حوالی گھر مین ڈالین مانع خروج حشرات ہے ۳ سندیکی خاک یہ چوب صنوبری آلودہ کرکے گھر مین رکھین مانع خروج ہے ۴ ریسمان قطران و حلتیت مین آلودہ کرکے گھر مین رکھنا مانع خروج ہے ۵ دود چوب انار و بیخ سوسن سرد و سوی و ظلاف جانوران و مقل و زفت و حلتیت و برگ غار سے جمیع حشرات بھاگتے ہین ۶ دود افیون و سیاہ دانہ و قند و شاخ بزکوہی و گوگرد سے جملہ حشرات گریزان ہوتی ہین ۷ شمع اور روشنی دور رکھین تاکہ ہوام اوسطرف متوجہ ہون ۔

فائدہ دوم مین تدبیر بالتخصیص دفع حشرات سے

خاص تدابیر دفع حشرات

سانپ

۱ سانپ ۔ دہونی شاخ گوزن و سم بز بیخ سوسن عاقرقرحا سے بھاگ جاتا ہے اگر خردل رہگذر مار مین ڈالیجاوے راہ چھوڑتا ہے **اخیر** نوشادر حرد پانی مین حل کرکے خانہ مار مین ڈالین گھر چھوڑتا ہے **اخیر** آب دہن روزہ دار خاصۃً جو نوشادر منہہ مین ہو اگر دہن مار مین ڈالین سانپ ہلاک ہوتا ہی ۔

عقرب

۲ عقرب ۔ پشک گو سفند و زرنیخ چربے بز مین ملاکر قریب سوراخ کے دود کرین باہر نہ آوی **اخیر** قطعہ ترب سوراخ پر رکھنی سے باہر نہ آوی **اخیر** گژدم کو جلاوین اوسکی بوسی دوسرے گژدم بھاگتے ہین **اخیر** پوست ترب گژدم پر رکھین

یا آب برگ ترب و سپرڈالین یا آب برگ بادروج یا بادروج یا آب ان بروزہ دائم خصوص جو گرم مزاج ہو گزدم پر ڈالین موجب ہلاکت گزدم ہے ـ

ف برغیث

۳ برغیث یعنی کیک ـ حنظل یا نیمین ترکرکے گہرمین چہڑکین بہاگتا ہی اور مرتا ہے آخر بھی کوگردو برگ غرزہ رو سے کیک نہین رہتا ـ آخر پیہ غار یشت لگرد یشت کرکے پرملا کرین تمام کیک اوسپر جمع ہو جاتے ہین آخر گیاہ کیلوشہ یعنی شیشۂ القراب تر پر ڈالین کیک سن ہو کر ہلاک ہوتا ہے آخر آب اوجشک غرز بوٹی کنا نامع

ف پشہ

۴ بق یعنی پشہ ـ دود سیوس وچوب صنوبر و تراشہ صنوبر سے بہاگتا ہی آخر دود شبت و قلقلیس باعث ہلاکت ہے آخر دود برگ سورو خشک و برگ سرو چوب سرو اور برشہ آخر دود مقل کو گردو شاخ گوزن و سرگین و اسپند سے بہاگی آخر برگ سرو پستہ پر رکہنی سے دور رہو آخر روغن بادام بدنپر ملنے سے نیش پشہ اثر نہین کرتا ـ

ف ارضیہ

۵ ارضیہ یعنی چوب خورہ ـ دودہ برگ خیار سے بہاگی آخر تہہ رکہنی سے نر ہے آخر خاکستر بہہ خانہ ارضیہ مین ڈالین جملہ ہلاک ہو ـ

ف ذباب

۶ ذباب یعنی مگس ـ دود زرنیخ وکندش سے مری آخر زرنیخ دودہ یا آب نیمین ملا کر برتن مین رکہین تمام مگس گرکے اوسمین مرجاوے ایسی ہی خربق سیاہ کا حال ہے

ف راسو

۷ راسو ـ بوئی سداب سی بہاگتا ہے ـ

ف موش

۸ موش ـ بوئی زاگ سی بہاگے آخر ایک موش کا پوست جدا کرکے یا خصی کرکے چہوڑدیوین جملہ موش فرار ہون آخر مردا سنگ و خربق و سک و خبث الحدید و بزر البنج و زعفران خمیر مین ملا کر گولیان بنا کر سوراخہا اور گوشہائی گہر مین ڈالین اوسکے کہانی سے تمام چوہی مرجاوینگے آخر سنکہیا پیسکر دینا بشرطیکہ پانی چوہی کو نملے یہی عمل کرتا ہے ـ

۹ موزچہ - مقناطیس سوراخ پر رکہین یا گوگرد وقطران کے دہونی دیوین یا زہرہ گاو یا زفت وحلتیت خانہ موزچہ مین ڈالین گریزان ہوتی ہین -

۱۰ زنبور - دود گوگرد ولہسن ہہاگی اخر عصارہ خطمی یا آب خبازی اور زیت بدنپر ملین زنبور نزدیک نہ آوے -

۱۱ سوس یعنی کرم جامہ وکتب - افسنتین وشونیز وپودینہ جوئباری وپوست ترنج صندوق پارچہ مین ڈالین یہہ کرم پیدا نہوگا -

باب نہم مین تدبیر حوامل اور وضع حمل اور مولود اور رضاع اور مرضعہ کے

اور مشتمل ہے اوپر چہار فصل کے **فصل اول** مین علامات حمل اور تدابیر وعلاج حوامل مین ہے اور یہہ مشتمل ہے اوپر تین قسم کے **قسم اول** علامات حمل وعلامات نر وماده

علامات حمل ۱ بند ہونا حیض کا ۲ بیخوابی قریب وضع کے ۳ گرمی ۴ غشیان اور قے ۵ بدہضمی ۶ بیقراری ۷ بزرگی پستان اور نکلنا رطوبت کا ۸ سیاہ اور بڑا ہونا حلقہ ہاے پستان کا ۹ حرکت بچہ ۱۰ بڑا ہونا شکم وعانہ کا ۱۱ خشک اور تنگ ہونا فرج کا ۱۲ ملنا فم رحم کا ۱۳ درد نافہ وفرج مین اندک پیدا ہو ۱۴ نفرت جماع سے ۱۵ سیاہی چشم ۱۶ رغبت کہانے کوئلہ اور مٹی کے ۱۷ رو گٹی کہڑا ہونا بعد جماع کے ۱۸ نفرت لحم وبرگ تنبول سی ۱۹ گرانی وسستی وکثرت خواب ابتدای حمل مین ۲۰ شہوق و عظم وسرعت نبض ۲۱ غلظ وعدم استوای قارورہ ۲۲ استوای ساقین ۲۳ کوکہہ مین درد ہونا ۲۴ تہیج اطراف ۲۵ رغبت اشیای ترش وتر - اگر حمل مین شک ہو امتحان اسکا یہہ ہے ۱ شہد آب سرد مین بوقت خواب

قسم اول علامات حمل ونر وماده

عورت کو پلاوین اگر مغص و پیچش ناف مین ہوجاتا ہے ۵۔ تمام دن روزہ رکہین وہ قبل افطار عود یا اور کوئی خوشبو ایسی ظرف محفوظ مین جلاوین جو بو اوسکے باہر نجاوی اور ایکطرف نلکی کا اوسمین کر کے دوسرے طرف اوسکا فرج مین رکہین اگر بو ناک مین منہ سو پہنچے حاملہ ہے ۶۔ قدرے مشک یا لہسن بعد روزہ کی عورت کہاوے اگر بو سانس مین نہو حاملہ ہے ۷۔ زراوند کوٹ کر شہد مین ملا کر ہمراہ صوف کبود کی رکہکر رکھین اگر مزہ منہ مین ہو حمل نہین ہے۔

علامات نر و مادہ ۱۔ زراوند کوٹ کر شہد مین ملا کر صوف کبود کے ساتھ فرج مین رکھکر روزہ رکھین اگر منہ کا مزہ شیرین ہو تو فرزند پیدا ہوگا اگر تلخ ہو دختر ۲۔ بول اگر رنگین ہو اور سینہ بہت کلاتر اور پستان سرخ اور حرکت جنین جانب راست اور عورت خفیف الحرکت اور رغبت لطیف چیزون کیطرف ہو اور روزہ کا سبی او ہٹی شکم مین آوے علامت نر کی ہے ۳۔ اگر رو زیر ناف کے فرج سے او ہٹی اور رنگ بیرونق اور عورت بطی الحرکت اور حرکت جنین اکثر بائین طرف اور سینہ جانب چپ کلان اور سر پستان سیاہ اور قارورہ سفید اور شہوت باقی غالب ہو علامت مادہ کے ہے۔

قسم دوم مین تدابیر و علاج عوارض حوامل ہین۔

قسم دوم در تدابیر و علاج عوارض حوامل

۱۔ قبل چار مہینے سے اور بعد سات مہینے کے فصد و پچہنے و اسہال و قے حاملہ نکرے بضرورت شدید مسہل بارد دیوین۔

۲۔ ضعف قلب و معدہ استعمال نکرین جو مزلق جنین ہے۔

۳۔ جمیع ادویہ قلبیہ و تریاق فاروق و مثرودیطوس دیوین جو حافظ جنین

۴۔ حاملہ کو قبض طبیعت نرکھین اور ادویہ محدرہ و مسخنہ و مزلقہ سے بچاوین۔

۵ حرکات شدیدہ اور امتلای غذا اور ہیضہ اور غذای تیز و تلخ و غضب و غم و فزع و آواز سخت و بوے تیز سے بچی ۔

۶ غثیان وقی تاوقتیکہ زیادہ نہو بند نکرین ۔ اگر زیادہ ہو تسکین اوسکے طباشیر پودینہ دانار دانہ وزرشک دانہ الائچی اور مانند اسکے دیوین اخیر نمک و فلفل سیاہ باریک کرکے آب لیمومین دیوین اخیر نارنگی اور ککری کہلاوے اگر مزاج حاملہ کا یا شہر یا موسم گرم ہو زرشک وانار دانہ ترش و سماق و پودینہ ہر یک چار ماشہ فلفل سیاہ چار دانہ اور قدرے نمک سبکو پانی مین پیسکر چٹاوین اخیر طباشیر کہو دو دانہ ہیل ہر یک یکماشہ شربت انار ترش یا سکنجبین لیمون ملا کر دیوین ۔ اگر مزاج حاملہ یا شہر یا موسم سرد ہو مصطگی رومی دانہ الائچی عود خام طباشیر ہر یک یکماشہ شربت انارین ملا کر دیوین اخیر عود خام مصطگی کے دانہ ہیل پودینہ ہر یک چار ماشہ پتیلی مین پانی بمقدار عرق الائچی ایک پاؤ مین جوش دین جب نصف باقی رہے صاف کرکے ایکتولہ نبات ملا کر پلاوین ۔

۷ اگر حاملہ کو سوزش سینہ لاحق ہو زہر مہرہ گلاب مین پیسکر قدری نبات ملا کر دیوین اگر نزلہ ہمراہ ہو عرق بادیان بجای گلاب کے ڈالین اخیر تمش اور دہی شیرین کہلاوین اخیر شیرہ تخم خرفہ و شیرہ کشنیز و نبات پلاوین ۔

۸ اگر درد سر ہو قرص مثلث ضماد کرین اخیر صندل سفید و عرق کیوڑہ و گلاب و عطر خس اور مانند اسکے دیگر خوشبو سونگہاوین ۔

۹ اگر خفقان لاحق ہو آب نیمگرم قدری قدر سے پلاوین اخیر سحیق یشب سبز محلول و طباشیر و زہر مہرہ محلول گلاب و عرق کیوڑہ و عرق بیدمشک دیوین اخیر اگر مربے یا مربہ یا سیب کے ہمراہ ورق نقرہ و طلا و دانہ الائچی

سفید و لعاب اسپغول تخم ریحان سا ئیدہ گے ملا کر دیوین۔

۱۲ تہیج المراق کے لئی روغن گل سرکہ و نمک ملین اور تنہا ملین آب برگ عنب الثعلب بیضہ ملا کر طلا کرین۔

۱۳ ثنایا یبن ... لعاب بہ خطمی میں سرشو ملا کر سامنے طلا کرین ... یا آب ... برگ حنا و سنبل و برگ نیم پانیمین ابالکر تمام بدن پر ملکر اسکے پانی سے غسل ...

۱۴ عضلات پشت ... ... وارد جو کی روٹی پکا کر ... الیسی علاج ۱۳ درد شکم کا ہے۔

۱۴ خون حیض کا بعد ... پوٹلی سے آوے۔ پوست انار ولایتی و سرمہ سیاہ پھٹکری و مازو سبز و گیرو ... ماننداسکے استعمال کرین۔ مرجان سرخ راہنیہ باندہین مانع سقوط حمل ہے۔

۱۵ درد شدید قبل ... پیدا ہو جا نیکے اوکا ... دین۔ اگر شکم زیادہ ہو موٹے اور ... پر پٹی باندہکر شکم کو اوٹہا دین۔

۱۶ انحراف یا میلان رحم یا بچہ۔ علاج اسکا حمل پیدا ہے۔

۱۷ اشتہای فاسد۔ گلقند عسلی کہلا وین اور خردل و دیگر اشیای حریفہ دیوین پہ بعد چار مہینے کے خود بخود زائل ہو۔

۱۸ اشتہا بند ہو۔ ذرا ذرا قدری قدری پہلی بھی غذا کی خصوص ہمراہ شراب ریحانی ترش کے دیوین۔

۱۹ ریاح معدہ و امعا۔ معجون کمونی اور مثل اسکی کہلا وین۔

۲۰ ... نہم شروع ہو ہر روز نہار روغن بادام کہلا وین۔ اشیای ترش و قابض

غلیظ سے بچا کریں - حمام میں غسل کریں - شکم و پشت پر روغن شبت و
روغن بابونہ و روغن کنجد ملیں - اغذیہ چرب و شیرین کہلاویں جو بآسانی وضع حمل ہو -
۲۱ مقناطیس دست چپ میں لینی سے بسہولت وضع حمل ہوتا ہے - نسخہ لبید دا نہ
ران پر باندہیں نسخہ پرسیاوشان نخود سیاہ مشکطرامشیع ہر یک چہ ماشہ
پوست املتاس قند سیاہ کہنہ ہر یک یکتولہ پانی میں جوش دیکر چہانکر پلاویں نسخہ
شکم و پشت و اطراف فرج کو روغن چنبیلی و روغن بنفشہ ملیں اگر پیہ مرغ و پیہ بط
و مغز ساق گاؤ اضافہ کریں اولی ہے نسخہ آب گرم سے نطول کریں اور اوسمیں
بیٹھیں نسخہ وارچینی کہلاویں نسخہ حلتیت و جند بیدستر دیویں نسخہ
شونیز و کندش و جند بیدستر کے نسوار لیں اور بوقت چہینک کے منہ اور ناک بند کریں
نسخہ سم استر اور سم خر سے دود کریں - موجب تسہیل ولادت ہے -

قسم سیوم میں علاج عسر ولادت -

۱ اگر قوت دافعہ رحم کے ضعیف ہو علامت درد شدید بفاصلہ چند چند
گہنٹے کے لاحق ہو ہندے میں اسکو ٹہنڈے پیر کہتی ہیں علاج تقویت قلب گل
و گاؤزبان گیلانی و خمیرہ گاؤزبان زعفران وغیرہ سے کریں مگر سونگہنا خوشبو کا جائز
نہیں نسخہ مدرات کا استعمال کریں یعنی پوست املتاس کہنا بہ و ریوند و
زعفران شہد یا شربت بزوری معتدل میں دیویں - اگر ضعف قوت دافعہ رحم
بسبب امتلا و کثرت خون کے ہو علاج فصد صافنین کریں مگر خون بقدر تہوڑا
لیویں - اگر کوتاہی قوت دافعہ کے بباعث کثرت جمع ہونے رطوبات اور پانی کے
مشیمہ میں جو اوسمیں بول بچہ کا ہوتا ہے ہو اس میں تنگی راہ مانع خروج بچہ
ہوتی ہے علاج مشیمہ کو بال کبوتر یا سلائی نازک سے بہت تہوڑا

شگاف کریں مگر یہہ شگاف اس صنعت کے ساتھہ کرنا چاہیئے جو پانی قطرہ قطرہ خارج
ہو اگر یکبارگی پہلی وضع حمل سے پانی خارج ہوگا تو رحم صدمۂ وضع حمل سے ہلاک ہو جائیگا
کیونکہ یہہ پردہ اور رطوبت صدمات اعضای بچہ سے رحم کو بچاتا ہے۔

۲ تب سبب سختی منہہ یا گردن رحم کے اگر عسر ولادت لاحق ہو۔ یہہ امر ہاتھہ سے دریافت
ہوتا ہے **علاج** طبیخ محللات میں بٹھائیں اور نطول کریں **اخیر** پنجال کبوتر
دعا قرحیا پیکر شہد میں طلا کریں اور فم رحم تک پہونچائیں۔

۳ تب سبب صلابت مشیمہ کے ہو۔ یہہ بھی ہاتھہ سے دریافت ہوتا ہے **علاج** مشیمہ کو
ناخن یا سلائی سے چاک کریں تاکہ جب فضلات غشا میں گرینگے سختی اوسکی کم ہوگا۔

۴ فم رحم منحرف ہو۔ یہہ اکثر اوسکو ہوتا ہے جو عانہ اوسکا فراخ ہو **علاج**
تب یہ پا او لیٹا کر بٹھا دیں۔

۵ تب سبب پُر ہونے مثانہ کے بول سے ہو **علاج** مدرات کا استعمال کریں۔

۶ تب سبب سختی و بزرگی اعضای بچہ کے ہو۔ تو علاج یہ ہے کہ اعضای بچہ کو پارہ پارہ
تراش کر نکالیں۔

۷ رحم یا زائد آنوان جو محیط رحم میں پھوٹی ہوں یا شکم ماما کا پہلے حمل سے بڑا ہو۔

۸ خلاف شکل طبعی کے بچہ خارج ہو یعنی بجای سر کے دست یا پاؤں نکلے۔ علاج
شکل نمبر ششم ہے۔

۹ بچہ رحم میں مر جاوی **علامت** آزردہ اندام و کرب و تلخی دہن و تعفن و بدبو
حاملہ کو معلوم ہو اور دوسرے کو اوسکے منہہ سے بدبو آوی اور پستان ڈھیلے
ہوں اور شکم سرد و گران ہو رحم سے خون متعفن خارج ہو غشی و ضعف و
نبض غیر منتظم اور جلد تر نبض و رنگ متغیر ہو حرکت بچہ محسوس نہو ہاتھہ پاؤں

بچہ رحم میں مر جاوے

سرد ہوں چار روز تک در دولادت رہے **علاج** آبہل و مشکطرامشیع پرسیاوشان
ہر یک دہ و نیم ماشہ ترمس و پودینہ ہر یک ہفت ماشہ نبات سفید سہ تولہ نہ ماشہ پانی مین جوش
دیکر چہانکر پلاوین **آخر** بول تندسیاہ مین دیوین **آخر** کٹول بیسکر شیاف کرین
آخر پارچہ شیر زقوم مین ترکر کے اندر رکھین **آخر** عطسہ بطور مندرجہ نمبر ۲۱
قسم دوم لاوین **آخر** مر و خربق سفید جاوشیر جملہ برابر کوٹ کر چہانکر زہرہ گاو مین
ملاکر اندر رکھین **آخر** سداب خشک تخم حنظل قسط ہر یک دہ و نیم ماشہ مر سہ و نیم ماشہ
باریک کر کے ناف و عانہ پر طلا کرین **آخر** پوست مار و سرگین کبوتر کے دہونے
دیوین – اگر یہہ تدابیر مفید نہوں مثل نمبر ۶ قسم ہذا عمل کرین –

فصل دوم تدبیر وضع حمل مین

۱ گہر معتدل مین بچہ جنی – اگر موسم و مزاج سرد ہو سبوس گندم و خردل و اسپند
و گوگرد و فلفل سے دہونی کرین اور مکان کو ساتہہ بند کرنے ہوا اور جلانے آگ سے گرم رکہین
۲ تین روز تک غذا اندیوے بعضے چہہ روز تک نہین دیتی صرف نشاستہ و تخم بہیل
روغن گاو مین بریان کر کے نبات سفید ملاکر دیوین اور شیرہ بادام و پستہ پلاوین
تدابیر تسخین و تقویت عمل مین لاوین پارچہ پنبہ دار بہرین بستر پنبہ دار رکہین چیائے
خطائی ہمراہ نبات کی پلاوین اور میوہ مانند بادام و پستہ و کشمش و مویز و انجیر و خرما
و نارجیل اور شہوار کہلاوین – اجوائن پانی مین ابالکر چہانکر شکر سفید مثل حریرہ
کے پکاکر روغن زرد و سونٹہہ ملاکر دیوین – اگر مزاج یا موسم گرم ہو بجای اجوائن
کے تخم ریحان ڈالین بجای پانی کے عرق گاوزبان یا عرق کیوڑہ پلاوین لیکن یہ
دونو عرق مزاج کو گرم و سرد مین مفید ہے اور موسم و مزاج سرد مین بجای پانی کے
عرق بادرنجبویہ یا عرق بادیان پلاوین – اکثر عورات کہانہ روغن مین بریان کر کے

کو ہانے میں ترکیب ڈالنے کی یہ ہے کہ اول میوجات کو روغن زرد میں بریان کریں بعد اس کے پیاز ان کھانا لو سے روغن میں بریان کرین اور قند کا علیحدہ پانی میں قوام کر کے دونوں میں ملاوین جب خوب مخلوط ہو آگ سے اوتار کے بوقت اوتارنے کے قدری زنجبیل پیس کر ملا کر استعمال کرین - اگر عورت سرد مزاج وضعیف المعدہ ہو بجای حلویات و حریرہ کے صرف آب گوشت مرغ یا کبوتر بچہ دیوین - اگر مزاج و موسم گرم ہو حلویات مسمنہ کم دیوین کبریت و خرمل سے بخور کرین شیر گاو پلاوین -

۳ غذا کم دیوین یعنی اشتہا باقی رکھین کسلی کہ سبب نہونے قوی کے حالت اول میں اندیشہ فتور ہضم کا ہے -

۴ تیسرے دن شوربا مرغ یا بز یا کبوتر یا تیتر یا بٹیر یا لوہ کم روغن کھچڑی نمک کھلاوین

۵ چوتھے دن نان گندم دیوین اور چالیس روز تک اسی غذا پر اکتفا کرین -

۶ اشیای سرد اور ہوای سرد اور حرکات سخت سے پرہیز کرین - ہر روز روغن کنجد کے مالش کرین -

۷ ناف پر بعد روغن چنبیلی سے مالش کرین -

۸ درد رحم جو بعض عورات کو بعد جننے کے ہوتا ہے علاج پوست الماس شکر ابرہیم ہر ستہ ... شمار قند کہنہ سیاہ عرق گاوزبان عرق ... میں بالکر چھان کر پلاوین نسخہ ... تک پہنچاوین نسخہ شیر خر نیم گرم سے آبدست کرین نسخہ تخم ... کے دھونی دین نسخہ سعتر پلاوین نسخہ تلیخ خبازی کہلاوین اور جسم تک پہونچاوین -

۹ واضح رہے کہ ان چالیس روز میں چار بار غسل کرتے ہیں یعنی روز اول - روز ششم - روز بستم - روز سی ام - روز چہلم - اگر موسم گرما ہو بعد دو

دو تین روز کے غسل کرنا جائز ہے —

فصل سیوم مین تدبیر مولود یعنی بچہ کی ہے —

۱۔ جس وقت بچہ پیدا ہووے اسکو ہوای سرد سے محفوظ رکھین —

۲۔ پہلی دودھ پلانیسے بچہ کو شہد چٹاوین اور خرما کو چبانے پیچھے بانگشت شہادت سے حلق مین ملین بقول حکما جو چیز کام پر پہنچاوے مدت العمر اوس سے نقصان نہین پاتا اگر فادزہر معدنی پہلے دودھ پلانیکے ملا جاوے ایام زندگی مین سموم مشروبہ و ملذوعہ نقصان نہین کرتی اور برگ نیم یا پھینہ نرکچور ہر کلان خیر رد وندن چکا وانہ گل سرخ سونپ مستقی یادیان شاہترہ مغز فلوس بادام ہتا سہ پانی مین بالکر چہانکر پہلے دودھ پلانیسے پلا دین اسکو گھٹی کہتے ہین —

۳۔ بچہ کو نمک و اسفنج و صابون گرم پانیسے نہلادین اور صابون و آب گرم سے غسل کرین اور ساق کٹ مٹی صعتر یا برنگ پانی مین جوش دیکر اوس سے غسل کرین بعد ازان آب نیم گرم شیرین سے نہلاوین اور احتیاط رکھین جو پانی منہہ اور آنکہہ اور ناک مین نجاوے — بہترین وقت غسل بچہ کا صبح دوپہر تک ہے کیونکہ اگر بوقت شام جو شب قریب ہے نہلایا جاوے تو اندیشہ سردی کا ہے نہایت محفوظ جگہ مین بچہ کو نہلانا چاہیے —

۴۔ بوقت غسل مقعد بچہ کو انگشت خنصر روغن آلودہ سے کشادہ کرین کیونکہ بعضے جبتک بچہ شکم مادر مین رہتا ہے براز نہین کرتا جمیع فضلات براہ بول خارج ہوکر مشیمہ مین پڑتا ہے —

۵۔ بعد غسل کے فلوس پانی تازہ و عرق بادیان و نبات حل کر کے پلا دین —

فصل سیوم تدبیر مولود

گھٹی

٦ بچہ کے ناک مین ہمیشہ سلائی نقرہ گول سرکی یا پنبہ سیخ پر لگا کر پھراوین جو رطوبات ترلہ ودماغی خارج ہون اور نتھنہ فراخ رہین –

٧ عصارہ زیت نام آنکھہ مین ٹپکاوین تاکہ چرک دور ہو **حشر** گلو نشاستہ یا منھگاؤ یا خرقہ نرم سے چرک پاک کرین –

٨ بعد گذرنے آٹھہ پہر کے وقت پیدایش سے دودہ پلاوین –

٩ رودہ ناف کہ جسکو نال کہتی ہین اور ساتھہ انول وشیمہ کے متصل ہوتا ہے اسکو انگشت نر وانگشت شہادت سے پکڑکے طرف مشیمہ سے اوسکو جو کچھہ اوسمین از قسم خلط وباد کے ہو خارج کرین بعد ازان ریسمان نرم تافتہ سے ساتھہ روغن گاؤ کے چرب کرکے بفاصلہ بالشت چار انگشت ملا ہوا نال سے باندہکر ساتھہ آہن کے قطع کرین

١٠ بعد قطع کرنے رودہ کی کپڑا روغن کنجد وروغن زیت مین ملاکر ناف پر رکہین اور انظ المجذلہ روغن قرالتی رہین تاکہ ناف گرم وسخت ہو اور رودہ ناف تین چار دن مین خشک ہوکر گرے **حشر** ہلدی دم الاخوین انزروت زیرہ چہر چہر بلیہ مر جملہ برابر باریک کرکے ناف مقطوع پر چہرکین جلد خشک کرتا ہے **حشر** خاکستر صدف ناف مین ذرور کرین جو خشک ہو مگر روغن مطلق اسوقت نہ لگاوین –

١١ قدری مشک اگر ناف مقطوع مین رکہین بچہ مدت العمر مرض صرع سے محفوظ رہتا ہے

١٢ بوقت قطع ناف کے ورم ہو جاوے **علاج** تر و اسفناک خنیدہ کاشنی ریشوت کمیلا آب عنب الثعلب سبز وآب کشنیز سبز مین ضماد کرین – اگر ورم مین پیپ ہو جاوے مرداسنگ سفید و غبار آسیا سنگ جہت چہڑکین اگر زیادہ خون ہو اور بچہ زیادہ دو مہینے سے ہے اول جوک دو عدد لگاوین پہر اوپر مذکورہ چہڑکین –

١٣ ناف اگر زیادہ ہو جاوے تو پٹی باندہین یا قطع سپید یا صدہ تین سمہ سائیدہ یا سرمہ

سوہان کردہ پر کرکے ناف پر رکھکر پٹی سے باندہین —
۱۴ جبتک کہ بچہ دودہ طلب نکرے اور شروع دودہ نپیوین — اسکی بادی سے پرہیز کرین —
۱۵ بچہ کو تین چار مہینے تک واسطہ حفاظت شکل غندق کے ساتھ باندہین —
۱۶ اگر نر ہو روغن گاو کی مالش کرین — اگر مادہ ہو روغن بنفشہ و روغن گل ملین —
۱۷ پس گوش و گردن و زانوین اگر خراش پیدا ہو گل سرشو و برگ مورد چہڑکین — موسم سرما مین صرف مٹی چہڑکنے چاہیئے —

فصل چہارم مین تدبیر رضاع و مرضعہ ہے —

۱ شیر مادر کے لیئی تمام دودہون سے بہتر ہے بلکہ بچہ اگر پستان مادر کو بدون دودہ کے چوسے اکثر امراض سے محفوظ رہے —
۲ اگر دودہ مادر کا ہو تو بچہ کو تین روز تک بقول بعض [illegible] تک نہ پیوین بلکہ اودیہ ملینہ و شہد پر اکتفا کرین اس عرصہ مین دودہ دوسرے شخص سے چسواوین اگر عورت کی دودہ زیادہ ہو دوسرے بچہ کو پلاوین یا محجمہ آبگینہ لگاوین —
۳ شیر دہندہ اگر غیر مادر کے ہو اوسکے لیئی ضرور ہے ہین اول عمر اوسکی پچیس ۲۵ سال سے کم اور پینتیس ۳۵ سال سے زیادہ نہو دوم معتدل جثہ و قوی گردن و فراخ چہاتی و عظیم سینہ و سخت گوشت و نیک اخلاق و معتدل مزاج ہو سیوم غصہ و غم و دیگر امور نفسانیہ سے جلد منفعل ہونیوالی نہو چہارم خوبصورت ہو پنجم پستان اوسکے ڈہیلے اور سختی و نرمی مین معتدل ہو ششم وضع حمل کو ۱۵ مہینے مین اوسکا بے گزند ہوا ہو اور فرزند دایہ کا قوی و صحیح المزاج ہو ہفتم بقول بعضی دودہ فرزند کا واسطہ دختر کے اور دودہ دختر کا واسطہ فرزند کی مناسب ہے ہشتم مدت وضع حمل دایہ ایسا ہونا چاہیئے کہ نہ زیادہ عرصہ گذرا ہو اور نہ تہوڑا

مدت یعنی بعد چالیس روز کے سات مہینے تک **نہم** دودہ دایہ کا معتدل القوام
ومعتدل المقدار وسفید رنگ وشیرین مزہ وپاکیزہ ہو اگر دایہ مین اوصاف نہون تو یہہ
وصف ہونے لابد ہین **علامت** اعتدال قوام دودہ کی یہہ ہے کہ ایکقطرہ دودہ کا ناخن
پر ڈالین اگر روان ہو رقیق ہے اگر روان نہو غلیظ ہے اگر روان ہوکر ٹھہر جاوی معتدل ہے
تین روز پہلے دودہ دینے سے دایہ کو غذا ہاے مناسبہ دیوین اور جبتک
دودہ پلاتے رہے نان گندم وگوشت برہ وبزغالہ اور بقولات سے کاہو اور
میوہ جات سے بادام وفندق کہلادین۔
دایہ ہر صبح پستانون سے قدری دودہ اول نکالی پہر بچہ کے منہہ مین دیوے
جماع وحمل وغصہ وغیرہ ومفسدات شیر سے شیردہندہ احتراز رکہے۔
[illegible] ملطفات سے اصلاح کرین اور بعد تین چار روز کے آب نیمگرم
سے اکثر [illegible] قی کراتے رہین تکرار ریاضت کا اور رونا اور بیداغذیہ مولد خون کا
دودہ کو [illegible] کرتا ہے۔
[illegible] تہوری سے برنج ہمراہ شیر گاو پکے کہلادین **نسخہ** ساق لالہ
[illegible] شکر سفید ملا کر پلاوین **نسخہ** طعام قدری قدری
[illegible] کہلاوین **نسخہ** ملنا پستان کا دودہ کو زیادہ کرتا ہے **نسخہ**
[illegible] کو زیادہ کرتے ہے وہ دودہ کو بہی زیادہ کرتے ہے مثل تودری سفید وتخم
خشخاش [illegible] پستان نزد پستان [illegible] — اگر بسبب گرمی کی دودہ کم ہو تبرید وتلطیف
بارد غذا [illegible] مانند آشجو واسفاناخ کی استعمال کرین — اگر بسبب برودت یا ضعف
قوت جاذبہ پستان کے ہو غذا ودوا لطیف مائل بحرارت دیوین **نسخہ** تخم گزر کہلاوین
نسخہ [illegible] آتشین زیر پستان لگاوین — اگر بسبب غلبہ صفرا کی ہو ملینات

علامت زردی و رقت شیر اگر غلبہ بلغم سے ہو علامت سفیدی و مائیت و ترشی شیر اگر غلبہ سودا سے ہو تو علامت کدورت و غلظت و ترشی شیر علاج تنقیہ خلط غالب کا اور تعدیل مزاج کریں۔

۸ واسطے کم کرنے دودھ کے۔ [illegible] روغن گل طلا کریں [illegible] میں [illegible] سرکہ میں طلا کریں [illegible] پلاویں [illegible] فصد کریں۔

۹ واسطے دفع فساد بوی شیر کے۔ اغذیہ خوشبودار [illegible] ریاضت معتدلہ کریں۔

۱۰ اگر متشابہ الاجزا دودھ نہو۔ اصلاح غذا اور استعمال ہاضم کریں۔ اگر کثیر الرغوہ ہو اور [illegible] کا [illegible] دیویں۔

۱۱ شیر دہندہ کو اگر قے یا اسہال ہوں تو اس [illegible] دودھ بچہ کو نہ دیویں۔

۱۲ اشیای ترش بچہ کو نہ دیویں بحالت ضرورت [illegible] جو معدہ دودھ سے خالی ہو ایسے ہے بچہ کو اشیای [illegible] البرودت نہ دیویں۔

۱۳ علاج بچہ شیرخوارہ میں اکثر رجوع بعلاج شیر دہندہ کے کریں [illegible] بھی ہو تب بھی علاج دایہ کا ہونا چاہیئے۔

۱۴ مدت طبعی دودھ پلانے کی دو سال ہے لازم ہے جب [illegible] دودھ چھڑاویں۔ بہترین موسم دودھ چھڑانے کے [illegible]۔ قریب دودھ چھڑانے کے بچہ کو دودھ اور برنج یا روٹی دودھ اور شہد میں یا [illegible] مونگ [illegible] کھلاویں۔

۱۵ تہذیب اخلاق طفل میں کوشش کریں۔

۱۶ اگر دوند نکلنے کے آثار ہون - دماغ خرگوش و چربی مرغابی ان مسوڑہ پر ملین یا بلدی یعنی جلد دوند نکلنے کی تدبیر **آخر** شہد وکہن ملین **آخر** چیزہای نرم وچرب مثل چربی بط وموم و روغن بادام کے ملین **آخر** شیر شتر ملین -

۱۷ جب دوند نکلنی شروع ہون - سخت چیزین نہ چباوین اور کبہی کبہی نمک وشہد دانتون پر ملین جو قلاع سی محفوظ رہے -

۱۸ جب بچہ گویا ہو - بیخ زبان کو انگلی سے ملین مین فصاحت ہے -

باب دہم علاج صبیان مین ہے

باب دہم علاج صبیان مین

اول - ریح الصبیان - اسکو ام الصبیان بہی کہتی ہین یعنی ریاح غلیظ یا رطوبت غلیظ داخل سر اطفال ہو - مشابہ صرع کے ہوتا ہے - **علامات** دفعۃً بچہ بیہوش ہو کر گر جائے اور ہاتہہ پاؤن کشیدہ ہون آنکہین پہر جائین منہہ مین کف ظاہر ہو - اگر جلد جلد دورہ کرے اور دوسرا دورہ پہلے دورہ سی شدید اور دماغ وسر متشنج ہو مہلک ہے - **علاج** وقت حدوث مرض مین ہاتہہ پاؤن مریض کے پکڑین اور کف دست ساتہہ چیزہای سخت کے ملین اضطراب کرنے نہ دیوین بازو سخت باندہین دراز التشنج کے لئی روغن گل یا مکہن ہمراہ آب نیمگرم کے بدن پر ملین - اگر بسبب غلبہ صفرا کے ہو **علامت** حمی محرقہ وگرمی بدن ودم کشی خشکی وتشنگی **علاج** تبرید وترطیب مین کوشش کرین مثل نیلوفر وبنفشہ وسپستان وآلو بخارا کے - شربت آلو وشربت تمر ہندی اب سرد مین ملا کر انکو پلاوین **آخر** روغن بنفشہ بادام اور شیر دختران ورد شگفتہ ہو ود روغن کدو ناک اور کان مین ڈالین **آخر** بنفشہ وکاہو وکشنیز وخرفہ تارک سر پر ضماد کرین

فصل ریح الصبیان

اخر صندل سفید آب کشنیز مین سر پر طلا کرین اخر تلئین ضمادات و شیافات
سے کرین اخر گل سرخ خیار شنبر آب عنب الثعلب سبز مین شکم پر ضماد کرین
اخر خطمی و خبازی و اصل السوس مقشر نیم کوفتہ و پرسیاوشان و شاہترہ و بیخ کاسنی
و تخم کاسنی و گل سرخ و عناب و پستان و عنب الثعلب و برگ گاؤزبان و برگ سنائی
و مغز فلوس و شیرخشت بطریق معتبر ایا لکر چہانکر پلاوین مگر موسم گرما و زیادتی صفرا مین
بغیر اشد ضرورت کے سنا و مغز فلوس استعمال نکرین صرف تمرہندی پر اکتفا کرین
اخر روغن بادام اور دودہ شیر دہندہ کا تالو پر اور ناک مین چند قطرہ ٹپکا دین اخر
یا رسید و دودہ مین تر کرکے یا تراشہ کدو سر پر رکھین اخر روغن گل یا مکھن پانی سے
دہو کر بدن پر ملین ـ اگر غلبہ بلغم سے ہو **علاج** صعتر و مرزنجوش و چند بید ستر و عود
صلیب و نیرہ جملہ برابر باریک کرکے پلاوین اور شکم پر ملین اخر لعوق صمغ آلو بخارا
و دواء المسک کہلاوین اخر فضلہ موش پانی مین پیسکر روئی اوسمین ملاکر شیاف
بنا کر رکھین ـ علی ہذا القیاس اگر غلبہ سودا ہو منضجات سودا عمل مین لاوین اگر امتلائے
خون ہو حجامت ساق و تعلیل غذا کرین ـ باقی علاج مانند صرع بزرگان کے ہی ـ
اگر حاجت مسہل ہو بادیان بیخ بادیان اصل السوس مقشر بادرنجبویہ اسطوخودوس
مرود پہلی تخم شربل مر صبر سہاگہ بریان برگ سنائی مغز فلوس و فن بید انجیر عطر بادیان
بوزن مناسب ہوین ـ آواز سخت اور دیکہنی اشیای سفید تر اور سودا اور بلندی سے
اور خوف سخت اور غصہ اور غسل آب سرد اور اغذیہ غلیظ و بقولات اور اشیای
شیرین و چرب تیز سے پرہیز رکہین اور بچہ کو دوش سے بلند نہ اوٹہاوین شیر
دہندہ کو کرفس و گوشت بز و گاو و جماع سے بچاوین ـ طبیع اطفال کو ملین رکہین
اور آرامگاہ و پوشاک کو مشک و عود صلیب سے خوشبو اور تر رکہین ـ اگر بچہ

بلا سبب [illegible] [illegible] کو وجہ بعض ولادت سے
پانچ سال تک [illegible] [illegible] ہونے جوشش و قروح سر
داد [illegible] کے یہہ مرض [illegible] ہوتا ہے [illegible] بعض صرع الاطفال بعد بلوغ از خود
زائل ہوتا ہے [illegible] سو [illegible] اگر مادہ قلیل ہے کچہہ وانہیں
صرف ہاتہہ پاؤن [illegible] مضطرب ہوتے ہیں او علاج شیر دہندہ کا کرین

علاج مسافرانہ ریح الصبیان

واسطہ مادہ [illegible] بیدستر مشک خالص خون خرگوش خشک مومیائی اصیل
[illegible] [illegible] کہلاوین **آخر** [illegible] کہ قوم [illegible] پر گرم کرکے پانی کا
[illegible] [illegible] [illegible] میں بیسکر پلاوین **آخر** کرم خوردہ چوب
[illegible] [illegible] کرکے دیوین — [illegible] کہلاتی ہین **آخر** کرم کا
[illegible] [illegible] ہوتا ہے شیر مادر مین حل کرکے پلاوین **آخر** کرم جو دیوان
برخلاف صورت تخم خربوزہ مین ہوتا ہے شیر مادر مین دیوین **آخر** [illegible] چوب
[illegible] [illegible] پلاوین **آخر** [illegible] [illegible] [illegible]
کے پلاوین **آخر** چند قطرات خون [illegible] [illegible] کان و ناک مین [illegible]
سر پر طلا کرین **آخر** خون لال کے جو [illegible] [illegible]
اسکو [illegible] مین چند قطرات کان و ناک مین [illegible] **آخر**
شہد خالص عرق [illegible] چٹاوین **آخر** عود صلیب گردن [illegible]
[illegible] مین [illegible] پلاوین **آخر** کندر [illegible] بیدستر و صبر [illegible]
[illegible] مین بقدر دانہ خشخاش گولیان بنا کر ایک [illegible] نین گولی [illegible]
[illegible] **آخر** [illegible]

علاج ام الصبیان مسافرانہ ریح الصبیان

مر جانے آگ مین گرم کر کے درمیان دو ابرو بچے کے پیشانی مین داغ دیوین یا بعضی
پشک گوسفند سے داغ دیتے ہین **اخسر** غرول باریک کر کے پائے پر ملین
دوم عطسہ متواتر — اگر ورم حار نواحی دماغ سے ہو علامت تپ و سرخی چشم
علاج تبرید دماغ کرین **اخسر** روغن بنفشہ و کدو و آب کشنیز سبز و برگ عنب الثعلب
سبز و کاہو سر پر رکھین **اخسر** مانند علاج سرسام عمل کرین — اگر بسبب پہونچنی سردی کے
دماغ کو ہو **علاج** بادروج یعنی بابری نرم کوٹ کر ناک سے ناک مین پہونکین —
اخسر گردہ گوسفند یا بز کو سیخ پر کباب کرین جو رطوبت اوس سے گرے ناک مین
ڈالین **اخسر** زعفران قدرے قند مین نرم کوٹ کر آگ پر دہو نی دیوین **اخسر**
زبان بچہ کو پارچہ سخت سی پکڑ کے تھوڑا عرصہ کہینچی رکھین جو لعاب کہ منہ سے
خارج ہو **اخسر** بچہ کا پاجامہ سختی سی ملین **اخسر** جنگی دیوین **اخسر**
ایارج فیقرا شیر دہندہ کو دیوین **اخسر** سہاگہ بریان بچہ کو کہلا دیوین **اخسر**
گہونٹی بچہ کو دیوین **اخسر** دماغ پر تکمید کرین **اخسر** دماغ کو گرم رکہین **اخسر**
دار شیشعان یعنی کا پہل باریک کر کے تہیلیمین باندہکر گلے مین لٹکا دین — اگر
بچہ قوی کو گرمی سی ہو **علاج** قشور حب المحلب پانی مین جوش دیکر سر پر ڈالین **اخسر**
مغز تخم خیارین و خرفہ ہر یک ۔ ماشہ مغز بادام شیرین چار ماشہ ہمراہ نبات و
لعاب اسپغول ملین مانند دانہ عدس حبوب بناکر ایک گولی زیر زبان رکہین **اخسر**
رب السوس یک و نیم ماشہ سک الرمل ہفت ماشہ تخم سداب ماشہ ہمراہ شیر دایہ کے
جوشدیکر پلا دین **اخسر** زہر مہرہ دانہ الایچی طباشیر پانی مین پیسکر پلا دیوین —
سیوم عطاش یعنی ورم حار غشائی سر صبیان — چونکہ اس مرض
لازمہ اسکا ہے پس اسکو عطاش کہتی ہین — اور سبب اسکا

کبھی نام بھی ہو — علامت — تالو بیٹھا اور تشنگی مفرط و زردی و ورم چشم و حلق اکثر بدن
زرد ہو — اور کبھی پہلی حدوث مرض کے ثبوت صفراوی سر میں پیدا ہوتا ہے **علاج**
شیر دایہ نہ ملیں اور تالو پر لیپ کریں اخر تار چہ شیر مذکور میں تر کر کے تالو پر رکھیں
اخر آب برگ عنب الثعلب سبز و آب برگ خرفہ سبز و آب برگ کشنیز سبز میں قدرے
نشاستہ و روغن گل و سرکہ ملا کر پارچہ اوسمین تر کر کے تالو پر رکھیں اخر برگ حنا تازہ کوٹ کر
تالو پر رکھیں اخر پوست کدو و خیار و روغن گل و خرفہ قدرے سرکہ و زردی بیضہ
و آب عنب الثعلب سبز و آب کشنیز سبز میں ملا کر طلا کریں — طلیہ وغیرہ جو تالو پر لگا
بجاوین جب گرم اور خشک ہو تبدیل کریں — شیرہ تخم خرفہ و طباشیر و زہر مہرہ دیوین
از ازالۂ تشنگی کے ایسی خانہ لکھیری (یہ وہ جانور ہے جو دیوار و زمین میں مٹی کا گھر بناتا ہے) لیکر
آگ میں گرم کر کے پانی میں بجھا دین اور وہ پانی پلا دین اخر ریشہ پوست نارجیل
جلا کر پانی میں سرد کر کے پلا دین — اگر موسم سرد یا گرمی کم یا تر لہ و ریزش ہو برگ
عنب الثعلب سبز و یا خشک کوٹ کر روغن گل سے چرب کر کے پنبہ اوسمین ملا کر
تالو پر رکھیں اخر زردی بیضہ یا سفیدی بیضہ روغن گل میں ملا کر پنبہ اوسمین تر کر کے
تالو پر رکھیں — اگر اسہال لاحق ہو کر آنکھوں میں حلقہ پڑ جاوین علامت بد ہے
علاج طلبیہ — پانی میں جوش دین جب نیم گرم ہو جاوے پیسکر تالو پر ضماد کر کے کپڑا اوپر
باندھیں اور کبھی یہ عمل کرین اخر آملہ پانی میں پیسکر یا آب کدو و روغن گل و زردی
تخم مرغ میں پیسکر تالو پر رکھیں اخر مروارید و طباشیر و زہر مہرہ و زرنباد و حجر
یشب و زہر بیت دو سرخ اول کھلا کر شیرہ تخم خرفہ سیاہ بودادہ و شیرہ تخم کاہو مقشر
شربت انار ترش و عرق کیوڑہ و گلاب میں تیار کر کے شربت انار شیرین و
بہی شیرین و انار ترش بودادہ ملا کر پلادین اخر نشاستہ سرکہ میں تالو پر طلا

کیرین آخر مثلا کف دست وبازو پر باندھین آخر ناخن بہاوین آب سرد میں رکھین
آخر شیر دہندہ کو بہت جو و دیگر اشیای قابضہ دیوین آخر تقلیل غذا کرین
بصورت قبض آب کدو اور خشخاش دیوین آخر آب عناب و شیر خشت پلاوین۔
چہارم ۔ اجتماع الماء فی الراس ۔ یہہ دو قسم ہوتا ہے ۔ اوّل یہہ کہ
رطوبت مائیہ سر اطفال مین بسبب رطوبت دماغ و داخل قحف یا لای غشای صلب
جو متصل قحف کے ہی جمع ہو ۔ علامت ۔ آنکھین کشادہ و ہمیشہ تر و اشک جاری
رہین اور سر مین ثقل و گرانی ہو ۔ لاعلاج ہے ۔ دوم رطوبت خارج قحف
جلد سر بسبب غلطی دایہ کے جو بعد تولید بچہ کا شدت و بایا اسی سبب سے منہ
رگون کا کشادہ ہوکر خون خارج ہو اور وہ نیچے جلد کے جمع ہو ۔ علامت جلد
سر کے بلند معلوم ہو مگر رنگ جلد کا بحالت اصلی کے ہو اور انگلی سے نیچی ہو جاوے
اور بچہ بہت روئی اور بیدار رہے علاج خیال کرین جو رطوبت کثیر یا قلیل
اور بہر دو صورت یا محصور بمکان ہے یا غیر محصور یعنی بانیسی اندرون قحف کے
ہو جاوی پس اگر کثیر المقدار و غیر محصور ہے علاج اسکا خطرناک ہے ۔ اگر قلیل المقدار
محصور ہے علاج اول سر کے بال مونڈ کر بابونہ اکلیل الملک شبت سبوس گندم
پانی مین ابالکر چھانکر نطول کرین بعد ازان ادویہ گرم خشک مثل صعتر زعفران وغیرہ کا
ضماد کرین اور قطعہ سترہ او سر پر باندھین آخر لیمو دو پارہ کرکے گرم کرین اور تھوڑا
نمک و سیندھا ڈالکر ملکو کرین تحلیل رطوبت کرتا ہے کبھی یہہ مرض بدون علاج کی از
خود دور ہو جاتا ہے ۔ اگر تدابیر مذکور فائدہ نہ دے چاک کرکے رطوبت نکالکر پٹی اور
باندھکر تین روز تک شراب یا روغن کنجد او سر پر ٹپکا دینا اور پھر پٹی مذکورہ کھولین اگر
زخم بھر گیا ہو بہتر ورنہ مرہم صندل لگاوین ۔ اگر رنگ جلد کا متغیر اور سخت ہو اور

ابتدا میں آنکھ بھی نہیں اجتماع رطوبت ہے کے ورم علامت ہو درد و سوزش ہو اور دبی نہ ہے پلی
ہوتی ہیں علاج سرطان کا سا کریں اور تدابیر باب سرطان مذکور ہیں

تشنج یہ چند قسم ہے **اول** بسبب ... پیدا ہو **علاج** نخل
... آلو بخارا عناب پستان تخم کاسنی تخم خیارین ... بادیان اور
... میں ... شیرہ مغز بادام گلقند ترنجبین ... نمک ... سے
... کرکے حقنہ کریں اور روغن بنفشہ یا بادام روغن کدو ... ملیں
دوم بوقت قبض طبیعت بسبب احتباس فضلات کے ... خشک ہو
... کہ فضلات کے سبب تشنج حادث ہو **علامت** تشنج ... ہو
علاج مغز خیار شنبر ... روغن گل ... صابون ... شیاف ...
اخیر سنبل و حقنہ مناسب کریں **اخیر** گل سرخ مغز خیار شنبر ترنجبین عناب الثعلب
... شیرہ ... کریں — **سوم** بسبب خشکی دماغ و کثرت بیداری و گریہ
ہو **علامت** وجود یا تقدم سبب **علاج** ... سبب ... **اخیر** شیرہ ...
و کاہو میں ... **اخیر** روغنہای مناسب ملیں **اخیر** تمام روغن کدو میں کف
پر ملیں خواب آور ... **اخیر** قدری افیون کھلاویں **اخیر** تخم کدو ... شیرہ
و گل بنفشہ و گل ... پلاویں **اخیر** نوری ... دیویں ... عورت ... دودھ ... سے
سلاوی **چہارم** کثرت رطوبت سے ہو علامت ... ذکام و امتلا و بطو ...
... و دیگر علامات ... **علاج** تنقیہ بلغم با ایارج ... مسہلات ... کریں **اخیر**
... گرم ملیں **اخیر** تقلیل شیر کریں **اخیر** شیر ... کو غذا ... و ...
کھلاویں **اخیر** ... معجونات مثل ... سعوط ... و ...
... دیویں **پنجم** بسبب درد و ورم کے ہو جو بوقت ... دانتوں کے

ہووی بباعث قربت دماغ علاج تا ثند تسہیل نبات اسنان و ورم لثہ کی ہے

ششم بسبب ضعف و فساد ہضم کے ہو یہہ اکثر فربہ بچون کو ہوتا ہی علاج اصلاح غذای شیر دہندہ اور بچہ کے کرین نسخہ جوارشہای مقوی ہضم کہلاوین نسخہ روغن سوسن و روغن حنا ملین۔

ششم۔ کزاز۔ یہہ دو قسم ہے۔ اولا سوء تدبیر غنداق و قماط یا اپنی ورش وغیرہ سے خلع عضو ہو۔ ہندی مین ہیلے جانا اسکا نام ہے علامت ایک طور پراور ایک کی گود مین آرام نکرے اور گریہ کرتا ہے علاج روغن گنجد نیمگرم سے بملایمت مالش کرکے عضو کو اوسکی جگہہ پر لاوین اوسیوقت بچہ آرام کرتا ہی نسخہ سخت حرکت سے بچہ کو بچاوین تاکہ پہر وہ عضو اپنی جگہہ سے جاتا نرہے۔

ثانیا بسبب رطوبت فضلات یا سدہ دماغ کے ہو آخر و تدچوڑ جائین اسکو کزاز صاعقہ کہتی ہین ہندی مین جم و جہو کا نام ہے علامت بچہ گریہ کرے پستان منہہ مین کم لیوی قوت چوسنے کی نرہے اور حرکت کلہ کے باطل ہو وند یا بہم پیوستہ یہہ اکثر بسبب برودت و سوء تدبیر شیر دہندہ کے ہوتا ہے مثلا بسبب استعمال اشیای کثیر الرطوبت و کثیر البرودت یا بسبب بے احتیاطی امور بچہ کے اسیواسطے اہل ہند چالیس روز تک احتیاط کلی رکہتی ہین لاعلاج ہے مگر ابتدا مین بدن کو روغن بنفشہ سے چرب کرین نسخہ روغن نیمگرم طاس مین ڈالکر بچہ کو اوسمین بٹہاوین اور محافظت ہوا سے دسی کرین نسخہ مثل فالج و لقوہ کے علاج کرین نسخہ منقول ایک طبیب فوراً یہہ مسہل دیوین بادیان اسطوخودوس بادرنجبویہ مرور پیپلا تخم شبت ل سہاگہ بریان حلتیت بریان دار فلفل زنجبیل انجیر زرد ایلوہ پودینہ زیرہ سیاہ مغز فلوس

[illegible]

ست لعاب ... سفید تار یا ... دیوین اخضر بسیل وار شیشعان یعنی ...
شیشہ یا ... کے ... یا ... باندہکر لٹکا دین والین اخضر برگ پان ... یا جوز بوا ...
... اخضر ہوا گہی کے گرم کہین اخضر
... سیاہ ... گندم کی دہونی دیوین اخضر آنابیل یا شب
یا شب ... یا الین ... بچہ پر لٹکا دین اخضر دو تین قطرہ خون اخیل یعنی ال سر ... ملین
اور ناک مین ٹپکا دین اخضر کبوتر ... ذبح کرکے گوشت گرم اوسکے ٹکوے کرین
اخضر خون شب پرہ ناک مین ٹپکا وین او رسر پر ملین اخضر موم وکبریت ونفط و
قرنفل وخون شب پرہ خشک وخون بوزنہ خشک وخون اخیل خشک وخون خرگوش
خشک یعنی گہونس ... فتیلہ بناکر مقابل تہنون کی جلا دین۔

ہفتم۔ کثرت البکاء وسہر۔ یعنی زیادہ رونا اور جاگنا۔ یہہ چار سبب سے
ہوتا ہے اولاً بسبب درد گوش یا درد امعا یا درد چشم یا درد سر یا درد دیگر اعضا کے
ہو علاج تخفیف درد کا علاج کرین ثانیاً بسبب فساد شیر کے معدہ مین ہو علامت
شیر قے مین خارج ہو علاج ادویہ مناسبہ سے اصلاح شیر کرین ثالثاً
بسبب افیت تقمیل کے ہو علاج تدہین وملنا بدن کا آہستگی سے رابعاً
مقدمہ صرع کا ہو علاج اسکا صدر مین تحریر ہوا۔ جمیع اقسام مین بچہ کو ساتھہ
... اور لوری کے سلا وین یا کہیل مین مشغول کرین مگر مقدمہ صرع مین گہوارہ مضر ہے

ہشتم فزع در نوم۔ یعنی بچہ خواب مین بسبب دیکہنی خوابہای ہولناک کے
ڈر کر روتی۔ یہہ پنچ سبب سے ہوتا ہی اول بیداری مین چیزہای ہولناک
سی خوف کہایا ہو وہی خواب مین دکہائی دی اور موجب خوف ہو علاج
دا ... وسیلہ سی خوف دور کری اور جس سے خوف کہایا ہوا سے ... کرین اور

کثرت [illegible]

فزع در [illegible]

اور کہانا بھی نہ کہلاوین نسخہ ابتدا مین چاول پاکیزہ پانی مین دہوکر غسالہ اوسکا پلاوین
نسخہ نبات کستہ استخوان سرطان ہمراہ نبات کے کہلاوین نسخہ خرفہ بریان یا کشنیز خشک
بریان ہمراہ نبات کے دیوین دوم بسبب امتلای معدہ و فساد غذا کے بخارات
صعود کرین اور خواب مین خیالات ہولناک مشاہدہ ہون اور بچہ ڈرے علامت
نفخ معدہ و براز مختلف القوام و بدبو اور متلی و قے سیوم معدہ متاذی ہو اور
دماغ بباعث مشارکت و محاذات کی اذیت پاوی علاج ہر دو تقلیل غذا کرین
نسخہ گہوارہ مین ہلاکر سولاوین نسخہ شہد خالص چٹاوین نسخہ مصطگی و طباشیر
و دانہ ہیل قدری شہد مین چٹاوین نسخہ تدابیر جودت ہضم و تقویت معدہ
کرین چہارم مقدمہ حصبہ و جدری کا ہو علاج تحریر ہوگا پنجم مادہ کابوس سے
حالت مثل اوسکے خواب مین حادث ہو علاج مثل ریح الصبیان ہے نسخہ
جندبیدستر یا مشک سونگہاوین۔

نہم ـ فزع در یقظہ ـ یعنی بیداری مین ڈرنا ـ سبب اسکا ضعف قوت
ادراک ہے علاج مثل فزع در نوم کرین ـ

دہم ـ زکام و نزلہ ـ اکثر بسبب رطوبت و ضعف دماغ کے ہوتا ہے علاج
آب سرد اور میوجات تر مانند انگور و آلو بخارا و خیارین و تربوز و امرود وغیرہ اور خصوصاً
مثل نارنگی و لیمو و انار ترش اور لبنیات سے شیر دہندہ نہ کہاوی نسخہ یا آب کشنیز
اور ریشمی یا تند شال و فلالین کی بچہ کے سر کو ڈہکین نسخہ چاء سادہ یعنی جو
پانی مین بدون ملانے دودہ کے بنائی ہو بچہ اور شیر دہندہ کو پلاوین ـ

یازدہم ـ وجع الاذن ـ یعنی درد گوش علامت رونا بے سبب
اگر بچہ ہوشمند ہوگا ہاتہ کان کے طرف لاوی اور کانپتا رہے کبہی سے خاموش

اور ... کوشش ... کان کو ملا دین اذیت ہوتی ہے اور سر اور دانت ... سے علاج ...
... جب تک ... جل ... [illegible]
... [illegible] ... ٹپکاوین خبر ... [illegible]
... دوسرا نسخہ ... کان مین ڈالین ... [illegible]
... روغن ... ذرا شہد ... کان مین ڈالین ... یا آب برگ
... [illegible] ... ٹپکاوین خبر نمک لاہوری ...
... کان مین ڈالین خبر ... برگ ... [illegible]
... کان مین ڈالین خبر ... برگ عنب الثعلب ... برگ نیم یا برگ ... پانی مین ...
کان مین ... ٹپکاوین خبر افیون شراب ... مین حل کرکے بحالت
... کان مین ڈالین - اگر درد گوش حرارت سے ہو علامت تپ
... علاج ... کوشش مین ... خبر ...
... کان مین ڈالین - اگر سبب ... کان مین ...
... وقت ... پانی ... سے ... علاج ...
... کان کے ... طرف ... لپیٹ کر ...
... دوسرے طرف ... کان مین ... سبب گرمی ...
شعاع کے پانی ... ہو جاوے خبر ...
... کان مین ڈال کر ... ٹپکانا ... نہایت ... کان مین ممنوع ہے - اگر درد
... ہوا اور بعد ... ہونے کے پیپ ... علامت تب انگلی کان مین
... یا کوئی چیز ... کان مین ڈالین ... علاج ... شہد ...
... کان مین ڈالین جب ... صاف ہو ... ڈالکر ... کرین

کریں اخیر انفجار کے لیے اضمدہ و بخورات مقتضیہ تریں یا تدبیر نیم و برگ بکائن
و برگ آس ... و برگ توت شہتوت ... ہمراہ قدرے پیاز و نمک کے ...
... پکا کر ... باندھیں ۔

دوازدہم ۔ حکۂ اذن یعنی خارش گوش ۔ اگر ... ہو ...
علاج تحریر ہوا ۔ اگر ... علاج ...
کانوں میں ڈالیں اخیر تنقیہ ... آلودہ کرکے رکھیں ۔ اگر بسبب بخارات صفراوی
کی ہو علامت خشکی و سوزش اندرون گوش ہو ... علاج
روغن گل و سرکہ میں ممزوج کرکے کانوں میں ڈالیں اخیر آب برگ ترب ...
نیم گرم ڈالیں اخیر رسوت و صندل ... آب کشنیز سبز یا آب عنب الثعلب
میں پیس کر باہر کان کے ضماد کریں ۔

سیزدہم ۔ ورم بن گوش یعنی کنپیڑ ۔ علاج رسوت و ...
و مغز خیار شنبر آب عنب الثعلب سبز یا کشنیز سبز میں ضماد کریں ۔ اگر غلبہ خون سے
ہو علامت سرخی و سوزش موضع علاج جونک قفا پر لگاویں اخیر ...
جو آب کشنیز میں ضماد کریں ۔

چہاردہم ۔ سیلان رطوبت از گوش یعنی کان ڈلنا ۔ ...
صدید زرد رنگ ہے ۔ اگر ... سے ہو علامت پہلی ... اور ...
ابتدا میں علاج چند روز معالجہ نکریں جو ... خارج ہو بعدہ شہد ...
میں ملا کر کانوں میں ٹپکاویں اور قدرے ... شہد میں ملا کر کانوں میں رکھیں
اخیر ... شہد اور ... روغن گل میں حل کرکے نیم گرم
کانوں میں ڈالیں ... علاج ... آب برگ نیم میں

نیم گرم چند روز تک کانمین ڈالین ۔ یا برگ نیم پانے مین جوش دیکر پچکاری دین (جو خاص
واسطے کان کے ہوتی ہے) چند روز متواتر کانمین ڈالین تاکہ پیپ خارج ہوکر زخم صاف
ہوجاوے پھر گلنگن و مول و پیلا وسوم کاغذ سوختہ و پھٹکری مقدار برابر مجموع نفوخ کرین ۔ اور
قدری مہاور شیر مادر مین حل کرکے کانمین ٹپکاوین ۔ **خـتم** قدری زبد البحر و سنگ پاچورہ
سوختہ ہمراہ عرق لیمو مین ملا کر کانمین ڈالین ۔ اگر بسبب زیادتی رطوبت دماغی کے ہو
علامت وجود آثار نزلہ و زکام **علاج** مشروبات منضجہ بلغم و تسخین سر و تنقیہ سے
اسہال و حقنہ کے تقلیل رطوبت کرین ۔ **خـتم** پارہ صوف شہد و شراب و پھٹکری
و زعفران قدرے نطرون مین آلودہ کرکے کانمین رکھین ۔ **خـتم** زعفران و عفص و شراب
مینا پیکر کانمین ڈالین اگر رطوبت قلیل جاری ہو علاج نکرین ۔

باب ترددہم ۔ رمد ۔ علاج تین روز علاج نکرین کس لیے کہ رمد باعث امن ہوتا ہے
دیگر امراض چشم سے اور صاف کرتا ہے آنکھ کو جیسے کہ دیدہ والا ہے ۔ اگر مادہ قلیل
ہو خود بخود صحت ہوجاتی ہے والا معالجہ کرین ۔ غذای مرضعہ کلہ پاچہ کرین ۔ سو جب
تقویت و تبرید ہی ۔ غذای چرب و خوشبو سے پرہیز کرین ۔ اگر چشم باہم چپان
ہوون پنبہ شیر مرضعہ مین ترکرکے آنکھہ پر تالو پر رکھین اور قدرے شیر کانمین ڈالین جو
نرمی تسکین ہو اور تیزی صفرا کے دب جاوے ۔ **خـتم** چوب جھاؤ پانی مین جوش دیکر
پر چڑھاوین اور اوسکے دود پر پنبہ گرم کرکے پشت چشم پر رکھین ۔ **خـتم** اول گرم
سی ہوہوین ۔ **خـتم** شیر دختر واسطے فرزند کے اور شیر پسر واسطے دختر کے
مفید ہے ۔ **خـتم** مغز اخروٹ نہایت باریک ساکر کے آب ہن مین کف دست
ایسا ملین جو مانند مرہم کے ہو پنبہ پر رکھین اور قدرے شیر ان اوسپر ڈالکر پشت چشم
پر رکھین ۔ **خـتم** رسوت دیدہ مین ضماد کرین ۔ **خـتم** چاکسو کو سرگین خرو پانے مین

جوشدین جو نرم ہو یا چاکسو پانیمین ترکرکے سرگین خر مین دفن کرے جو حرارت جسم سے گداختہ ہو پس نکالکر مقشر کرکے مغز اوسکا لیوین اور بنصف وزن اوسکے نبات و مامیران پیسکر اوسمین ملا کر آنکھہ مین اسطرح ڈالین کہ پلک اوٹھا کر اندرون آنکھہ کے ڈالین اور آنکھہ کو پٹی سے باندہین اگر انزروت بشیر خر پرورده کو بجای مامیران کے داخل کرین بہتر ہے اور بعد ڈالنی اس دوا کے پنبہ روغن مین آلوده کرکے سفال پر آب گرم رکہین بعده آنکھہ پر رکہکر اوپر اوسکے قرص گل پاک ترکرکہکر پٹی سے باندہین اور آب گرم سے دہو دیوین بعده آنکھہ پر برگ مورد بہیگا ہوا باندہین

آنکھہ پر ... عمل اور ابن خالد وغیره

لو دیتے ہاتی و قرنفل و شب یمانی بریان و افیون کاسہ مین ہمراه چھالیہ یا فلوس ... کے پیسکر ساتہہ روغن کنجد کے آنکھہ مین ڈالین بعضی برگ تمر ہندی بھی ڈالتی ہین اور شب یمانی کو پنبہ مین لپیٹ کر روغنگاؤ مین ڈالکر چراغ روشن کرکے دود اوسکا سلائی جست سے آنکھہ مین ڈالین ایسی ہے دوا افیون بناکر استعمال کرین ۔ اگر بسبب بند رہنی آنکھہ کے سبل و غشاوه حادث ہو شوره یا پھٹکری یا چوب آبنوس سے سلائی بناکر آنکھہ مین پھراوین ۔

شانزدہم ۔ التصاق الجفن یعنی ہر دو پلک باہم چسپان ہون علاج ہر صبح آنکھہ کو بول گرم صاحب مرض سے دہو کر سرمہ اصفہانی آنکھہ مین لگاوین اور گرم آب سے دہوکر آب حشیشیه ... زیره و چوب کر استعمال کرین اکثر اشیای بارده رطبه شیر و ہندہ نہ کہاوی اگر درد سر اس حالت مین لاحق ہو تنقیہ دماغ و دفع صعود بخارات ضمادات و اطلیہ وغیره سی علاج کرین ۔

ہفتدہم ۔ تناثر الشفار یعنی پلک ریختہ ہون ۔ اگر بسبب خشکی کی ہو جو ماده سوداوی یا تنزل حار قوام ماده شعر کو خشک کرکے قبول کرنے صورت شعری سے باز رکہی علامت خشکی چشم اور نہونا چرک کا یا خشکی چرک اور کم ہونا خواب کا

التصاق الجفن

تناثر الشفار

[illegible] علاج شیر مرضعه یا دودھ بکثرت [illegible] بین
ڈالیں آب [illegible] اور [illegible] اور [illegible] گرم کرین اور پلا دین یا
[illegible] جیسا [illegible] پلا کر [illegible] الین تنقیہ مادہ بالیس کرین اور
مرکبات [illegible] پلاوین [illegible] اگر رطوبت کی کثرت ہو جو مادہ شدہ کو تا [illegible] قوم
[illegible] منعدم کرے [illegible] ہے [illegible] سے منع کرے علامت کثرت خواب
[illegible] کثرت [illegible] علاج تنقیہ دماغ سے رطوبت کم کرین
[illegible] اور [illegible] ہمراہ نبات کے پلا دین اور آب سرد سے
اجتناب رکھیں

غموض [illegible] بچہ آنکھوں کو بند کرکے کھول نہ سکے - اگر [illegible] سر مین
رطوبت غلیظہ سے ہو علاج تسخین و تقلیل رطوبت تنقیہ دماغ کرین اور
[illegible] شیر [illegible] حقنہ کرین اور [illegible] طفل کو بارچہ سخت سے ملین -
[illegible] پلا دین [illegible] سے نہلا دین اور برگ [illegible] خودرت
[illegible]) پانی مین جوش [illegible] مین بچہ کو غسل دیوین اور ناک کو مقراض
سے کاٹ دین اور [illegible] جو پاس [illegible]) پلا دین اور فلفل دار فلفل
زنجبیل [illegible] گوشت [illegible] بہت و ملس یا [illegible] کرکے پانی مین
[illegible] چھوٹی [illegible] گولی [illegible] بچہ کو کھلا دین اسکے دینے سے
بچہ [illegible] ہوتی ہے اور [illegible] یا [illegible]
[illegible] بچہ کو [illegible] اور [illegible] کف ست
[illegible] - اگر [illegible] کی [illegible] مرض پیدا ہوا [illegible] سبب رجوع مادہ

عشا وہ و سنبل کا کریں۔

نوزدہم۔ انتفاخ العین۔ یعنی ورم چشم۔ سبب اسکا ریح یا فضلہ بلغمیہ رقیقہ یا پیت ہی۔ اگر ورم گرانی یا بعد رمد و چیچک کے ہوتی ہے۔ اگر ریح سے ہے علامت دفعۃً حادث ہوا اور جانب گوشہ چشم رجوع کریں گویا مکھی سے کاٹا ہے اور خارش ہو۔ اگر پانی ہے علامت تیرگی رنگ اور برہانی سے نشان ہو علاج ہر دو شبت رسوت شیر عورت مین طلا کریں آخر طبیخ بابونہ و بادروج میں ہوویں آخر اسفنج کو سرکہ و آب گرم مین تر کرکے ٹکور کریں آخر برگ بید انجیر و پیاز و ضماد کریں آخر شیاف امیثا شیاف صبر زرد و زعفران و فوفل آب عنب الثعلب مین مین ضماد کریں۔ اگر نیش مگس یا مورچہ سی ہو علاج زہرمہرہ خطائی و قدری فلفل سیاہ طلا کریں آخر آہن پیکر طلا کریں۔ اگر سبب سہر یا ورم جگر کے تہیج کا ہو علاج ازالہ سبب کریں۔

بستم۔ سلاق یعنی گندہ ہونا پلک کا۔ اگر کثرت گریہ سی ہو علاج بچہ کو کہیں لگاوین۔ اگر سبب بادی کا لد بورقیہ کے ہو علامت آنکھ سرخ اور بال پلک کے ریختہ ہو۔ اگر بعد رمد کے ہوتا ہی علاج عدس گلاب مین ابالکر ضماد کریں آخر شبت برگ خرفہ و برگ کاسنی و روغن گل سفیدہ بیضہ ضماد کریں آخر سماق و عدس برگ انار و گلسرخ آب کاسنی مین طلا کریں۔

بست و یکم۔ قذی یعنی کوئی چیز آنکھو مین پڑے علاج مثل نگارن کرین

بست و دوم۔ شعیرہ یعنی گہانجنی علاج ریوند چینی و مگس بے سر پاشیین طلا کریں آخر خطمی رسوت و سرگین مگس پانی مین طلا کریں آخر خرمہرہ کہلا پانی مین لگاوین آخر کشمش چبا کر کے بہ گرم رکہین آخر آرد جو و گندہ بیدستر

... کریں آخر ... پیمین سلائی کریں آخر مثل بزرگان علاج کریں -

بست وسیوم - حول - یعنی کج ہونا پتلی چشم کا - سبب اسکا استرخای عصبہ ... یا سبب ... یا سبب پہونچنی ہوا شدید کے یا بسبب سو الای ... [illegible] علاج ابتدا میں علاج پذیر ہے یعنی کوئی شی ... جانب مخالف ... میں چراغ اوس طرف روشن کریں تا کہ بجانب مخالف ... ورحدقہ راست ہو - صرعی میں علاج صرع کا کریں

بست وچہارم - زرقہ یعنی کرنجی چشم - اکثر رطوبت سے ہوتا ہی علاج ایام حمل میں چند مرتبہ اشک زعفران پیسکر ہمراہ سلائی جست کے یا موم سفید سے شیاف مثل سلائی کے بنا کر آنکھ میں ڈالیں آخر صدف سوختہ روغن زیت میں تالو پر ملیں آخر سلائی کو حنظل میں چبا کر اور سلائی کو ریزہ ہای سخت سے پاک کرکے آنکھ میں پہراویں -

بست وپنجم - شرناق - علاج تنقیہ بلغم کریں آخر قرص بنفشہ کہلاویں آخر اصلاح غذا کریں اگر بچہ شیرخوار ہے اصلاح شیر کریں اور شیردہندہ کو غذا لطیف مثل شوربا ہای طیور کے دیویں آخر باسلیقون کبیر بعد تنقیہ کے آنکھوں میں ڈالیں آخر حشائش مع ملح سے دلور کریں - اگر ازالہ مرض نہو باحتیاط تمام دستکار سے پیوٹوں عرض میں چیرہ دلاویں اور پارچہ نرم سے شحمہ بالتمام خارج کریں اگر کسیقدر باقی رہے تو ... پیسکر اوس پر ڈالیں اور پارچہ سرکہ میں ترکر کے اوپر باندھیں اور دوسرے روز کہولیں اور بعد التیام کے زعفران و مرسوت و شیاف ابیضا طلا کریں قرص بنفشہ خشونت سینہ وسرفہ وذات الجنب وسل کے لئے مفید اور مسہل صفرا ہے صفت بنفشہ ۳۵ ماشہ ... ساڑھے چار ماشہ رب السوس کتیرا نشاستہ

ہر یک ساڑہی تین ماشہ کوٹ کر چہانکر لعاب اسپغول مین اقراص بناوین - اگر تربد
سفید ساڑہے سترہ ماشہ مصطگی سوا پنچماشہ اضافہ کرین واسطہ قولنج کے مفید ہے -
خوراک ساڑہے چار ماشہ -

بست و ششم - احتباس الشئ فی مجری الانف - یعنی بند
ہونا کسی چیز کا مجرے ناک مین - **علاج** اول موم و روغن سے ناک اندر یا باہر
سے چرب کرین اور چند قطرہ ناک مین ڈالکر دو عطسہ آور سونگہاوین - اگر وہ چیز
نمایان ہو موچنہ یا نہیر سے نکالین - یا رشتہ ریشمی و تاسے نکالین -

بست و ہفتم - سدہ انف - یعنی بسبب رطوبت غلیظہ کے ناک
بند ہو یہانتک کہ دم لینا رکے - **علاج** اصلاح سر کرین اخر اگر دم سر پر ڈالین اور
سر کو ہاتہہ ملایم یا خرقہ خشن سے ملین -

بست و ہشتم - قلاع - اکلہ - یعنی بثور جو روغشاے دہن و زبان مین پیدا
ہو - اگر متعفن کفیمین قلاع کہتی ہین والا اکلہ - اسلم ترین قروح سفید و بدترین سیاہ
اور درمیان اوسط سرخ و زرد ہے - بثور سفید و کم لذع و قلیل مادہ بلغم اور زرد و قلیل مادہ
صفرا اور سرخ و قلیل غلبہ صفرا کا خون یا حدت خون اور سیاہ علامت احتراق سودا
ہی - **علاج** بحسب غلبہ خلط تنقیہ کرین اخر برگ گاوزبان سوختہ و گل بنفشہ پیسکر
منہہ مین ڈالین اخر گل سرخ باریک کرکے چہڑکین اخر اصل السوس منہہ مین ڈالین
اخر مرکی و مازو و قشور کندر جملہ برابر باریک کرکے شہد مین ملاکر ملین اخر سنوف منہہ
مین ڈالین اخر قشور الرمان زرد چوب ماق گلنار ہر یک شش ماشہ پہٹکری دو ماشہ
باریک کرکے منہہ مین چہڑکین اخر تخم ریحان بہیگو کر یا گلاب مین ملاکر چہڑکین اخر
شراب یا ماء العسل سے منہہ کو دہوئین واسطہ تنقیہ قروح بلغمی کے مفید اخر روغن گل

انزروت ومدی وکافور وطباشیر وکشنیز سوختہ ملین واسطے بلغمی کے درصورت سیلان وشلی وترقید کے زبا اچ کے ہون بسبب حرارت داخلی وخارجی کے ہونا فع ہے **آخر** سپیدہ گندم محلول و روغن گل ملین **آخر** قیروطی موم وشیر وروغن گل مفیدہ قلعی یا سفیدہ بیضہ مرغ میں ملین ہے سیاہ کی لیئے سفید **آخر** گلسرخ گل بنفشہ پیسکر چھڑکین او بلغمی مین قدرے زعفران زیادہ کرین **آخر** مازو زبان سوختہ آرد جو بریان باریک کر کے چھڑکین **آخر** طباشیر ودانہ ہیل اتہہ سفیدہ ریشے کے چھڑکین ہر قسم کی لیئے مفید ہے اگر کہا ہو غذا کیوڑہ اضافہ کرین سریع التاثیر ہے **آخر** دخان سقف گلخن افروزاو دوزیریا بہ اورنگ کی ہیول ملین **آخر** مغز فلوس وروغن گل وعصارہ مکوسبز زبان پر ملین **آخر** شیر ام ملین بواسطہ تھوڑا تھوڑا قلیل کے نافع **آخر** خشخاش یا شیرہ کا ملین **آخر** صندل چینی سوختہ شورہ قلمی پہٹکری دانہ الایچی وبیخ مرجان سوختہ مفید ہے ازالہ نجاست اور چوک لگادین۔

بیست ونہم لذع لثہ یعنی بچہ لثہ کو چابے اور جو کچھ ہاتھ مین آئے ملے بیشتر وقت نکلنے دندان کے بسبب توجہ مادہ خارش کے واسطے شگافتہ ہونے لثہ اور تیغی دندان کے یا بسبب گرنے بلغم مالح یا تیز کے جو دماغ سی او طرف گری پیدا ہوتی ہے **علاج** انگشت یا پارچہ سخت سی ملنا جوا ذیت خارش کے دور ہو **آخر** موم وروغن سی تکمیل کرین **آخر** مسکہ وشحوم ومغز حیوانات مثل مغز ساق گاو ومغز سر خرگوش کے ملین **آخر** شیر سگ ملین **آخر** عصارہ برگ عنب الثعلب ملین۔ جب دندان نکلنا شروع کرین سر اور گردن وبنا گوش وفک اعلی وفک اسفل کو روغنہای مناسبہ چرب کرین تا کہ دندان بآسانی ظاہر ہوں اور قدر قلیل کا بین والین اور بچہ کو چابنے سے باز رکھیں۔

لذع لثہ

سی ام — ورم لثہ — یہہ بوقت نکلنے دندان کے ہوتا ہی علاج شیرہ و شہد و روغن بابونہ و قدرے نمک ملین —

سی یکم — استرخای لہات یعنی سست اور گرنا ملازہ یعنی کوے کا — علاج ملازہ کو ساتھ جاگستر دیگدان نرم سودہ نیمگرم یا ساتھ شب یمانی و عفص و شہد کے انگشت سے بملایمت اسطرح اوٹھاوین جو ناخن حلق مین نہ لگے اور عفص تازہ سرکہ مین پیسکر سر پر ملین اور عاقرقرحا سرکہ مین یا گل لہانی سرکہ مین ملاکر تالو پر لگاوین — بعد اوٹھانے لہات کے ادویہ قابضہ سے اور گردن پر رکھین سشخیا باریک گردن پر کھینچنے سے ملازہ اوٹھتا ہے — رومال سے بھی بطریق معروف اوٹھاتے ہیں

سی دوم — سرفہ — اگر بسبب نزلہ رطوبت کی دماغ سے حلق و سینہ پر علاج بادیان زوفای خشک انجیر زرد اصل السوس مقشر عناب سپستان گل بنفشہ گاوزبان پانیمین ابالکر شہد یا نبات سفید ملاکر تین روز تک پلاوین بعد ازان اگر حاجت ہو مغز فلوس تر نجبین و روغن بادام اضافہ کرکے دیوین اور قدرے پشم نرم گوسفند کے دو دو چوب گز پر رکھین جب گرم ہو جاتا سینہ پر باندہین اور رات دن مین دو مرتبہ دہونی چوب گز کی دیوین اور سرد ہوا و آب سرد سے پرہیز رکہین اور قدرے ایارج شہد مین ملاکر انگلی سے ہیچ زبان پر ملین جو قی آوی یا لعاب بزرکتان شہد مین ملاکر چٹاوین اور شربت زوفا چٹاوین اور جو سفید جو سیاہی چشم گوسفند مین ہوتی ہے خشک کرکے ہمراہ نبات کے پیسکر شیر مرضعہ مین حل کرکے پلاوین اور مرکی بقدر ایک جبہ کے کھلاوین اور اگر سینے کے شیر مادر مین حل کرکے دیوین اور خستہ ہلیلہ یا چھوہی مکا یا ماہی خورد کہ جسکو مہلی کہتی ہین جلاکر نمک مین ملاکر دیوین اور شہد مین قدرے نمک ملاکر آگ

رکھیں جب مروق ہوجاوے زلال صاف دستکا دیویں دیگر عرق برگ ترب سبز و
عرق ورک شہد ممزوج کرکے قدری کافور اسپین کے دو دانہ فلفل سودہ او سمین ملاکر دیوین دیگر
شاخ نوزن عرق وبرگ یا پتا بنجلہ قدری اجوائن چراغ پر گرم کرکے چاپ کر ایک یا دو حبہ
مرچ فلفل مین ڈالین دیگر تصمغ عربی و کتیرا و مغز بہدانہ و رب السوس و شکر تری
سی گولیان بناکر بعد تنقیہ کے وقت گرم مین دیوین بہتر ہین غذا کھچڑی ہمراہ شیر بادام
یا شہد او نمکی یا دبہ روغن اور کباب نان یا حلوای مغزی ہے - اگر سرفہ بسبب
ورم جگر یا معدہ کی ہو علاج ورم کا کرین - اگر بسبب بنا نے ہوی یا غبار کے حلق مین
یا بسبب حدت صفرا کے ہو **علاج** استعمال مبردات و مرطبات کرے یا روغن بادام
کہلاوین او سینہ پر ملین - آیستی ہے علاج ہی اس سرفہ کا جو بسبب خشکی و سختی حلق کے
ہو - واضح رہی کہ سرفہ اطفال مین اکثر بلغمی ہو کوئی نسخہ مزید حرارت و پیوست
نہ دیوین خاصۃ اگر تپ شامل ہو کیونکہ وقت ورم ہیرو تنفس سے بلکہ جانب نضج مادہ و دفع
حرارت عارضی توجہ کرین او کبھی حرارت تپ سے مادہ نزلہ علیلہ بھی ہوجاتا ہی -

قسم سیوم ذات الریہ - [illegible] لکھتے
ہین **علامت** سرفہ و ضیق النفس [illegible] پہلو [illegible] تنفس
اسکی دو قسم ہین **اول** مادہ حار سے ہو علامت تپ محرقی شدید **علاج** تلئین
طبیعت مطبوخ عناب عنب الثعلب [illegible] مغز [illegible] شیر خشت روغن بادام
اور شیافات لینہ سے کرین بعد ازآن مانند علاج سرفہ عمل کرین اور مبردات مناسب
دیوین **دوم** مادہ بلغم سے ہو **علامت** تپ خفیف تنفس سخت او مزاج
بلغمی اور رہنا ہمیشہ نزلہ و زکام کا **علاج** مثل ام الصبیان ہے - منضج علاج یہ ہے
کہ منضجات و مسہلات و منشفات بلغم عمل میں لاوین **دیگر** سینہ مریض کو

ذات الریہ

ہوای سرد سے بچاوین **اخضر** اغذیہ سرد نہ دیوین اگر ممکن ہو بعد نضج مادہ مسہل
دیوین والا جلد تر بلا انتظار نضج مسہل و شیاف سے مادہ خارج کرین۔ **اجزای منضج**
و مسہل اصل السوس مقشر نیمکوفتہ گاوزبان سونیز منقی پرسیاوشان انجیر گل بنفشہ
تخم خبازی عنب الثعلب پانی مین ابالکر چہانکر قدرے نبات ملاکر پلادین۔ دوسرے
دن اگر بچہ قوی ہو زوفا و بیخ سوسن اضافہ کرین۔ اگر حاجت ہو دوسرے وقت سبوس
گندم گل گاوزبان بیخ سوسن عرق گاوزبان مین ابالکر چہانکر شربت بنفشہ ملاکر پلاوین
اور ہر روز مسہل سنا کی و مغز فلوس زیادہ کرین۔ خون خرگوش بقدر یک سرخ عرق
گاوزبان مین دیوین اور قدرے سفیدہ اور ناخنہا پر ملین **اخضر** توتیای سبز بریان سہاگہ
نیم بریان ہر یک یکتولہ پانی یا شیر زن مین حل کرکے بقدر دانہ باجرہ کے حبوب بناوین اور
بوقت ضرورت ایک یا دو یا تین حب شیر مادر یا پانی مین حل کرکے پلاوین۔

سبب چہارم۔ سوء تنفس اگر بچونکو بسبب نازل ہونے بلغم کے سینہ پر ہوتا ہے
علاج مثل سبب سوم ہے **اخضر** روغن بیت بن گوش و بن زبانین ملین **اخضر** سینہ کو
اخضر سینہ گرم رکھین **اخضر** ہوای سرد سے محافظت کرین **اخضر** آب گرم منہ مین
ٹپکاوین **اخضر** لعوق بزرکتان ہمراہ شہد کے دیوین۔ اگر بسبب حرارت تپ کے
یا گرمی تدابیر مجففہ کے سینہ و شش مین بلغم خشک ہو اوسکے سبب سے نفس متغیر ہو جاوے
بلکہ کبھی دم بند ہو اور منہہ کشادہ بچہ رکھی **علاج** بچہ کو ہر منہہ کرکے ایسی جگہہ لیجاوین
جو ہوا نہ پہونچی آور آب گرم کچھ عرصہ سینہ پر ڈالین اور پارچہ سے یا پونچھین اور تھوڑے
مناسب ملین اور مکرر ایسا ہی کرین بفضلہ تعالی جلد تر شفا ہوگی اگر آب گرم مندکور
مین گل خطمی یا بابونہ یا بکو جوش دیکر عمل مین لاوین تو بہتر ہے۔

سبب پنجم خرخرہ و خواب اگر بسبب کثرت رطوبت دماغ کے ہو

علاج ماء العسل گرم قطرہ قطرہ دیوین آخر گلنار عنزروت شہد مین ملا کر
چٹاوین آخر رب المعدہ منہ مین رکھین - اگر بسبب زوال عضلہ گلو کے ہو علاج
علاج اوسکے کرین - اگر بسبب اوس پانیکے غذای چرب و غنی پر ہو علاج
رب ... کہلاوین آخر ماء العسل السوس خطمی و برگ شاہتوت سے غرغرہ
کرین - اگر ... ہو علاج بندبید ... کہلاوین ...
... مین لاوین -

ششم انطباق مری - علامت دودہ اور پانی وغیرہ گلو مین ...
... سبب ... استرخای عضلہ ماسکہ فم مری بسبب نزلہ
کے ہی علاج ... ماء العسل سے غرغرہ کرین آخر روغن بابونہ و روغن
و روغن ... معدہ و سینہ ... پر ملین آخر ...
... آخر بندبید ... اسیون و
انیسون ... سنبل الطیب ساذج ہندی و کندر و بابونہ ...
... کی ضماد کرین اگر ... بارد نہایت
خشک ... اضافہ کرین مضایقہ نہین -

ہفتم فواق - اگر کم ہو باعث ... معدہ ... ہی اسکا حاجت
علاج نکرین - اگر زیادہ ہو ... پانی مین ... دین آخر ... ہمراہ
شکر ... کہلاوین - اگر ... ہو چند ... گلاب مین ... دین آخر
... کرین آخر ... لعاب ... دہن
... دین آخر ... آب خالص کو
... کر ملا دین - اگر ... گرم ... دین یا

یا بلغمی طبیب سے مشورہ کیا اور شہد ہمراہ ادویہ حارہ کے اخراج مادہ کے لئے دیا یا بادی کے اور موجب قواق ہو **علاج** اگر پتا دیوین **آش** پتا دین **اور** لعاب بہدانہ و بکاو زبان و شربت بنفشہ و شربت دیوین **آش** روغن بادام استعمال کرین

سبب ہشتم قی صبح — یعنی صبح زیادہ — تین سبب سے ہوتی ہے **اول** زیادہ پینی دودہ کے سبب **علاج** دودہ نہ دین تقویت معدہ کرین **دوم** رطوبت بلغمی معدہ میں جمع ہو **علامت** قی میں بلغم خارج ہو **علاج** قدرے قرنفل پیسکر یا ہمراہ آب سیب شیرین یا آب بہی شیرین کے دیوین **آش** ما بسابات ضعیفہ مانند گل سرخ و قرنفل و عود ہندی و غیرہ کے آب سیب یا بہی میں دیوین **آش** عود ہندی سوختہ شیرین پتا دین **سوم** بسبب گرمی صفرا کے ہو **علامت** قی میں صفرا خارج ہووے تلخی دہن تشنگی بیاد اسہال صفراوی اور سینہ میں شور صفراوی ہو **علاج** تر شک پیدانہ سفوف پودینہ فلفل سیاہ نمک لاہوری پیسکر پتا دین **آش** پتا شیرینیہ دودہ شیر ضعیف دیوین **آش** زہرہ دیوین **آش** فادزہر حیوانی سرخ گل اربینی شش سیب آب بہی یا ناشپاتی یا سیب یا دوغ یا شربت نعناع میں دیوین **آش** جوارش فواکہ و شربت مصطکی و سکنجبین سادہ یا سفرجلی کھلا دین

سبب نہم — **ضعف معدہ** — اکثر غذا و دودہ سے ہی ہوتا ہے — **علاج** اصلاح شیر موافق سبب کے کرین اور تقویت معدہ کی لئے قدری قرنفل و مشک آب بہی میں دیوین **آش** فوشدار کھلا دین **آش** سفوف فارسطو پوست اندرون سنگدان خروس نبات ملاکر دیوین **آش** زیادہ یا دوانہ ہیل عنبر زرنباد و نمک سیاہ یا نبات سفوف کرکے ہمیشہ تھوڑا

کہلاتے رہین اگر قے ہے موجود ہو تو حقنے اضافہ کرین بہت ہے سفوف ارسطو
ارسطاطالیس نے سکندر کیلئے تالیف کیا۔ سفوف سکندریہ بھی کہتی ہین مفرح
و مصلح عرق فاسد و بدبوے دماغ مقوی معدہ **صفت** قرفہ سادج ہندی تالیس
عود غرقی دانہ ہیل کلان اسارون پوست ہلیلہ کابلی زرنجشک زیرہ کرمانی
زرشک دارچینی فلفل دارفلفل اشنہ زنجبیل تمر نقل دانہ انار ترش جوز بوا کافور
قاقلہ از ہر یک یکتولہ عنبر مشک از ہر یک ششماشہ شکر سفید شش چند۔۔۔ خوراک
سہ و نیم ماشہ قبل یا بعد طعام۔

چہلم۔ تجبن لبن در معدہ ۔ یعنی دودہ معدہ مین منجمد ہو۔ اگر انفحہ یا
اشیای ترش مانند زرشک سماق آب لیموے اول یا بعد دودہ پیا تھیکے متصلاً
پیوین یہ پیدا ہوا و موجب نفخ و غشی و تنگی النفس و عرق سرد و تپ لرزہ ہو۔
علاج شبت و پودینہ پانی مین ابالکر سکنجبین ملاکر گرم گرم دیوین **دیگر**
انفحہ خرگوش ہمراہ آب انگور یا آب برنجاسف کے کہلادین۔ پنیر مایہ شیر سائل
کو منجمد اور منجمد کو سائل کرتا ہے ایسی ہی خاصیت طلسم کی تاثیر ہے۔ قدری نمک سے
چوب انجیر یا پنیر پانی مین ڈالین جب تہ نشین ہو آب صاف اوسکا لیوین اور پہر جما
نہ ہو اوسمین ملاوین اسیطرح پنج بار عمل کرین بعد ازان آب لال اوسکا بچہ کو پلادین
اگر ازالہ مرض نہو قی یا حقنہ یا مسہل کرادین جو معدہ صاف ہو اور اثر دودہ
کا باقی نرہے **دیگر** شیر بز یا شیر شتر پلاوین جو شیر بستہ کو جاری کرتا ہے
بلکہ شیر بز وہ خون جو عروق مین افسردہ ہو اوسکو بہی سائل کرتا ہے اور جمیع
اقسام دودہ سے شیر بز بہتر ہے جو گہاس مین رعایت کی گئی ہو مگر بہتر یہ ہے
کہ جس حیوان کا دودہ پلاوین اوسکو چند روز پہلے سداب قیصوم و برگ حماض

کہلاوین ۔ شیر وہندہ کو اغذیہ غلیظہ نہ دیوین اور ملطفات و مقطعات کہلاتے رہین گاہ گاہ بچہ کو تریاق دینا چاہیئے ۔

چہل و یکم خوض معدہ ۔ مین کسی جگہ گڑھے بنتے ہو علامت قی و اسہال مین خون خارج ہو علاج مثل علاج قرحہ مین لکہے ہی ۔

چہل و دوم ۔ ورم معدہ ۔ اگر تپ بلغمی و فساد ہضم مین ہو جائے علامت تہبیج رو و صاحبت رنگ و تپ خفیف علاج مقویات معدہ دیوین دو دو یا تین غذا کم دین مرضعہ کو استعمال ملطفات کراوین ۔ بہترین غذا یہ ہے کہ قدری شوربا نخود مین چقندر وکرنب پکا کر نخود آب ملا کر قدرے دارچینی و فلفل سیاہ اضافہ کر کے کہلاوین اور عرق بادیان یا عرق عنب الثعلب بجای پانی کے پلاوین سعد و غافث چوب و رخت انگور و اذخر و سنبل الطیب آب عنب الثعلب سبز و سرکہ مین ضماد کرین آخر آب عنب الثعلب سبز مروق و آب کاسنی سبز مروق پلاوین آخر ماء البزور یعنی بیخ کاسنی و اذخر و اصل السوس و خار خسک و تخم کاسنی و بادیان و تخم خربوزہ و تخم خیارین و بیخ بادیان وغیرہ دیوین ۔ اگر اسہال بھی ہون آب بارتنگ سبز و زرشک و تخم بارتنگ و بہہ خشک پلاوین ۔ اگر ورم جانب صلابت میل کرے روغن مصطگی معدہ پر طلا کرین اور ملین آخر مرہم و تحلیلون ضماد کرین ۔

چہل و سوم ۔ دبیلۃ المعدہ ۔ یعنی معدہ مین مادہ جمع ہو کر پیپ ہو جائے اور کبہی جلد پر بطور سلعہ معلوم ہو ۔ علامت غلبہ تپ و ضربان و درد خصوص چہونے مین اور جب پیپ ہو جائے عوارض ساکن ہون اور وقت منفجر ہونیکے لرزہ اعضا مین پیدا ہو اور اسہال و قی مین خون آوے و

خارج ہوا اور [illegible] وہ خارج [illegible]
[illegible] حرکت [illegible] جانب [illegible]
[illegible]

علاج

[illegible]
[illegible] شیر [illegible]
[illegible] اسہال [illegible]
[illegible] مرض [illegible]
[illegible] شربت [illegible]

چہارم — ورم الکبد

[illegible] علامت [illegible]
بیقراری و شدت پیاس [illegible] خشک [illegible]
[illegible] تپ خفیف [illegible]
رنگت [illegible] اطراف [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

طلیا شیر وگل سرخ ہر یک پنجاشہ مغز تخم خیار مغز تخم کدو و بادام تخم خرفہ تخم کاسنی ہر یک

سہ ماشہ تخم رازیانہ یکماشہ آب بارتنگ مین قرص بنا وین — ابتدا مین آب برگ

خرفہ حی العالم گل سرخ وصندل ورسوت وکافور و دیگر قوابض ورادع کا ضماد کرین

مگر اشیای سرد کا افراط نکرین — آخر مین ایرسا واسارون و اشنہ وجعدہ و

صعتر وشیح وحب الاس و فوہ ومصطگی و دیگر محللات وقوابض ہمراہ قدری روغن

سوسن یا روغن نرگس یا روغن زنبق یا روغن مصطگی کے ضماد کرین تاکہ صلابت

حادث نہو — ورم حار کے لئی آرد جو گل خطمی وگل بنفشہ ہر یک ہفت تولہ گل سرخ

صندلین ہر یک چار تولہ شیاف مامیثا سہ تولہ اکلیل الملک تخم کاسنی

کشوث گل نیلوفر ہر یک دو تولہ سنبل الطیب شش ماشہ ریوند یکتولہ کوٹ کر

چہانکر قدری اسمین سے آب کاسنی وگلاب مین ملاکر ضماد کرین — ورم بارد کے

واسطے اذخر وسنبل وگل سرخ وسعد و بابونہ و اکلیل الملک و مغز خیار شنبر ومصطگی

وایرسا وپستہ و دیگر ادویہ محللہ منضجہ ومرخیہ وقابضہ کا ضماد کرین — ورم صلب

کے لئی تخم کرفس و تخم کشوث و تخم کاسنی و بیخ کاسنی تخم قرطم وخار خسک و

تخم خربوزہ و بادیان و بیخ بادیان واصل السوس و دیگر مدرات ومفتحات حارہ ہمراہ

شربت دینار کے دیوین — ورم متقیح مین طلیات حارہ پلاوین — شہد

پہل وپنجم — وبیلۃ الکبد اگر بعد ورم حار کے ہوتا ہے

خطرناک و مہلک ہے — علامت مثل وبیلۃ المعدہ — علاج آب

وا و العسل و قدرے نشاستہ و زردہ بیضہ و روغن بادام یا خبازی ہمراہ خندرو

کے پلاوین جب منفجر ہو مانند وبیلہ معدہ عمل کرین — یہہ قرص ہمراہ سکنجبین شربت

ورد کے کہلا دین حضضہ دم الاخوین وکندر و تخم ہندبا و تخم کرفس ومصطگی

جملہ برابر آب بارتنگ بین اقراص بنادین - غذا اسی حالت مین اشجو و نخود بریان
زردہ بیضہ نیم برشت حریرہ لینہ وشیر شتر اور تقویت کے لئے آب اللحم و گوشت بز غالہ
و دوسالہ و طیور ہمراہ ابازیر و زردہ بیضہ کے کہلادین - کبہی بوقت انفجار کے پیپ
فضای جوف مین گرتے ہی چاہئیے جو بالائے و یکا یک پیہ کو تراش کر عضلہ کو جدا
کرین صفاق سمی باریطون مین سوراخ کرکے نلکی اوسمین کہین جو پیپ اوسمین سے
خارج ہوجاوے - اگر ابتدای مرض مین ضرور تا حقنہ خفیفہ کرین جائز ہے جو
موجب خفت بار ہی **صفت** آب برگ چقندر آب کاسنی سبز و آب عنب الثعلب
مروق حقنہ کرین **دیگر** بیخ کاسنی و تخم خرنوب کبر اصل السوس تخم قرطم لبلاب
و تخم کرفس ہندو مغز خیار شنبر ہمراہ روغن گل و نمک کے بطور مطبوخ تیار کرکے حقنہ کرین

چہل و ششم - ورم طحال - حال اسکا مانند جگر ہے - بہ برودت و غلبہ سودا
سی ہوتا ہے - علامت نقصان ہضم و تپ خفیف و صلابت طحال **علاج**
اول ہیضہ بدرقہ قویہ دیوین **آخر** بیخ کبر ہمراہ سکنجبین بزوری کے پلادین **آخر** طبیخ
اشق و ترمس کہلادین **آخر** تخم کشوث و برگ جہاؤ تخم حماض بزر الرمق و
ثمرۃ الطرفا و انجیر و کدوی دراز خشک ہمراہ سکنجبین طحالی کے دیوین **آخر** اشق و پشک
بز سوختہ یا خاکستر آتشدان یا سداب یا جگد شتی سوختہ سرکہ مین پکا کر کبریت
زرد اضافہ کرکے ضماد کرین **آخر** زرد و صبر و اشق یا انجیر و سداب سرکہ و آب
گاو زہرہ مین پکا کر ضماد کرین **آخر** خردل یا ریگ شہد مین ضماد کرین - ضرور تا
تنقیہ کرین - اگر حرارت ہو تخم خرفہ و کدوی خشک ہمراہ سکنجبین ساوہ و تخم
کشنیز پلادین اور کبر و خرفہ و گل ارمنی و سپوست جہاؤ سرکہ مین ضماد
کرین **جزای سکنجبین طحالی** انجیر زرد کبر یا بادیان عنب الثعلب

ورم طحال

صندل سفید ہر یک شش تولہ لک مغسول تخم جہاؤ تخم کبر ہر یک تولہ پوست بید دو
تولہ گل بابونہ یکیک تولہ اسارون زیرہ کرمانی ہر یک ماشہ سب کو سرکہ چہار آثار مین تر کرکے
قرع انبیق مین عرق نکالین اور ایک پاؤ وہ عرق اور ڈیڑہ پاؤ قند سفید ملا کر قوام بناوین —

فصل ہفتم اسہال — چند قسم ہین اول وہ جو وقت نکلنے دانتون کے ہون
علاج تدابیر واسطہ جلد نکلنے دانتون کے کرین اور تاوقتیکہ اسہال ضعف
بافراط نہو حبس نکرین الا حبس اسہال ساتہہ تقویت معدہ و جگر و لحاظ قوت بچہ
کے کرین آب انارین و آب گوشت سرد جس قدر ہضم کر سکے بچہ کو دیوین **آخر**
دودہی پوستے پانیمین پیسکر کتہہ سفید یکماشہ ملا کر پلاوین **آخر** فادزہر معدنی ہمراہ
شیرہ زیرہ سبز و بادیان و دانہ ہیل و طباشیر — یا شیرہ کونپل کیکر — یا شیرہ
غنچہ یا شگفتہ انار ترش اور سات قطعہ کنکر پتہر کے گرم کرکے اوسمین بجہاکر قدرے
نبات ملا کر ڈیڑہ ماشہ ہمراہ پانی کے دیوین **آخر** آب برگ بارتنگ سبز و بعدہ
مین یا آگ پر گرم کرکے بعد اجابت کے بچہ کو بٹہائین اگر اسمین تکلیف ہو اوس پانی
سے آبدست کراوین اور کپڑا اوسمین تر کرکے مقعد بچہ پر باندہین **آخر** شیر مایہ تازہ
بی نمک و گل ارمنی و صمغ عربی بریان کہلاوین **آخر** کوکنار دو ماشہ جو کوب کرکے
رات کو پانیمین تر کرکے صبح ملکر چہانکر اوسی پانیمین بادیان بریان و زیرہ سفید
بریان پیسکر چہانکر قدرے نبات ملا کر پلاوین **آخر** پوست درخت فالسہ
رات کو پانیمین تر کرکے صبح آب لال اوسکا لیکر قدرے نبات ملا کر دیوین
آخر شیر درخت گولر بتاشہ مین رکہکر کہلاوین **آخر** زہر مہرہ و طباشیر
وغیرہ مسدد سبیعطاش دیوین **آخر** پوست خشخاش و ہلیلہ سیاہ روغن گاؤ
مین بریان کرکے ہموزن اوسکے شکر سفید ملا کر قدر قلیل بچہ کو دیوین نہایت

مناسب ہے خسخاش زرد مع بہیدانہ بریان تنہا یا ہمراہ لعاب بریان کئے تنہا دیوین
اگر تپ شامل ہو جانون بختی مین پکا کر دین اگر بچہ طعام کہاتا ہو تو الجسم آب
انار مین حفاظت قوت کیلئے دیوین خسخاش بریان قرص کوکنار یا سبز غالہ چوبہ
... ہمراہ آب ... دیوین اسہال دودہ نہ دین بلکہ غذا پرہیز سے ... کرنا
کرین ثانیاً بعد چہوڑنے دودہ کے اسہال ہون علاج دودہ پہر شروع
کرادین یا بعد صحت کے موسم فصل موافق مین دودہ چہوڑادین۔ ثالث بسبب
... جگر یا ... کے اسہال پیدا ہون علاج تقویت جگر و معدہ ...
... ضماد ... و عود و ... و مصطگی و ... کرین اور
... تخم کشوث و تخم خربوزہ و تخم کرفس ... کرین خسخاش
... خوشبودار کہلاتے رہین۔

چہل و ہشتم۔ انتقال البطن

بباعث نکرنے مرارہ کے ... مین ... رطوبات کے ہوتا ہے علامت اول براز سفید و ... ہونا براز کا اور ... بول علاج اگر تپ نہو ... و ... ناف پر ... کرین خسخاش زرد ... شکم پر ملین خسخاش ... وپشک موش ... بید ... روغن ... یا عسل سے شیاف بناکر ملین خسخاش ... روغن ... گرم مین ملاکر شکم اسطرح ملین جو ... معدہ سے جانب ناف کے ... اس مرض مین بعد چندی ... ہوجاتا ہے اسکا علاج ... و ... مسہلات سے کرین۔ اگر تپ ہو شیاف مندرجہ صداع عمل مین لادین اگر ضرورت ہو بحسب حاجت و مزاج کے تنقیہ کرین۔

چہل و نہم۔ مغص

چند قسم ہے ۱ بسبب ... بلغم لزج ...

غلیظ کے امعا میں پیدا ہو ۲ سوء مزاج حار عارض امعا ہو **علامت** تشنگی والتہاب وسوزش براز **علاج** آب انار مع لعاب بہدانہ و دیگر مسکنات دیوین ۳ باد غلیظ امعا مین بند ہو۔ **علامت** خروج ریاح و اسہال غذای نیم ہضم **علاج** دانہ الایچی و بادیان بریان وغیرہ ادویات کاسر ریاح و ہاضم دیوین **اخر** روغن زیت و آب گرم و قدری نمک ملا کر گرم کر کے مثانہ گوسفند مین پر کر کے ٹکور کرین **اخر** پشکل گوسفند پوٹلیمین باندھکر ٹکور کرین **اخر** شیر گاو تازہ نیم گرم سی ٹکور کرین **اخر** روغن گل نیم گرم اعصاب پشت پر ملین **اخر** اجوائن پسیکر سفیدہ بیضہ مرغ مین شکم پر ملا کرین **اخر** جوز بوا سوختہ و ضرول و برگ سرو خشک و نانخواہ سوختہ و برگ سداب و تخم لیمون و انجدان سوختہ و مازو یون جملہ برابر پانی مین جوش دین جب اندک باقی رہے چھانکر برابر اوسکے روغن کنجد ملا کر پھر جوش دین جب پانی جلکر روغن باقی رہے قدرے یہہ روغن معدہ و مقعد پر ملین ریاح بہت خارج ہوتی ہین **اخر** اجوائن آگ پر جلاوین اور پتہ اوسکے گرم کر کے ٹکور کرین **اخر** قدری انگوزہ بریان یا سہاگہ بریان شیر مادر مین دیوین ۴ صفرا اسعا پر گری **علاج** بہدانہ و خرفہ و گرد سماق و رمان اسکے دیوین ۵ تسبب تولد کرم کی ہو **علامت** احساس حرکت واخراج کرم براز مین اور جاری ہونا رطوبت کا منہہ سی۔ یہہ چار قسم ہوتی ہین **اول** کرم دراز مسمی بحیات **دوم** عریض مشبہ تخم کدو مانند سلسلہ پیوستہ موسوم حب القرع **سیوم** گول موسوم مستدیر **چہارم** زیرہ باریک مانند کرم سرکہ ہندی چنونہ نام ہے یہہ اکثر مقعد اطفال مین پیدا ہوتے ہین **علاج** جوشاندہ پوست انار ترش و پوست بیخ شاہتوت و دیگر ادویات قاتل کرم پلاوین **اخر** افسنتین و برنگ دیوین **اخر** پلاس پاپڑہ و لسان الحمل و افیون ملخ و آب کیلہ ملا کر اسہال کرادیں

دیگر افسنتین رومی و برنگ کابلی و زہرہ گاو و شحم حنظل ضماد کریں دیگر الیغاق
مقعد میں رکھیں دیگر شیح ارمنی دودہ میں ملاویں دافع حیات ہے - اور دیا
قاتل کرم چنونہ ہیں - شتوت ترکھوپا برنگ کمیلہ کوٹ کر چھانکر ہمراہ پانی کے دیویں
ہوا ہیں ادویات کو پیسکر زہرہ گاو میں ملا کر ایک جلد میں آلودہ کرکے مقعد میں رکھیں
دیگر تخم حیل ساتھ شکر کے کھلاویں دیگر حنا و موم ملا کر شیاف کریں اور
طفل کو اولٹا لٹا کر مقعد کو اونچا یا اور چیونٹی باہستگی کھجلاویں اور مقابل
اوسکے چراغ رکھیں اوس سے جو کرم ظاہر ہو خارج کریں دیگر موم روغن گل میں گداختہ
کرکے مقعد کو اوس سے چرب کریں مانع خارش و خوردن کرم ہے -

پنجاہم - نتو سرہ یعنی بلند ہونا ناف کا - دو قسم ہے - قسم اول
بروز پیدائش یا بعد پیدائش قریب تر بسبب غلطی قابلہ کی حادث ہو علاج اسکا یہ ہے
اصلاح باندھنی پٹی وغیرہ سے جلد تر کریں الا بعد استحکام ہو نیکے ازالہ ممکن نہیں
قسم دوم یہ چند نوع ہے ۱ بسبب زیادہ ہونے ابولتی وغیرہ کی صفاق پھٹ جانے
علاج [illegible] دیگر [illegible] ۲ بسبب [illegible]
تھیلی میں پھر ناف [illegible] نالہ و اوسکے جنبش نکری ۳
بسبب اجتماع رطوبات کے ہو علاج اکلیل الملک و بابونہ و سنبل الطیب و اذخر وغیرہ
ادویہ محللہ استعمال کریں ۴ بسبب اجتماع ریاح کے ہو علاج تخم الایچی و دار چینی
و تخم کھوپرہ و بادیان و پودینہ وغیرہ ادویہ کاسر ریاح اکلا و طلاء عمل میں لاویں
دیگر سعد و آرد جو و سرگین گاو و ابہل کو سعد ضماد کریں ۵ بسبب پیدا
ہونے گوشت زائد کے پوست ناف میں ہو علاج قطع کریں مگر نہایت خطرناک
عمل ہے دیگر اسکو اسکے حالت پر چھوڑنا بہتر ہے دیگر مستوی دم [illegible] پٹی باندھیں


اور بتدریج ہر روز گرہ محکم کرتے جاوین انشاء اللہ تعالیٰ بعد گذرنے کسیقدر عرصہ کے ساقط ہوجائیگے ۔ تیسب سبب پہونچنے یا کھلنے رگ کی خون اوسمین جمع ہوکر زیادتی و بلندی پیدا کرے **علامت** تر اور رنگ نیلگون ہو **علاج** ناف پر جونک لگاوین بعد ازان انزروت و کندر و سنگجراحت و مردا سنگ و دیگر ادویہ مدملہ چھڑکین

ورم السرہ

پنجاہ و یکم - ورم السرہ - بوقت قطع ناف بسبب غلطی قابلہ واقع ہو **علاج** سنکار یعنی سہاگہ و علک البطم روغن کنجد مین ملا کر قدر قلیل بچہ کو کھلاوین اور ناف پر لیپ **اخیر** مردا سنگ سفیداج آب عنب الثعلب سبز مین گھس کر ناف کے گرد لگاوین

نتوء السرہ

پنجاہ و دوم - نتوء السرہ یعنی ناف مین بیت پیدا ہو **علامت** ناف بلند ہوکر پیٹ پھولی اور حوالی اوسکا سرخ ہو **علاج** مردا سنگ محرق مغسول وسپند و سنگجراحت و گل ارمنی و دم الاخوین و کتہہ سفید و گرد آسیا و دیگر ادویہ مجففہ کا ذرور استعمال کرین **اخیر** صندل سرخ و جدوار و سوت آب کشنیز سبز مین حوالی ناف پر ضماد کرین **اخیر** باندھنا قطعہ سرب کا ناف پر دافع جمیع امراض ناف ہے بلکہ جراحت کہنہ کی لیئے نہایت مفید ہے - اگر بچہ عمر مین تین مہینے سے زیادہ ہو اور بتدابیر مذکورہ مرض نجاوے تو عدد ۲ لو کو چک حوالی ناف مین لگاوین اور بعد ازین ذرورات مجففہ استعمال کرین **فائدہ** لگانا جونک کا ناف پر موجب ضعف معدہ ہے اسلیئے حتی الامکان محترز رہنا بہتر ہے -



زحیر

پنجاہ و سیوم - زحیر - اگر بسبب پہونچنے سردی کی اسفل مین ہو **علاج** بالون و زیرہ سیاہ و گوشت کریکا کر روغن گاو کہنہ ملا کر ہمراہ آب سرد کی کہلا دین **اخیر** کاورس یا خاکستر قیصل گوسفند پوٹلی مین باندھکر ٹکور کرین یا بچہ کو اوسمین بٹہا دین **اخیر** خشت پختہ کو گرم کرکے کپڑا اوسپر رکھکر بچہ کو اوسپر بٹہا دین

اگر سبب ... سفرا کے ہو علاج اسپغول و تخم ریحان و بارتنگ وو ... بھنا ہوا بارہ
دیوین۔ آخر ... روغن ملا کر ... گرم کرکے بچہ کو اسپر بٹھا دین ... مقعد
... بہت ... اور ... مرد کو وقت مقعد کے نافع ہے۔

پنجاہ و چہارم۔ خروج المقعد۔ یعنی ... ہوتا ہے **علاج**
... ایک ... سے ... آخر ... وغیرہ و دوم
... سفید کو ... انگر ... باندھکر ... چیز ... دین
آخر ... اندر کرین اگر ... شور ہو موم ... روغن ... دے ... اندر کرین
بعد ازان پوست انار و جفت بلوط و گلنار ... جوش دیکر چھانکر بچہ کو اوسمین
بٹھا وین اور قفل ... بانکر ... آخر آب ... قشو ... اور اوسمین
بچہ کو بٹھا وین یا اوس سے استنجا کرین آخر جفت بلوط و ... و شاخ ... گوزن
سوختہ ... سوختہ و سم ... سوختہ و شب یمانی و گلنار فارسی مازو ... برابر پانی مین
جوش دیکر چھانکر بچہ کو بٹھا وین یا آب ... کرین اگر ... تحلیل ... کی ...
آب عنب الثعلب مین ... کرین۔

پنجاہ و پنجم۔ بول فی الفراش یعنی خواب مین بول کرنے سبب
سردی و ضعف مثانہ کے ہوتا ہے۔ اور بعد بالغ ہونیکے از خود زائل ہوتا ہے
علاج ... کندر ... و حب الآس و جفت بلوط و ... الطیب و گلنار
... آخر ... مثانہ ... آخر ...
... برابر قند ... آخر ...
... ہمیشہ کھلاتے رہین آخر ... زبان ... آخر ...
... آخر ... و شکر دیوین آخر قدری ... سوختہ ہمراہ

آب تمر ہندی کو گرم کرکے پلاویں اخر شہدانہ بریان شہد میں دیویں اخر معجون فلاسفہ پلاویں اخر اشیای بارد و سرد ترسے پرہیز کریں اور رات کو پانی اور کھانا نہ دیویں اخر باقی تدابیر جوانان عمل میں لاویں۔

پنجاہ و ششم چیچک و سیتلا بچہ کیلئے نہایت سخت ہے اسکی نجات گویا زندگی تازہ ہے۔ آنیکے ایام میں تپ ہوتی ہے اور کی علامت یہ ہے ۱ پشت درد کرے ۲ ناک میں خارش ہو ۳ آنکھ میں پانی بہا دے ۴ سرخی چشم و رخسار ۵ گرانی سر و بدن ۶ دیکھنا خوابہای پریشان کا ۷ ڈرنا خواب میں ۸ سوزش و خارش جلد ۹ قلق و غشیان ۱۰ بحرانیکے بعد کسی قدر آرام تسکین نہ پاوی ۱۱ جسم سے بدبو آوی ۱۲ زردی و بدبوی کف پای و دست ۱۳ کھڑے ہونا پشت کی بالونکا ۱۴ سرخی و تشنج پشت۔ اس مرض کے چند قسم ہیں **اول حصبہ** یہ دانہ سرخ و خورد مثل گرمی دانہ کے ہوتا ہے اور منتقیح نہیں ہوتا بلکہ اس سے سبوس گرتا ہے اور سبب جوش خون کے حادث ہوتا ہے خواہ وہ جوش بسبیل غلیان کے ہو یا بطریق تصرف طبیعت کی تا کہ پاک کرے خون کو آلایش بقایای طمث سے جو بحالت حمل ہو یا آلایش غذای سے جیسے عصارہ انگور میں اول جوش پیدا ہوتا ہے بعد ازان تصرف طبعی سے شراب صاف ہوتی اور ثقل ارضی اور کف ہوای سے تریق حاصل ہوتی ہے چنانچہ سن طفولیت واسطے پختہ ہونے خون خام کے کسلیئے کہ خون بچہ کا خام ہے جب پختہ ہوا یہ حالت دوسری حالت پیدا کرتا ہے اور ممکن نہیں کہ جوش نہ کھاوی اور زیادہ اسی سے کہ خون جوش کرے اور ظاہر جلد میں اثر پیدا کرے اور کبھی غلیان ناطبعی پیدا ہونا معمولی سے ہوتا ہے جیسے خریف ربیع میں ثوران اخلاط میں پیدا ہو کر حالت و جنبش

ہوجاتی ہے یا اسباب اہلیہ سے جیسے اغذیہ مسخنہ رطبہ مثل حلوا و مانند کثرت شیر و
آسپ اور اور شراب کا تناول کیا جاوے یا دوا حار کہائی جاوے ضرور ثوران اخلاط پیدا کرے
دوسری قسم ہندی میں لاکہڑا نام ہے۔ دانہ اسکا دانہ عدس سے قدرے بڑا ہوتا ہے
اور تپ بھی اور شدت بھی نہیں ہوتی۔ یہ قسم خطرناک نہیں از خود زائل ہو جاتی سوم
جدری۔ موتیا بھی کہتے ہیں۔ وہ اصل چیچک یہی ہے بقدر عدس ہوتے
ہیں ابتدا میں سرخ اور بوقت نضج سپید ہوکر متقیح ہو جاتی ہے چہارم جدری
مضاعف بزبان ہند موتی لیا۔ یعنی ایک دانہ جدری کے جوف میں دوسرا
پیدا ہو۔ اگر جدری جلد نکلکر متقیح ہو بہتر ہے علامات نیک ہوش و حواس بجا
اور خواہش آب و غذا قایم اور تنفس سلیم ہو اور مقام قلب پر شور نہ ہو علامات بد
دیر میں نکلنا اور نکلنے میں توقف کرے سیاہ و بنفشجی رنگ ہو بیٹھ جاوے یا نکلکر
دفعۃً غائب ہو جاوے اور غشی و دقت تنفس ہو تدبیر حفظ کی چیچک سے دو طرح ہے
اولاً۔ ربیع میں جو کسی سر بچہ کی اوپر پچھنہ لگا دیں۔ بقولات و حموضات
سے غذا کریں اگر گوشت کہاوے بقولات میں پکا کر دیویں۔ عناب و عرق کیوڑہ
و طباشیر سکنجبین شربت انار و دیگر ادویات سرد و مقوی قلب مقرر کریں۔ دھوپ
میں دوڑنے نہ دیویں۔ دوم ٹیکہ نکلنی جدری و حصبہ کا ہے اور جب نکلے موجب حفظ
[illegible] کا حال ہے بالغرض اگر نکلتی بہی ہے تو چند دانہ نکلتی ہیں ثانیاً
ٹیکا لگانا۔ یہ نہایت عمدہ تدبیر ہے۔ بعض لوگ جو اپنی بچوں کو اس سے بچاتے
ہیں وہ بمقتضائے جہالت ہے ورنہ اس سے افضل کوئی تدبیر و علاج نہیں گو ابتدا
میں کسی قدر تپ تکلیف دیتی ہے لیکن بفضلہ تعالی مرض چیچک سے جو
[illegible] ہمیشہ محفوظ رہتا ہے بر تقدیر اگر بعد ٹیکا لگانے کے بھی چیچک

لاحق ہو تو معالجہ کرین اور اس عمل کو مانع علاج تصور نفرماوین — ٹیکا صحیح ہونیکا عمل
اختراع کردہ متقدمین سے البتہ عرصہ دراز سے مستعمل تہا اور اب حکماے فرنگ نے اوسکو
باحسن الوجوہ مروج کیا ہے — وجہ اسکی یہہ ہے اکثر بچہ شیر فروشان کہ چیچک سے
محفوظ رہتی تہے جب یہہ بات عقلا کو معلوم ہوئی تو ویسے تحقیقات ہوکر ثابت
ہوا کہ پستان گاو پر ایک قسم کا بثرہ ہے اور بوقت نکالنے دودہ کے زرداب بثرہ کا
جلد دوشندہ پر اثر کرتا ہے اسلئی اونکے نسل مین یہہ مرض کم ہوتا ہے بعد ازان
طریق اسکا ہر ملک مین شایع ہوا **طریق تطعیم** یعنی ٹیکا لگانیکا یہہ ہے کہ
اول ساعد بچہ کو صابون وغیرہ سی ایسا دہوئین جو میلا چرک باقی نرہے اور
پہر جراح اپنی بائین ہاتہہ سے نیچی کیطرف سی ساعد کو ایسا پکڑے کہ جلد
اوپر کیطرف ساعد کے بخوبی کشیدہ ہوجائے بعد ازان اپنی داہنے ہاتہہ مین نوک
نشتر عرض مین پکڑکے نشتر کو مادہ چیچک سے آلودہ کرکے عرضاً تین یا چار جگہہ اسطرح
نشتر لگاوین ورمادہ مذکور لہو تک پہونچ جائین اور برہنہ رکہین تاکہ کپڑہ چہونیسے مادہ
مذکور زائل نہوجاوے اور نشتر گہرے نہ لگاوین احتمال جاری ہونے خون کا ہے اور
اجرای خون مین مادہ چیچک کا جو اوسکے سرایت مقصود اصلی ہے زائل ہوجائیگا — تیسرے
روز تک سرخی جلد پر ظاہر ہوکر تپ شدید ہوتی ہے اور پانچوین روز آبلہ بنکر آٹھوین
روز ترقی پکڑتا ہے اور بغل مین بہی ورم پیدا ہوتا ہے بعد تیرہوین آبلہ کے خشک ریش
ہوجاتا ہے — اگر بسبب تدبیر ٹیکا لگانے یا ناقص ہونے مادہ چیچک یا ضعف
وغیرہ کی آبلہ ظاہر نہو دوبارہ ٹیکا لگاوین اگر باوجود نکلنے آبلہ کے حسبہ نکلے دوبارہ ٹیکا
لگاوین — پانی جو آبلہ سی نکالکر ظرف شیشہ مین رکہا جاتا ہے — مادہ چیچک اسکو
کہتی ہین **علاج** جب تپ ہو معمار بہ نہایت خورد وسن بارہ دانہ بچہ کو

[illegible] مروارید ساییدہ آب برگ لالہ سفید [illegible] پا کیماشہ پہلا دین
اخر [illegible] ڈالیں اخر [illegible] ناک و کان و حلق میں پہنچائیں او
[illegible] پر ملیں [illegible] شربت عناب [illegible] آب عناب و عرق عنب الثعلب و عرق
کاسنی [illegible] و نبات [illegible] صحت اسی دوا کی مزاولت
ہے اور بوقت ضعف [illegible] زیادہ کریں۔ اگر چیچک کی نکلنے میں دیر کرے اور
[illegible] چہار روز [illegible] جاوے دوا مذکورہ میں انجیر یا عناب سلیم و سپستان [illegible] و شکر سرخ
اضافہ کریں اخر انجیر یا منقی جوش دیکر قدری زعفران ملا کر پلا دیں اخر آب گرم
[illegible] بخارات [illegible] اسطوخودوس دیویں جو بخار بدن کو پہونچے واسطہ نکلنے
[illegible] تسبیح [illegible] سفید ایسی ہے ناک کی [illegible] ڈالنا [illegible] مفید ہے علاج
[illegible] جب [illegible] ظاہر ہو کر ناپدید ہو جاوین اخر آب کرفس و آب بادیان ہمراہ نبات
کے دیویں اخر [illegible] انجیر زرد و باجرہ پلا دیں اخر خشخاش ہندی و قلمی
سنبل سیاہ کہلا دیں اخر زردہ تخم کبوتر [illegible] یا خاگی دیویں۔ نزدیک
[illegible] کے عدس مقشر [illegible] اخر مروارید قابض و مفرح ہیں [illegible] آمیزش
[illegible] میں بند کرنا چاہیے زہر مہرہ و مروارید و کہربا و بارتنگ دیویں۔ اگر خارش پیدا ہو
علامت بد ہے علاج [illegible] چھولی دیویں۔ اگر بوقت ہونے
چیچک کے [illegible] قابض [illegible] غذا بوقت نکلنے کے چانول [illegible]
[illegible] دال مونگ و عدس ہمراہ نان
عدس [illegible] نان دیویں اور موسم گرما میں آب [illegible] عرق
[illegible] یا عرق عنب الثعلب بجای پانی [illegible] نکلکر
[illegible] متعفن ہو جاویں علاج [illegible] انجیر کو

[illegible] گرم یا خالص [illegible] پر سولانا آبلہ کو جلد خشک کرتا ہے – روغن [illegible]
[illegible] واقع خشک [illegible] – آنکھ [illegible] خشک [illegible] کے نوبت ہوا شد مرد [illegible]
[illegible] چہرہ [illegible] روز کے [illegible] لین

[illegible] ہفتم – حمیات – اکثر خلطی ہوتے ہے – علاج [illegible]
[illegible] – تپ [illegible] ہون اگر [illegible] چھ مہینے سے زیادہ [illegible] روز کے
[illegible] پچھ [illegible] – کم قدرے خون لیوین احتمال کا فوراً گزرنا [illegible] –
تپ بلغمی میں برخلاف یعنی بوبی ماوران [illegible] جوش دیوین [illegible]
[illegible] دیتے رہیں – تپ مرکب میں سکنجبین لیموی قرص گل [illegible]
دیوین اخیر قدرے ماء العسل گلاب میں قبل از نوبت دیوین [illegible]
دینا آب گرم کا – تپ [illegible] میں تقویت معدہ لابد ہے – بچہ کو روغن [illegible]
[illegible] نہایت مضر [illegible]
[illegible] سکنجبین [illegible] – [illegible] وحشی وصرع کے [illegible]
[illegible]

وصندل سرخ ہر ایک ۵ ماشہ تخم کرفس ہر ایک ۴ ماشہ سب کو کوٹ چھان کر شہد سے گولیان بنائین بقدر چنے کے ہمراہ آب گرم کھائین گوشت گرم ہر بمقدار مناسب کھائین ہمراہ شیر ماہی بوقت صبح دیتے رہین — اگر حاجت ہو تو جونکین بھی لگا دین — اگر زخم ہو تو مرہم — فیلاب لگا دین — جو سیاہ ہو جاتی ہے

علاج بخار و ورم — سعفہ — ہندیمین لکھی ہین اول فصد یسار رو وسہال سے تنقیہ بدن کرین — پھر جونک لگا دین **آخر** حنا اکیلا یا وحی غیری خشک ہر ایک ۱ تولہ نیلا تھوتھا ۴ ماشہ پیس کر کپڑے مین چھان کر روغن مین ملا کر لگاوین جس سے خارش رفع ہو جاتی ہے **آخر** سوختہ نیلا تھوتھا سوختہ مسی سیاہ سوختہ ہر ایک ۶ ماشہ کف دریا ۳ ماشہ سب کو بریان کرکے روغن زیتون مین ملا کر لگاوین **آخر** آرد جو ۵ تولہ نیلا تھوتھا بریان ایک گولہ ملا کر سفوف بناوین اور مرہم تیار کرین بستر مین لگا کر ایک ہفتے رکھین لیکن اس سے پہلے کرو واشی مذکورہ لگا دین

باب بارہوان امراض دوالی کی بابت اور بنات بمعہ بیماری ادویہ ادر

اس مین تین فصل ہے — جب ہوا ساکن ہو یا مقام مسہل بدل کر مسافر کو سفر مین بعض اوقات ہو جاتی ہے

فصل اول حیوانی بابت — ملاحظات ادویہ بار بار لمبی کے

۱ حب ہاضم و مشتہی و خوشبو ایضاً صفت الایچی خورد دارچینی ہر یک ۳ ماشہ نمک سمندر نمک سونچر جوکھار سہاگہ کشنیز پیپلا مول پیپل زیرہ سیاہ زیرہ سفید زنجبیل ہیرج ہالیسر تالیسر ہر یک ۶ ماشہ چوک ترش ۲ تولہ انار دانہ ہشت تولہ کوٹکر چھانکر آب لیمو مین بقدر نخود گولیان بناوین۔ خوراک چار پانچ گولی۔

۲ حب۔ دافع درد و ریاح اور مشتہی صفت سہاگہ تلیہ جوکھار نوشادر ہر یک ۶ ماشہ نمک سیندہ نمک سونچر نمک سانبھر ہر یک یکتولہ زنجبیل فلفل دار فلفل ہر یک ۲ تولہ ہلیلہ بلیلہ آملہ ہر یک چہار تولہ کوٹ کر چھانکر آب لیمو مین بقدر کنار صحرائی کے حبوب بناوین خوراک دو حب در صورت قبض حب خواہ اول یا بعد طعام۔

۳ حب ہاضم و مشتہی و دافع درد شکم صفت دار فلفل زنجبیل فلفل آملہ بلیلہ ہلیلہ ہر یک ۳ تولہ تربد سفید مجوف خربق سیاہ نمک حام ہر یک ۵ ماشہ ۵ تولہ کوٹکر چھانکر آب لیمو مین بقدر کنار حبوب تیار کرین۔ خوراک دو حب۔

۴ حب ہاضم و مشتہی صفت سہاگہ بریان نوشادر جوکھار ہر یک یکتولہ نمک سیاہ نمک لاہوری ہر یک ۲ تولہ پیپل زنجبیل مرچ سیاہ نمک ترب ہر یک ۳ تولہ پوست ہلیلہ زرد پوست بلیلہ آملہ مقشر ہر یک چہار تولہ کوٹ کر چھانکر ظرف چینی مین ڈالکے آب لیمو مین جو بقدر دو انگشت بالای ادویہ ہو ترکرین جب آب مذکور جذب ہو جاوے بوزن یک یکماشہ حبوب بناوین۔ خوراک ایک حب بعد غذا۔

۵ حب۔ ہاضم و مشتہی صفت کشنیز خشک بادیان نانخواہ زنجبیل فلفل گرد ہر یک ۶ تولہ فلفل دراز ہلیلہ آملہ بلیلہ زیرہ سیاہ و سفید ہر یک شش ماشہ دارچینی نمک سانبھر نمک سیاہ نمک سونچر دانہ ہیل یک یکتولہ آب لیمو یک آثار۔

۶ حب ترش۔ ہاضم و مقوی معدہ و خوشبو صفت

ابی ریشہ ملیٹ اتار نہایت باریک پیفر یا چھ پیٹر پرسکے ایک شب و روز پانی میں تر کرکے باہر
دور کرین ساتھ آٹھ مرتبہ ایسا ہی کرین جب تخم بہت خوب سفید ہو نمک لاہوری
نیم پاؤ پیسکر ملا کر آب لیموں میں جو دو انگشت بالای دوا ہو تر کرین جب خشک ہو نمک
دیکھیں اگر کم ہو دو تولہ نمک اور لیموں ڈالا ... میں ... نا ... کے
خشک کرین غرض کہ اسیطرح چار مرتبہ دوا میں آب لیموں جذب کرائے بقدر ... کو ...
۷ حب مشتہی صفتہ فلفل سیاہ نمک ... ہر یک یکتولہ کوٹکر ...
کلاک یکتولہ میں بقدر نخود حبوب بناوین خوراک یکحب ہمراہ آب۔
۸ سفوف نعناع مقوی معدہ و دافع ریاح و بادو نفخ شکم صفتہ پودینہ خشک
... پنجتولہ فلفل سیاہ ہفت تولہ نمک سماق ہر یک ہفت ... تولہ سفوف بناوین
خوراک تین ماشہ تا ماشہ پہلے یا پیچھے غذا کے۔
۹ سفوف شیرین مشتہی و دافع ذرب و تپ مرکب صفتہ قرنفل دانہ الائچی
کلان ... ناگیسر دارچینی مرچ گنگول زنجبیل فلفل دراز میترا خسن بالچھڑ صندل سفید
... طباشیر کنول گٹہ زیرہ سیاہ و سفید تج پترج ہر یک پنجماشہ کافور قیصوری
یکماشہ نبات سفید ہموزن ادویہ سفوف تیار کرین۔ خوراک پنجماشہ ہمراہ آب۔
۱۰ سفوف تمالہ ہاضم و مشتہی محلل ریاح صفتہ زرد چوبہ دو نیم ماشہ پوست
بیخ کبر چار دہ ماشہ تخم کشوث مصطگی ہر یک یکتولہ بادیان پوست بیخ کرفس ست و
یکماشہ گل بنفشہ دو تولہ انیسون دو نیم تولہ بیخ سوسن پنجتولہ بادیان ہفت و نیم تولہ
شکر ہمچند ادویہ سفوف بناوین۔
۱۱ سفوف ہاضم و مشتہی مقوی معدہ صفتہ ہلیلہ زرد ہلیلہ کابلی ... دانہ ہیل
دار فلفل کشنیز خشک زنجبیل ترنج سفید ہر یک ششماشہ ... دارچینی قرنفل

پوست اترج سنبل الطیب زیرہ سفید تج بترج ہریک سہ ماشہ ہلیلہ سیاہ سماق گلسرخ
بادیان مصطگی پودینہ نانخواہ طباشیر شیطرج ہریک چار ماشہ کچری بریان انار دانہ ہر
یک ہفت ماشہ نمک سیاہ نمک لاہوری ہریک تولہ سبکو آب لیمو کہ بار نخود مین جو
دو انگشت اوپر ہو اسکے ہمراہ ترکرکے خشک کرین اور کوٹکر چہانکر سفوف بناوین —

۱۱ سفوف معروف نمک سلیمانی مقوی معدہ و جاذب دو شہر مرغن
دیتی ہی ہے **صفتہ** نمک سانبھر نیم آثار نمک سنگ نفشادر ہریک پنجتولہ
ماشہ نمک اندرانی پاو کم چہار تولہ نیکوب کرکے پانی مین ملاکر ظرف گلی مین آتش ملایم
پر جوش دیکر تنور مین رکھین جو منجمد ہو جائے پہر اوسے مفصلہ ذیل کوٹ کر چہانکر اوسمین
ملاوین تخم کرفس بیست و دو ماشہ وچہار سرخ فلفل سیاہ چہار دہ و نیم ماشہ
سفید سیزدہ و نیم ماشہ فقاح اذخر ہفت ماشہ افتیمون سنبل الطیب زیرہ
ہریک پاو کم ہفت ماشہ دارچینی تخم انجدان تخم معصفر زنجبیل انیسون
مقل ہریک سہ و نیم ماشہ — **خوراک** یکماشہ تا دو ماشہ —

فصل دوم مین ادویات مسہلہ مین اور مشتمل ہے اوپر چہار نمبر کے

۱ جوارش شہریاران دافع قولنج و برودت جگر و معدہ و عسر بول **صفتہ**
قرنفل قرفہ دارچینی سلیخہ سنبل الطیب جوزبوا مصطگی قاقلہ حب بلسان زعفران
ہریک چار و نیم ماشہ سقمونیا ماشہ تربد سفید مجوف خرشہیدہ حب النیل کلہ ہشت ماشہ
قند سفید بوزن ادویہ کوٹ کر چہانکر شہد مین ملاوین **خوراک** یکنیم تولہ تا دو تولہ ہمراہ آب گرم
۲ حب مسہل عصارہ ریوند چار تولہ گلاب یکپاو مین کہرل کرکے بقدر نخود حب
بناوین **خوراک** ایک یا دو حب ہمراہ گلاب یا عرق بادیان نیم گرم —

۳ سفوف [illegible] تا اخراج اخلاط ثلاثہ کرے دفع [illegible] شکم و قولنج و [illegible] صفت [illegible] سنا کی [illegible] طیلہ زرد نمک [illegible] مساوی سفوف بنا دین خوراک [illegible] ماشہ [illegible]

۴ سفوف تربد شکم روان کری اور معدہ کو قوت دی صفت سنا کے انار دانہ ہریک بیست و یک و نیم ماشہ زنجبیل نمک ہندی تربد سفید بادیان ہریک ہفت ماشہ کوٹ کر چھانکر سفوف بنا دین خوراک نہ ماشہ بآب گرم بوقت خواب اور ایکتولہ بوقت صبح بآب گرم

فصل سیوم میں فہرست مرکبات غیرہ مندرجہ کتاب ہذا بترتیب حروف تہجی تحریر ہے اور مشتمل ہے اوپر بیس چھپیس ۲۶ نمبر کے

نمبر اول - الف ۱ اطریفل کشنیزی در صداع [illegible] و علاج سائر انواع صداع دوار و کابوس ۲ اطریفل کشنیزی دیگر در آواز سخت ناگوار گوش ۳ ادویہ عرق آور در فصل دوم از باب ہشتم علاج مرد اسنگ ۴ ادویہ مدرہ در ایضا ۵ آبزن آرد جو در مثانہ

نمبر دوم - الباء عربی - ۱ بردو حصرم در روز کورہ ۲ باسلیقون در کمتہ ۳ برشعثا در درد دندان ۴ بناد ق البزور در جرب گردہ -

نمبر سیوم - بای فارسی ۱ پاشویہ در درد سر ۲ پچکاری پہٹکری در حرقت بول ۳ پچکاری اطریفل در ایضا -

نمبر چہارم - تای فوقانی ۱ تریاق اربعہ در ورم معدہ ۲ تریاق در قاعدہ سیوم فصل دوم باب ہشتم علاج زہرہ بوز ۳ تریاق مختوم در ایضا علاج عرق دواب -

نمبر پنجم - جیم ۱ جوارش مصطکی در سیلان لعاب دہن ۲ جوارش عود

در بخر ۳ جوارش لیمونی در درد معده ۴ جوارش آمله در نقصان شهوت ۵
جوارش شهریاران در فصل دوم باب هذا۔

نمبر ششم۔ جیم فارسی ۱ چوه سندهی در نقصان باه۔

نمبر هفتم۔ حای مهمله ۱ حب ایارج در لقوه ۲ حب شبیار در ایضاً
۳ حب افتیمون در مالیخولیا ۴ حب بنفشه در نزله و زکام ۵ حب گیرو در رمد و سبل
۶ حب سبز در ایضاً ۷ حب هلیله در ایضاً ۸ حب دافع چرک و ظلمت چشم در ضعف
بصر ۹ حب مقوی بصر در ایضاً ۱۰ حب کثیر المنفعت در نمبر ۳۰ علاج چشم ۱۱
حب عود در بخر ۱۲ حب کافوری در ایضاً ۱۳ حب ابتدای خناق در علاج مسافرانه
حلق و لهات وغیره ۱۴ حب مدمله قرحه حلق در ایضاً ۱۵ حب گل پسته در سرفه
۱۶ حب سندروس در بواسیر ۱۷ حب مقل در ایضاً ۱۸ حب سورنجان در نقرس ۱۹
حب الاغاویه در حمیات ۲۰ حب سنکار در علاج مسافرانه معده ۲۱ حب ریبوع در جذام
۲۲ حب ابن حارس در برص ۲۳ حب هاضم و مشتهی در فصل اول باب هذا ۲۴ حب
مسهل در فصل دوم باب هذا ۲۵ حمول جدوار در ورم رحم ۲۶ حمول مازو در سیلان رطوبت فرج

نمبر هشتم۔ خای معجمه ۱ خمیره خشخاش در نزله و زکام ۲ خمیره گاوزبان
عنبری در علاج مسافرانه ضعف دماغ ۳ خمیره گاوزبان دیگر در ایضاً ۴ خمیره
مروارید در آواز سخت ناگوار گوش ۵ خمیره صندل در خفقان ۶ خضاب در شیب

نمبر نهم۔ دال مهمله ۱ دوای المسک حار در لقوه ۲ دوای در ثقل
در معده ۳ دوای سفرجلی در نقصان شهوت ۴ دوای تفاحی در ایضاً
۵ دوای سنکار در ورم طحال ۶ دوای هندی در اسهال ۷ دوای سماق
در ایضاً ۸ دوای بهنگ در مغص ۹ دوای سم الفار در بواسیر ۱۰ دوای

[illegible] در درد گرده ۱۱ دواء المسک در نقصان باه ۱۲ دواء [illegible] ایضاً ۱۳ دواء

امساک [illegible] در حمیات ۱۴ دوای حابس عرق در کثرت عرق ۱۵ دوای شب یابی در [illegible]

[illegible] بوی بغل ۱۶ دیگ بر دیگ در [illegible]

[illegible] سوال معجمه ۱ [illegible] در قروح چشم ۲ [illegible]

[illegible] در رعشه دهن ۴ [illegible] در لسان العصافیر ایضاً ۵ [illegible]

[illegible] یازدهم راء مهمله ۱ روغن گل در درد سر ۲ روغن [illegible]

[illegible] ۳ روغن بادام شیرین و تلخ ایضاً ۴ روغن مغز تخم کدو ایضاً ۵ روغن

بنفشه [illegible] ۶ روغن کدو در نزله و زکام ۷ روغن بابونه در درد گوش ۸ روغن

سوسن ایضاً ۹ روغن ترب ایضاً ۱۰ روغن قسط در دوی طنین ۱۱ روغن

بنفشه بادام و روغن نیلوفر بادام در رعاف ۱۲ روغن نرگس در ضیق النفس ۱۳ روغن

[illegible] ۱۴ روغن مصطکی در کرب و قلق معده ۱۵ روغن عقرب در درد [illegible]

۱۶ روغن [illegible] در درد مثانه ۱۷ روغن [illegible] سرد دل ۱۸ روغن [illegible]

در نقصان باه ۱۹ روغن [illegible] در نقصان باه ۲۰ روغن [illegible] در تقطیع [illegible]

روغن [illegible] مفاصل ۲۱ روغن [illegible] انتشار شعر ۲۲ روغن [illegible] در علاج

[illegible] ۲۳ [illegible] ۲۴ روغن [illegible]

[illegible] دوازدهم [illegible]

[illegible] ۲ سفوف [illegible] ۳ [illegible]

[illegible] سفوف [illegible] سفوف [illegible]

در درد گرده ۸ سفوف [illegible] ایضاً ۹ سفوف [illegible] ۱۰ [illegible]

سفوف [illegible] ایضاً ۱۱ سفوف [illegible] در نقصان باه ۱۲ سفوف [illegible]

دردرو بینی ونزی وودی ۱۳ سفوف چہال ثوالک دربند کشاد ۱۴ سفوف حب الرمان
درحمیات ۱۵ سفوف عشبہ درآتشک ۱۶ سفوف چوب گز درجرب وحکہ ۱۷ سفوف
ارسطو درضعف معدہ اطفال ۱۸ سفوف ہاضم ومشتہی ونمک سلیمانی در فصل اول باب ہذا
۱۹ سفوف مسہل در فصل دوم باب ہذا ۲۰ سفوف سنا درایضا ۲۱ سفوف تربد
درایضا ۲۲ سفرجلی مسہل درقولنج ۲۳ سکنجبین سادہ وعسلی در بخار ۲۴ سکنجبین بزوری
دراستسقا ۲۵ سکنجبین عنصلی درجذام ودمہ ودر مثانہ ۲۶ سکنجبین سفرجلی درحمیات
۲۷ سکنجبین بزوری معتدل درایضا ۲۸ سکنجبین بزوری گرم درایضا ۲۹ سکنجبین
طحالی درورم طحال اطفال ۳۰ سکنجبین افتیمونی درحمیات اطفال ۳۱ سنون
زرد دردرد دندان ۳۲ سنون نیلہ تھوتھہ درتحرک اسنان ۳۳ سنون پوست
مغیلان درایضا ۳۴ سنون کرسنہ درایضا ۳۵ سنون مجلی درایضا ۳۶ سنون
حب الغار درآب فتن دندان ۳۷ سنون سپاری چہالیہ درخون ازلثہ ۳۸ سنون
محکم کنندہ دندان وعلاج سافرانہ دندان -

نمبر سیزدہم - شین منقوطہ ۱ شربت بنفشہ وشربت نیلوفر دردردسر
۲ شربت انار دراستسقا ۳ شربت بزوری درایضا ۴ شربت بزوری حار
دردرم مثانہ ۵ شربت غورہ درحمیات ۶ شربت لیمو درایضا ۷ شربت
انار شیرین درایضا ۸ شربت سیب درایضا ۹ شربت ترنج درایضا ۱۰ شربت
دردکمر درایضا ۱۱ شربت افسنتین درایضا ۱۲ شموم درآواز سخت ناگوار گوش ۱۳
شیاف دربیاض چشم ۱۴ شیاف کندر درقروح چشم ۱۵ شیاف دافع
جرب وغیرہ دردمعہ ۱۶ شیاف دافع شعر زائد وغیرہ درسلاق ۱۷ شیاف عنز
درغرب ۱۸ شیاف احمر لین در رمد ۱۹ شیاف احمر حاد درایضا ۲۰ شیاف

اسود ایضا ۲۱ شیاف ابیض در قروح مثانه ۲۲ شیاف جوزبویه زعفر

لمعه چهاردهم ضماد معجمه ۱ ضماد حب السلاطین در بواسیر الانف ۲ ضماد
کلنار در ورم لب ۳ ضماد طین قیمولیا در پستان درد شوند ۴ ضماد شحوم در
ایضا ۵ ضماد زعفران در ورم معده ۶ ضماد صبر ایضا ۷ ضماد قرنفل [illegible]
کلبی ۸ ضماد تلسخ و شحوم بقری ۹ ضماد عود هندی ۱۰ ضماد لعاب [illegible] ایضا
۱۱ ضماد پوست انار در کرب قلق معده ۱۲ ضماد سماق در وجع فواد ۱۳ ضماد سنبل ا
در استسقا ۱۴ ضماد چوب انگور در ورم طحال ۱۵ ضماد [illegible] تین یرقان اسود ۱۶
ضماد اقاقیا در اسهال ۱۷ ضماد [illegible] ایضا ۱۸ ضماد زرده تخم مرغ در درد گرده
۱۹ ضماد صندل در ذیابیطس ۲۰ ضماد [illegible] در ورم مثانه ۲۱ ضماد شیریش در
ورم حسم ۲۲ ضماد حنظل یا در کثرت طمث ۲۳ ضماد اقلیمیا در بواسیر رحم ۲۴ ضماد
تشا کنندر در فتق ۲۵ ضماد [illegible] در وجع مفاصل ۲۶ ضماد صابون ایضا ۲۷
ضماد قسط در وجع [illegible] ۲۸ ضماد شبت در نقرس ۲۹ ضماد خطمی در بیله ۳۰ ضماد کبریت
در جرب و حکه ۳۱ ضماد کمیله در سحج جلد ۳۲ ضماد سرطان نهری در نفخ انثیین ۳۳
ضماد عدس در کسر عظم ۳۴ ضماد کاسنی سبز در فساد گوشت ۳۵ ضماد فلفل [illegible]

لمعه پانزدهم سطائی مهمله ۱ طریق سهل در درد سر ۲ طریق [illegible]
و شیر بز و ماء الشعیر و ماء [illegible] ۳ طریق استعمال [illegible] و بول [illegible]
۴ طریق آب باران تنگ سبز مرده [illegible] ایضا ۵ طریق اندفان [illegible] ایضا ۶ طریق
دریافت غلبه غلظ و سیلان رطوبت [illegible] ۷ طریق [illegible] ۸ طریق شناخت
حالت منی ایضا ۹ طریق عرق آوردن در حمیات ۱۰ طریق استعمال [illegible]
در آتشک ۱۱ طریق استعمال عشبه ایضا ۱۲ طریق خوردن [illegible]

۱۳ طریق استعمال مخلصه در فصل اول از باب هشتم ۱۴ طلا سنوم در درد سر ۱۵ طلای کنده در پستان خورد شوند ۱۶ طلای انار در ایضا ۱۷ طلای علق در عقر ۱۸ طلای صبر در داء الفیل ۱۹ طلای نرد در وجع مفاصل ۲۰ طلای حکاکه اشیاء در سرطان ۲۱ طلای سفیده در ایضا ۲۲ طلای نمله در نمله ۲۳ طلای سنکار در قوبا ۲۴ طلای سنکار دیگر در ایضا ۲۵ طلای مرداسنگ در سحوج بلد ۲۶ طلای حکاکه اسرب در ایضا ۲۷ طلای گندک در داء الثعلب و داء الحیه ۲۸ طلای شیح در انتشار شعر ۲۹ طلای برگ دفلی در قمل ۳۰ طلای کافور در بدبوی بغل ۳۱ طلای گل ارمنی در سوختگی آتش وغیره ۳۲ طلای زراوند در نشوک شوک ۳۳ طلای آس در سقطه و ضربه ۳۴ طلای مغاث در وثی و وهن ۳۵ طلای جرب در جرب و حکه۔

نمبر شانزدهم۔ **عین مهمله** ۱ عرق نافع در ضعف معده و هاضم و علاج مسافرانه معده ۲ علامت مستی عورت در عقر ۳ علامت منی مولد ۴ علامت حمل۔

نمبر هفدهم۔ **غین معجمه** ۱ غرغره کوکنار در نزله و زکام ۲ غرغره کوکنار دیگر در لهاه افتاده ۳ غسول نوشادر در قمل ۴ غسول سبوس گندم در انتفاخ اعضاء

نمبر هجدهم۔ **فا** ۱ فتیله زاج در بواسیر انف ۲ فرزجه نعناع در حکه رحم ۳ فرزجه زعفران در عقر ۴ فرق در رطوبت منی و سیلان منی ۵ فرق بلغمیه در حمی لثقه ۶ فرق مجرقه و مطبقه و محرقه صفراوی ۷ فرق نغب دائره محرقه در غب دائره ۸ فلد فیون در کله۔

نمبر نوزدهم۔ **قاف** ۱ قرص مثلث در درد سر ۲ قرص کهربا در نفث الدم ۳ قرص گلنار در ایضا ۴ قرص سرطان در سل ۵ قرص کافور در خفقان ۶ قرص زرشک در سده جگر ۷ قرص مصطفی در ایضا ۸ قرص کبید در ورم طحال ۹ قرص

طباشیر قابض در اسہال ۱۰ قرص عود در ایضاً ۱۱ قرص کاکنج در درد گردہ ۱۲ قرص
ذیابیطس در ذیابیطس ۱۳ قرص شب در حرقت بول ۱۴ قرص گل در حمیات ۱۵ قرص
طباشیر ملین در علاج مسافرانہ حمیات ۱۶ قرص بنفشہ در شرناق الاطفال ۱۷
قرص طباشیر مرکب در ناف معدہ ۱۸ قیروطی عنب الثعلب در ذات الجنب ۱۹
قیروطی تخم کتان در ورم پستان ۲۰ قیروطی کاسنی در ورم مثانہ۔

المبحث بستم ـ کاف ۱ کحل در بیاض چشم ۲ کحل در خیالات ۳ کحل در نزول الماء
۴ کحل در دمعہ ۵ کحل در ضربۃ چشم ۶ کحل در ضعف بصر ۷ کحل الجواہر در ایضاً
۸ کشتہ ہڑتال در علاج مسافرانہ امراض صدر و آلات تنفس ۹ کلکلانج بارد
در استسقا ۱۰ کلکلانج حار در ایضاً۔

المبحث بست و یکم ـ کاف فارسی ۱ گلقند شکری و عسلی در سیلان لعاب
دہن ۲ گہرہ در مدو سبل۔

المبحث بست و دوم ـ لام ۱ لبوب کبیر در نقصان باہ ۲ لبوب صغیر در علاج مسافرانہ
ضعف گردہ ۳ لعوق نزلہ در ضیق النفس ۴ لعوق معتدل در ایضاً ۵ لعوق
گاؤزبان در ایضاً۔

المبحث بست و سیوم ـ میم ۱ ماء العسل در تقویت معدہ ۲ ماء الہندبا در طپش و ورم
۳ ماء عنب الثعلب در طپش در ایضاً ۴ ماء الشعیر در ایضاً ۵ ماء الجبن در حمیات ۶
ماء الہندبا بالبرد در ایضاً ۷ مثرودیطوس در مالیخولیا ۸ مرہم زنگار در بواسیر انف
۹ مرہم سفیدہ در قروح انف ۱۰ مرہم کبریت در سعفا ۱۱ مرہم سفیداب کافوری
در بواسیر ۱۲ مرہم کوہان شتر در ایضاً ۱۳ مرہم داخلیون در ورم مقعد ۱۴ مرہم ابیض
در شقاق مقعد ۱۵ مرہم اسود در قروح مقعد ۱۶ مرہم زعفران در ورم رحم ۱۷ مرہم

شموم و ایضا ۱۸ مرہم باسلیقون در قروح و تبور جسم ۱۹ مرہم رسوت در
قلع بواسیر ۲۰ مرہم زرد در ایضا ۲۱ مرہم خل در ایضا ۲۲ مرہم رال در سوختگی آتش وغیرہ
۲۳ مرہم لسان سگ در جراحت ۲۴ مسہل بارد در درد سر ۲۵ مسہل گرم در لقوہ
۲۶ مضمضہ کافور در جوشش دہن ۲۷ مضمضہ اسپغول در ایضا ۲۸ مضمضہ املیات
ایضا ۲۹ مضمضہ مغز فلوس در ایضا ۳۰ مضمضہ حرمی در اکلہ ۳۱ مضمضہ در روے
سیلان لعاب دہن ۳۲ مضمضہ مازو در بخر ۳۳ مضمضہ بورہ در خشکی زبان ۳۴
مضمضہ عاقرقرحا در بطلان ذوق ۳۵ مضمضہ بیاسے در ایضا ۳۶ مضمضہ عدسی
در درد دندان ۳۷ مضمضہ بابرنگ در ایضا ۳۸ مطبوخ برگ نیم در آتشک ۳۹ معجون
سیر در لقوہ ۴۰ معجون طلا و علاج مسافرانہ قلب ۴۱ معجون تمر در ایضا
۴۲ معجون بیدالورد در استسقا ۴۳ معجون حجر الیہود در درد گردہ ۴۴ معجون
فلاسفہ در سلسل البول ۴۵ معجون نر در نقصان باہ ۴۶ معجون زرعونی در
ایضا ۴۷ معجون سورنجان در وجع مفاصل ۴۸ معجون عشبہ در ایضا ۴۹ معجون راحت
در حمیات ۵۰ معجون ماسک البول در ذیابیطس ۵۱ مفرح بارد در مالیخولیا ۵۲ مفرح
حار در ایضا ۵۳ مقی تخم ترب در نقصان شہوت ۵۴ منضج بارد در درد سر ۵۵ منضج
گرم در لقوہ ۵۶ مطولات و معظمات و ملذذات و منعظات و منزلات در علاج امراض ذکر
۵۷ ملذذات و مدرات حیض و منزلات زن مجففات و مضیقات و مبکرات و مطیبات
و محبلات و مقویات رحم مسقطات و مانعات حمل - در آخر علاج مخصوصہ زنان -

لمبریست چہارم - نون ۱ نزلہ بند در نزلہ و زکام ۲ نطول بابونہ در ورم
پستان ۳ نطول گل شبو در درد گردہ ۴ نفوخ در نزول الماء ۵ نفوخ سعد
در بہبود یافتن شو و خشبو نشو -

البیت و پنجم ۔ [illegible] وجود [illegible] صلیب در علاج مسافرانہ سے ۔

خاتمہ مشتمل ہے او پر [illegible] بیان کے

بیان اول میں اجمال فضائل و فرضیت حج کا ہے

۔ واضح ہو کہ حج مانند نماز و روزہ و زکوٰۃ کے فرض [illegible] جملہ ارکان اسلام کے ہے ۔ [illegible] آل عمران میں [illegible] ہے وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ترجمہ ۔ خدا کی بندگی کے لیے فرض ہے لوگوں پر قصد کرنا خانہ کعبہ کا [illegible] طاقت رکھتا ہو وہاں تک راہ چلنے کی ۔ [illegible] سورۂ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ترجمہ [illegible] پکار تو [illegible] لوگوں میں حج کے لیے آوینگے تیری پاس پیادے اور [illegible] اونٹوں پر [illegible] اور آوینگے [illegible] دور سے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے [illegible] وما یبلغ دعوتی ترجمہ [illegible] پہنچیگی آواز میری ۔ جناب باری سے ارشاد ہوا [illegible] علیک الاذان وعلینا البلاغ ترجمہ ۔ تیرا کام پکارنا ہے پہنچا دینا ہمارا کام ہے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام پر کھڑے ہو کر یہ پکارا اور مقام جگہ ہے [illegible] سب [illegible] دنیا [illegible] گیا یا ایھا الناس ان ربکم قد بنی لکم بیتا واوجب علیکم الحج فاجیبوا ربکم ترجمہ ای لوگو خبردار تحقیق پروردگار تمہارے نے بنایا تمہارے لیے گھر اور فرض کیا تم پر حج پس قبول کرو حکم پروردگار کا ۔ تب ہر شخص نے باپ کی پیٹھ یا ماں کے شکم میں کہ جسکے نصیب میں حج تھا یہ بولا لبیک اللھم لبیک ۔ کہتے ہیں کہ جسنے ایک بار جواب دیا ایکبار حج ادا کریگا

جسنے دو بار جواب دیا دو بار الغرض جتنے بار جسنے جواب دیا ہے اوتنی ہی بار حج ادا
کریگا اور جسنے جواب نہیں دیا وہ حج سے محروم رہیگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ
عنہ فرماتے ہین کہ سب سے پہلے اہل یمن نے جواب دیا اسواسطے یمنی بکثرت حج کرتے
ہین۔ پس اس آیت شریف سے فرضیت حج کی دو طرح پر ثابت ہے اوّلاً
جب خداوند کریم دوسرے شریعت کا حکم بیان فرماکر منسوخ نفرماوی تو وہ حکم ہم پر
بھی لازم ہوتا ہے ثانیاً بقول بعض مفسرین اگر اس آیت کی مخاطب ہمارے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہین تو فرضیت حج کے بلاتکلف ثابت ہے۔

۳ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم
مین مندرج ہے کہ فرمایا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بُنِیَ الاِسلامُ عَلیٰ خَمسٍ
شَہادۃُ اَن لا اِلٰہَ اِلّا اللّٰہُ واَنَّ مُحَمَّداً عَبدُہٗ وَرَسُولُہٗ وَ
اِقامُ الصَّلوٰۃِ وَاِیتاءُ الزَّکوٰۃِ وَالحَجُّ وَصَومُ رَمَضانَ ترجمہ
بنیاد اسلام کی اوپر پانچ چیز کے ہی ایک گواہی اسبات کے کہ نہیں ہے کوئی معبود
مستحق سوای اللہ کے اور تحقیق محمد بندہ اور رسول اوسکے ہین دوسرے ہمیشگی
نماز کا تیسرے دینا زکوۃ کا چوتھے حج پانچوین روزہ رمضان کے۔ پس اس حدیث
سے ظاہر ہے کہ حج ارکان اسلام سے ہے مانند نماز و روزہ کی۔ جو کوئی باوجود قدرت
حج نکرے اوسکا اسلام پورا نہیں کس لئے کہ چیز بدون جمیع ارکان کے تمام نہین ہوتی

۴ حضرت سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے جامع ترمذی
مین ہے کہ فرمایا رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والثنا نے مَن مَلَکَ زاداً وراحِلَۃً
تُبَلِّغُہٗ اِلیٰ بَیتِ اللّٰہِ وَلَم یَحُجَّ فَلا عَلَیہِ اَن یَمُوتَ یَہُودِیّاً
اَو نَصرانِیّاً ترجمہ جو شخص مالک ہوا توشہ و سواری کا جو پہونچاوی اوسکو بیت اللہ

تک اور وہ حج نکرے پس نہیں فرق نہیں دوسری طرح مرے یہودی یا نصرانی یعنی اوسکا
اور یہود اور نصرانی ہونا برابر ہے کیا معنی کہ یہود و نصاری حج کے قائل نہیں۔ اس
حدیث سے فرضیت حج کی اسلئے ثابت ہے کہ جس فعل کے نکرنے پر وعید وارد ہوتی ہے
اوسکا کرنا لازم ہوتا ہے۔ بقول صاحب ترمذی یہہ حدیث غریب ہے لیکن اور سندیں
بھی اسکی ہیں چنانچہ مسند دارمی میں ابی امامہ سے منقول ہے قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ مَنْ
لَمْ یَمْنَعْہُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَۃٌ ظَاھِرَۃٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ
حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ یَحُجَّ فَلْیَمُتْ اِنْ شَاءَ یَھُوْدِیًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِیًّا
ترجمہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسکو منع نکرے حج کرنے سے کوئی حاجت
ظاہری یا بادشاہ ظالم یا روکنیوالا مرض پس مر گیا اور حج نکیا تھا پس مرے چاہے یہودی
ہوکر یا نصرانی بنکر۔

حاصل یہہ ہے کہ آیت و حدیث مذکورہ سے فرضیت حج کی ثابت ہے مگر تمام عمر
میں ایکبار فرض ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا
جناب رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں یَا اَیُّھَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ
عَلَیْکُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ اَکُلَّ عَامٍ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ
فَسَکَتَ حَتّٰی قَالَھَا ثَلٰثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَ
لَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِیْ مَا تَرَکْتُکُمْ فَاِنَّمَا ھَلَکَ
مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِکَثْرَۃِ سُؤَالِھِمْ وَاخْتِلَافِھِمْ عَلٰی
اَنْبِیَائِھِمْ فَاِذَا اَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَاْتُوْا مِنْہُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا
نَھَیْتُکُمْ عَنْ شَیْءٍ فَدَعُوْہُ ترجمہ اے لوگو فرض کیا گیا تمپر حج پس حج کرو پس
عرض کیا ایک مرد نے آیا ہر سال فرض ہے یا رسول اللہ پس چپ رہے آپ یہانتک

یہانتک کہ اوسنے وہی بات تین بار کہی تب فرمایا اگر کہتا مین ہان بیشک واجب ہوجاتا ہرسال اور البتہ طاقت نرکھتی تم اداکرنیکی۔ بموجب حدیث ابن عباس کے مراد مستفسر اقرع بن حابس ہے۔ مسند احمد ونسائی وسنن دارقطنی مین بسبب روایت عبداللہ بن عباس حدیث مذکورہ مین اسقدر زیادہ ہے وَالْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ ترجمہ اور حج تمام عمر مین ایکبار فرض ہے پس جو زیادہ کرے وہ نفل ہے۔

ف ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داؤد مین مروی ہے کہ فرمایا جناب سید المرسلین خاتم النبیین علیہ السلام نے مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ ترجمہ جو قصد حج کا رکھتا ہو شتابی کرے یعنی جس سال مین اوسپر فرض ہوا اوسی سال مین بجالاوے یا سفر مکہ کیطرف کرے۔

ف منسک کرمانی مین روایت ہے کہ فرمایا آنحضرت صلواۃ اللہ علیہ نے تَعَجَّلُوْا فِي الْحَجِّ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ لَهٗ ترجمہ یعنی شتابی کرو حج مین اسواسطے کہ کوئی تمہارا نہین جانتا ہے کیا چیز عارض ہوگی اوسکو۔ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف و امام مالک علیہم الرحمۃ کا مگر امام محمد وامام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک فی الفور واجب نہین۔ یہہ اختلاف اس صورت مین ہے کہ ظن غالب سلامتی کا ہوا اور جو بسبب مرض یا ضعیفی کے ظن غالب ہلاک کا ہو تو بالاتفاق فی الفور واجب ہے۔ اگر قبل مرنیکے حج کیا تو ادا ہوا اور گناہ جاتا رہا بالاتفاق۔ اگر بدون حج کرنیکے مرا بالاتفاق گنہگار رہا۔ فوروالی دیر کرنیوالی کو فاسق و مردود الشہادت کہتی ہین بخلاف تراخیوالون کے مگر استطاعت بالاتفاق شرط ہے۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کے ادا کرنے مین تراخی کی ہے یعنی آنحضرت علیہ السلام پر چھٹے سال حج فرض ہوا اور دسوین سال ادا کیا۔ فوروالی کہتی ہین کہ یہ تراخی ضرورت کے

جبت سی تھی پس استطاعت ثابت نہین ہوئی ۔

۸ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت سی صحیح بخاری و صحیح مسلم مین ہے **العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ** ترجمہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک گناہ بخشواتا ہے اور حج مبرور کے نہین جزا مگر جنت ۔ حج مبرور یعنی حج مقبول علامت اسکی یہہ ہے کہ حاجی اون تیئن گناہون سی بچاوی اور حج اوسکا خالی ریا اور شہرت سے محض خدا کے لئے ہو بقول بعض محدثین اگر حاجی کے افعال و صفات بعد حج کے پہلی سے اچھی ہوجاوین تو حج مقبول ہے والا نامقبول ۔

۹ صحیحین مین ابوہریرہ سی روایت ہے کہ جس نے خدا کیواسطے حج کیا اور عورتون سے جو اس کے بات چیت نکی اور برا ہونیسی ڈرکر و جہگڑا نکیا وہ پہرتے وقت ایسا پاک ہو گیا کہ گویا اوسی روز شکم مادر سی نکلا ہے ۔

۱۰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سی جامع ترمذی مین روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے **تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الذنوب والفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضۃ** ترجمہ ساتھ کرو حج اور عمرہ کو اسواسطے کہ یہہ دونو دور کرتے ہین گناہون اور محتاجی کو جیسے دور کرتے ہے بہٹی میل لوہے اور سونے اور چاندی کو اسی کتاب مین مذکور ہے کہ جس نے طواف کیا کعبہ کا سات پہیرے تو لکہیگا اللہ تعالی بدلہ ہر طواف کے ثواب آزاد کرنے دس غلام کا اولاد حضرت اسمعیل علیہ السلام سی اور جس نے سعی کے صفا مروہ مین ثابت رکھیگا اللہ قدم اوسکے پل صراط پر ۔ عقد ثمین الانام مین ذکر ہے کہ سات طواف ایک عمرہ کی برابر ہین ۔

١١ ابوہریرہ سے فاکہی ناقل ہے کہ فرمایا آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ نے ۔ حج و عمرہ کرنیوالے
مہمان ہین اللہ کی اور زیارت کرنے والے اوسکے ہین اگر اوس سے کچھہ مانگین دیتا ہے
مغفرت چاہین بخشتا ہے دعا مانگین قبول کرتا ہے شفاعت کرین قبول ہوتی ہے
اور جو اللہ دین ایک ایک کے بدلہ لاکھہ لاکھہ کا ثواب ملیگا قسم ہے اوس ذات کی جسنے
نبی کیا ہے مجکو سچ ایک درم ونسی بہاری ہے تمہاری اس پہاڑ سے اور اشارہ
کیا پہاڑ ابو قبیس کی طرف ۔

١٢ عمدۃ الانابہ فی اماکن الاجابہ مین مذکور ہے کہ فرمایا آنحضرت علیہ السلام نے مَنْ خَرَجَ
يَؤُمُّ هٰذَا الْبَيْتَ مِنْ حَاجٍّ اَوْ مُعْتَمِرٍ زَائِرًا كَانَ مَضْمُونًا
عَلَى اللّٰهِ اِنْ رَدَّهٗ رَدَّهٗ بِاَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَاِنْ قَبَضَهٗ اَنْ يُدْخِلَهُ
الْجَنَّةَ ۔ ترجمہ جو نکلی قصد کرکے اس گھر کا حج کرنے والا یا عمرہ لانے والی سے
ہے ذمہ اللہ کا اگر اوسکو پہیری پہیر دے مزدوری اور غنیمت کی ساتہہ اور اگر اوسکے
روح قبض کرے تو داخل کرے اوسکو جنت مین ۔

١٣ منسک ابوالفضل کرمانی مین بروایت انس رضی اللہ عنہ کے مندرج ہے کہ فرمایا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مر جاوے راہ مین حج یا جاتے بخشتا ہے حقتعالی اوسکے
گناہ پہلی و نہ کہولا جائیگا اوسکا دفتر حساب کا اور نہ تولی جائینگے اوسکے اعمال اور داخل
ہوگا جنت مین بغیر حساب و عذاب کے ۔ بروایت دیگر لکھیگا اوسکو ثواب حج و عمرہ
کرنیوالا قیامت تک ۔ بروایت دیگر ۔ پیدا کریگا اللہ اوسکے لیئے ایک فرشتہ
کہ حج کرتا رہیگا اوسکے واسطے قیامت تک ۔

١٤ تذکرہ مین سے روایت ہے کہ آنحضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے ۔ بہتر دنون سے وہ
عرفہ ہے جو جمعہ کے دن ہوا اور اوس دن کا حج بہتر ہے اور دنون کے ستر حج سے

عرفہ حجۃ الوداع سرور عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جمعہ کے دن واقع ہوا تھا بلکہ یہود ونصاری ومجوس کی بھی اوس دن عید تھی شاید بسبب اسی حدیث کی جس حج مین بروز جمعہ پڑے لوگ حج اکبر کہتی ہین فی الحقیقت اس حج کا بڑا ثواب ہے لیکن قرآن مجید مین حج اکبر سے مراد حج عین ہے نہ کہ یہہ اور احتراز ہے حج اصغر سے جو عمرہ کو کہتی ہین

۱۵ حاکم اور بیہقی سے روایت ہی کہ فرمایا رسولخدا علیہ التحیۃ والثنا نی — حاجی سوار اوٹنی کے لئی ہر قدم کے ستر نیکیان ہین اور ہر قدم حاجی پیادہ کی لیئے سات سو نیکیان ہین نیکیون حرم سی عرض کیا یا رسول اللہ نیکیان حرم کے کیا ہین فرمایا ہر نیکی لاکھہ نیکی کے برابر ہے یعنی ایک نیکی مکہ معظمہ مین لاکھہ نیکی کے برابر ہے ایک رکعت لاکھہ رکعت کی برابر ایک نفلی روزہ لاکھہ روزہ کی برابر ایکدرم فقد لاکھہ درم کے برابر —

۱۶ فرمایا سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام والصلوۃ نے مَنْ اعْتَمَرَ فِیْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُمْرَةً فَكَاَنَّمَا حَجَّ مَعِیَ حَجَّةً ترجمہ جسنی مہینی رمضان مین عمرہ کیا پس گویا اوسنی ایک حج کیا میرے ہمراہ —

۱۷ عباس بن مرداس سے سنن ابن ماجہ مین روایت ہی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نی عرفات پر آخر روز عرفہ کے بخشش گناہ حاجیان امت کے لیئی دعا کی حکم ہوا بخشا یعنی ہر گناہ مگر حق العباد حضرت صلواۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اگر تو چاہے مظلوم کو جنت دی اور ظالم کو بخشی کچھہ جواب نہ ملا جب مزدلفہ مین اگر صبح کو پھر دعا کی تو قبول ہوئی حضرت علیہ السلام ہنسنی لگی اصحاب رضی اللہ عنہم نے عرض کیا آپ ایسی جگہ ہنستی نہ تھی فرمایا دشمن خدا ابلیس نے جو معلوم کیا کہ دعا میری مقبول ہوئی خاک سر پر ڈالکر یہہ پکارنے لگا یا ویلاہ یعنی ہلاک ہونا میرا یا ثبورا یعنی

عذاب میں رہتا ہے اسنے فضیلت حج کے دیکھنی چاہیے کہ بخشا جاتا حق العباد و مظلوم کا
سوائے حج کے اور کسی عبادت کی سبب نہیں ہوتا۔

۱۸ حدیث شریف میں وارد ہے اَعْظَمُ النَّاسِ ذَنْبًا مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَۃَ
فَظَنَّ اَنَّ اللّٰہَ لَمْ یَغْفِرْ لَہٗ ترجمہ بڑا گنہگار لوگوں میں وہ شخص ہے جو عرفہ کے دن
عرفات پر ٹھہرے پس گمان کرے کہ اللہ نے اوسکو نہیں بخشا۔

۱۹ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ صحف آدم
علیہ السلام میں حقتعالی فرماتا ہے کہ حج کے دن چھ لاکھ حاجی آتے ہیں اگر کم ہوتے
ہیں تو فرشتوں کو بھیجکر چھ لاکھ پورے کردیتا ہوں اور ستر ہزار فرشتہ ہر روز طواف
کعبہ کے لیے بھیجتا ہوں۔

۲۰ حیات القلوب میں بحر عمیق سے بقول امام ابوبکر محمد بن حسن نقاش کے منقول ہے
اکثر عدد حجاج کا چھ لاکھ سے پندرہ لاکھ تک پہونچتا ہے۔

۲۱ امام غزالی احیاء العلوم میں بحوالہ ارشاد رسول اللہ علیہ السلام کی تعداد حجاج
چھ لاکھ تحریر فرماتے ہیں۔

۲۲ مندرج تفاسیر ہے کہ جملہ انبیاء نے علیہم السلام پیادہ پا حج کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام
نے سرندیپ سے چلکر چالیس حج ادا کیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے
چلے فرشتوں نے کہا یَا اٰدَمُ بُرَّ حَجُّکَ فَاِنَّا حَجَجْنَا قَبْلَکَ بِاَلْفَیْ عَامٍ
ترجمہ اے آدم اچھا کرا پنا حج کہ تحقیق ہمنے حج کیا ہے تجھسے پہلے دو ہزار برس۔

بیان نہم میں فضائل زیارت رسول اللہ علیہ التحیۃ والثناء و مدینہ منورہ تحریر ہے

۱ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل عبادات و قریب واجب کی ہے بلکہ

بعض کے نزدیک عین واجب ہے۔

۲۔ خاتم النبیین فخر اولین و آخرین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں مَنْ حَجَّ الْبَیْتَ وَلَمْ یَزُرْنِیْ فَقَدْ جَفَانِیْ رَوَاہُ ابْنُ عَدِیٍّ ترجمہ جسنے حج کیا خانہ کعبہ کا اور زیارت نہ کی میرے پس تحقیق ظلم کیا اوسنے مجھپر روایت کیا اس حدیث کو ابن عدی نے

۳۔ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروایت دارقطنی مَنْ زَارَنِیْ وَجَبَتْ لَہٗ شَفَاعَتِیْ ترجمہ جسنے زیارت کی میرے واجب ہے اوسکی لیے شفاعت میری

۴۔ بروایت صحیحہ مَنْ حَجَّ وَزَارَ قَبْرِیْ بَعْدَ مَوْتِیْ کَانَ کَمَنْ زَارَنِیْ فِیْ حَیَاتِیْ ترجمہ جسنے حج کیا اور زیارت کی قبر میرے کی بعد وفات میرے کی گویا اوسنے زیارت کی میرے زندگی میں

۵۔ ارشاد مولانا وسیدنا محمد الرسول اللہ علیہ التحیۃ والثنا بروایت ابن جوزی غُبَارُ الْمَدِیْنَۃِ شِفَاءٌ مِّنَ الْجُذَامِ ترجمہ خاک مدینہ کی شفا ہے واسطہ جذام کے۔ دوسری روایت میں لفظ برص کا ہے۔

۶۔ ارشاد رسول علیہ السلام غُبَارُھَا شِفَاءٌ مِّنْ کُلِّ دَاءٍ ترجمہ خاک مدینہ شفا ہے ہر بیماری سے۔

۷۔ صحیح مسلم میں وارد ہی مَنْ صَبَرَ عَلٰی لَاوَاءِ الْمَدِیْنَۃِ وَشِدَّتِھَا کُنْتُ لَہٗ شَھِیْدًا اَوْ شَفِیْعًا یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ترجمہ جو سہاری سختی اور شدت مدینہ کو ہونگا میں اوسکے لیے گواہ یا فرمایا ہونگا شفیع قیامت کے دن۔

۸۔ ارشاد شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ مَنْ صَلّٰی فِیْ مَسْجِدِیْ اَرْبَعِیْنَ صَلٰوۃً لَا تَفُوْتُہٗ صَلٰوۃٌ کُتِبَتْ لَہٗ بَرَاءَۃٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَۃٌ مِّنَ الْعَذَابِ وَالنِّفَاقِ

ترجمہ جو میری سمجھ میں ہے الیس ناظرین کو نافذ نہوا اور نہین سے کوئی لکہا
جاویگا اوسکے لئے بچاؤ دوزخ سے اور عذاب اور نفاق سے -

بیان سیوم مین مسائل متعلق حج فرض ہیں

۱ مستطیع پر حج فرض ہے اور مستطیع سے مراد ہے مسلمان آزاد عاقل بالغ صحیح البدن
قادر زاد و راحلہ پر سوای حاجت اصلی کے حج کے مہینوں میں یا بروقت سفر حجاج
کے اوسکے وطن سے بشرط امن راہ کی - راحلہ پر قادر ہونیکے یہہ معنی ہین کہ مالک
ہو خود سواری کا یا کرایہ کر لے سکتا ہو - عاریت سے قدرت راحلہ پر ثابت نہین
ہوتی - قادر ہونا زاد پر سوای حاجت اصلے کی یہہ ہے کہ سوای ادای قرض کے
اگرچہ مہر بیبی کا ہو اور سوا خرچ گہر اور خادموں اور اثاث البیت و نفقہ عیال وغیرہ
اپنی گہر پہر آنے تک کا خرچ موافق کہانے پہننے سواری وغیرہ کی رکہتا ہو -
اور نیز زاد و راحلہ موافق عادت ہر شخص کے ہو مثلا جو شخص ہمیشہ گوشت کہاتا ہو اور سب
نہین کہاتا اگر قدرت گوشت پر نہین تو وہ مستطیع نہوگا علی ہذا القیاس حال
سواری کا سمجہنا چاہیے - اگر گہر اوسکے خرچ سے زیادہ ہو کہ کرایہ پر دیتا ہو یا ایسا
کتابین اوسکے حاجت سے زیادہ ہوں یا کتابیں طب و نجوم وغیرہ کی خواہ اوسکے
طرف حاجت ہو یا ہوں یا لونڈے غلام جنسے خدمت نلیتا ہو - اگر کسیکے پاس
گہر و لونڈی غلام نہیں مگر نقد بقدر ہے کہ جس سے حج کرے یا گہر مع سامان کے مول
لے اس صورت مین بہی اوسکو حج کرنا چاہیئے - امن راہ سے یہہ مراد ہے کہ غالب
اومین سلامت ہو اگرچہ ناگہ کسی جنگل یا دریا مین آفت آوے وہ قتل امن سے
کمر ہے کہ وہ اتفاقات سے ہے - تقسیم کر حج سے سینے بیچہا خوف قوم قرامطہ

باشندہ جنگل حج ساقط ہے فرمایا جنگل آفتون سی خالی نہین ہوتا اسواسطے اعلاعت باطل نہین کیا معنی کہ کم ہونا پانیکا اور شدت گرمی کے اور چلنا لو کا جو لازمہ جنگل اور سوجب تکلیف عظیم ہے باعث بطلان استطاعت نہین ایسی ہے اسکا حال ہے ابو بکر اسکاف نے جو سنہ تین سو چھبیس مین فتوی عدم امن اوکا دیا تہا تو اوس زمانہ مین لوٹ وڈاکہ غالب تہا۔ برہان مین لکہا ہے کہ اگر احتمال سلامت و ہلاکت برابر ہو تو بھی امن انہین۔ یہہ سب شرطین مرد کے لیئے ہین عورت کے لیئے سوای شرایط مذکورہ کے اور بہی شرایط ہین وہ آگے آئیگی۔

۲۔ غلام و مجنون و کم عقل و بچہ پر حج فرض نہین ہے لیکن اگر بچہ قبل بالغ ہونیکے اور غلام پہلی آزاد ہونیکے حج کریگا خواہ وہ حج باجازت اوسکے مولا کے ہوا وس سے حج فرض ساقط نہوگا بلکہ بعد بلوغ و آزاد ہونیکے بشرط استطاعت دوسرا حج لازم آئیگا البتہ پہلا حج نوافل مین شمار ہوگا۔

۳۔ اپاہج لولی اندہے مفلوج بیمار شیخ فانی پر کہ قدرت سواری پر اپنی آپ ٹہرنیکے بدون مشقت عظیمہ کے نرکہتی ہون نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واجب نہین۔ نہ خود انپر نہ انکی مال پر کہ اور سی حج کرادین یا مرتے وقت وصیت کرین۔ دوسرے امام صاحبان علیہم الرحمہ کے نزدیک انکی مال پر واجب ہے جو اور سے حج کرادین۔

۴۔ حج کے راہ مین سوار ہو کے جانا بہتر ہے تاکہ وقت ادا کرنے حج کی قوت باقی بخوبی رہے۔ اگر باوجود قدرت کی پیادہ چلے تو بہی جایز ہے۔

۵۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استطاعت مین قدرت سواری پر ضرور نہین صحت و قدرت پیادہ چلنی کے کافی ہے۔

۳ باشندگان اطراف مکہ جو تین دن کے راہ سے کم پر ہیں اگر پیادہ چل سکتے ہون سواری اونکے لیئے شرط نہیں مگر زاد ضرور ہے یعنی اپنا اور اون لوگون کا جنکا نفقہ اسپر واجب ہے —

۴ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشندگان اطراف مکہ معظمہ کے حق مین جو پیادہ چلنے مین اونکے لیئے احتمال ضعف نہین ہے لِلْمَاشِيْ فَضْلٌ عَلَى الرَّاكِبِ كَفَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلٰى سَائِرِ اللَّيَالِيْ ترجمہ پیادہ چلنے والے کو بزرگی ہے اوپر سوار چلنے والے کے جیسے بزرگی لیلۃ القدر کی ہے اور راتون پر

۵ جو لوگ بدون زاد راحلہ کے مانگتے کھاتے جاتے ہین نہایت برا کرتے ہین جو بنیت ادای نفل کے بھیک مانگتے ہین اور اکثر ایسے لوگ نماز وغیرہ فرضیات دین کے بھی پابند نہین رہتے حالانکہ نماز کا مرتبہ حج سے زیادہ ہے **نقل** حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسینے پوچھا کہ محض اللہ کی توکل پر اور بے سامان میرا حج کو جانیکا ارادہ ہے فرمایا جا لیکن قافلہ کے ساتھہ نجانا اوسنے کہا کہ تنہا نہین جا سکتا ہون فرمایا اللہ پر تجھکو توکل نہین قافلہ کی مال پر توکل ہے **نقل** حضرت شبلے رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو چلے فقرای درے نے کہا ہم بھی متوکل علی اللہ آپ کے ہمراہ چلتے ہین کہا چلو مگر توشہ ساتھہ نلو سوال نکرو کوئی کچھہ دیوے نلو اونہون نے تیسری شرط مین عذر کیا فرمایا کہ تمکو خدا پر توکل نہین لوگون کی توشہ پر ہے —

۶ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری مین کہ یمن کے لوگ اپنے تئین متوکل سمجھکر بغیر خرچ لیئے حجکو آتے اور مکہ والون کو ستاتے حقتعالی نے اونکے حق مین یہہ آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ترجمہ توشہ ساتھہ لیا کرو اسواسطے کہ بہتر فائدہ

ثوشہ کا بچنا ہے سوال کرنے سے —

۱۰ عورت خواہ ضعیفہ ہو خواہ جوان اوسکے لئی سوای شرایط مذکورہ کی یہہ دو شرایط بھی ہین اوّل خالی ہونا عدت سے دوسرے ہمراہ ہونا خاوند یا محرم جوان متقی کا بغیر جبر کے مگر مجوسی نہو — محرم وہ ہی کہ کبھی اوسکے ساتھہ نکاح بسبب قرابت یا رضاعت یا مصاہرت کے جایز نہو مسلمان ہو یا کافر بندہ ہو یا آزاد — زاد راحلہ محرم کا عورت پر لازم ہے — بعد ادای تکمیل شرایط مذکورہ کے عورت کو اجازت شوہر کی حاجت نہین — یہ شرط اوس حالت مین ہی کہ مکہ معظمہ تک تین دن کی راہ سے کم نہو — اگر تین دن سے کم راہ ہو عورت تنہا جا سکتی ہی محتاج محرم نہین — بقول حضرت امام ابو حنیفہ و ابو یوسف علیہم الرحمہ عورت کو سفر ایک دن کا بھی بغیر شوہر یا محرم کے کرنا نچاہیے — ملا علی قاری رحمۃ اللہ شرح منسک مین لکھتی ہین کہ بمقتضای فساد زمانہ اسی قول پر عمل کرنا چاہیے — حضرت امام شافعی و امام مالک علیہما الرحمہ کے نزدیک ہمراہ ہونا نیکبخت عورات کا مع مردون دیندار کے قائم مقام شوہر یا محرم کے ہے اور اجازت شوہر کی بھی شرط ہے —

۱۱ حاجی اگر براہ مدینہ گذرے مثلاً باشندگان شام بہتر یہہ ہے کہ وہ پہلے زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر پہر حج کرے — اگر حج کرنا اوسپر فرض ہی اور حج کے مہینے شروع ہوے تو بہتر ہے کہ پہلی حج کرکے پہر زیارت کرے —

۱۲ جو آفاقی سوای ماہ شوال و ذی قعدہ و دہ روز ذی حجہ کے میقات پر سے گذری وہ فقط عمرہ کا احرام باندہے — اگر ان مہینوں میں میقات پر سے گذرے ہو تو وہ بہ نیت عمرہ یا قران یا تمتع کے احرام باندہے —

۱۳ میقات اوس جگہ کا نام ہی کہ جہانسے احرام باندہتی ہین اور وہ پنج جگہ ہین

مسائل متعلقہ میقات

تفصیل اسکی فصل اول باب اول مین ہے —

۱۴ سوای باشندگان ملکہای مذکورہ کی اگر اور کوئی میقاتون پر سے گذری یا دو میقات کے بیچمین سے آوی وسکا حکم بھی انہین میقات والون کا ہے —

۱۵ مین میقات ہای مذکورہ پر احرام باندہین اگر خود انپر سے گذری والا انکی سیدہ پر سے اگر معلوم ہو — اگر کئی میقاتون دو مین سے گذرے والنسے یا اوسکے سیدہ پر احرام باندہنا بہتر ہے — اگر سیدہ میقات کی معلوم نہو تو دو منزل پر سے احرام باندہین اسلئی کہ کوئی میقات دو منزل سے کم نہین اسیواسطے جدہ سے جانے والے عین دریا مین یلملم کے سامنے سے کہ جہاز والی بتا دیتی ہین احرام باندہتے ہین —

۱۶ جسقدر میقات ہین اونکی اول حد پر احرام باندہنا چاہیے تا کہ تمام میقات پر محرم گذری جسجگہ روایت مین تعیین مقام وارد ہے وہین سے احرام باندہی (مثلا ابار علی مین مسجد الشجرہ) بغیر باندہنی احرام کے ان میقاتون سے گذرجانا درست نہین — اپنی گہر سے ہی احرام باندہکر چلنا بہتر ہے بشرطیکہ ممنوعات احرام سے محترز ہو سکی والا میقات پر باندہنا چاہیے —

۱۷ مکان احرام باشندہ مکہ کے لئی تمام حرم ہے مگر مسجد الحرام بہتر ہے خصوصا نزد میزاب مکان احرام عمرہ کا زمین حل ہے مگر تنعیم بہتر ہے خصوص مسجد عایشہ — جب مکہ معظمہ مین آفاقی داخل ہوکر احرام سے نکلا تو حکم مکی کا رکھتا ہے خواہ نیت اقامت کی کری یا نہ ایسا ہی حال ہے میقات یا حل والی کا اگر کسی کام کو بغیر باندہنے احرام کی مکہ معظمہ مین آیا ہو

۱۸ وقت احرام حج کا تمام مہینا شوال اور ذیقعدہ اور دس دن ذی حجہ کے ہین — بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے مکروہ ہے بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہرگز جایز نہین —

۱۹ جو آفاقی مکہ یا حرم مین جانے کو میقات پر گذرے اوسپر احرام باندہنا حج یا عمرہ کا اور بجالانا ایک کا ان دونو مین سے واجب ہے **بقول** امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ خواہ مالدار ہو خواہ ارادہ حج و عمرہ کا رکہتا ہو یا تجارت کی لئی جاتا ہو۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر اور کام کو جاتا ہو سوای حج و عمرہ کے تو اوسپر احرام حج یا عمرہ کا واجب نہین لیکن میقات پر رہنی والے میقات سے اندر رہنی والے یا مکی جو کسی کام کو باہر مکہ کے پہر میقات پر سے گذرے اور پہر ایک سی مکہ یا حرم مین جانیکا ارادہ رکہتا ہو تو بلا نیت حج یا عمرہ کی مکہ جاویگا بالاتفاق اوسپر احرام باندہنا اور حج و عمرہ کرنا لازم نہین ہے۔

۲۰ محرم اگر عضو کامل یا تمام بدن کو ایک مجلس مین خوشبو لگادی یا پاؤن یا سر کو تہوڑا یا بہت خوشبودار کرے یا داڑہی یا سر مین مہندی لگادی یا کسی چیز سے ہودی یا عین خوشبو کو تہوڑا یا زیادہ کہاوی مانند گلاب کیوڑہ اور مشک کشیر کے ۔ کشیدہ ہے جو اگر منہہ مین لگ رہے ۔ یا دو مرتبہ سے زیادہ سرمہ خوشبودار لگادی ۔ اسپہ دم قربانی لازم آتا ہے ۔ اگر اس سے کمتر ہو تو صدقہ مثل صدقہ فطر کے دیوے

۲۱ خوشبو کی استعمال مین قصد اور سہو اور خوشی اور جبر برابر ہے یعنی ہر حال مین خواہ مرد ہو خواہ عورت جزا لازم ہے ۔

۲۲ اگر مہندی کو سر پر لگاوی تو دو دم دینا چاہیئے ایک خوشبو کی بدلہ دوسرا سر ڈہانکنے کے بدلہ ۔ اگر چند عضو کو کئی مجلس مین خوشبو لگادین ہر ایک کا کفارہ جداگانہ ہے ۔

۲۳ مشک یا کافور یا عنبر اگر کنارہ پارچہ مین باندہے تو فطری کے برابر صدقہ دیوے اگر عود کا کپڑے مین باندہنا یا حلوای مزعفر کہانا جائز ہے ۔ روغن زیتون و روغن کنجد اگر خوشبو کیطرح بدن یا پارچہ مین ملے تو جزا لازم آتی ہے گو یہہ دونو فی نفسہ

خوشبو نہیں رکھتی مگر اُن خوشبوؤنکی اصل ہین اگر یہ دونو کھاوی یا لو آئی مین لگاوے
کچھہ مضائقہ نہین ۔

۲۴ پینے کے چیز مین اگر خوشبو ملکر غالب ہو تو دم لازم آتا ہے اگر مغلوب ہو تو
صدقہ دینا چاہیئے ۔ کھانیکے چیز مین اگر بدون پکانیکے خوشبو ملکر مغلوب ہو وے
تو کچھہ لازم نہین آتا اگر غالب ہو تو صدقہ لازم آتا ہے پکا ہوئین بہر حال کچھہ لازم نہین آتا

۲۵ حجر اسود پر سے اگر ہاتھہ و منہہ مین قدر کثیر خوشبو لگی تو قربانی دی کم لگے تو صدقہ دیوی

۲۶ پہلی احرام سے ایک عضو پر خوشبو لگی تھی اور بعد احرام کے دوسرے جا پر لگے
تو مضایقہ نہین ۔

۲۷ خوشبو لگانے سے اگر کفارہ لازم آوی تو اوس خوشبو کو بدن یا کپڑے سے
دور کرنا چاہیئے ورنہ بعد ادا کرنے کفارہ کے اور کفارہ لازم آئیگا جب تک کہ
خوشبو باقی رہے ۔

۲۸ سیا ہوا کپڑا ایک یا چند ایک دن یا چند دن برابر بطور عادت کی پہنے
یا چند روز دنکو پہنی رات کو اوتارے بغیر ترک کرنیکے ۔ یا ایکدن مین بعض
وقت کرتہ پہنی اور بعض وقت ٹوپی اور موزہ اور بعض وقت پاجامہ ۔ یا سیر یا منہہ
پورا یا چوتھائی سر تمام روز یا تمام رات ڈھانکے او سپر ایک قربانی لازم آتی ہے ۔ جو
ایک دن یا ایک رات سے کم ڈھانکی تو صدقہ مثل فطرے کے دیوی قصد و سہو و
خوشی و جبر اور جاننا و نجاننا اسمین برابر ہے ۔

۲۹ بسبب سردی یا بیماری کے محرم سر یا تمام بدن ڈھانکے یا سئی ہوئی کپڑے
پہنی جبتک وہ ضرورت باقی ہو ایک ہے قربانی لازم آتی ہے جو ایک قمیص کے
جگہ دو قمیص پہنے یا ٹوپی پر عمامہ باندہین ۔ اگر ایک عضو کی ڈھانکنے مین دو عضو

کھولے تھے مثلاً سر ڈھانکنے کی ضرورت مین کرتہ بھی پہنا یا ایک وقت کی ضرورت
مین بی ضرورت دوسرے وقت بھی سر ڈھانکا تو دوہرا کفارہ دینا ہوگا یعنی تمام رات
یا دن مین دم اور کمتر مین صدقہ دیوے لیکن عمرہ اگر تمام رات یا تمام روز سے کم ہوا
ایک پہر مین بجالائی اور اول سے آخر تک سر ڈھانکے رہے تو دم لازم آئیگا اور جو
تھوڑے دیر ڈھانکا ہو تو صدقہ دیوے –

۳۰ سر یا منھ پر اگر بغیر مرض کے تمام روز یا تمام شب پٹی باندھی تو مثل فطرہ کے
صدقہ دیوی اور باقی بدن پر باندھی سے کچھ لازم نہین آتا لیکن مکروہ ہے –

۳۱ چہارم سر یا داڑھی کے بال یا اس سے زیادہ یا ساری گردن کے یا دونو یا ایک
بغل یا زیر ناف یا پچھنی لگانے کی جگہ کے یا ساری ران یا ساق کے یا چند اعضا کے
ایک وقت بال مونڈے – یا بارھوین تک سر نہ مونڈایا – یا قارن متمتع نے
بارھوین تک قربانی نکی – یا ایک یا دونو ہاتھ یا ایک یا دونون یا دونو پانوون کے ناخن
کترے – یا صفا مروہ مین سعی نکی – یا طواف زیارت بغیر ستر عورت کیا –
یا [illegible] کے بعد طواف صفا مروہ بدون عذر سوار ہوکر کیا – یا عرفات سے قبل غروب
[illegible] امام سے پہرا – یا مزدلفہ مین وقوف نکیا – یا عورت کو شہوت سے بوسہ لیا
[illegible] کیا – ان سب صورتون مین ایک قربانی لازم آتی ہے –
[illegible] کو کئی جگہ مین مونڈا ہر ایک کے بدلے قربانی لازم ہے –
[illegible] مجلس مین اگر چہارم سر مونڈا پھر دوسری مجلس مین دوسرا چوتھائی
پھر تیسرا ساراسر مونڈا یا تو وقتیکہ پہلی بار کا کفارہ ادا کیا ہو ایک ہی قربانی
لازم آئیگی –

۳۲ قارن قربانی کرنے سے پہلے اگر سر منڈادے [illegible]

بسبب گناہ کے دو کے قران والی —

۳۵ محرم اگر محرم یا غیر محرم کا سر مونڈے یا ناخن یا مونچہین کترے — مونڈنی والے اور کترنے والی پر صدقہ اور محرم مونڈانیوالی پر دم لازم آتا ہے لیکن بر وقت حلال ہونیکے مضایقہ نہین جیسے حج کرنیوالیکو بعد ذبح اور عمرہ لانیوالیکو بعد سعی کے دونون پر کچہہ لازم نہین آتا —

۳۶ سر اور داڑہی کو چوتہائی سے کم منڈائی — یا ایک بغل کے اکثر بال دور کیئے یا کسی محرم یا حلال کا سر مونڈا — یا ایک ہاتہہ یا ایک پانوٴ کے ہر ایک ہاتہہ یا پانوٴ کے کچہہ ناخن کترے نصف صاع گندم صدقہ دیوین — ناخنون مین ہر ناخن کے بدلہ نصف صاع دیوی لیکن جمعکی قیمت اگر قربانیکے برابر ہو تو کچہہ کم کرے —

۳۷ سر یا داڑہی یا ناک سے چند بال اوکہاڑے یا ہاتہہ پہیرنیسے دور ہو جاوین ہر ایک کے بدلہ لپ بہر گیہون دیوین —

۳۸ موچہہ دور کرنیکے بدلہ صدقہ مثل فطر کے دیوی — اور جو تہوڑی اونچین سے دور کئی ہون تو قیاس کرنا چاہیئے یعنی چوتہائی داڑہی سے اگر نصف ہو تو نصف قیمت قربانی کے دیوے اگر چوتہائی ہو تو چوتہائی قیمت اوسکے دیوی —

۳۹ طواف زیارت اگر بے وضو کیا ہو — یا طواف وداع ترک کیا — یا طواف وداع و طواف قدوم حالت جنابت مین کیا — ایک بکری قربانی کری —

۴۰ طواف زیارت اگر حالت جنابت مین کری اونٹ یا گائی قربانی کرنا لازم آتا ہے

۴۱ طواف قدوم یا طواف وداع یا طواف نفل بے وضو کیا تو ایک صاع جو یا چہوہارہ یا آدہا صاع گیہون صدقہ دیوین سان سب صورتون مین اگر اعادہ طواف طہارت کے ساتہہ کریگا تو وہ کفارہ ساقط ہو جائیگا —

۴۲ طواف عمرہ کا بے وضو یا حالت جنابت مین کیا جبتک مکہ مین ہو اعادہ کری اگر گہر چلا گیا ہو بکرے قربانی کرے ۔

۴۳ سعی مین اگر ایک پہیر سی تین پہیر تک ترک کرے تو ہر پہیر کے بدلہ مثل صدقہ فطر کے دیوے لیکن مجموع کے قیمت اگر قربانیکے برابر ہو تو اختیار ہے چاہے دم دیوے چاہی صدقہ مین سی کچہہ کم کرکے دیوے ۔

۴۴ رمل یا اضطباع اگر طواف مین نکیا یا دونو میلونمین جو راہ مین صفا مروہ کے ہین نہ دوڑا تو کچہہ کفارہ لازم نہین آتا ۔

۴۵ طواف سی پہلی اگر عمرہ مین سعی کے تو جایز نہین ۔ بعد طواف کے پہر سعی کرنی چاہیئے ۔

۴۶ کنکریان مارنا خواہ ایکبار یا تینون بار ترک کیا ۔ یا دسوین تاریخ کو رمی جمرۃ العقبہ ترک کے قربانی کرے ۔ اگر ایک بار سی کم ترک کی تو ہر کنکری کے بدلہ آدہا صاع گیہون صدقہ دیوی اگر اوسکے قیمت برابر قربانی کے ہو تو کچہہ کم دیوے ۔

۴۷ جنگلی جانور کا شکار کیا ۔ یا بتایا ۔ یا اوسکے طرف اشارہ کیا ۔ قصداً یا سہواً یا کسی اور طرح سی تو اوسکے قیمت جو شکار کرنیکے زمانہ مین اوس مکانین ہوتی ہو یا قریب اوس مکان کے جس قیمت کو فروخت ہوتا ہو دو مرد منصف سی مقرر کراکے اوس قیمت کی قربانی لیکر مکہ معظمہ مین ذبح کرے یا گندم آدہا آدہا صاع یا چہوہارے اور جو ایک ایک صاع ہر ایک مسکین کو دیوی ۔ یا بدلہ ہر نصف صاع گندم کے یا ہر صاع جو یا چہوہارے کے ایک روزہ رکہی ۔ جو آدہی صاع سی کم ہو تو اختیار ہے خواہ اوس قدر خیرات کری خواہ اوسکے بدلہ روزہ رکہی ۔ ایسی ہے اگر قربانیکے قیمت سی کچہہ اختیار ہے خواہ خیرات کرے خواہ ہر صاع جو چہوہاری یا ہر نصف صاع گیہونکے بدلہ روزہ رکہے

جو قیمت دو بکری یا اونٹ کی برابر ہو تو وہ دو بکرے یا اونٹ ذبح کرے یا اونکی قیمت خیرات کرے یا بدلے ہر دو بکری کے روزہ رکھنے کا اختیار ہے یا ایک ذبح کرے اور دوسرے کی قیمت خیرات کرے - یا ایک صاع یا نصف صاع کی بدلے ایک روزہ رکھے

۴۸ ایک یا دو یا تین جون کپڑا یا بدن سے مارے - یا ایسا کام کرے جس سے جوئین مر جائین یعنی کپڑا دہوپ میں ڈال دے یا دہوئے یا دوسرے کو مارنے کیلئے دیوے یا بالونکو ایسا بکہیر دے جو جوئین گرین تو ایک مٹہی گندم خیرات کرے اگر تین سے زیادہ ہون تو آدہا صاع صدقہ دیوے -

۴۹ جو درخت حرم میں بغیر بونے کسیکے پیدا ہو اور وہ درخت وحشی قسم کا ہو کہ جسکو لوگ نہ بوتے ہون اگر اوسکو محرم یا غیر محرم کاٹے تو اوسکی قیمت کے برابر گندم فی مسکین نصف صاع دیوے یا بکری یا اونٹ حرم میں ذبح کرے مگر روزہ رکھنا اسمین جائز نہین ایسی ہے اصل درخت سے نفع لینا بہی روا نہین - اگر وہ درخت کسیکے زمین مملوک مین ہو تو ایک قیمت مالک کو بہی دیوے - گہاس خشک یا درخت خشک یا گہاس اذخر یا کہنبی کاٹنی یا پتی جہاڑنے یا توڑنے مین جس مین درخت کا نقصان نہ ہو تو کچھ حرج نہین

۵۰ جس گناہ کی کفارہ مین دم لازم آوے - اگر وہ بسبب عذر کی ہو تو کہ گناہ کرنا پڑا ہے خواہ حرم مین قربانی کرے خواہ تین صاع گندم چھ مسکین کو جس جگہ چاہے دیوے مگر مساکین مکہ کو دینا افضل ہے خواہ تین روزہ متواتر یا متفرق رکھے -

۵۱ جس گناہ کے عوض دم ہو اوسکو قربانی بکری کے کافی ہے مگر جس نے بعد ٹہیرنے عرفات اور قبل حلق عورت سے صحبت کی یا طواف نے بارت کیا ہو نا پاک ہو کر یعنی بحالت حیض و نفاس میں یا اوسکو اونٹ یا گائی قربانی کرنا چاہیئے -

۵۲ جس گناہ کا کفارہ صدقہ ہے وہان مثل صدقہ فطر دینا چاہیئے مگر ٹڈی اور جوئی کو مارنے اور تین بال کے دور کرنے کے بدلے مٹہی بہر گندم یا چہوہارہ دینی چاہیئے -

۵۳ فرض حج تین ہین ۱ احرام اور یہ پیشتر شرط ہے ۲ ٹہیرنا عرفات پر عرفہ کی دن زوال سے دسوین کے صبح تک اگرچہ ایک لحظہ ہو کس حالت مین ہو یعنی قصدا یا بغیر

وقوف [illegible] پانا [illegible] بعد [illegible] ہوش ۳ طواف الزیارت اور یہہ دونون رکن ہین مگر [illegible] عرفات
کا اقوی ہے اسی لئے [illegible] صحبت کرنیسے پہلی ٹہرنے عرفات کے حج فاسد ہوتا ہے اور پہلی طواف
کے فاسد نہین ہوتا ۴ ترتیب ان تینون مین ۵ ادا کرنا ہر فرض کا اوسکے وقت و
مکان مین — فرایض مذکورہ مین سے اگر کوئی ترک کرے تو حج ادا نہین ہوتا — سعی بعد طواف
کی اور سر منڈانا بہی نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرض ہے -

واجبات حج

واجبات حج کے دو قسم مین ایک عام دوسرے خاص — عام پچیس [25] ہین ۱ تا [illegible]
احرام مین میقات پر گذرنا ۲ صفا مروہ مین سعی کرنا ۳ بعد طواف کے سعی کرنا
۴ شروع سعی صفا سے کرنا ۵ پیادہ سعی کرنا بشرطیکہ عذر نہو ۶ زوال سے
غروب بلکہ کچہہ رات تک عرفات پر ٹہرنا ۷ عرفات سے پہرنے مین متابعت امام
کے یعنے امام سے پہلی روانہ نہو ۸ تاخیر کرنا نماز مغرب عشا مین مزدلفہ پہونچنے تک
۹ مزدلفہ مین [illegible] رات کو خواہ ایک ساعت ہے ہو ۱۰ رمی یعنی کنکریان مارنا
۱۱ اول [illegible] کنکریان مارنا پہلے سر مونڈانے یا کترانے سے ۱۲ کنکریان مارنا اوس
[illegible] کے لئے مقرر ہے ایام نحر سے ۱۳ رمی اول اور حلق اور طواف مین
ترتیب بعض کی نزدیک ۱۴ ترتیب تینون بار کنکریان مارنیمین ۱۵ کترانا یا مونڈانا
[illegible] بالونکا ۱۶ کرنا ان دونونکا ایام نحر مین ۱۷ کرنا ان دونونکا حرم مین مگر امام
[illegible] علیہ الرحمہ کے نزدیک [illegible] ۱۸ ایام نحر مین طواف الزیارت
ادا کرنا ۱۹ حطیم کو طواف مین شامل کرنا ۲۰ داہنی طرف سے طواف کرنا ۲۱
باطہارت [illegible] طواف کرنا ۲۲ ستر عورت طواف مین کرنا ۲۳ پاک ہونا کپڑے
[illegible] مین بقدر ستر عورت ۲۴ اگر عذر نہو طواف پیادہ کرنا ۲۵ بعد طواف
کے دو رکعت پڑہنا — واجبات خاص چہہ ہین ۱ آفاقی کو طواف رخصت ۲

کنکریاں مارنا قارن متمتع کو پہلی نحر سے ۳ قربانی کرنا قارن متمتع پر ۴ قربانی
کرنا قارن متمتع پر پہلے سر مونڈانے یا بال کترانے سے ۵ قربانی کرنا قارن متمتع پر
ایام نحر میں ۔ ۶ جن چیزوں کے بیعذر ترک کرنے سے دم لازم آوے وہ واجب ہیں مگر ان
میں سے چند باتیں مستثنیٰ ہیں جیسے ترک کرنا دوگانہ طواف کا یا تاخیر کرنا نماز عشاء تک

سنن موکدہ حج

۵۵ بقول فقیہ ابو اللیث علیہ الرحمہ سنت موکدہ حج چار ہیں ۱ طواف القدوم ۲
رمل طواف کعبہ میں ۳ دوڑنا صفا مروہ میں ۴ رات کو رہنا منیٰ میں ۔
انکی ترک سے گنہگار ہوتا ہے مگر کفارہ لازم نہیں آتا ۔

فرایض عمرہ

۵۶ فرایض عمرہ کی یہہ ہیں ۱ احرام ہے ۲ طواف کعبہ کا ۔ مگر احرام شرط ہے اور طواف رکن

واجبات عمرہ و مستحبات و سنن

۵۷ واجبات عمرہ یہ ہیں ۱ طواف صفا مروہ کا ۲ منڈانا یا کترانا سر کا ۔
مستحبات و سنن عمرہ کی مثل حج کے ہیں ۔

مفسدات حج و عمرہ

۵۸ مفسدات حج و عمرہ یہہ ہیں ۱ صحبت کرنا عورت سے پہلے ٹھہرنے عرفات کے
مفسد حج ہے ۲ صحبت کرنا قبل طواف کے مفسد عمرہ ہے ۔

خاص عورت کا فعل

۵۹ بیچ باتوں احرام کے عورت کے لیے یہہ چیزیں خاص ہیں ۱ سیا ہوا کپڑا پہننا
مثل کرتہ و پاجامہ و دستانہ وغیرہ مگر خوشبودار چیز میں رنگا ہوا نہ پہنے مانند
کسنبہ زعفران وغیرہ کی ۲ پہننا موزوں و جرابوں کا جس سے ہڈی کعب کے
ڈھکی رہے ۳ سر کو ڈھکے ۴ منہہ پر کپڑا لٹکا پہونچائے اگر پردہ نشین ہو تو منہہ پر
پنکھیا یا چھتری وغیرہ سے ڈھکنا بنا کر یا باندہکر اوپر سے کپڑا ڈالے اگر منہہ کو غیار سے چھپانا ہو
بالفعل اکثر عورتیں جالیدار پنکھہ کو کترکے برقعہ میں بقدر چہرہ کے لگاتے ہیں ایسے
کپڑا بھی منہہ پر نہیں پہونچتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے ۵ لبیک آہستہ کہے ۶
اضطباع و رمل طواف میں نکرے ۷ استلام حجر اسود و استلام رکن یمانی بوقت اژدحام

مردوم عیر کلاہ ہے ۳۵ مقام ابراہیم کے پاس جب مردوم غیرہ کا اژدہام ہو دو گانہ طواف نہ پڑہی

لے تھا مروہ مین زد ہوتے ۳۶ جو شامروہ پر ہیں سب مردون کا مجمع ہو بیچ رہے ۳۷ احرام

کہولنے کے وقت سر منڈاوی ۳۸ بقدر ایک انگشت کی بال کترا وی زیادہ کترا دو

بخلاف مرد کے کہ اوسکو چہارم سر کے بال کترانے واجب ہین ۳۹ سر منڈانا منع ہے

بخلاف مرد کے کہ اوسکو منڈانا بہی جائز ہے ۴۰ تاخیر کرنا طواف زیارت مین

تاریخ بارہوین سی جو سبب حیض و نفاس کے بخلاف مرد کے جو اوسپر

تاخیر سی دم لازم آتا ہے ۴۱ ساقط ہونا طواف وداع کا بوقت روانگی ہمراہیون کے

بسبب حیض و نفاس کے بخلاف مرد کے جو اوسپر واجب ہے ۴۲ عورت حیض و

نفاس والی کو جمیع افعال حج و عمرہ کی کرنے جائز ہین مگر طواف کعبہ کا جائز نہین اسلیئے

کہ طواف مسجد مین ہوتا ہے اور ناپاک مسجد مین جانا منع ہے لیکن

پہلی اگر اس حالت مین طواف کریگی تو ... ہو جائیگا ... اگر عورت

نے طواف زیارت کی حیض آ وی اور ہمراہی ٹہہر سکین اسحالت مین اگر طواف کر لیگی

تو حج اوسکا صحیح ہوگا مگر گنہگار رہیگی اسکے کفارہ مین اونٹ یا گائی ذبح کرے ... اور

توبہ کرے ۴۳ عورت احرام والی کو حریر و طلا و نقرہ کا پہننا جائز ہے ...

عورت کا رکہنا ہے —

۴۴ جو طواف کہ بعد اوسکے صفا مروہ مین سعی کرے ...

کے پہر حجر اسود کا استلام کرنا چاہیئے گویا یہ اجازت چاہتا ہے ...

اور جسکے بعد سعی نہین اوسمین استلام بعد دوگانہ کے کرنا چاہیئے —

۴۵ طواف کے سات قسم ہین ۱ طواف قدوم کہ طواف التحیۃ اور ...

کہتے ہین — پہلا عمل ہے ... جو داخل ہو نے کے مستطیع کے بجا لانا مسنون ہے لیکن اگر

امام نماز فرض یا نماز جنازہ پڑہتا ہو یا نماز فرض یاد آئی یا وتر یا سنت موکدہ اسکے بیچ ترک
ہوتے ہون تو ان چیزون کو پہلی طواف سے ادا کری — اور وہ آفاقی مفرد اور قارن
سنت ہے نہ عمرہ کرنے والے اور متمتع و مکی پر — امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے
اگر طواف صفا مروہ کا بعد اسکے مقصود نہو تو رمل اس طواف مین نکرے ۲ طواف
الزیارت اسکو طواف الرکن طواف الواجب طواف یوم النحر بھی کہتی ہین — یہہ حج
مین فرض ہے — وقت اسکا دسوین تاریخ کی فجر سے بارہوین تاریخ کی آفتاب تک
ہی اگر اسمین تاخیر کریگا تو دم لازم آئیگا ۳ طواف الوداع اسکو طواف الرخصت اور
طواف الصدر وطواف الافاضہ وطواف آخر العہد بالبیت بھی کہتی ہین — یہہ واجب
ہی آفاقی پر مفرد ہو یا قارن یا متمتع — عمرہ لانیوالے اور مکی پر واجب نہین — اول
وقت اسکا بعد طواف الزیارت کی اور آخر تمام عمر ہے مگر رخصت ہونیکے وقت
مکہ معظمہ سے افضل ہے ۴ طواف عمرہ کا — یہہ عمرہ مین فرض ہے ۵ طواف
نفل جو مکی یا آفاقی بعد طواف قدوم یا طواف عمرہ کی جب چاہی بجالاوی ۶ طواف
تحیۃ المسجد — یہہ مستحب ہے داخل ہونیوالی کے لئی اسواسطے کہ حدیث مین آیا ہے
تحیہ المسجد کا طواف ہے ۷ طواف النذر — یہہ واجب ہے نذر ماننیوالی پر —

۲۲ اگر طواف کعبہ یا طواف صفا مروہ کرتے ہین تکبیر شروع ہوئی یا جنازہ واسطے نماز کے
پیش آیا طواف کو چھوڑ کر نماز پڑہے باقی طواف کو بعد ادا کرے —

۲۳ دوگانہ ہر طواف کا مذہب حنفی مین واجب و شافعی مین سنت ہے — بہتر یہہ ہے
کہ بعد طواف کے فوراً مقام ابراہیم کے پیچھی پڑہے اسکے بعد بہتر مقام اسکی لئی اندر کعبہ کا
پھر حطیم میزاب کے نیچی پھر حطیم سے جو جگہہ کعبہ سے قریب ہے پھر گرد کعبہ کے جو اوس سے
قریب تر ہو پھر باقی مطاف پھر مسجد الحرام پھر تمام حرم — حرم سے باہر بھی جائز ہے

بلا حاجت کے کہ بہی واسطے اس نماز کے قضا نہین کیونکہ کسی مکان و زمان کے ساتہہ خاص نہین ہے۔ وقت طلوع و غروب ٹہیک دوپہر اور بعد صبح کی طلوع تک اور بعد نماز عصر کے غروب تک اور وقت خطبہ اور شروع تکبیر فرض کے اور باہر حرم کے مکروہ ہے۔ طواف اگر بعد صبح یا بعد نماز عصر کیا تو دوگانہ اوسکا بعد طلوع پہلی اشراق کے اور بعد فرض مغرب پہلی سنت کی ادا کرے۔ اگرچہ یہہ دوگانہ واجب ہے لیکن بسبب واجب بالغیر ہونیکے جو تابع طواف کا ہی کراہت وقت مین حکم نفل کا رکہتا ہے اسیواسطے اسکے ترک مین دم لازم نہین آتا۔ اگر بعد صبح یا بعد نماز عصر کے دوگانہ پڑہیگا کراہت کے ساتہہ ادا ہو جائیگا۔ پڑہنے مین معلوم ہو تو قطع کرنا واجب ہے اور پڑہنے کی بعد اعادہ بہتر ہے مگر طحاوی و امام شافعی کے نزدیک علیہ الرحمہ مثل نماز جنازہ کے بعد صبح و نماز عصر کی مکروہ نہین ہے۔

۶۴ طواف مین سلام اور مسئلہ پوچہنا اور بتانا جائز ہے لیکن بات چیت نکرنا اور جو کلام خالی عبث سے ہو چہوڑنا مستحب ہے۔

۶۵ کئی طواف اکہٹے کرنا اور دوگانہ ہر ایک کا سب کے بعد پڑہنا مکروہ ہی مگر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک کہ ادا کرنا طوافون طاق کا جائز ہے۔

۶۶ عمرہ اور تمتع مین طواف قدوم نہین ہوتا۔ عمری اور مکی پر طواف رخصت مطلقا نہین ہوتا۔

۶۷ خطبہ حج کی تین مین ہر ایک بعد زوال کے ساتوین سی گیارہوین تک ایک ایک دن کے بعد ہوتا ہے ہر ایک مین احکام مناسب حال بیان کرتے ہین ۱ ساتوین ذی حجہ کو بعد ظہر کے امام خطبہ پڑہے اوسمین جلسہ نکری ۲ نوین کو عرفات پر مسجد مین پہلی نماز ظہر کے مثل خطبہ جمعہ کی دو خطبہ پڑہے یعنی درمیان مین جلسہ کری۔

٦٧ گیارہوین کو منی مین بعد ظہر کے ایک خطبہ مثل ساتوین کے پڑھے۔
٦٨ نماز عید سے حاجیون پر واجب نہین اسلئے کہ دسوین تاریخ حجاج کو منی مین کنکریان مارنا قربانی کرنا سر مونڈنا پھر مکہ معظمہ مین پہونچکر طواف الزیارت اور طواف صفا مروہ کا کرنا پھر منی مین پلٹ جانا اور کام پڑتے ہین تخفیف کے واسطے نماز عید کے معاف ہوئے اگر دسوین جمعہ کو ہو تو نماز جمعہ کے معاف نہین ہو واسطہ کہ اس تاریخین جمعہ کبھی اتفاقا پڑتا ہے پس اسمین حرج اتنا نہین برخلاف عید کی کہ ہمیشہ دسوین کو ہوتی ہے اور جمعہ منی مین جایز ہے اگر حاکم حجاز یا مکہ کا یا نائب اوسکا وہان موجود ہو۔
٦٩ بسبب غنی ہونیکی حاجی پر اضحیہ واجب نہین مگر بعض کے نزدیک مکی پر واجب ہے۔ قارن و متمتع پر قربانی واجب ہے۔ مقدور نہو تو تین روزہ دسوین تاریخ سے پہلی اور سات بعد ایام تشریق کے رکھے۔ یہ قربانی شکرانہ ہی اسلئے اوسمین سے آپ کہانا اور غنی و محتاج کو کہلانا جائز ہے۔
٧٠ قربانی اگر عوض گناہ کے ہو اوسکو نہ آپ کہاوے اور نہ غنی کو دے نہ اپنے اصول و فروع (یعنی دادا دادی ماں باپ بیٹا بیٹی اور اونکی اولاد) کو دیوے مگر بہائی بہن محتاج کو دینا جایز ہے۔ بی بی شوہر کو اور شوہر بی بی کو اور اپنے غلام و لونڈی کو نہ دیوے لیکن ذمی کو دینا جایز ہے۔ مفرد پر قربانی مستحب ہے۔ افراد تمتع قران کے قربانی دسوین سے بارہوین تک حرم مین کرنی چاہیئے اس سے پہلی یا غیر حرم مین یہ قربانی کرنی جایز نہین۔ قربانی ہدی کی جانی اور تندرستی اور نفلی اگر دسوین سے پہلی یا پیچھے کرے تو جایز ہے۔
٧١ مکی اور میقاتیونکو قران و تمتع جایز نہین اگر کرین تو ادا ہو جاویگا مگر دم لازم آویگا۔
٧٢ بعد باندہنے احرام کے اگر بسبب بیماری یا خوف دشمن وغیرہ کی جانکو نہین

[illegible] ساتھ [illegible] قربانی بھیجی ہو وہ دن اور وقت ذبح کا معین کر دے
تاکہ اوس دن اور وقت کے بعد حلال ہو جاوے [illegible] اگر [illegible] نہیں [illegible] بہتر
ہے پھر اگلے سال قضا کرے - اگر [illegible] کی نیت کی تھی تو [illegible] قضا کرے -
اگر فقط حج کی نیت کی تھی تو حج [illegible] بجا لاوے - اگر قران کی نیت کی
ہو تو [illegible] اور ایک حج کرے - اگر قارن روکا گیا تو دو قربانی بھیجے -

۴۳ [illegible] حج [illegible] لیکر [illegible] میں [illegible] -

۴۴ مال حلال طیب سے حج کرے - مال حرام سے حج قبول نہیں ہوتا [illegible] میں [illegible] فرمایا [illegible] صلی اللہ علیہ [illegible] نے جب کوئی حج کرتا ہے مال حرام سے اور کہتا ہے لبیک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک ترجمہ لبیک کا رنا [illegible] مقبول نہیں اور حج تیرا رد کیا گیا ہے تجھ پر -

۴۵ مال شبہہ سے فرض ساقط ہو جاتا ہے جس کے پاس مال شبہہ ہو وہ قرض لیکر حج کرے اور اپنے مال شبہہ سے قرض ادا کرے -

۴۶ بقدر مال اپنا [illegible] اپنے رفیقان و ضعیفوں کو بھی [illegible] کے ساتھ کفایت کرے

۴۷ اگر سواری کرایہ کی ہو تو اپنا [illegible] سواری والے کو دکھا دے یا وزن اوسکا بیان کرے اور بلا رضامندی اوسکے [illegible] نقل عبد اللہ بن مبارک کو کسی نے [illegible] پہنچا دینے کو ایک شخص [illegible] انہوں نے فرمایا ابھی اپنے پاس [illegible] میں اونٹ والے سے پوچھ لوں -

۴۸ ہر منزل میں حتی المقدور [illegible] اور [illegible] پیشانی پیش آوے - [illegible]

عرض کیا کہ نیکی حج کی کیا ہے - فرمایا اطعام الطعام ولین الکلام ترجمہ
کہانا کہلانا اور نرمی سے بات کہنا -

۷۹ جھگڑے و سخت کلامی و بدمزاجی سے محترز ہو خرید فروخت مین بھی احتیاط کری
ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب الا وله توبة الا ما
كان من سوء الخلق فانه كلما تاب عن ذنب عاد فيما هو شر
منه ترجمہ نہین ہے کوئی گناہ مگر اوسکے لیئے توبہ ہے الا جو گناہ بدخلقی سے ہو
اسواسطے کہ جب توبہ کرتا ہے گناہ سے پڑتا ہے اوس سے بدترین -

۸۰ اپنے رفیق کے ایسی خاطرداری کرے کہ اوسکے لیئے اپنے سے بہتر چیز تجویز کری
نقل ہے کہ ایکبار جناب رسالتماب محمد رسول اللہ علیہ التحیة والثنا ایک اصحابی کے ساتھ
ایک جھاڑ مین داخل ہوئے مسواکین تراشین سیدہے اصحابی کو دی ٹیڑھے
خود رکھی اصحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ احق ہین سیدہے مسواک کی لیئے
حضرت نے فرمایا ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار الا
سئل عن صحبته هل اقام فيها حق الله تعالى او اضاعه ترجمہ
نہین کوئی پاس بیٹھنے والا کہ پاس بیٹھے اگرچہ ایک ہی لحظہ ہو دن سے مگر پوچھا جائیگا
اوسکی صحبت سے کہ آیا بجالایا اوسمین حق اللہ تعالی کا یا ضایع کیا -

۸۱ مستحب ہے کہ شرکت کسیکی کہانے و سواری وغیرہ مین نکرے جو نزاع واقع نہو خواہ
رفیق راضی بھی ہو -

۸۲ رفیق صالح عاقل موافق المزاج سفر آزمودہ راغب خیر شر سے بچنے والا ساتھ
لیوی مگر قریب ناتے والا نہو - اگر یہ صفات عالم ملے تو افضل ہے اوس سے مسائل و
وغیرہ حج و عمرہ کی سیکھے

۸۳ کتا اور گھنٹا یعنی آلہ ہمراہ رکھنا مکروہ ہے —

۸۴ جو اپنے گھر سے بغیر زاد راحلہ کے نکلا ہو اوسکو بڑا نکہی اور جو میسر ہو اوسکو دیوے اوسکا جواب نرم دے اور دعا اعانت کے اوسکے حق مین کرے —

حج از طرف غیر

۸۵ جو شخص قدرت حج کی رکھتا تھا اور سب شرطین اوسمین موجود تھین پھر وہ معذور ہوا خواہ بسبب بہت بڑہاپے یا بیماری کے مثلا لولا لنگڑا اپاہج اندہا مفلوج دائم المرض یا خائف حاکم سے اور اوسکے پاس مال ہے اوسپر واجب ہے کہ دوسرے کو مال دیکر اپنی طرف سے حج کرا دے تا کہ ادا ہو جاوے بشرطیکہ ہمیشہ معذور رہے — اگر بعد حج کرانیکے عذر جاتا رہا اوسکو خود حج کرنا چاہیئے — اگر بحالت معذوری اوسنے کسیطرح خود حج کیا تو ادا واقع ہوگا اور بعد دور ہونے عذر کے اور حج کرنا لازم نہین —

۸۶ جسپر حج واجب تہا وہ مرا اور اوسنے وصیت کی تہی حج کرانیکے تو وارثون پر اوسکے حج کرانا تیسرے حصہ مال سے لازم ہے جہانسے اوسنے بیان کیا ہو ورنہ اوسکے وطن سے اگر تہائی مال کافی ہو ورنہ جہانسے کافی ہوسکے — اگر نائب الحج رستہ مین مرا تو پہر تہائی مال کسی اور کو خرچ دیکر اوسکے وطن سے حج کرائے اگر کافی ہو ورنہ جہانتک وہ پہونچا تہا اوسکے آگے سے دوسرے کو بھیجے — اگر وصیت نکی تہی اور وارث اوسکی طرف سے خود حج کرے یا اوسکے مال سے کرا دے تو جائز ہے — حج نفل غیر کیطرف سے جائز ہے اگرچہ وہ معذور نہو

۸۷ جسپر حج فرض ہوا اور وہ حج کرنے کی واسطے گیا ابہی وقت حج کا نہین آیا تہا کہ اوسنے وفات پائی — اگر بعد فرض ہونے حج کے فورا روانہ ہوا تہا یعنی جس سال مین فرض ہوا اوسی سال مین گیا تو حج اوسکی ذمہ نرہا وا لا وارث پر اوسکیطرف سے اوسکے مال سے حج کرانا واجب ہے — اگر اوسکی وصیت ہو جہانسے اوسنے بیان کیا ہو ورنہ اوسکے گہر سے یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسی پر فتوی ہے — دیگر صاحبان علیہم الرحمہ کے

نزدیک جہان وفات پائی ہو وہان سے نائب الحج مقرر کرے۔ اگر وصیت نکی ہو تو بہی جایز رہے

۸۸ جسنے آپ حج نہین کیا اوسکو غیر کیطرف سے حج کرنا مذہب حنفی و مالکی مین جایز ہے مگر بہتر یہہ ہے کہ پہلے اپنا حج کرے پھر دوسرے کیطرف سے۔ امام شافعی و احمد حنبل علیہم الرحمہ کے نزدیک جایز نہین۔

۸۹ غیر کے طرف سے حج کرنیوالے کے پاس حج کچھہ مصارف ضروری سے باقی رہے واپس کردے۔ اوسکا مال سوائے ضرورتون حج کی کسی اور چیز مین خرچ کرنا جایز نہین مگر اوسکے اجازت سے۔

بیان چہارم مین اشعار فارسی حمدیہ و مناجاتیہ و نعتیہ مندرج ہی

۱ **الراقمہ** یہہ خاکسار شاعری اور قواعد عروض سے محض ناواقف ہے ناظرین کتاب نکتہ چینی نفرماوین۔ یہہ مناجات اجابت دعا کیلئے نادر عمل ہے اسکے مداولت فرماوین میرے تجربہ مین اکثر آیا ہے۔ اَللّٰھُمَّ احْفَظْنِیْ مِنَ الْبَلَاءِ وَ الْوَبَاءِ مَعَ اَھْلِیْ وَ مُلَاذِمِیْ وَ اَوْلَادِیْ دَائِمًا اَبَدًا بِطُفَیْلِ حَبِیْبِکَ وَ رَسُوْلِکَ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ

اے خالقِ ارض و السّموات	بخشندۂ از بلا و آفات
اے فاصلِ لیل و النہار	ای رازقِ کرمِ سنگ خار
اے دافعِ ہر بلائے مُبرم	اے نابغے ہر بنای محکم
اے مظہرِ ہر وجود موجود	اے معطیِ آن قرانِ مسعود
اے رامیِ ابرہائے تاریک	اے نازلِ قطرہ ہای باریک

یک عرض کنم بعجز و زاری — انداخته سر بخاکساری
در درگه تو قبول افتد — بطفیل روح پاک احمد
آن احمد فخر اولین است — سرتاج تمام آخرین است
آن نیر ساطع جهانتاب — بنمود تمام کفر بی آب
آن دُر یتیم بی بها را — سردار نمود انبیا را
وی شان بسوام گفت لولاک — بگذشت عروج او ز افلاک
چون نور رسول شد نمایان — تاریکی کفر گشت تابان
چون ذات رسول گشت موجود — بنمود تمام کفر بی بود
شد کعبه پاک معبد ما — بشکست بتان محل کسری
گر حج فرضیه گذارم — بر مکه مدینه جان نثارم
در روز جزا تمام مخلوق — از دفن خویش جوق در جوق
گردند بدرگاه الٰهی بهر — شرمنده و دلخسته و مضطر قاصر
از هیبت حشر ترک پیاره بستند — آواز برای عفو خود با بدهند
آنوقت رسول دستگیری بکند — از بهر شفاعت سر خود را بنهد
از بهر گنهگار شافع گردد — بنهای ذنوب سخت قاطع گردد
بر روح رسول و همراهانش — بر روح بتول و مؤمنانش
صد بار درود و آفرین باد — صد بار سلام بالیقین باد
اوصاف رسول گر شمارم — از لکهه هزار یک نگارم
این سطح زمین صفحه تنگ — سحبان خرد شده است پالنگ
بر مصرع مینو دم اختتامش — صد بار سلام بر روانش

هستم ز عذاب گور ترسان
وز دار بوار سخت لرزان

ترسم ز عذاب سخت عقبی
وز رحمت ناصواب دنیا

از دشمن نابکار تنگم
وز سختی روزگار تنگم

از دست لئیم سخت حیران
وز کافر کیش پس پریشان

در بند فتاده ام چو ماهی
بر جامه سپید شد سیاهی

از شرک بدمعاد عاجز
وز ظالم بدنهاد عاجز

بر بنده گنهگار رحمی
بر عاجز خاکسار رحمی

از شفقت خود بما نظر کن
وز رحمت خود بما نظر کن

از بند رهائیم بخش
وز رنج صفائیم بخش

از پنجهٔ ظالمان برهان
وز قبضهٔ کافران برهان

بگذاشت زنان و اقربایم
تو شاه شهان و ما گدائیم

فریادرسی بمای غفار
از دست لئیم ده و برآر

نه فوج که با غنیم جنگم
از سستی بخت پا بلنگم

نه گنج که آرمش تنازع
لاکن ز عنایتت توقع

گردد ز عنایت تو این مور
بر پیل قوی و صاحب زور

گر نظر کنی بخاکساری
از لاف زند سپاه ماری

گر مهر کنی بخشک خاری
گلبرگ نهد بشاخساری

گر لطف کنی باستخوانی
برخیزد و پر شود زجانی

ور تیر رحمتت ده بخشد
در پنجهٔ من لئیم افتد

این رنج و بلا که من کشیدم
بر گردن آن لئیم بینم

این زنده نیم خراب و خسته | در بند بلا و رنج بسته

زنگ تن من اگر زداید | وز پنجهٔ کافران برآید

آن کافر بدنهاد و بدحال | گردد ز عنایت تو پامال

بر ماه شود برادر آتش | مسمار شود همه مکانش

هاشش زبان کس نیارد | بر جان غبیث تف گذارد

گردند زنان و مادر آتش | باشند مهان و خواهر آتش

در ذیل زنان به تماشان | زن کرده رجال بدمعاشان

جز قدرت تو کراست یارا | جز رحمت تو کراست یارا

هر چند که ما گناهگاریم | لاکن ز کرم امیدواریم

انبار گناه ما عفو کن | کوه وار گناه ما عفو کن

تاریک دلم نمای روشن | خاشاک و خسم نمای گلشن

گر رحمت تو غلو نماید | از بستهٔ دلم گره گشاید

این تیره دلم چراغ گردد | وز ترس فنا فراغ گردد

از رزق حلال سیر گردان | از غیب عطا کنی فراوان

ز قرض بد مدام افتاده | بار است که بر سرم نهاده

از غیب اگر شود عنایت | وز قرض شود مرا فراغت

هر دشمن ما بکارد مقهور | تا یوم قیام دار منصور

هر مریضی که نزد من آید | از عسلاج شفای تن یابد

فرزند سلیم گر به بخشی | با طبع فهیم گر به بخشی

باشد جهان مرا نمودی | بس مرگ بود مرا وجودی

دجال شریر چون در آید / ایمان جهانیان رباید

شخصی که بفضل رحمتت هست / مرو یکه بپایه عاطفت هست

از شر لئیم نگسلد مو / بر جان و زبان باشدش هو

از مکر دجال و شر دجال / وز صحبت کافران بدحال

باشم با امان و صد پناهے / از رحمت تو مبین نگاهے

اسلام مدام همرهم باشد / ایمان دوام یاورم باشد

از رحمت تو منم طلبگار / گردیم شهید جنگ کفار

تا زمانیکه در جهان وارے / از بلیات ورا امان وارے

وقتیکه روان شود روانے / برخیزد زین جهان جانے

از سختی نزع نجات بخشے / وز تنگی نزع نجات بخشے

خاران قبر نمای بر من / از رحمت خود هزار گلشن

از سنج صراط مخلصی بخش / وز تنگی راه یاورے بخش

روزے که حشر بنا نمائی / برامت احمدم عطا نمائی

گردند بدرگاه تو حاضر هر یک / پرسان شوی ز معامله هر یک

از کرده خود نادم آییم پیشت / یدلبسته و دلخسته باشیم پیشت

باشند شفیع ما محمد مرسل / بر روح رسول باد رحمت کامل

گر فهم کنی گناه بر گناهے دارم / گر رحم کنی پناه بر پناهی دارم

جز رحمت تو کجا نجاتے ما را / جز شفقت تو کجا نجاتے ما را

در باغ بهشت مسکنم ساز / در لجه کرم منعمم ساز

در باغ بهشت بخش دیدار / ای خالق کارساز غفار

سیراب نمائی ز آب کوثر — از دست حسین و شاه حیدر

با حور نمای همکنارم — در عشرت کام دل برآرم

در ظل رسول جای فرما — در سایه بتول جای فرما

از صحبت چاریار فیضان — در خلوت همراهانش گردان

در روی رفقا چو باصفا دم — در بند هوا و هوس فتادم

بنواخت مرا بزرگ دانا — آن والد مادر است ما را

در ساخت مرا بجای دلبند — پرورد مرا بنام فرزند

بر روح حسین بزرگ اکرم — الطاف و کرم خدای اعظم

هر لحظه بر آن بیکران باد — در قدم رسول جای شان باد

بر روح برادرانش و خواهر — الطاف خدای باد مادر

بر والد و مادرم بخشای — در باغ بهشت جای فرما

بر جمله زنان و مرد مؤمن — بر جمله بزرگ و خورد مؤمن

بر جمله شهید جنگ کفار — آن نیک نهاد و نیک کردار

بر روح تمام و کل رفقا — از رحمت خویش رحم فرما

این جمله سوالها که کردم — وین جمله مقالها که کردم

این جمله عرضهای بنده — وینجمله غرضهای بنده

گردند قبول در جنابت — پوشند لباس استجابت

بوسیله روح پاک احمد — بوسیله ذات خاص حامد

بوسیله چار یار اکبر — بوسیله همراهانش یکسر

بوسیله بتول پاک رسول — همه کام شود وصول و مقبول

من بندۂ حکیم پر گناہم ۔ خواہان نجات و داد خواہم

۲ رباعی مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات

یارب و خلق تکیہ گاہم نکنی ۔ محتاج گدا و پادشاہم نکنی
چون موی سیہ سفید کردی کرم ۔ با موی سپید رو سیاہم نکنی

۳ رباعی مناجات بدرگاہ واہب العطیات ۔ من تصنیف جناب فیضماب حکیم عبد الغنی صاحب مرحوم المتخلص فرحت کہ جد امجد خاکسار ہستند ۔

یارب ز فضل شفا نصیبم گردان ۔ فضلت بہمہ حال قریبم گردان
ہر درد دل من چو نام محبوب تو شد ۔ تا ہستی ہمہ درد طبیبم گردان

رباعی دیگر من تصنیف جناب ممدوح مغفور

یارب دل این بندہ منور گردان ۔ از نور یقین ۔ در مملکت غنا سکندر گردان ۔ از گوہر دین
محتاج بمخلوق مکن در دنیا ۔ الا توکل ۔ پا بوس غلامان پیمبر گردان ۔ در خلد برین

رباعی دیگر از تصنیف جناب موصوف مرحوم

یارب نظری بر من بیچارہ بکن ۔ پیراہن دریا تنگیم پارہ بکن
جمعیت کونین ببخش از کرمت ۔ ثابت گہرے جوہر سیارہ بکن

رباعی دیگر ۔ از جناب ممدوح مرحوم

یارب کرم خویش معینم گردان ۔ مشغول بکار و بار دینم گردان
محتاج دگر کس مکن این عاجز را ۔ مستغنی نقطہا چو شینم گردان

۴ رباعی ۔ در شان سرور کائنات علیہ السلام والصلوۃ ۔ من تصنیف جناب مرحوم

ای آنکہ بود نام بلندت احمد ۔ از تو بجہان رسیدہ فیض سرمد
از لطف جہان نواز خود عفو کن ۔ تقصیر مرا کہ ہست بیرون از حد

رباعی دیگر در شان سید المرسلین از جناب مغفور

ای آنکه قمر گشته ز انگشت تو شق — بر جمله جهان توئی رسول برحق
بهر مرض بنده عطا کن صحت — کز لفظ شفاعت شفا شد مشتق

غزل در شان سید الاولین و الآخرین صلی الله علیه وسلم — از تصنیف جدم مرحوم

کونین معطر شده از بوی محمد — صد نافه تاتار ببک موی محمد
جبریل بمژگان شده روبان در او — آورد ز حق تحفه دعا سوی محمد
صد خرمن عصیان بشود سوخته در حال — آنجا که فتد پرتوه از روی محمد
شاهان جهان نسبت او لقمه گدایند — هر کس که گدا شد به سر کوی محمد
صد چشم گنه آب بهم آرد ندامت — هر جا که رسد شمه از بوی محمد
صد حلقه و کرامت بهر ذره خاکش — صد سجده برقص آمده در کوی محمد
فرحت ز بهشت است نه از سید اعمال — هر کس ز شعراست ثناگوی محمد

غزل دیگر در جناب خاتم النبیین شفیع المذنبین علیه السلام — از تصنیف جناب ممدوح علیه الرحمة

بود سر مرا خاک پای محمد — دل و دین و جانم فدای محمد
ظهور ربوبیت خود خدا — نکرده مگر از برای محمد
اگر جمله عالم محرر شود — به تحریر ناید ثنای محمد
ولی در دو دار و نجویم رضیست — چو صحت بیاید دوای محمد
خدایا دعای مرا کن قبول — بحق علی و برای محمد

مناجات در جناب سرور کائنات فخر موجودات علیه السلام — از جدم مرحوم

قلم چو سجده کند بر در صحیح رسول — شود به نزد خدا حرف حرف او مقبول
یگانه کرد همه انبیاء جمله جهان — برآمدند چو شمس و من بکنج خمول

خدا خدائی خود را شناختی ظاهر — اگر نه ذات شریفت بحق شدی موصول
بحق حق دو یار بوبکر و عمر و عثمان — بمرتضی و دو فرزند او بحق بتول
ازین مرض که طبیبان شدند زو عاجز — بده شفا که خدا گفته ات کند مقبول
پناه نیست بغیر از تو یا رسول الله — کرم کرم که همین درد شد [illegible]
بعین وقت عنائی شفیع روز جزا — بکن ز صاحب درد قبول این مسئول
که در زبان بشود در دمن [illegible] شفا — ز لطفهات چرا آید مرا سبب مأمول
شدا نمود و ترا مظهر خدای خویش — ز رحمت [illegible] بنامت ببام عرش [illegible]

که در شان جناب اصحاب کبار رضی الله عنهم از تصنیف [illegible] صوفی مرحوم

مدح امیر المؤمنین سیدنا ابا بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه اول

صبح صدق از چهره بوبکر گردید آشکار — از سحاب سعی او شد دین بهار اندر بهار
کاشت از خون عدو تیغش بمیدان [illegible] — بهر احمد خورد نیش مار چون شد یار غار
مهر دین [illegible] نخستین [illegible] آتش عیان — گشت از خیر البشر بعد از پیمبر در جهان
شد برای علوم اسرار از مکان تا لامکان — آستانش جن و شاهان ملائک سجده گاه
سجده دین را امام و سالک ایمان نظام — از ملایک میرسد هر صبح و شام او را سلام
گشت [illegible] شکستن التجا انبیا — کرد بهر مزرعه تقوی کلامش آب بار
[illegible] پیغمبر امیر لشکر دین نبی — پیروی کرده بجان بر کیش و آئین نبی
گشته منظور نگاه چشم حق بین نبی — ثانی اثنین اذ هما فی الغار زین شد آشکار

مدح امیر المؤمنین سیدنا عمر خطاب رضی الله عنه خلیفه دوم

عدل از ذات عمر گردید قایم در جهان — شد سر سرکش ظلم از تیغ تیزش [illegible]
زهره تا [illegible] گشت [illegible] — تخم [illegible]

گشت ظاهر بار دیگر دین مصطفی هر … | چون ز … شد اسلام … در جستجو …
گشت آتش … وز ضرب تیغش … | نقش باطل ز هیبتش چون سنگ نهان …
از عدالت تیغ او … | طبل حق آوازه اش تا …
شد صدای آوازه او … | با شد از دستش خزان آتش …
هر که با شد هست از دل جان با عمر | هر که با شد … دشمنش با عمر
آنکه او را نیست … صاحب … | اول … ثالث …

در مدح امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی الله عنه خلیفه سیوم

آنکه نام عالی او در جهان عثمان بود | از نگاه او حیا را چشم پر از جان بود
… جامع قرآن بود | گشت ذی النورین در عالم خطابش …
گشته در درس سبق خوان … | نادر این زمانه او هست … سلسبیل
دشمن او در جهان … | مخلص … ز نور دین آئینه …
هر که با او شد موافق … | شد … زبانه دیده باز
قطره … | … در دریا …
… دستگیر … | … ز خاک …
همنشین مصطفی و خاص درگاه خدا | شد … در دو عالم …

در مدح امیر المؤمنین سیدنا علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم

حامی دین نبی یعنی علی مرتضی | ابن عم احمد و زوج بتول با صفا
از زبان … آن نبوی او … | لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار
مولد او خانه حق … | … شد …
شد … | …

گر ندانی اتحاد مرتضی و مصطفی / لحمک لحمی بخوان ای طالب اهدا
میشود گمره نباشد گر ولایت مرتضی / شو فدایش از دل و جان باید گر هست کار
ساقی کوثر امیر المومنین حیدر است / نعره اش جانگیر کفار و نگاهش صفدر است
گر ترا شوق خدا و الفت پیغمبر است / یا علی گو یا علی بر نهان و آشکار
گر به فردا آرزو بیتو بود خلد برین / مهر هر یک دولت امروز کن نقش نگین
خارجی و رافضی هر دو کار لعین / چار در یک نیست پیدا سه بچار آشکار
از برای بیت دین کسب از کمال وافیه / هر یکی الفاظ و معنی عروض و قافیه
مهر او گردید فرحت شرح ملا کافیه / هر که متن او محشا شد بمهر چار یار

۵ رباعی — در صفت محبوب سبحانی قطب ربانی علیه الرحمه — از تصنیف جد بزرگوارم مغفور

فرحت بمدیح غوث اعظم بشتاب / مقصود که داری از جنابش دریاب
گر فوج گنه گرد سیاهی غم نیست / تیغ کرمش بدم کند غرق در آب

ایضا

توئی مشکل کشا یا غوث اعظم / توئی حاجت روا یا غوث اعظم
براهت اولیائی معرفت گام / نمود از فرق تا پا غوث اعظم
برای دیده جان خاک راهت / شده چون توتیا یا غوث اعظم
بود نام تو بهتر ز آب حیوان / بود جانفزا یا غوث اعظم
ز تحت الارض تا فوق السموات / تو دانی رازها یا غوث اعظم
شود از یک نگاهت ذره خورشید / قمر گردد سها یا غوث اعظم
کند نام تو کار آب حیوان / بود نامت دوا یا غوث اعظم
نگاه تو بود کبریت احمر / مسم کن کیمیا یا غوث اعظم

نگاهت مرغ بریان زنده سازد ... مرا هم وه شفا یا غوث اعظم
ندارم جز تو دیگر دستگیری ... بسختی و عنا یا غوث اعظم
تپاک دل مرا بیتاب کرده ... شفایم کن عطا یا غوث اعظم
طبیب [illegible] رنج گران سنگ ... ترا دانم ترا یا غوث اعظم
بحق حق خود عیسی محمد ... شفایم ده شفا یا غوث اعظم
[illegible] پنجه بازوی الطاف ... رها کن زین بلا یا غوث اعظم
[illegible] کودک مجذوم و مفلوج ... رها از دردها یا غوث اعظم
مرا هم [illegible] امید است کز [illegible] درد ... کنند صحت رها یا غوث اعظم
بحقی یا غیاث المستغیثین ... شفا خواه از خدا یا غوث اعظم
[illegible] بخت و دل کز این درد ... [illegible] صحت شفا یا غوث اعظم
یقینم شد که [illegible] گشت زائل ... [illegible] لطف یا غوث اعظم
[illegible] که گویم [illegible] ... [illegible] یا غوث اعظم
امید [illegible] از [illegible] شد ... [illegible] یا غوث اعظم
[illegible] دارم بر تو [illegible] ... توئی حاکم مرا یا غوث اعظم
شفا یابد چنان فرحت که دیگر ... نه بیند [illegible] را یا غوث اعظم
شود مدح تو [illegible] ... شفا اندیشفا یا غوث اعظم
شفایم ده ببین خواهم ز شفاعت ... قبول افتد دعا یا غوث اعظم

بیان پنجم میں اشعار اردو حمدیه و نعتیه و مناجاتیه تحریر میں

غزل

از تصنیف ابوظفر محمد سراج الدین بهادر شاه بادشاه غازی مرحوم شاه دهلی المتخلص به ظفر

جسے خیال ہے کچھ رحمت الٰہی کا
گناہ سب سمجھی ہے دعویٰ وہ بیگناہی کا

یہہ فضل دیکھہ کہ خود بادشاہ ہی لیکن
رکھا ہے اور نہ یہہ بھی نام بادشاہی کا

یہہ لطف دیکھہ کہ خود بے نیاز ہے لیکن
دھیان ہے اوسی بندونکی خیر خواہی کا

تمام ہی جی مین عزیز اور ذلیل ٹہرا ہو
خدا ہے ایک ہمہ وقت ہر مرغ و ماہی کا

کیا کسیکو جگر خستہ دام فراق
دیا کسیکو مزا وصل گاہ گاہی کا

پہر اوسی چشم بتا مین فسون کہ جو دیکھے
تمام عمر ہی شکوہ کم نگاہی کا

جو حب آل نبی اور صحابہ ال ہے رکھے
ظفر اوسی نہین ڈر حشر کے تباہی کا

ایضا

کیون نہو عالم پہ احسان احمد مختار کا
ہے وہ مالک خالق کونین کے سرکار کا

کیون نہو دی سجدہ اوسکے دینکے سطوت پر ولیل
جا چھپا اونمین تا گا ٹوٹ کر زنار کا

واقعی اہل زمین کو کیا نظر آوے کہ ہے
آسمان پر سایہ اوسکی سرو خوش رفتار کا

کر دیا آویزہ گوش جہان حق کا کلام
حوصلہ ہے یہہ اوسیکے لعل گوہر بار کا

کہتی ہین موسی کو غش آیا تہا کوہ طور پر
ایک تصرف تہا وہ تیرے جلوۂ دیدار کا

کہتی ہین عیسے کو تہا مردی جلانیمین کمال
ایک کرشمہ تھا وہ تیرے خوبی گفتار کا

سرور فخر رسل روز جزا کا ہے شفیع
جسکے باعث سے ہو گیا مرتبہ ابرار کا

ہی جبرئیل ہمہ تیرے ہی رستے کے لیئے
زمزمہ جنات تجری تحتہا الانہار کا

تابش خورشید محشر کا مجہی کیا غم ظفر
بیٹھنے والا ہون کے سایہ دیوار کا

ایضا

سرورا تو وہ نبی جسکے نہین بعد نبی
دیکھکر شان تیری عرش کے ہی شان دبے

انبیا تجہسے کہین وقت شفاعت طلبی
مرحبا سید مکی مدنی العربی

دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی

تھی تیرے جلوہ سے ہی سجود ملائک آدم | ہے تیری نور سے پرنور حدوث اور قدم
دیکھکر حسن کے شیدا تیری دونو عالم | من بیدل بجمال تو عجب حیرانم

الله الله چه جمالست بدین بوالعجبی

تھا اگر خالق کونین نہ پیدا کرتا | ہیں کبھی ارض و سما ہوتی نہ پیدا اصلا
گرچہ اولاد میں آدم کے ہوا تو پیدا | نسبتی نیست بذات تو بنی آدم را

برتر از آدم و عالم تو چه عالی نسبی

جب گیا سوی افلاک کو تیری ملی رفعت | دیکھی سب باغ بہشت ایک ہی لیکر رخصت
کرچکا گلشن نہ چرخ کے جب گلگشت | شب معراج عروج تو ز افلاک گذشت

بمقامیکہ رسیدی نرسد ہیچ نبی

اے جہان کرم سے ہی تیری سیراب انام | تم خلق سے ہے تیری جہان شیرین کام
ای تر و تازہ کی افزای ریاض اسلام | نخل بستان مدینہ ز تو سرسبز مدام

زان شدہ شہرہ آفاق بشیرین رطبی

جو کلیم و عیسی و داود جہان تہی مامور | وہین نازل ہوئیں توریت و انجیل و زبور
اونکی ہر خاص زبانین تھی وہ فہم سے دور | ذات پاک تو در ملک عرب کرد ظہور

زان سبب آمدہ قرآن بزبان عربی

وہ فرشتہ کہ جو ہو حامل عرش اعظم | آئی در پر تیرے آنکھوں کو اگر کرکے قدم
تو ادب سے یہ کہی کہا کہ تیرے در کی قسم | نسبت خود بسگت کردم و بس منفعلم

زانکہ نسبت بسگ کوی تو شد بی ادبی

سوز عصیان سے جگر سوختہ جب مخلوقات | آئیں سرای قیامت میں طلبگار نجات

کہیں سرچشمہ حیوان اشتہا تیری ذات — مانا ہمہ تشنہ لبانیم و توئی آبحیات

لطف فرما کہ زحد میگذرد تشنہ لبی

نبی مظہر کے دل بیمار کا بھی حال وہ ہے — اور مسیحا حسی اب چارہ طلب ہے وہ بھی
کہکیا آگے ثنا میں تیری جیسی قد ہے — سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی

آمدہ سوئے تو قدسی پئے درمان طلبی

غزل۔ در شان سید الکونین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم ۔ از مولوی محمد حسین صاحب متخلص بہ فقیر

ہر لحظہ جسکا دل ہے رسول خدا کے ساتھ — گویا وہ متصل ہے رسول خدا کے ساتھ
بندہ عاصیونکو وہ بخشائینگے ضرور — عصیاں نبی شغل ہے رسول خدا کے ساتھ
جنت کے شغل عیش میں کیونکر نہ ہوئیگا — جو دل سے مشتغل ہے رسول خدا کے ساتھ
بن جائیگا وہ نار میں گر دنیں اوسکے غل — جس دل میں کچھ بھی غل ہے رسول خدا کے ساتھ
گویا نبی کا سایہ ابوبکر تھے کہ جو — ہر جا میں متصل ہے رسول خدا کے ساتھ
اترائی آسمان پہ کیونکر نہ یہ زمین — ہر دم جو مشتمل ہے رسول خدا کے ساتھ
خاک مدینہ ہونگا خدا چاہی اے فقیر — گر عشق آپ کے گل ہے رسول خدا کے ساتھ

غزل از تصنیف حاجی فرید بخش صاحب ۔ تخلص دل ۔

دل جو اب خوش کہیں نہیں رہتا — کیا کبھی تھا کہیں نہیں رہتا
مدد اے جذب اشتیاق رسول — ہند میں میں نہیں نہیں رہتا
پھر مدینہ میں کاش بلوائیں — میں تو بے شاہ دین نہیں رہتا
ذکر صل علی الرسول بغیر — جبرئیل امین نہیں رہتا
جو سجود فن بقیع پھر اوسکو — شوق خلد بریں نہیں رہتا
پائی خوشبوی مصطفیٰ جو نسیم — مائل یاسمین نہیں رہتا

مبتلای مدینہ عالم ہے — غم زدہ [illegible] میں نہیں رہتا
لیکن ایسے جانے والا وہاں جا کر — پھر کوئی کیوں وہیں نہیں رہتا
دور ہے اک طریق سنت کا — اوس سے پھر تو خشمگین نہیں رہتا
دل پہ ایک نقش روضہ ہے — مثل نقش نگین نہیں رہتا
[illegible] رسول ہاشمی [illegible] — جو کبھی وہ حزیں نہیں رہتا

غزل — از تصنیف منشی غلام حسین صاحب تخلص بہ **عشق** —

مدینہ زندگی بھر یا الٰہی میرا مسکن ہو — جو مر جاؤں تو خاک پاک احمد میرا مدفن ہو
وہ مرغ دل نہ ہو خوش سیر باغ جنت گر — کوئی دم شاخ نخل طیبہ پہ نشیمن ہو
شباک روضہ احمد کے غم میں تا آرائش [illegible] — عجب کیا شل نے پیدا میرے سینہ میں روزن ہو
جو دل میں عشق مصطفیٰ ہے [illegible] — زمیں میں اتنا جو بہتا [illegible]
نبی کی مدح میں ای **عشق** یہ شعر لکھا — کہو نعت حقیقی جسمیں او بھی ساختہ پن ہو

قصیدہ سراپا — از تصنیف میاں [illegible] دہلوی — تخلص بہ صغیر

صورت پاک مصطفیٰ صلی علی محمد — حسن ملیح و دلربا صاحب اجتبا محمد
روی مبارک آپ کا غیرت مہر و ماہ تھا — جس پہ خدا بھی مبتلا تھا صلی علی محمد
موی سر شریف ان ملنے میں [illegible] — عنبر و مشک کر دو [illegible] صلی علی محمد
ابروی [illegible] کبھی نظر برگ سمن [illegible] نرم تر — سامع خیر و شر [illegible] کر صلی علی محمد
کیسوی [illegible] کیا بیان تیغ برای دشمنان — سجدہ کبھی ہر انس و جان صلی علی محمد
آنکھیں وہ خوشنما کہ بس [illegible] — جا ای نہ دل سی پھر ہوس صلی علی محمد
بینی جو تہی جناب کے موزون آب و تاب کے — حق نے خود انتخاب کے صلی علی محمد
لعل لبوں کی جو بیان [illegible] — تہا ہی اوسکے برزبان صلی علی محمد

دانت ہی ایسی صاف تھی ہیری بھی جنکو دیکھ کے
کہنی لگے نہی نہی صلِّ علیٰ محمدؐ

زلفیں سیاہ جلوہ گر چہرہ رشک ماہ پر
نور مین غرق سر بسر صلِّ علیٰ محمدؐ

سینہ تمام آپ کا علم خدا سے تھا بھرا
آئینہ سے سوا صفا صلِّ علیٰ محمدؐ

بازو لطافت آفرین صرف سبھی کا دین
آدم و دیسین یو نہین صلِّ علیٰ محمدؐ

دست مبارک آپکی بہر دعای خلق تھے
ہاتھی بسنا کیا اسطے صلِّ علیٰ محمدؐ

آتی نہ تہی نظر کمر بال سے بہی رکیک تر
بستہ ہمیشہ خیر پر صلِّ علیٰ محمدؐ

نقش قدم کا معجزہ دیکھنا غور کے سے جا
سنگ کو موم کر دیا صلِّ علیٰ محمدؐ

تیری قدم سے یکسان رتبہ زمین کا آسمان
تو ہی شریف دو جہان صلِّ علیٰ محمدؐ

ہووےگا حشر جب کبھی کہا وینگے خوف سب نبی
کہوےگا امتی تو ہے صلِّ علیٰ محمدؐ

حامی بیکسان تو ہے ہادی گمرہان تو ہے
مالک دو جہان تو ہے صلِّ علیٰ محمدؐ

بیا ہے جو تو کہو رہا حشر مین ناسی ولا
دور کر اسکو تو سدا صلِّ علیٰ محمدؐ

کون ہے اس فقیر کا خستہ و حقیر کا
حامی تو ہے صغیر کا صلِّ علیٰ محمدؐ

صدقہ حسن و حسین کا میری بھی مدعا دلا
دیجیو شاہ دوسرا صلِّ علیٰ محمدؐ

امتی آپکا ہو نہین رنج مین مبتلا نہین
مفلس و بینوا ہو نہین صلِّ علیٰ محمدؐ

رنج کی دل پہ چوٹ ہی سر پہ گنہ کی پوٹ ہے
تیری کرم کی اوٹ ہے صلِّ علیٰ محمدؐ

عزت ہے جناب سے کیجیے دعا شتاب سے
چھوڑ یو نہین اس عذاب سے صلِّ علیٰ محمدؐ

یاد خدا کیا کرون خرم و خوش ہوا کرون
دل سے یہی پڑھا کرون صلِّ علیٰ محمدؐ

قصیدہ - از محمد بیگ صاحب دہلوی - متخلص بہ راحت -

وصف گر آوے نہ اپنا احمد مختار کا
ہو نہ تیشہ عفو جرم زشتی کردار کا

مدح خوان ہو روز و شب جو احمد مختار کا
سینہ اسکا ہو سکینہ مخزن اسرار کا

بات [illegible] جاہل ہے اوسکی ذات — یہی کلام اقدس ہی مصداق اس گفتار کا
نعت اوسکی کیا لکھی کوئی بجز صلِ علیٰ — بیٹھتا ہوں تھی زبان پر ورد ہو ہر بار کا
نام [illegible] شین کیا عجب — بلبل بستان مدح احمد مختار کا
غاشیہ اوسکا [illegible] — عرش ہی انکا مرکب ہووے جس اسوار کا
منزلت قوسین او ادنیٰ کی شایان تہا تہا — حسن یوسف تہا فقط ایک گل ہی گلزار کا
تہا [illegible] جسم پاک — اسلئی سایہ نہ تہا [illegible] لعبت دوار کا
جب نصب [illegible] نبوت کا لیا انبی علم — کوس واژون ہو گیا ہر ملت کفار کا
[illegible] ختم ہو گیا [illegible] — گر پڑا تاج تفاخر نخوت و پندار کا
[illegible] ساری جہان [illegible] — بت پرستونکو بنا طوق گلو زنار کا
ایک [illegible] کیا شق القمر — گنبد گردون [illegible] زنہار کا
حاجت [illegible] — وہ کبھی [illegible] اوسکے [illegible] کا
[illegible] کلام [illegible] — [illegible] زیادہ [illegible] کا
بادشاہ دنیا و آسمان [illegible] — نقش پا ہی [illegible] کا
[illegible] شفاعت [illegible] — نقش نعلین مبارک [illegible] کا
[illegible] اصحاب اور [illegible] — سرمہ کحل الجواہر [illegible] لا بصار کا
[illegible] — شافع روز جزا [illegible] ستار کا
[illegible] — نقش پا [illegible] جب [illegible] کا
ہی زیادہ [illegible] میم اوسکے نام کا — یاران [illegible] سرمایہ کا
تو ہمہ [illegible] رسالت و صحابہ ہین نجوم — انبیا کا [illegible] والانصار کا
دن کو [illegible] خلق کے اور راتوں [illegible] — پھر [illegible] امت [illegible] استغفار کا

شاخ طوبی کا بناوین قصر دوسکے واسطے
جسکے سر پر پڑ گیا سایہ تری دیوار کا

پہونک دیوین گر ہلادی کوئی بالائی زبان
وقت رحلت کلمۂ طیب ترے اقرار کا

کہکشان کہتی ہین جسکو ہی وہ فرسودہ نیام
چرخ اخضر پر ترے ہے جوہر نما تلوار کا

جمع کر کے اشک چشم طالب دیدار کے
چشمۂ کوثر بنایا چشم دریا بار کا

ذات تیری ہے حبیب خاص رب العالمین
طالب اللہ ہے طالب تیرے دیدار کا

مہر رکھی نام کا تیرے جو کوئی اوس پہر
تند چلتا ہی نہین ہے چرخ ناہنجار کا

برکت نام مبارک سے تری لیل و نہار
روکتی ہین وار ہم ابلیس کے تلوار کا

گر تصور ہے کہ لیوے بیخودی مین تیرا نام
دہوئین کوثر سے ملائک آکے منہ میخوار کا

نام تیرا مغلسے مین نسخۂ اکسیر ہے
اور شفا کے واسطے ہے حرز جان بیمار کا

ہے یہ تیری نام کے برکت کہ تا راستے
پہیر دیتا منہ ہے وقت سحر کفار کا

پنج نوبت شش جہت سے تیرے کوچے مین
جانب سجدہ جہکی ہے سر ایک سیدار کا

حسن یکسو ہی تیرا جسکا عاشق ہے خدا
یوسف مصر ایک بردہ ہی ترے بازار کا

جوہر شمع ہے تیرا نور شمع لامکان
قد دلکش سرو رعنا گلشن بہار کا

تابش سکو تھی جو پردہ مین ہوا تیرا اثر
تھی تجلی طور کی جلوہ ترے دیدار کا

ہو گیا ہے عنبرین کہ جسم معنبر کا گذر
مشک صدقی آہوی تاتار ہے اور جگہ تاتار کا

گر نہ ہوتا عرش پر معراج مین تیرا گذر
دیکھتی پہر افتخار اس ارض ناہموار کا

پہر بہر رفعت شان سے بہر گر جا نکر
تا تہ آدمی پاتی نہ ہو گر تیرے دیوار کا

جسجگہ جلتے ہوے ہیں روح القدس کے بھی پر
کب ہے کہلتا بال پروازی کسی طیار کا

بام قصر نعت واسکا ہے سر عرش نشین
سوختہ پر طایر مضمون میری اشعار کا

کیا تعجب ہے اگر اشعار میری ہون قبول
طاق گردون پر لکہین کتابہ اس طومار کا

یا شفیع المذنبین لیجیو خبر میری شتاب — ہوں گرفتار بلای آسمان [illegible] کا
دست میں [illegible] سے کر رہا [illegible] — تا گلو پہونچا ہی میرے خنجر اس غدار کا
ہو سر [illegible] غم [illegible] تیری [illegible] کی آرزو — کون ہے فریاد رس بیان اپنی حال زار کا
مرغ دل ہے سینہ سوزان میں [illegible] ہم صفیر — طعمہ داغ درون ہے مرغ آتش خوار کا
مجھسے بدکردار کو ہو جو تیرا فکر [illegible] — اوج پر ہے کیا نصیبا طالع بیدار کا
عالم دنیا میں گر ہو وی زیارت آپکے — دور ہو سب [illegible] ہوئے سیر اس دل بیمار کا
اور قیامت میں ہو دن [illegible] جمع تیرا [illegible] — آفتاب حشر ٹھنڈا ہو ترے دستار کا
مجھکو اسی سایہ دامن میں دامن دیجیو — باز پرس ہونے نہ دیجو اپنی عصیان کار کا
تیری رحمت کو [illegible] ہمیشہ یا رسول — ہو نہ کچھ اسپر تصرف دشمن غدار کا

قصیدہ — بطور سراپا از محسن علیہ الرحمہ

ورد زبان رکھو دلا صلِّ علیٰ محمد — صلِّ علیٰ نبینا صلِّ علیٰ محمد
وہ سراپای مصطفیٰ [illegible] ہی [illegible] — نور جمال کبریا صلِّ علیٰ محمد
ہی یہ خطا کہ زلف کو مشک ختن [illegible] — زلف کے بو ہی جانفزا صلِّ علیٰ محمد
[illegible] طرح جن و ملک [illegible] — ہی وہ جبین خوشنما [illegible] صلِّ علیٰ محمد
ابرو کی [illegible] — [illegible] کہا خوب [illegible] صلِّ علیٰ محمد
چشم حیا [illegible] — پردہ میں [illegible] چھپا لیا صلِّ علیٰ محمد
[illegible] — [illegible] حق کا مدعا صلِّ علیٰ محمد
بینی [illegible] — آپ خدا نے [illegible] لکھا صلِّ علیٰ محمد
[illegible] — ہی وہ [illegible] صلِّ علیٰ محمد
کیا [illegible] لب [illegible] میں — آبحیات [illegible] تھا صلِّ علیٰ محمد

بات میں جو مٹھاس تھی آپکے وہ کہاں بھلا ۔ قند و نبات میں نہیں صلی علی محمد
دانتوں کی آب و چمک وہ تھی کہ اپنی آپ کو ۔ آپ گہر نے لی چھپا صلی علی محمد
نور تھا ایسا وہ کچھ نہ رہتا جسکے روبرو ۔ رنگ شعاعی قمر کا صلی علی محمد
جلوہ روی پاک میں نور خدا کا تھا ظہور ۔ جسنے کہ دیکھا کہا صلی علی محمد
دست نبی تھی آپکے پھر دعا جو رد نہیں ۔ منہ کی قبول تھی دعا صلی علی محمد
اونگلیاں اٹھی آپکے وقت نماز کے ہیں پانچ ۔ ہاتھ ہے رکن شرع کا صلی علی محمد
صاف تھی یوں ہے آئینہ ایسا کہاں ہے پاک صاف ۔ سینہ تھا جیسا آپ کا صلی علی محمد
خالی ہوا و حرص سے نعمت حق سے پر شکم ۔ گرسنہ حق کے دیکھا صلی علی محمد
ناف زمیں سے عرش تک بو سی ہے ناف کی مہک ۔ نافہ میں ایسی بو کہاں صلی علی محمد
محسن آپ کی ہو خموش زانو پاکی کر ثنا ۔ آگے ادب کے بیٹھا صلی علی محمد
سر کو بیہوش کے کہتی ہے شمع بان جان سے ۔ آپ کے دیکھا تو پا صلی علی محمد
پاؤں تھا قائم آپ کا وہ رہ مستقیم پر ۔ حق سے کبھی نہیں ڈگا صلی علی محمد
جسم مبارک آپکا ہاتھ سے حق کے تھا بنا ۔ سر سے لیکے تا بپا صلی علی محمد
رنگ ملیح آپکا لیکے عرب سے تا عجم ۔ شور جہاں میں ہے پڑا صلی علی محمد
عرش تو رتبہ جب ملا سب کے قلم نے لوح پر ۔ سر کو جھکا کے یہ کہا صلی علی محمد
سدرہ منتہی پہ پر وز جانسے و لنشی جبرئیل ۔ کہتا تھا جب جھکا صلی علی محمد
وہ ہی شفیع عاصیاں وہ ہی کریم اور رحیم ۔ ایسا ہوا نہ ہووے گا صلی علی محمد
انبیا و اولیا ہے سب پڑھتے ہیں فقط درود ۔ کہتا ہے اونپہ خود خدا صلی علی محمد
خاک کو محسن اپنی آپ لیکے پہونچ مدینہ کو ۔ روضہ پہ جبیں کے پڑھ سدا صلی علی محمد

۸ غزل - از مولوی لطیف علی خان صاحب متوطن بریلی متخلص بہ لطف

ہوئین بلبل باغ وصف احمد مختار کا
سو زبان رکھتا ہے ہر پتہ درخت گلزار کا

عشق ہے جسکو جناب سید ابرار کا
لطف حاصل ہوگا اوسکو لطف کے اشعار کا

وصف جب گلزار مین چشم مبارک کا کیا
خواب آنکھوں سی اوڑا نرگس بیمار کا

وسوسی شیطان کے بھی شمشیر ہو دم مین فنا
وصف حضرت کے لکھوں گر ابروی خمدار کا

دفتر کونین سی ہوگا وہ رتبہ مین فزون
کل لکھو گر جزو بھی نعت احمد مختار کا

اک جہان جسکا ہو شاہ دوجہان کا ہے غلام
مجھکو بھی کردے گدا یا رب اوسی سرکار کا

قبلہ حاجات دوعالم ہے تیری ذات پاک
کعبہ مقصود ہی تو زاہد و دیندار کا

عاصیونکو کیون نہ آمرزش کی ہو تجھ سے امید
جانتے ہین سب کہ تو محبوب ہے غفار کا

تابش خورشید محشر کیا جلا ئینگی ہمین
سر پہ ابر کرم سایہ ہے تجھ سرکار کا

ہم گنہگارون کی بخشش کا کوئی ساماں نتھا
گر نہ ہاتھ آتا وسیلہ احمد مختار کا

باغ جنت لینگے نالو سے صلہ مین روز حشر
ہم ثنا کر وصف کوئی احمد مختار کا

وہ ہے خورشید محشر کی نہین اندوہ و غم
ہون مین خو کردہ نبی کے سایۂ دیوار کا

آنکھین ہر گز دونگا نبی کی پاون پر رعنا جزا
کس بہانے سی مین کہون ہے حوصلہ دیدار کا

قصر جنت سے نکل جاکو لگا مین آزاد و ضعم
خانہ داری کا ہے اے لطف دنیا دار کا

ایضا

یا نبی ہون آپکے فرقت سے بیدم الغیاث
الغیاث اے پادشاہ ہر دو عالم الغیاث

دستگیری کر مری اے شافع روز جزا
کھینچتی ہین اب گنہ سے سوی جہنم الغیاث

اے ورسیہ نبوت ہو دن کتاب ہجر مین
ہو گئی ہے آنکھ ہر اک چاہ زمزم الغیاث

ہاتھ آجاوی اگر خاک مدینہ ہو شفا
درد دل جاتا نہین پہلو سی اک دم الغیاث

بی توسل آپکے کس نہ ہوئی توبہ قبول
بر سوان ہے گرتی رہے حوا و آدم الغیاث

[illegible] حضرت کا [illegible] ہے — [illegible]

ایک بھی گر ہاتھ [illegible] آپ کا [illegible] — [illegible]

نا خدا ہی گر مدینہ کی طرف باد مراد — [illegible]

ہون مدینہ کی زیارت کو [illegible] — [illegible]

لطف اوس دم باب رحمت کہو دیا ہی خدا — [illegible] حضرت مین کیا کرتے ہین [illegible]

ایضا

[illegible] عشق [illegible] سراج — کیا [illegible]

[illegible] لطف [illegible] سراج — [illegible]

[illegible] ہوا آپ کو [illegible] سراج — [illegible]

[illegible] حسن [illegible] — کیا [illegible]

[illegible] کیا جان [illegible] — [illegible]

کرتی ہین شفاعت [illegible] — [illegible]

ای لطف جو محبوب کا چاہا وہی پایا — باقی [illegible]

ایضا

اچھا نہو یارب کبھی بیمار محمد — کم ہو نہ کبھی [illegible] دیدار محمد

مومن ہوا جسنے کیا اقرار محمد — کافر ہوا جسنے کیا انکار محمد

رویا کرین گلزار مین شبنم کی روش [illegible] — [illegible] گل رخسار محمد

انگارہ نہ کیون لوٹون نہین [illegible] — [illegible] محمد

عالم ہے یہ اک دست [illegible] — [illegible] محمد

کیون انکھین نہین بند کرون دید جہان سے — [illegible] محمد

مخلوق مین خالق کا بھی اظہار نہوتا　　ہوتا نہ اگر خلق مین اظہار محمدؐ
یوسف سے سہی فزون حسن مین کیونکر نہون ہم　　اس زور پہ ہے گرمی بازار محمدؐ
بندہ نہین وہان اونکی زلیخا ہوئی خواہان　　اور یان پہ خدا ہی ہے خریدار محمدؐ
جو طالب جنت ہو وہ طوبیٰ کی تلے جائے　　جنت ہی ہمین سایۂ دیوار محمدؐ
ای لطف وہ محبوب خداوند جہان ہے　　جو کچھ کہو وہ سب ہے سزاوار محمدؐ

ایضاً

کوئی نہین تمہارا ہمسر میری پیمبر　　لاریب تم ہو سب سے برتر میری پیمبر
ہودل برق سے زیادہ مضطر میری پیمبر　　شعلے بھڑک رہے ہین دل پر میری پیمبر
اب تو بلالو اپنی در پر میری پیمبر　　کبتک پھرا کرون مین دردر میری پیمبر
وردزبان ہے یہی اکثر میرے پیمبر　　قربان ہون جان و دل سے تم پر میری پیمبر
ملک عرب مین حضرت ہندوستان مین بندہ　　چین آئی میرے دلکو کیونکر میری پیمبر
ابر کرم کو اپنی فرمائے اشارہ　　دہو ڈالی سب گنہ کی دفتر میری پیمبر
تشریف آپ لائین جب وقت نزع آئی　　ہرگز نہووین میلے تیور میرے پیمبر
پرنم جو آنکھین شوق دیدار مین ہین　　کوثر سے ہین فزون تر بہتر میری پیمبر
آوارہ کو یکو ہی رہبر کی جستجو ہے　　لو اب بلالو اپنی در پر میرے پیمبر
ہردم یہ آرزو ہے ہردم یہ التجا ہے　　بہولون نہ یاد تیری دم بھر میرے پیمبر
دشوار تہا پہونچنا جنت مین تہا نہ یہان لین　　ای لطف گر نہوتی رہبر میرے پیمبر

ایضاً

بہروسا ہے مجھی بخشش کا حضرت کے شفاعت پر　　نہ توبہ پر نہ تقوی پر نہ محنت پر نہ طاعت پر
ہوا ہی جب سے مائل مرا خسار حضرت پر　　نثار اس پر کیا ہی ہر داغ جگر گلہای جنت پر

کریگی رشک کیا امت سابق اس امت پر
کہلینگے جب لب جان بخش حضرت کے شفاعت پر

حصول مقصد کونین عشق ذات عالی ہے
محبت کو محبت کیون نہ آئی اس محبت پر

جگر اوسکے ہی یا مصحف عارض مین سیپارہ
نزول آیت رحمت ہے جسکے پاک صورت پر

بہرینگے گوہر مقصود کیا کیا جیب و دامانمین
وہ دریائے کرم و مہر گر آیا سخاوت پر

تعلق کچھ نہین دنیا مین جز عشق نبی مجھکو
یہین آزاد دام رشک مین ہے سیر فراغت پر

اوٹھا کر لیگیا اقبال عالی آپ کو اوسجا
جہان پر چہوڑدی روح الامین نے تاب و طاقت پر

نبی کی ہجر کا غم عیش و عشرت سے زیادہ ہے
ہزارون وصل یاران قربان ہین ایکساعت کی فرقت پر

سمجھے ہا کیونکر نہ عاصی مالک خلد برین مجھکو
تیرا اسم مبارک ہے رقم درہای جنت پر

نہین ملتی کبھی یاد نبی سے ایکدم مہلت
نماز پنجگانہ شیخ ہے موقوف فرصت پر

اوسی جنت کو لیجائیگا وہی راہ جہنم سے
گواہی جسنے دی اکبار ہی مسکے رسالت پر

مدینہ کے گدائی بادشاہی سی زیادہ ہے
چلو اے لطف یا ننگے خاک ڈالو اس سلطنت پر

ایضا

کوئی پیغمبر نہوگا عاصیو جسدم شفیع
ہونگے ہر امت کے اوسدم سرور عالم شفیع

کیون نہ روز حشر کے دہڑکو نسے ہون بیخوف ہم
رکہتے ہین تم سی شفیع المذنبین کو ہم شفیع

حشر تک ہوتی نہ استغفار سے توبہ قبول
گر محمد مصطفے ہوتے نہ ای آدم شفیع

ہم وہ مجرم تہی کہ ہوتی سو سو قہر خدا
گر محمد سا نہوتا رحمت عالم شفیع

لطف گل اشک ندامت سی کہلیگا روز حشر
آتش دوزخ کا ہی یہہ دیدۂ پرنم شفیع

ایضا

ہو گیا ہی سینہ سوز غم سے مجمر یا رسول
مرغ جان ہے صورت سیماب مضطر یا رسول

جیتے جی جنت کہاتا ہے مقدر یا رسول
تیری روضہ کا تصور جسکو ہے ذکر یا رسول

[illegible]
[illegible] خلق سے کوئی تشبیہ [illegible]
رحمۃ للعالمین ہو یقین ہے روز حشر
شرع کی [illegible] گر شب [illegible] دیدار کا
[illegible] کا نور کب [illegible] خورشید [illegible]
رونق [illegible] چشم [illegible]
دونوں عالم میں [illegible] آپ [illegible]
آپ [illegible] شفیع المذنبین
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] پر رسول
[illegible] یا رسول
رحم ہے [illegible] یا رسول
[illegible] یا رسول
[illegible] یا رسول
[illegible] رسول
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ایضاً

[illegible]
[illegible]
[illegible] کیوں [illegible]
[illegible]
[illegible] میلاد [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] محفل میلاد میں
[illegible] محفل میلاد میں
[illegible]
[illegible] محفل میلاد میں
[illegible] محفل میلاد [illegible]
[illegible] محفل میلاد میں
[illegible] محفل میلاد [illegible]

حق یہ ہے ... اوسدم جو کریگا تو کلام | وہ کریگا سبکو باطل محفل میلاد مین
معلوت اور سلام وقت ہے کہڑے ہو کے ... | تا نہ خفت ہووے حاصل محفل میلاد مین
چہ بیانی مجھکو ... اوسکو جواب صاف وہ | ہیچ نہین ایسکے قابل محفل میلاد مین
ہی مناسب ... لطف ... | پڑہ کی محفل کے فضائل محفل میلاد مین

ایضاً

پا اوسپہ ... ہوا ایسا محفل میلاد مین | خود بدولت خود ہین شامل محفل میلاد مین
[illegible] محفل میلاد مین | ہین ملک بھی نیون مین داخل محفل میلاد مین
[illegible] | ہین فرشتے جو کہ داخل محفل میلاد مین
[illegible] | ... کہتی ہین جسکو داخل محفل میلاد مین
[illegible] | ... یہان ہوتے ہین داخل محفل میلاد مین
[illegible] | اور ... ہووین نہ شامل محفل میلاد مین
... میلاد و مبارک ... تقریب ... | ... رحق ہو کیون نہ نازل محفل میلاد مین
[illegible] | کیون ... نہ لوٹین شکل بسمل محفل میلاد مین
[illegible] | جمع ہین حضرت کی مائل محفل میلاد مین
[illegible] | ایک دم بیٹھو نہ غافل محفل میلاد مین
[illegible] | ... کیسے انکار ... جاہل محفل میلاد مین
[illegible] | ... ہین حضرت بھی شامل محفل میلاد مین
[illegible] | دولت ... تو حاصل محفل میلاد مین
[illegible] | ... تم ... کے سائل محفل میلاد مین
[illegible] | ... کے فضائل محفل میلاد مین

ایضاً

تڑپ رہا ہے یہہ بیمار یا رسول اللہ ؐ ... دکھا دیجئے اسے دیدار یا رسول اللہ ؐ
نہ ملک و مال ہے درکار یا رسول اللہ ؐ ... حضور کا ہون طلبگار یا رسول اللہ ؐ
یہہ ضعف ہجر سے ہون زار یا رسول اللہ ؐ ... کہ جان جسم کو ہے بار یا رسول اللہ ؐ
تمہارے ہجر سے ہون زار یا رسول اللہ ؐ ... مرا علاج ہے دیدار یا رسول اللہ ؐ
جو دو ہین مردمک چشم دو ہین نرخ نظر ... صحابہ آپکے ہر چار یا رسول اللہ ؐ
تمہاری کوچہ مین جنت کو صاف ہو لگئی ... جہان ہے کے ساری طلبگار یا رسول اللہ ؐ
شمار سے ہین مری سر پہ بیشمار گناہ ... یہہ بار بس ہے گرانبار یا رسول اللہ ؐ
یہی خطر ہے کہ کہینچین نہ جانب دوزخ ... گنہ گلے کے ہوئے ہار یا رسول اللہ ؐ
غلام منفعل و نادم و خجل اب ہے ... مدد ہے آپکے درکار یا رسول اللہ ؐ
معاف جرم ہو حل مشکل دو عالم ہو ... بحق حیدر کرار یا رسول اللہ ؐ
توہی ہے ہادی و رہبر توہی رفیق و شفیق ... توہی ہے یار و مددگار یا رسول اللہ ؐ
بجا ہی گر ہو سر لطف فرق ان سے بلند ... کہ اوسکا تمانی دلدار یا رسول اللہ ؐ

قصیدہ - در شان امیر المومنین سیدنا و مولانا حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ **خلیفہ اول** - از میان جانخان دہلوے - تخلص بہ **صغیر** ؔ

یہہ کس کا عرش معلی پہ ذکر ہے ہر بار ... کہ کہہ رہے ہین ملک حبذا پکار پکار
یہہ کسکی خوبی سے مبیع ہے ابتک ... کہ شستہ یاب ہے جو قصر دینکی دیوار
یہہ کسکے صدق صداقت گزین ہے تصدیق ... کہ ہے وہ سرور صدیقیان نیکو کار
وہ کون صدر نشین خلافت اول ... وہ کون بعد نبی ؐ دین پناہ استظہار
وہ کون اختر برج ورع سنو بو بکر رض ... خطاب حضرت صدیق اکبر دیندار

زہے وہ فرق مبارک زہے وہ قد بلند
کہ جسکو زیب خلافت کا جبہ و دستار

ملک خصال و فلک مرتبت ستودہ عمل
بلند گوہر و مقبول ایزد غفار

طریق دان رضامندی خدای کریم
رہین عشق رسول خدا و یار غار

نہ کیون ہو ہشت بہشت اوسکے فرش پا انداز
رسول ع راضی ہین اوس سے خدا کا اوسپر پیار

رہی اوسکا جوہر ذاتی ترقی اسلام
ہی اوسکا جوہر صفاتی ہزیمت کفار

رموزدان حقیقت محی شرع متین
خدا شناس و خدا ترس و واقف اسرار

ملا اوسکے خاک کف پا کو سینہ سے زاہد
جلا ہی آئینہ دل اگرچہ ہے درکار

گلیم کہنہ کو اوسکے شرف بحلہ خلد
نعیم ہر دو جہان مفلسی پہ اوسکے نثار

سنا فقط انکو قیامت مین ہم دکہائینگے
کہ دوست اوسکے ہین فی الخلد و دشمنان فی النار

عدو جو اوسکا ہی کچھ نہی وہ ہے عدو رسول ع
رسول ع جس سے ہی بیزار اوس سے حق بیزار

پڑینگے حشر کو اوس آگ مین عدو اوسکے
کہ جس سے مانگے ہے شیطان بہی الحذر زنہار

نہین ہے مغفرت اوس شخص کے معاذ اللہ
عداوت اوسکی ہے بیشک جہنمی آثار

خدا بچائی سدا اس بلا سے بد تر سے
کہ ایسی خاطی سے بہتر ہے فاسق و بدکار

الٰہی دے بطفیل ابو بکر صدیق رض
نجات فرط گناہان سے بہی روز شمار

الٰہی مجکو محبت رسول ع پاک کے دے
الٰہی مجکو دکہا اوسکا جلوہ دیدار

الٰہی مار لیا گردش فلک نے مجھے
الٰہی زندگی سے کر دیا مجھے بیزار

الٰہی چوب کے مانند جسم کو میرے
یہ کہا ہی جاتی ہے گہن ہو دینوی افکار

یہ چاہتا ہون کہ اسمین سے چہٹ جاؤن
ستا رہا ہے مجہی چرخ سخت بدکردار

نماز مین بہی وسوسہ ہزارون ہین
خیال قرض کا ہے عین فرض مین ہر بار

ادای فرض مین بہی ہے سر قرضدار کے
نہ قحط سالی کے گنتی نہ مفلسی کا شمار

تماشا ہے کہتا ہوں لیکن خیال او طرف ‖ کیا ہی تسلی خسرو خیال سے [illegible]
یہاں ہے [illegible] ‖ تمازہ درد زرہ و تسبیح سب [illegible]
[illegible] ‖ گنہگار ہوں [illegible]
[illegible] ‖ [illegible] کرتا ہے بار گناہ [illegible]
افضل حضرت اصحاب [illegible] ‖ [illegible] کردی مجکو بھی [illegible]
اگرچہ کہتا ہوں [illegible] ‖ [illegible] جیکو تقویت [illegible]
[illegible] ‖ [illegible] صدیق اکبر [illegible] دار
یقین ہے [illegible] ‖ یہاں ہے [illegible] ایمان اور [illegible]
[illegible] ‖ [illegible]

[illegible] سیدنا حضرت عمر خطاب رضی الله [illegible]
[illegible]

[illegible] ‖ [illegible] سر ہوں جو [illegible]
[illegible] ‖ مرا کلام ہے مانند برش شمشیر
[illegible] حضرت عمر کا [illegible] ‖ [illegible] فخر سے تاج آسمان [illegible]
جلال اونکا ہی شدت [illegible] ‖ [illegible] کی توقیر
و فور منقبت پاک کا شمار نہ پوچھ ‖ مجال ثبت سے عاجز ہے آسمان کا [illegible]
عروج رتبہ سے کیونکر نہ آسمان ہو پست ‖ حبیب حضرت باری نبی کا خاص مشیر
[illegible] شمار ‖ خدا نصیب جوان پر ہے آسمان [illegible]
عدیل [illegible] اونکے نہیں کوئی [illegible] ‖ [illegible] عشیر
پس [illegible] کہتا ہوں ‖ [illegible] بنایا ہے [illegible] نظیر

دعای پاک نبی سے ہوئے مشرف دین | نہان تہا شاہد اسلام پھر کیا تشہیر
اگرچہ کعبے کی رکھی خلیل نے بنیاد | تو اوس سے جاری ہے حج و نماز کی تدبیر
اگر ہے سینہ بے کینہ معرفت آگین | تو دل ہے تیر اسلام سے پیراز شوپیر
ہی اوسکے ذات مبارک حمایت دینے | ہی اوسکا قہر و غضب جو کہ کافران شریر
ہوا ہے پیرہن کفر چاک چاک تمام | تو خاک پہانکتی پہرتے ہے دیر میں تکبیر
لگائی گبر نے بھی لات لات عزی پر | کہ جلکے جلگیا آذر میں آذر بے پیر
ہوئی ہے کفر کی یہانتک تو سرد بازاری | بجای گرمی آب آتشکدہ نہیں ہے کشمیر
تمام ہیت میں ہے جو صورت ناقوس | چہپائی پہرتے ہیں کافر علامت تکفیر
جو شمع رکہی ہے پوشیدہ رشتہ زنار | تو سرکو کاٹے ہے گگلیز دی تعزیر
جبین چرخ پہ گر کہکشان کا قشقہ ہے | تو اوسکے واسطے ہو رو ستم ہے برق کی شمشیر
میرے قلم میں الہی تو اتنے طاقت دے | کیا کروں میں سدا انکی منقبت تحریر
الہی مجکو بھی کر انکا اتباع نصیب | الہی ہووے شکار نفس اسپر میں نخچیر
نہ آئے رعب فرشتو نکا قبر میں ہرگز | نہوں جواب میں عاجز جو کچھ ہو تقریر
اٹھوں میں گور سے کہتا ہوا قیامت میں | زبان سے کلمہ پاک رسول رب قدیر
بحق حضرت فاروق ای خدای کریم | مدام رب محمد سے کرو دی آمیر
بحق پنجتن و از برای بارہ امام | الہی بخشدے میرے گناہ صغیر و کبیر
نجات دے مجھے دنیا کے فکر سے یارب | ستارہ ہے مجہی سطرح ہے چرخ پیر
جو میرے حال پہ کچھ مہر کے نظر ہو جائے | تو پھر میں دیکھلوں نکلتا ہی آسمان تقدیر
الہی مجکو نہ حاجت طلب کسی سے کر | الہی تیری ہے درگاہ کا رہوں میں فقیر
نہیں ہے مقتضی غیرت کسی سے سائل ہوں | جو چشم غیر سے کہو دن تو چشم میں ہو حقیر

مگر ہے شرم میری دو جہان کے تیری ہاتھ
کہین تو عاجز و بیکس ہون تو غنی و قدیر

غنی کا کار ہے دنیا گدا کا کار سوال
سو اغنی کے بر آمد ہو کس سے کار فقیر

مدیح سنج ہون ایسی جناب پاک کا مین
نہین ہے آج میرا کوئی ہمصفیر صفیر

ہمارے مدح مین نجا و یقین ہے کہ ملے
و یار دین کا منصب تو خلد کے جاگیر

الٰہی بانی مدح جو ہین فرید الدین
نہ ہووین درد و غم و رنج سے کبھی دلگیر

قصیدہ ایضاً - در منقبت امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ - خلیفہ سیوم

کہان سپاس الٰہی کے شایگان ہے زبان
کہ اوسنے لطف سے اپنی کیا ہمین انسان

بنایا اوسنی ہمین یکہ اشرف المخلوق
وگرنہ زور تھا کچھ کرتا گر ہمین حیوان

ہمین وہ چاہتا خاک رہ ارض کر دیتا
بناتا کون ہمین پھر بصورت انسان

بناتا دام و دد و چرند و بہوت و وحش و طیور
تو پھر کسیلے یہان دم زدن کے تھی امکان

کہان نصیب تھا یہ عروج عیش و نشاط
کہان نصیب تھا یہ عز و جاہ و شوکت و شان

کہان نصیب تھا پھر یہ لباس زینت تن
کہان وہ شالہ و کمخاب و مخمل و الوان

کہان سواری اسپ و کرہ ان تھی نصیب
کہان عماری فیل بلند کوہ نشان

کہان یہہ داعیہ ہاے سترگ بے حد و حد
کہان یہہ عزم عمارات قلعہ و ایوان

کہان نزاکت و صنع و کہان آرائش و خرش
کہان یہہ زلف مین شانہ یہ ابرو سرخی پان

کہان یہہ چاشنی نغمہای رنگارنگ
کہان یہہ اکل پر از لذت ہزار عنوان

کہان یہہ ذوق زبان کہان حظ طعام
کہان یہہ لذت شیرینی و نمک اور نان

پڑی ہی پھرتے کہین کوہ فی اور کہین بن مین
مثال وحش کے ہوتا کہین بلو مین مکان

کہین پہاڑ مین جون خشیارم خوردہ
کہین مغاک مین پوشیدہ از نگاہ جہان

جو گاؤ میش کو نہیں ہوتی ویاس تور و تمیز ۔ تو ضرب بار تھی اور پشت زیر بار گران
جو بنکے عقرب گزدم کسیکو کاٹتے ہم ۔ تو سر کچلتا وہ پتھر سے بیگمان ہر آن
جو قسم افعی ہوتے گزندہ و مسموم ۔ تو کرتا موذی سے منسوب ہمکو ہر انسان
ورای انکے گر انسان ہمے بنایا تھا ۔ تو کرتا گبر و نصارا یہودی و ہامان
ہمیشہ کفر ہی مین ہوتی تضیعۂ اوقات ۔ تمام عمر تھی صرف اطاعت شیطان
بچاتا کون ہمین پھر وہان معاذ اللہ ۔ جو کرتے سوختہ دوزخ کے آتش سوزان
ادھر تو سوختہ ہم ہوتے نار دوزخ مین ۔ ادہر بجاتا خوشی ہوکے تالیا شیطان
تمام عمر گذر جاتی بت پرستی مین ۔ ہمیشہ ورطۂ آفات مین ڈوبتا ایمان
خدا کے لطف پہ قربان ہوجیے کیونکر ۔ کہ اوسنے ہمپہ ہے یہان کسقدر کیے احسان
بنایا آدمی ہمکو یہہ کس قدر ہے کرم ۔ کیا نہ قالب حیوان کے جو ہمین شایان
اور اوسپہ اوسنے مسلمان کیا ہمین صد شکر ۔ کرم سے اپنی عطا کی ہے دولت ایمان
بنایا امت پاک رسول ؐ مین اوسنے ۔ نجات وہی ہمین دوزخ سے ظاہر و پنہان
ہوس تھی رسولونکو ہووین ہم اس امت مین ۔ زہی اس امت عالی کا مرتبہ اور شان
خدا نصیب کرے اونکے پیروی ہمکو ۔ جو لوگ گذرے اس امت مین صاحب ایمان
خصوص نیر برج حیا و معدن حلم ۔ فدای داور داور حضرت عثمان رضہ
مقیم شہر مروت مطیع شرع مبین ۔ بکفر تفرقہ انداز و جامع قران
طریق دان طریقت حقیقت آگاہ ۔ عزیز مصر شریعت یگانۂ عرفان
چراغ خانۂ دین سراغ راہ نجات ۔ شریف گوہر و مقبول ایزد منان
انیس جان محمد ؐ رہین دین متین ۔ ستودہ خو و مروت شمیم حیا کی کان
رقیب اہل نفاق و رفیق اہل یقین ۔ حریص نفس شناسی مرضی رحمان

وہ تاجدار شہ کشور حیا و سلام | وہ شرم کرتے تھے جس سے ملائکہ ہر آن
اٹھا دیا سبھی گھر بار دخت عصمت میں | کیا عزیز نہ راہ خدا میں مال او رجان
خطاب آپکا اسی واسطے ہوا ذوالنورین | کہ نور رقیہ و کلثوم منعقد تھا وہان
ہمیشہ رات کو بیدار ان کو دیکھا ہے | مدام وقت تہجد وہ کرتے ختم قرآن
کہا رسول نے جنت میں [illegible] | ورع و زہد کا انکی بھلا ہو کس سے بیان
تجہیز [illegible] | زبان پہ نام خدا تھا تو گود میں قرآن
خدا [illegible] | نصیب دوستی انکی کہ تا بہ شرع روان
[illegible] | کہ اتباع ہی انکا نجات کا سامان
[illegible] | الٰہی کر دے تو ہمکو بھی کامل الایمان
[illegible] تو ہمیں | الٰہی یاد میں اپنی ہے رکھ ہمیں ہر آن
[illegible] | نہ بھولوں ایک نفس تجکو ایزد منان
[illegible] | الٰہی جان آسانی کریں ہم تن سے روان
[illegible] | ہزار ڈالتا ہے دلمیں وسوسہ شیطان
[illegible] | کہ چوب گھن کی طرح کھائی جاتی ہے ایمان
[illegible] | بحق حضرت عثمان صاحب ایمان
[illegible] | [illegible] باغ جنان
[illegible] | [illegible] میان [illegible]

[illegible] منقبت حضرت امیر المومنین سیدنا علی [illegible] رضی اللہ عنہ

خلیفہ چہارم

[illegible] | سپہر [illegible]

الٰہی کے مدح سرائی کا آج کل ہے خیال
دماغ کیوں نہ ہو میرا آج عرش اعلیٰ پر

جبھی کہ منقبت پاک کرتا ہوں تحریر
کہ مژدہ ہے جبریل لیے میری سر پر

فرشتے چومتے ہیں کس لیے زبان میری
الٰہی کون سی حضرت کا ہوں ثنا گستر

الٰہی کسکی عنایت کا ہے مجھ کو خیال
الٰہی کسکی محبت کا میرے سینے میں ہے گھر

الٰہی کیوں ہیں مجھے سنوان سلام بھیجا ہے
کہ کر رہے ہیں مجھ سے فرشتے مصافحہ اکثر

الٰہی بھاگی ہے کیوں مجھ سی بلاک دوزخ
الٰہی کانپتا ہے کیوں شعلہ ہائے نار سقر

الٰہی کاتب اعمال مجھسی کیوں خوش ہیں
الٰہی کسلیے شیطان پیٹتا ہے سر

الٰہی کسکی حمایت یہ خود بخود ہی مجھے
کہ چرخ عربدہ جو کے ظفر ہے صلح پر

وہ کون یعنی علی شیر حق شہ کونین
علیم علم لدنی ندیم پیغمبر

حبیب الٰہی رفیق رفیق آلہ
غریق لجۂ مرضی خالق اکبر

نخیل باغ سخاوت رئیس ملک کرم
قتیل تیغ شقاوت کشندۂ خیبر

شہ سریر امامت سپہر کمال
قسیم نعمت فردوس مالک کوثر

ہزبر معرکہ قوت عدو سوز شکن
علی ولی اسد اللہ حیدر و صفدر

ستودہ ذات خجستہ صفات عالیجاہ
کرم نواز کریم بیشتر کرم گستر

علی کا نام ہے مشتق خدا کے نام سے
علی کا رتبہ [illegible] عرش سے [illegible] بر تر

علی ہے واقف علم یقین و [illegible]
علی ہے کاشف اسرار [illegible]

علی کا نام ہے مشکل کشای عالم
علی کا نام [illegible]

علی ہے شیر الٰہی علی شہ مردان
علی ہے دافع کفر علی ہے قاطع شر

علی ہے سرور عالم علی ہے مظہر حق
علی ہے [illegible] صفات علی خجستہ سیر

علی کے نام کی قربان ہوں دل پروانہ
علی ہے شمع شبستان جانشین پیغمبر

زہی علیؓ زہے قسمت کہ لطف خالق سے | بتولؓ پاک سی جنکے ہو روضۂ اطہر
بتولؓ وہ کہ ہی عصمت مآب و عفت کیش | بتولؓ وہ کہ عفیفہ و بنت پیغمبرؐ
بتولؓ وہ ہے خیر النساءؓ لقب جسکا | بتولؓ وہ کہ محمدؐ کے خاص لخت جگر
بتولؓ وہ کہ ہے خاتون جنت الماوا | بتولؓ وہ کہ ہے مقبول خالق اکبر
زہی بتولؓ زہی پاک دامنی اونکے | زہی حجاب کہ محجوب چشم شمس و قمر
زہی وہ حضرت حسنینؓ ابن شیر اللہ | کہ ہین وہ درج امامت کی خاص دو گوہر
حسنؓ شہید ہلاہل قتیل تیغ حسینؓ | وہ سبز بخت تو وہ سرخروی پیغمبرؐ
نزول آیۂ تطہیر انکے شان مین سے | ستودہ گوہر و مقبول خالق اکبر
گل ریاض رضامندی خدای کریم | علیؓ کے نور نظر فاطمہؓ کے لخت جگر
ستمگرون نے کیا زیر خنجر بیداد | گلو وہ خاص کہ تھا بوسہ گاہ پیغمبرؐ
سوای صبر نہ کچھ ظلم ظالمونسی کھا | ورای شکر کے مارا نہ دم تہ خنجر
خدا نصیب کرے حب حضرت حسنینؓ | حبیب آپکا گویا حبیب پیغمبرؐ
الٰہی انکے محبت مین دم نکلجاوے | الٰہی انکے محبت ہو تا دم آخر
الٰہی فکر سی دنیا کے چھوٹ جاؤ مین | الٰہی رنج مین گزرے ہی میرے شام و سحر
نہ آئے درد و غم و رنج کوئی میری حضور | بحق حضرت حسنینؓ و فاطمہ اطہرؓ
طفیل انکے الٰہی تو بخشدے مجکو | ستون دین کے جو ہین امام اثنا عشرؓ
حسن تقصیر خوش ہون کہ مداح آل احمدؐ ہون | مرا مقام ہی سدرہ سی بھی کہین بڑھکر
اور ایک یہہ جو خدا دوست ہین فرید الدینؒ | انہین نہ بھولنا یا شاہ ساقی کوثر

۱۴ در مدح حضرت حسنین علیہم السلام

گلشن فاطمہؓ کے تازی پھول | نور چشم علیؓ و سبط رسولؐ

ایک حسنؓ اور ایک جناب حسینؓ — رہبر خلق و ہادی کونین
یہ حبیب خدا کے ہین محبوب — انکی اوصاف ہین نہایت خوب
ہین جوانان خلد کے سردار — حسب ارشاد احمد مختارؐ
یہی گوہر ہین بحر عرفان کے — یہی ہادی ہین راہ ایمان کے
ملی جنکو ہے انکے خاک قدم — نہوے پھر وہ مبتلای الم
کرون کیونکر نہ جان و مال ہین فدا — ہووی خاک قدم سی جسکی شفا
ایسی سید پہ میری جان قربان — جسکو ہو خاندان عظیم الشان
رتبہ انکو ملا شہادت کا — کیا ہے پایہ ملا شہادت کا
جب ہوئے حضرت حسینؓ شہید — گل گلزار دین امام سعید
لکھی تاریخ اک خوش آئین نے — سرور دین راہبر سید ہے
کیا ہے تاریخ خوب اوسنی لکھے — اوس سے راضی رہین خدا و نبیؐ

قصیدہ ایضاً در مدح حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ

معدن صدق و صفا حضرت غوث الثقلینؓ — مظہر نور خدا حضرت غوث الثقلین رح
قلزم کشف و کرامات و یم فیض اتم — انتجاب دوسرا حضرت غوث الثقلین رح
آسمان کرم و نیر افضال و جلال — اختر برج ہدا حضرت غوث الثقلین رح
موج دریاے عطا ساحل بحر امداد — ابر نیسان سخا حضرت غوث الثقلین رح
نخل بستان شرف گلشن اعزاز و جلال — سرو گلزار رضا حضرت غوث الثقلین رح
مرشد کامل و ہادی رہ دین سنیے — رہبر و راہنما حضرت غوث الثقلین رح
چارہ ساز مرض معصیت بی پایان — دافع رنج و عنا حضرت غوث الثقلین رح
تو حسینی حسنی تو ہی نجیب الطرفین — تو ہی فخر دوسرا حضرت غوث الثقلین رح

جب ... ہی تیری ... [illegible] | ... حضرت غوث الثقلین
... میں ... [illegible] | ... حضرت غوث الثقلین
... [illegible] | ... حضرت غوث الثقلین
... [illegible] | واہ لیا نام ترا حضرت غوث الثقلین
... [illegible] | ہی تو ہی میری دوا حضرت غوث الثقلین
... [illegible] ہو میں | تو مربی ہی مرا حضرت غوث الثقلین
اپنا ... ہوں کہ ... بنا پیری ... | کون ہے تیری سوا حضرت غوث الثقلین
تجھ سوی ... [illegible] | تو ہی مرشد ہی مرا حضرت غوث الثقلین
... نہیں ... [illegible] | دو جہان وسیلہ ہی ترا حضرت غوث الثقلین
تنگ ہون میں فلاکت ... [illegible] | جو ... اسکی بجا حضرت غوث الثقلین
رات دن رہتا ہے گردش میں فلک کے ... | لطف فرما تو ذرا حضرت غوث الثقلین
غوث الاعظم ہو ... سامان مدد | دام غم میں ہون پھنسا حضرت غوث الثقلین
آرزو ہی کہ غم ... تو ہو جاتی ... | غم الفت ہو ترا حضرت غوث الثقلین
تیری الفت میں ہو ... زندہ ہین | دم اسی میں ہو فنا حضرت غوث الثقلین
واسطے پنجتن پاک کے ای پاک نفس | مدعا ... ہو روا حضرت غوث الثقلین
ہی صغیر جگر افگار کے حق مین ... | مرہم لطف ترا حضرت غوث الثقلین

قصیدہ ایضاً در مدح حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ

سپہر اتقا معروف کرخی | مہ برج ہدا معروف کرخی
سر ... آرای اقلیم کرامت | امام اولیا معروف کرخی
نسیم صبح اقبال ... | گل باغ رضا معروف کرخی

چراغ محفل کشف و کرامات — ولی پارسا معروف کرخی رح
شمیم جانفزا ہی گلشن قدس — گل نخل صفا معروف کرخی رح
مقیم کوچۂ عشق الٰہی — انیس کبریا معروف کرخی رح
بھلائی مراۃ دین محمد — ولی باصفا معروف کرخی رح
دیار دین پیغمبر کا سردار — جو کہتی ہے بجا معروف کرخی رح
فقیر و مرشد و ہادی کامل — ہمہ را رہنما معروف کرخی رح
خداداں و خداخواں و خدارس — مطیع مصطفی معروف کرخی رح
کس بیکس مربی غریبان — مریضوں کے دوا معروف کرخی رح
تن مردہ مین بھی آجائی ہے جان — ہی نام جانفزا معروف کرخی رح
مقام روح والا عرش اعلیٰ — خدا تک ہی رسا معروف کرخی رح
ولی و مرشد و ہادی کامل — دلیل و پیشوا معروف کرخی رح
عزیز مصر لہاسے مریدان — قبول کبریا معروف کرخی رح
صغیر مدح سنج اپنی کے حق مین — کرو حق سے دعا معروف کرخی رح
طریق کعبۂ الا م ہے یہ — نکالو اسکو یا معروف کرخی رح
ستایا ہے زمانہ نے نہایت — بلا مین ہون پہنسا معروف کرخی رح
نہین ہوتی رہائی اس سے میری — کرو مجھکو عطا معروف کرخی رح
اوہر عقبی کے غم نے مجکو مارا — کہ ہون مجرم بڑا معروف کرخی رح
دعا ہے واسطی میرے ضروری — بحق مصطفی معروف کرخی رح
کلید قفل و رہائی اجابت — تیرا دست دعا معروف کرخی رح
غم دنیا نہو جبتک جیون مین — نہون یون مبتلا معروف کرخی رح

نہایت نیک رستی کے مجہی کر — کہ توہے رہنما معروف کرخی
نہوں شرمندہ وہان اعمال بدسے — مجھی ہے غم بڑا معروف کرخی
بہت عاجز ہوں میری حال پرکر — کرم بہر خدا معروف کرخی
دعا اللہ میرے واسطے کر — یہی ہے مدعا معروف کرخی
اوراتنی اور بھی ہے عرض تم سے — سنو لسی زرا معروف کرخی
تمہارا معتقد اور بندہ ور — فریدالدین یا معروف کرخی
ہمیشہ دین و دنیا مین رہے خوش — کرو حق سی دعا معروف کرخی

بیان ششم مین مناجات بدرگاہ واہب العطیات بزبان ہندی

الراقمہ — کاغذ قلم لکھن ہار — ملا بندٹ ت کرین بچار
جن جن کہو جاتن تن پایا — حامے میرا توہے خدایا
سگل جگت کے راکھن ہارے — سنو بنیتی موہ بچارے
اب دشمن نے موہ کو پکڑا — سخت بند سی ہیگا جکڑا
اب مجہ پرہے آن سبہے — بن تیری سے کون وبہے
دی توڑ بند سنکٹ کی میرے — بندے عاجز واس ہین تیرے
کرداو دشت کو ہو جہٹکارا — بندہ مندہ داس تمہارا
جب مین دہیاؤن تمکو دہیاؤن — جو کچھ چاہون تمسی پاؤن
ہو نمین بھجک دیو بہجیا — پورے کرو من کے اچہیا
سگل بہون کے سرجن ہاری — سرپے شٹ کو چہن مین ماری
ہو نمین حکیم غریب تمہارا — کردوا ایک نلی جہلن مین نستارا

بیان ہفتم مین قطعہ ہای تاریخ انتقال و بعض افعال جناب حکیم غلام قادر صاحب مرحوم والد بندہ

۱۔ اگرچہ جناب ممدوح نے اپنی حیات مین بہت کثرت امور خیر کیطرف توجہ فرمائی ہے کہ اگر تمام و کمال تفصیلاً تحریر کیا جاوے تو دفتر درکار ہے لیکن منجملہ اونکے ایک تالاب پختہ اور باغ نہایت وسیع مقام نابھہ مین بنایا جو اوسکی تاریخ میری عنایت فرما میران بخش صاحب سنامی متخلص مشعل نے تحریر کی مندرج ذیل کرتا ہون۔

تعریف را معترف صاحب غلام قادر — گو بادہ و کار ایک جوہر ہیولے
چون رنگ ریخت باغ و تالاب از حکمت — علمش رسید صادق در نقش امر عقبی
ترتیب علم سالش چون خواست فکر مشعل — از جوہر مجرد گو ہست عقل اولے
گفتا کہ او حشن اللہ بیغایت از جلالش — موجی ز سلسبیل است و سایہ گاہ طوبی
۱۲۶۸

قطعہ دیگر

یکتا حکیم حاذق صاحب غلام قادر — تعمیر کرد باغ و تالاب پر نضارت
باغیست باغ رضوان تالاب سلسبیل است — جام جہان نمای آئینہ ز حکمت
آن خرمن تجارت وین حاصل تمنا — این چشمہ ثواب وان مزرع سعادت
در موج فکر سالش غواص کلک مشعل — گفت از سر اراد بستان ہست حوض جنت
۱۲۶۸

قطعہ دیگر

ہر کہ غلام قادر کو ثانی ارسطو — بنیاد کرد باغ و تالاب بسکہ زیبا است
مشعل بہ فکر سالش جان چشمہ شکستہ — واگفت حوض کوثر بی آب و لہا است
۱۲۶۸

قطعہ دیگر

حکمت مآب قدوۂ حکما غلام قادر — بنہاد بس سعید چو بنیاد باغ و تالاب

بلبل بشوق سال تش مشغل چنانست گویا — دامان گل ز چشمۂ فیض شد ہست سیراب
سنہ ۱۲۹۶ ہجری

قطعہ تاریخ وفات مجمع حسنات منبع فیض و برکات والد خاکسار یعنی حضرت حکیم غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ — از میاں نبہان خان صاحب متخلص بہ صغیر

چون ز دنیا غلام قادر رفت — زاہد و متقی و نیک صفات
خاصۂ حق خلاصۂ عالم — انتخاب وجود موجودات
نسخۂ خوبی و فہیم و حکیم — صاحب دانش و نکو اوقات
معدن خوبی و وحید زمان — اشرف الکائنات و عالی ذات
مجمع حسن خلق و مرجع خلق — مخزن لطف و منبع حسنات
جنتی و غریق رحمت حق — آشنائی کنار بحر نجات
چارہ فرمای ہر مریض و درد — رحم فرمای ہر سقیم اوقات
خود تو بودی طبیب عیسیٰ دم — مرگ تو حیف مروت ہیہات
در غم تست ہر دو را ماتم — فیض را نے یکے و دیگر خیرات
چشم بستی تو زین جہان کہ بتو — گشت مفتوح خلد را طبقات
روح تو باد در بہشت برین — ایں خوشا سیرت و نکو عادات
از پی سال رحلتش چو صغیر — صرف در فکر می نمود اوقات
ناگہان بے سر اجل ہاتف — داخل خلد گفت سال وفات
سنہ ۱۲۹۸ھ

قطعہ تاریخ تصنیف کتاب — از میاں نبہان خان صاحب متخلص بہ صغیر

ہذا تصنیف حاجی الحرمین — نام اسکا سعادت دارین۔
انتخاب زمانہ ہے یہہ کتاب — [illegible] ذات اور ثواب ثواب

حفظ بہر مسافران جہان — زاد عقبیٰ و صحت ابدان
چارۂ درد ہر مریض و غریب — حرز جان و معالجات عجیب
دیکھے گر اسکو بو علی سینا — رحل اسکے لئے کرے سینا
بہرہ یاب اس سے گر ہو جالینوس — رکھے اپنی مطب مین بطلیموس
اور اسکا مصنف والا — عرش سے جسکا رتبہ والا
متقی و حکیم خوش آئین — حاجی و نیکخو فرید الدین
اتقا پیشہ و نکو اوقات — مخزن زہد و معدن خیرات
اللہ اللہ وہ مطب اوسکا — سامنے جسکے دست بستہ شفا
حاذق وقت اسقدر ہے غرض — نام سے جسکی دور بھاگے مرض
اوسکی تجویز کو کوئی کیا پائے — روتا آئے مریض ہنستا جائے
دیکھی جسدم صفیر نے یہ کتاب — ہوا تاریخ کا خیال شتاب
فکر کرنے کو جس گھڑی بیٹھا — ہاتف غیب سے ہوئی یہ ندا
سر و دل کر کے ضم لکھی تاریخ — توشۂ باقیمت — یہی تاریخ
۱۲۸۸ھ

قطعہ تاریخ کتاب تصنیف اولاد حسین صاحب متخلص …مؤلف… قطب الدین صاحب
…وطن

فرید دہر فرید زمان فرید الدین — کہ ہمچو بدر سپہر است ہمچو پر مقبول
ہر آن سخن کہ شنید از زبان شیرینش — خرد بگفت کہ در علم حکمت است اصول
زہی بطبع حلیم و خہی بعقل سلیم — چہ ممکن است کہ ہیچون دہد بغیر شمول
اگر بعلم ایچ بگویمش بجال — خرد دران سخن من براے او نشد قبول
اگر جسو بگویم عدیل اوست بسی — بگو کہ چون بکنم منزل زین کلام عدول

بجلیا سخن من بوصف و مدحت او | به تر دهاسد و دشمن نباشد از مقبول
یکے ز جهل مرکب دگر ز جهل بسیط | بدانکه ماند ابد الدهر جاهل و مجهول
بعصر او چه مبالی ز التصاق الجعن | بعهد او تو ز آسیب سیه مباش خمول
همیشه دار ز عین عطاش چشم عطا | که تا بچشم نمودن با شفا شوی مشمول
بوصف او و بمدح کلام او چه رسے | بفهم آنچه بگفتم ز عاقل و معقول
نموده است کتابے درین زمان تصنیف | که نیست در ورقش نیم حرف لفظ فضول
ز علم حکمت و عال متمایل حر مین | نموده است بکهیم کتاب روح حلول
همینکه نام نهادش سعادت دارین | به نیکبختی او دال هست و هم مدلول
پر از معانی حکمت بری ز صورت نقص | ز دیدنش شود آئینه نظر مصقول
نوشت سال تمامش تجلی عاصی | بر سعادت دارین از این رسید حصول

سنه ۱۲۸۸ھ

قطعه دیگر از شاعر موصوف

چو این فرید زمان فرید الدین | شد بفکر کرامت دارین
پس کتابے نمود خوش تصنیف | کرد نامش سعادت دارین
سالش از شاخ کلک من گل کرد | سرو برگ سعادت دارین

۱۲۸۸

قطعه دیگر از تصنیف جناب منشی غلام سرور صاحب لاهوری

فرید الدین فاضل کرد تصنیف | عجب نادر کتاب علم حکمت
خدا کرده است جاری چشمهٔ فیض | از آن ابر کرم بحر فضیلت
بسر و گفت سالش هاتف غیب | بگو گنج سعادت کان راحت

دیگر بار بسال اختتامش	بعنوان گنج مشرف صبح سعادت ۱۲۹۸ھ

تمام شد کتاب سعادت دارین بتاریخ دوازدہم رجب المرجب ۱۲۹۵ھ روز شنبہ - بمقام کوٹلہ مالیر



قطعہ تاریخ انطباع کتاب از مفتی غلام سرور صاحب




یہہ کتاب سعادت دارین — بیمثل النسخہ فی الحقیقت ہے
چشمۂ فیض ہے زمانہ مین — معدن زر ہے گنج دولت ہے
لکھی جسنی ہے یہہ کتاب عجیب — منبع علم و کان حکمت ہے
ہے وہ ایسا حکیم لاثانی — علم و حکمت کو جس سی عزت ہے
فرد دور زمان فرید الدین — مرد یکتا و با مروت ہے
اوسنی لکھا یہہ نسخۂ مطبوع — جس سے لوگون کی خوش طبیعت ہے



مصرع سال الطبع لکھہ سرور
ہی مدل مخزن سعادت ہی
۱۲۹۵





صحت نامہ سعادت دارین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
٣	[illegible]	فہرست کیات	فہرست مرکبات مندرجہ کتاب ہذا-
٩	[illegible]	دعا پہاہی کو	دعا پہا ہی — اور کہی -
١٠	١٥	حدث تک	حدث ابتدا تک کا -
[illegible]	٢٠	قریب پہاز	قریب پہاز کی
١١	٣	مذکو پر	مذکور پر
[illegible]	٦	اھرام	احرام
١٥	١٤	پہاڑہی ہے	پہاڑی ہے
٢٥	١٢	دروازہ بیت	دروازہ بیت اللہ
٢٦	٥	اس جگہ اگر	اس جگہ آگر
٢٨	٩	جنت المعلیٰ	جنت المعلا
٣٠	١٧	دنگلمین	دنگل مین
٣٨	٣	ازا	ازآد
٤٢	٧	باندہتے	باندہی
٤٦	١٦	لیکن	✗
[illegible]	١٧	کرو یتی مین اور	اگر دیتی ہین تو -
٤٧	١	پڑا اٹہی	پڑا اٹہی
[illegible]	١٤	سیدہ عمر	سیدنا عمر رض
٥٠	٢	تک	بلکہ
٥٣	١٥	جمرا پتھر	جمرا پر -

صحت نامہ سعادت دارین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
٧١	١٩	[illegible]	تو وہ — والا نالہ کی -
٧٨	٤	پر اسیلی	سرا ہیلی -
٨٣	٢٠	مجکو	تجکو -
٨٨	١١	نجات اور بلیات	نجات از بلیات -
٩٤	١	جو آدمی کے	جو تین آدمی کے -
٩٥	١٩	ہوئی دیتی	ہونے دیتے -
١٠٥	٢	لائی	✗
١٠٦	٣	گیران	گران -
١٠٧	١٤	بعض اونکی	✗
١٠٨	٧	رسالتماب کی	رسالتماب کی -
″	١٨	سبحہ صفر	سبحہ صغیر -
١١٣	١٣	پیچی	پیچھی -
١١٤	١٣	بنا ہوا	بنی ہوئی -
١١٦	١٠	انکی	اپکی -
١١٨	١٠	پانونکا	پیالون کا -
١١٩	٣	قبا	قباسی -
١٢٢	١٠	[illegible]	لمبر وار یکی بعد دیگرے -
″	١٢	نقد شد	نقد وغیرہ -
١٢٥	حاشیہ	[illegible]	[illegible]

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۲۵	حاشیہ	فصل اول	فصل دوم
〃	۳	فصل دوم	فصل دوم مین
۱۲۶	حاشیہ	فصل اول	فصل دوم
۱۳۱	۱۵	موٹہہ	موتہہ
۱۳۵	۱۵	اپنی گہرہ پر	×
۱۳۷	۱۴	قاعدہ کلیہ	قاعدہ کلیہ وعلاج بعض اذیت
۱۴۱	۱۰	سرگین نر	سرگین بز
۱۴۴	۱۱	ایک گہنٹہ	ایک گہنٹہ مین
۱۴۷	۶	زیادہ	×
۱۴۸	۲	رکہی جاوی ہو	رکہی گئی ہو
۱۴۹	۱۶	فصل اول	ضمن اول
〃	۱۸	بہیدانہ	بہدانہ
۱۵۶	۳	حب شیار	حب شبیار
〃	۹	〃	〃
۱۶۱	۲	ماالجبن	ماالجبن مین
〃	۱۸	زرور	زرورد
۱۶۴	۸	گرم سکے	گرم سکے
۱۶۷	۹	مجموعگی	مجموع سکے
۱۶۸	۳	اور شرودیطوس	مثرودیطوس
۱۷۰	۱۱	فصل دوم	فصل دوم مین
۱۷۴	۷	من ماشہ تیز پات	تین ماشہ تیزپات
〃	۱۰	ہوتا ہی	ہی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۷۶	۱۸	حب تنقیہ	تنقیہ
〃	۱۰	ماہ	پاہ
〃	۱۳	حب کرد	حب گیرو
〃	۱۵	یعنی کری	یعنی گیری
۱۷۹	۱۷	گرد	گیرو
۱۸۱	حاشیہ	تذف	قذف
۱۸۲	۷	جراو سہمین	جدوہ
۱۸۴	۲	دواہون	دواؤن
۱۸۵	۷	ورم سی	ورم سی ہو
〃	۱۰	مسہل ماجور	مسہل بارد
〃	۱۴	گرم	گرم
۱۸۶	۵	قضبہ ریزہ	قصبہ ریہ
۱۸۸	۴	گلاب	گلاب مین
۱۸۹	۱۲	حب بلبیلہ	حب ہلیلہ
۱۹۱	۱	محرقکا	محترق کا
〃	〃	کول کتہہ	کنول گٹہ
۱۹۳	۱۱	گرم	گرم
۱۹۷	۹	ماؤف	×
〃	۱۳	جوگ	جوک
۱۹۸	۷-۵	گرم	گرم
۱۹۹	۱۳-۱۲	ورد سر	×
۲۰۲	۱۲	حب الغار	حب الغار

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۰۲	۱۶	طعام بایان	طعام یانان	۲۲۵	۱۸ حاشیہ	اگر	×
۲۰۴	۱	مازوبجوز	مازونخورد	〃	۱۸ حاشیہ	رنگ زرد	رنگ رو و بدن
〃	۵	ملین	ملاکر ملین	۲۳۰	۵	برآمد	برآمد ہو
۲۰۷	۹	بحتہ الصوت	بحتہ الصوت	۲۳۲	۴	چاہین	چاہیں
۲۰۸	۱۷	حب اللاس	حب الاس	〃	۱۳	ضماد و نقل	ضماد قرنفل
〃	۱۸	ملاوین	ملین	۲۳۳	۲۰	صندل و گلاب	صندل گلاب
۲۰۹	۱۷	کہریا	کہربا	۲۳۶	۱۸	زبان	زمان
۲۱۰	۴	گولیان	مین گولیان	۲۳۷	۲	بادی غیر بادی	مادی غیر مادی
〃	۱۶-۱۸	بحتہ الصوت	بحتہ الصوت	۲۳۸	۱۸	فصد سیلم	فصد اسیلم
۲۱۱	۱۷	ترلی کے	ترلی کے لیئے	۲۴۰	۲	ساتھ ماشہ	ساٹھ ماشہ
۲۱۵	۱۲	خورد	جوز زرد	۲۴۱	۱۵	قوالضبات	قوابضات
۲۱۷	۴	بحتہ الصوت	بحتہ الصوت	۲۴۲	۱۷	زرور	زرد رو
۲۱۸	۱	تلقین	تلف مین	۲۴۳	۲	راوغد	راوند
〃	حاشیہ	+	شوصہ ـ ذوات الریہ ـ ذات الصدر ـ ذات العرض	〃	۱۸	وبداالورد	وبید الورد
〃	۳۰	درد منعم	درد مقدم	۲۴۸	۹	تع	تعالیٰ
۲۱۹	۱۳	پیپہل کو پیپر	پیپہل کو	۲۵۰	۲-۳	جہاوٴ	جہاوٴ
۲۲۰	۱۱	قردطی	قیروطی	۲۵۱	۸	تغیر	بغیر
۲۲۱	۳	بہہ گاو	بہیگاو	〃	۱۵	حلفہ	خلفہ
〃	۸	تلمیین سی	تلیین سخی	۲۵۳	۱۱	دوسنطاریا	ذوسنطاریا
〃	۱۴	طین حرا	طین حر	۲۵۴	۵	خراشندہ	خراشندہ
〃	۱۶	ہاون حری	ہاون حجری	〃	۱۵	رشتہ	پرشتہ
۲۲۳	۱۳	والیان	والبان	۲۵۵	۸	بنشرہ	بثرہ
〃	۱۵	شراب کہنا	شراب کہنہ	۲۵۶	حاشیہ	ذویابان	یاذوبان
۲۲۴	۶	واقع	دفع	۲۵۷	۳	مقوی	معوی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۶۱	۱۲	ہوا حتیاط	احتیاط
۲۶۳	۱۴	متفرح	متفرح
۲۶۴	۱۷	مزاج	تقویت مزاج
۲۶۵	۱۰	حرب	جرب
۲۶۸	۳	تخذیر	تحذیر
〃	۱۱	نابین	مابین
۲۷۲	۱۰	اور نضج	اور بعد نضج
۲۷۳	۱۵	نرکوہی	بزکوہی
〃	〃	فنج	ونج کرکی
۲۷۴	۷	مجازی	مجاری
۲۷۵	۹	تشنگی	x
۲۷۷	۱۵	قیصوم	x
۲۸۰	۱۹	بول	حبس بول
۲۸۴	۱۰	مجازی	مجاری
〃	۱۳	ذوالتربجنیز	دوا التربجنین
۲۸۶	۱۹	مانیہ	ماہیہ
۲۸۷	۲	منی	منی میں
۲۹۱	۸	وقت	رقت
۲۹۲	۹	پہنچتا	بہچپتا
۲۹۷	۱۱	بست شاہ	بست دیکہا شہ
۳۱۰	۳	خون لے	خون کے
۳۱۴	۹	سی ہاتہہ	ہاتہہ سی
۳۳۴	۱۰	ناقص	نافض
۳۴۲	۱۵	واقع الوسط	واقع فی الوسط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۵۷	۱۱	ہفتہ	یا ہفتہ
۳۶۰	۱۴	ثالسیل	مسقط ثالیل
۳۶۴	۵	بدن	بدن سے
۳۶۶	۲	بدن	بدن پر
۳۷۴	۱۶	گرم جو	گرم کرین جو
〃	۱۷	ثقل	ثقل
۳۷۷	۱۷	ضعیف	ضعف
۳۸۴	۱۲	عنسل	عسل
۳۹۰	۱۶	زاگ	زاک
۳۹۳	۱۹	جنین	جنین میں
۳۹۷	۱۹	کو گرم	گرم
۴۰۱	۸	کی لیئی	بچہ کی لیی
〃	۱۳	ضروری	چند باتین ضروری
۴۱۰	۱	رطوبت نہیں	رطوبت کی نہیں
۴۱۶	۱۱	چرک مادہ	چرک و مادہ
۴۱۸	۹	سر	سرین
۴۳۹	۱۵	ہوجاتی	ہوجاتی ہے
۴۴۰	۴	ہوجاتی	ہوجاتی ہے
۴۴۱	۱۸	حسیہ	حصیہ

تمت الکتاب
بعون الملک الوہاب
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ
واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً

الحمد للہ والمنہ کہ کتاب سعادۃ الدارین بفضلہ
تعالی بہمہ وجوہ تیار ہوئی اور پیشگاہ عالیجناب فلک رکاب معدن
جود و سخا و مخزن الطاف و عطا جناب نواب محمد ابراہیم
علیخان صاحب بہادر سلمہ اللہ تعالی والی ریاست
کوٹلہ مالیر متعلقہ حاطہ پنجاب مین بکمال افتخار پیش کیجے
گئی - جو صاحب کتاب ہذا کو مطالعہ فرماوین جناب
ممدوح الشان کے حق مین دعای خیر زبان پر لاوین -

اعلان تعداد طبع اول کتاب ہذا ایکہزار جلد قیمت
مع محصول ڈاک فی جلد چار روپیہ ہشت آنہ والیان ملک و
صاحبان حشم کی خدمت مین بطور ارمغان ارسال ہوگی قیمت
نلیجائیگی البتہ انکو عطا و صلہ دہی کا اختیار ہے - یہ کتاب
رجسٹری کی گئی ہے کوئی صاحب بلا اجازت بندہ قصد طبع نفرماوین

